

فصلیہ تفصیلاً
اور ہر چیز کے لیے ہر چیز سے بیان کرنا

اِشَارِيَه مَضَامِيْنِ قُرْآن

جلد اوّل

تَقْصِيْلُ الْبَيَانِ
فِي
مَقَاوِدِ الْقُرْآنِ

شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی

①
كِتَابُ الْعَقَائِدِ

②
كِتَابُ الْأَحْكَامِ

③
كِتَابُ الرَّسَائِلِ

④
كِتَابُ الْمَعَاوِدِ



۲۹-۲۰۱۲

۱-۱

۳۷۰۸۴

۱-۳



جولائی ۱۹۹۶ء
محمد فیصل نے
عصمت اسلم پرنٹرز لاہور سے چھپوا کر شائع کی
قیمت 600 روپے

شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی

آپ حضرت امام رضاؑ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کا خاندان عمد عالمگیری میں ہندوستان آیا اور جگادھری (ضلع انبالہ) کے قریب آباد ہو گیا۔ دو تین نسلیں وہیں مقیم رہیں۔ آخر ایک بزرگ میراٹھم علی دیوبند میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے بھانجے میرستار علی نواب بہادر گڑھ کے مدارالہمام مقرر ہوئے۔ انہی میرستار علی کے صاحبزادے سید ذوالفقار علی تھے جو سید ممتاز علی کے والد تھے۔ سید ممتاز علی ادب فارسی میں امام بخش صہبائی کے شاگرد تھے۔ عربی سینٹ سٹیفنز کالج دلی سے پڑھی۔ شملہ میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس، گجرات میں سررشتہ دار اور راولپنڈی میں تحصیلدار رہنے کے بعد اکثر اسٹنٹ کمشنر مقرر ہوئے اور پنجاب کے متعدد اضلاع میں مقیم رہے۔

سید ممتاز علی ۲۷ ستمبر ۱۸۶۰ء کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ اتفاق سے یہ دن میلاد النبی کا تھا۔ میلاد النبی کے دن ولادت ہوئی۔ عمر بھر تحریک میلاد کی اشاعت کرتے رہے اور عید میلاد ہی کے اگلے دن انتقال ہوا۔ آپ کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز پانچ برس کی عمر میں ہوا۔ دیوبند میں سید عبداللہ شاہ عرف منے شاہ کے مکتب میں پارہ عم، خالق باری اور کریمہ کادرس مکمل کیا۔ بعد ازاں والد نے راولپنڈی بلا لیا۔ یہاں آپ نے عربی صرف و نحو، فقہ و منطق اور فارسی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۷۳ء میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد دیوبند جا کر دارالعلوم میں داخل ہو گئے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مولانا سید احمد دہلوی، ملا محمود دیوبندی اور مولانا محمد صدیق ابیٹھوی کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔ اس وقت مولانا محمد قاسم نانوتوی بقید حیات تھے۔ آپ نے ان کی صحبت سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا۔ اسی زمانہ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی دارالعلوم میں زیر تعلیم تھے۔ سید ممتاز علی ان کے ہم سبق و ہم جماعت رہے اور دونوں بزرگوں میں آخر دم تک محبت و مودت کا رشتہ نہایت استوار رہا۔ اسی اثنا میں آپ کے والد فیروز پور میں اکثر اسٹنٹ کمشنر ہو گئے اور انہوں نے آپ کو فیروز پور بلا لیا۔ ۱۸۷۴ء میں اتالیق کی مدد سے آپ نے انگریزی پڑھنا شروع کی۔ دو سال کی تکلیف مدت میں آپ

نے ملل سکول کا امتحان پاس کر لیا۔ ۱۸۷۶ء میں گورنمنٹ ہائی سکول لاہور میں داخلہ لیا اور وہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ یہیں ٹیس العلماء مولانا محمد حسین آزاد سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے والد اور آزاد کے والد مولوی محمد باقر کا گہرا دوستانہ تھا۔ اب دونوں کے صاحبزادوں میں پر خلوص تعلقات قائم ہو گئے جو آزاد کے انتقال تک قائم رہے۔ ۱۸۸۳ء میں بی۔ اے کا امتحان دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ۱۸۸۷ء میں بی۔ اے کا ارادہ ترک کر کے انڈین سول سروس کا امتحان دیا مگر اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔

۱۸۸۷ء میں چیف کورٹ لاہور میں بحیثیت مترجم ملازمت اختیار کر لی۔ ۱۸۸۸ء میں آپ کی شادی بھی ہو گئی لیکن ۱۸۹۱ء میں علالت کی بنا پر ملازمت سے مستعفی ہونا پڑا۔ آپ کی بیماری کی مندرجہ ذیل خبر ہفتہ وار سر مورگنزٹ ماہین میں ”مولوی سید ممتاز علی کی بیماری“ کے عنوان سے شائع ہوئی:

ہم نہایت افسوس اور دلی رنج سے اس بات کو لکھتے ہیں کہ مولوی سید ممتاز علی صاحب مترجم چیف کورٹ پنجاب نہایت سخت بیمار ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ زندگی سے مایوسی ہو گئی تھی۔ مگر شکر کا مقام ہے کہ اب ان کی حالت رو بہ صحت ہے اور یقین ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو صحت عاجل اور شفا کے کامل بخشے گا۔ صاحب موصوف تو اب تک نہایت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں مگر خداوند کریم کی بخشش سے امید ہے کہ ہماری قوم کو کوئی ایسا صدمہ نہ پہنچوے گا جس کے واسطے وہ اپنے آپ کو تیار ظاہر کرتے ہیں۔ یہ عالم اور نوجوان سید ہماری ہزاروں قومی آرزوؤں کا مرکز ہیں اور خدا ان کا حافظ و ناصر ہو گا۔ ۲

۱۸۹۳ء میں ایک سرکاری ملازمت کے حصول میں انہیں کامیابی ہوئی۔ غالباً یہ ملازمت بھی حسب فحشاء تھی اس لئے سال بھر سے زیادہ نہ چلی۔ اب ملازمت کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور خانہ نشین ہو گئے۔ ۱۸۹۶ء کے اوائل میں الہیہ انتقال ہو گیا۔ ۱۸۹۷ء میں سید احمد شفیع اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر کی صاحبزادی محمدی بیگم سے عقد طائی ہوا۔ اس خاتون نے آپ کے اس ارادے کو بہت تقویت دی کہ عورتوں کی تعلیم و تہذیب کے لئے ایک زنانہ اخبار جاری کیا جائے۔ چنانچہ ۱۸۹۸ء میں رفاہ عام کے نام سے ایک مطبع، دارالاشاعت پنجاب کے نام سے ایک مکتبہ اور تہذیب نسواں کے نام سے زنانہ اخبار جاری کیا۔ ۱۹۰۲ء میں پندرہ روزہ رسالہ ”تالیف و اشاعت“ کے نام سے جاری کیا۔ اس رسالے نے اقبل کے اہل زبان کے سامنے معرکے میں اقبل کا بھرپور دفاع کیا۔ ۱۹۰۳ء میں ”مشیر بلور“ جاری کیا۔ ۳ نومبر ۱۹۰۸ء کو محمدی بیگم بھی فوت ہو گئیں۔ ۱۹۰۹ء میں آپ نے بچوں کے لئے ”پھول“ جاری کیا۔ علمی و تعلیمی خدمات کے باعث ۱۹۳۳ء میں حکومت کی طرف سے آپ

شس العلماء کا خطاب ملا۔ اس کے ایک سال بعد ۱۵ جون ۱۹۳۵ء کو گیارہ بجے شب حرکت قلب بند ہو جانے سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ائمہ و اناالہ راجعون۔ ویو بند کے آبائی قبرستان میں دفن کئے گئے۔ مولانا غلام رسول مہرنے آپ کی وفات پر ادارہ میں تحریر کیا۔

سر سید احمد خان، محسن الملک، وقار الملک، شبلی، حالی، آزاد، نذیر احمد،
ذکاء اللہ، شرر ہندوستان میں علم و عمل، ادب و شعر اور ترقی و تمدن کے جلیل
القدر علمبردار تھے۔ افسوس کہ ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے۔ اس
بزم شبانہ کی یادگار مولانا سید ممتاز علی باقی تھے۔ آخر ۱۵ جون کو وہ بھی واصل
رفیق اعلیٰ ہو گئے۔ ائمہ و اناالہ راجعون۔ اب محفل بالکل سونی ہے اور زندہ
دل پیران کس میں سے کوئی باقی نہیں

ماکان قیس ہلکہ ہلکہ واحد

ولکنہ بنیان قوم تہد ما

آج ہندوستان کے مسلمانوں کو علوم جدیدہ سے جتنا شغف اور تعلیم
انگریزی کا جتنا بھی شوق ہے وہ سب کا سب سر سید کی مفید و مبارک تحریک کا
نتیجہ ہے۔ اور پشاور سے لے کر اس کماری تک جتنے مسلمان خاندانوں کی
عورتیں اور لڑکیاں معمولی شدید رکھتی ہیں یا اعلیٰ تعلیم پا چکی ہیں یا پارہی ہیں وہ
سب بلا مبالغہ شس العلماء مولانا سید ممتاز علی کے شرمندہ احسان ہیں۔ جنہوں
نے اپنی ساری عمر تعلیم و تہذیب نسواں کی نذر کر دی۔ مولانا کا علم و فضل،
آپ کی اصابت رائے، دیانت فکر اور پابندی وضع کا پایہ اس قدر بلند تھا کہ اگر
وہ اپنے محدود دائرہ عمل سے نکل کر قوم کی سیاسی و مذہبی رہنمائی کرتے تو ملک
کے بہترین رہبروں کی صف اول میں ہوتے۔ لیکن قوم کے ”لغت بہتر“ کی
تعلیم و تہذیب مدت دراز تک معرض التوا میں پڑ جاتی کیونکہ اس دائرے میں
بھی مولانا کا نعم البدل دستیاب ہونا بے حد دشوار تھا۔ ۳

آپ ۱۸۷۷ء میں دہلی میں جماعت کے طالب علم تھے کہ اسلام کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو گئے۔ اپنے انگریزی
کے بنگالی استاد بابو چندر ناتھ متر کے کہنے پر سر سید کو ایک مفصل خط لکھا۔ سر سید سے خط و کتابت کے نتیجے میں آپ کے تمام

شکوہ رفع ہو گئے اور سرسید آپ کے ذوق علمی اور قرآن فہمی کے اس قدر قائل ہو گئے کہ اپنی تفسیر میں جہاں کوئی دقت و اشکل پیدا ہوتی وہاں آپ سے مشورہ کئے بغیر آگے نہ بڑھتے۔ سرسید آپ کے مداح تھے اور آپ کے بارے میں نیک خواہشات رکھتے تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

میں آپ کی عنایت و محبت کا ہمیشہ شکر گزار ہوں اور آپ سے ایک خاص محبت اس خیال پر رکھتا ہوں کہ مجھ کو آپ سے توئی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ خدا آپ کو زندہ رکھے اور بوڑھا کرے اور میرا جو خیال آپ کی نسبت ہے اس کو پورا کرے۔ ۴

ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

شکر خدا کہ ہماری قوم میں تم سا نوجوان لائق پیدا ہوا۔ خدا تم کو زندہ سلامت رکھے۔۔۔ جو بات خدا نے ہم کو ڈاڑھی سفید ہونے کے بعد دی، وہ خدا نے تم کو اس عمر میں دی کہ شاید ابھی پوری ڈاڑھی بھی نہ نکلی ہوگی۔۔۔ خدا تم کو زندہ رکھے اور جیسی ہم کو امید تمہاری ذات سے قوم کی بھلائی کی ہے، خدا اس کو پورا کرے۔ ۵

سرسید اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کا تہذیب الاخلاق، سید ممتاز علی اپنے اہتمام سے لاہور سے جاری کریں۔ سرسید خطوط میں آپ کو "محبی و مکرئی" اور "محبی و مشفق" کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ آپ کے نام سرسید کے خطوط کی تعداد ایک سو سے زائد ہے۔

شبلی سے بھی آپ کے مخلصانہ تعلقات تھے اور وہ بھی آپ کی علیت و قابلیت کے مداح تھے۔ شبلی خطوط میں آپ کو "اخ العظم" اور "جناب من" کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ان کی خواہش رہی کہ اپنے تصنیفی کاموں میں آپ کو اپنے ساتھ شریک تصنیف بنائیں۔

ایک خط میں لکھتے ہیں

حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر کوئی تصنیف کریں تو بہت کام کی ہو۔ ۶

ایک اور خط میں لکھتے ہیں

میں ایک سلسلہ تصنیف مشترکہ چھیڑنا چاہتا ہوں جس میں آپ کو ایک

مقصد یہ پارٹ لینا تھا۔ ۷

آپ کی کتابوں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔

۱۔ محاکمہ ولادت مسیح

۲۔ خیر القل فی ترجمہ المنقذ من الضلال (اردو ترجمہ و حواشی) لاہور اسلامیہ پریس، ۱۸۹۰ء۔ ۱۵۷ ص

۳۔ رد الملاحدہ (اردو ترجمہ و حواشی) لاہور مطبع رفاہ عام (س۔ ن) ۵۶ ص

۴۔ دربار اکبری۔ ترتیب و تدوین۔ لاہور: دارالاشاعت پنجاب، ۱۸۹۸ء

۵۔ حقوق نسواں۔ لاہور: دارالاشاعت پنجاب، ۱۸۹۸ء۔ ۱۹۰ ص

۶۔ شیخ حسن۔ لاہور: دارالاشاعت پنجاب، ۱۹۲۰ء۔ ۸۳ ص

۷۔ خانہ داری۔ لاہور: دارالاشاعت پنجاب، ۱۹۲۲ء۔ ۲۲۰ ص

۸۔ تذکرۃ الانبیاء۔ لاہور: دارالاشاعت پنجاب، ۱۹۲۳ء۔ ۲۰۰ ص

۹۔ پھوہڑ نامہ۔ لاہور: دارالاشاعت پنجاب، ۱۹۲۳ء۔ ۲۱ ص

۱۰۔ تفصیل البیان فی مقاصد القرآن۔ ۷ جلد۔ لاہور: دارالاشاعت پنجاب، ۱۹۳۱ء۔ ۱۹۳۵ء

۱۱۔ سبیل الرشاد۔ لاہور: دارالاشاعت پنجاب، ۱۹۳۵ء۔ ۱۵۰ ص

۱۲۔ ثبوت واجب الوجود

۱۳۔ خزینتہ الاسرار

۱۴۔ ترجمہ زاد العلو

آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ تفصیل البیان ہے جس کو آپ نے پچیس برس کی محنت سے ترتیب دیا تھا۔ یہ آیات قرآنی کا ایک مبسوط اشاریہ ہے جو معلنی و مطالب کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک موضوع ایک ہی مقام پر بیان نہیں ہوا۔ بلکہ ایک عنوان پر روشنی ڈالنے والی متعدد آیات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ لہذا ایک فرد جو کسی خاص موضوع کے ذیل میں آنے والی تمام آیات سے بیک وقت باخبر ہونا چاہتا ہو اس کے لئے یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمام قرآن شروع سے آخر تک نہ پڑھے۔ یہ ایک وقت طلب مسئلہ ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآن میں زیر بحث آنے والے موضوعات سے متعلق آیات ایک ہی مقام پر جمع کر دی جائیں تاکہ ان سے کما حقہ استفادہ کیا جاسکے۔

اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے نہایت جانفشانی اور عرقریزی سے ان تمام عنوانات کا تعین کیا جو قرآن مجید کی جملہ آیات سے قائم ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے ذیل میں آنے والی تمام آیات ایک مقام پر جمع کر دیں اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ

بھی درج کر دیا۔ ترجمہ کا کام آپ کے دوست مولانا نجم الدین سیوہاروی نے شروع کیا مگر وہ آدھا ترجمہ بھی نہ کر پائے تھے کہ انتقال فرما گئے۔ بقیہ کی تکمیل آپ نے خود کی۔

تفصیل البیان ست حصوں پر مشتمل ہے

۱۲۰ ص	کتاب العقائد
۱۸۳ ص	کتاب الاحکام
۱۵۰ ص	کتاب الرسالت
۱۹۳ ص	کتاب العدل
۲۹۶ ص	کتاب الاخلاق
۱۰۸ ص	کتاب بد الخلق
۱۲۰ ص	کتاب القصص

اس کام کے دوران آپ مختلف عوارض کا شکار بھی رہے لیکن ہمت نہ ہاری آپ لکھتے ہیں:

میری دائمی دماغی علالت کی وجہ سے بارہا کام رکا اور بارہا شروع کیا گیا۔ ۱۹۲۸ میں ایک اور مرض صعب میں مبتلا ہو گیا اور مجھے شفا خانے میں داخل ہونا پڑا اور عمل جراحی کی نوبت پہنچی۔ تب تو میں زیت سے ناامید ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی کے بہت سے کاموں کے ادمورے رہ جانے پر افسوس اور رنج تھا۔ سب سے زیادہ اس قرآنی خدمت کے غیر مکمل رہنے کا صدمہ تھا اور یہ کام صرف غیر مکمل ہی نہ تھا بلکہ ایسی حالت میں تھا کہ میرے مسودے کی ترتیب مجوزہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اور میں یہ سوچ کر بے حد کڑھتا تھا کہ یہ سب کیا کرایا کام میرے بعد بریلو ہو جائے گا اور میری برسوں کی محنت اکارت جائے گی۔ مجھے اس حالت میں جو مجھے اپنی زندگی کا کنارہ معلوم ہوتا تھا یہ خیالات بہت اذیت دیتے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے۔ ایک رات جبکہ میری آنکھوں سے نیند بالکل اڑ گئی تھی، بڑے اضطراب کی حالت میں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عہد کیا کہ اگر میں مرض صعب سے جانبر ہو جاؤں اور مجھ میں لکھنے کی طاقت و ہمت آجائے تو میں اپنا تمام وقت اس خدمت

آذی میں صرف کروں گا اور جب تک اسے ختم نہ کر لوں گا اور کسی کام کی طرف توجہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ دعا قبول فرمائی اور میں شفا یابی کے وقت سے برابر اس کام میں لگا رہا۔ ۸

اس اشارے میں موضوعات کی تلاش کے لئے جو طریق کار مقرر کیا گیا ہے اس کی تفصیل انہی کی زبانی پڑھیے:

سب سے اول ہر موضوع بطور عنوان اوپر لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے تحت میں متعدد ضمنی سرخیاں یا عنوان حاشیہ میں قائم کئے گئے ہیں۔ پھر ضمنی عنوان کے بعد حوالہ اس طرح دیا گیا ہے کہ ایک خط ارضی ڈال کر اس کے نیچے سورۃ کا نمبر دیا ہے اور اوپر آیت کا مثلاً (۲۰/۷) اس سے یہ مطلب ہے کہ ساتویں سورۃ کی بیسویں آیت۔

میں سے اس کتاب میں صرف حوالہ کے بیان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حوالہ دے کر سب آیات محولہ بھی ہر حوالہ کے ساتھ تحریر کردی ہیں۔ سورۃ و آیت کے نمبر کا حوالہ دینے سے وہ آیت براہ راست فوراً مل جاتی ہے۔ شاید قرآن مجید کے مختلف چھاپوں کے نسخوں میں شمار آیات میں کہیں کچھ اختلاف ہو مگر اس اختلاف کی وجہ سے شمار آیات میں ایک یا دو سے زیادہ کا فرق کبھی نہیں پڑتا۔ جو صاحب اس کتاب کے حوالہ کے بموجب کوئی آیت تلاش کریں اور اتفاقاً وہ نہ ملے تو حوالہ مندرجہ سے پہلے اور پیچھے کی دو دو تین تین آیتیں پڑھیں تو یقیناً آیت مطلوبہ مل جائے گی۔ ۹

بر عظیم پاک و ہند کے تمام جلیل القدر علماء اور بلند پایہ اخبارات و رسائل نے تفصیل البیان کی بے حد تعریف کی ہے اور سب کو تسلیم ہے کہ جو کام علماء کی ایک پوری جماعت سالہا سال میں انجام نہ دے سکتی تھی وہ آپ نے تنہا انجام دے دیا۔ عبد المجید سالک لکھتے ہیں کہ مدت تک یہ کتاب مسودہ کی صورت میں رہی اور اکثر اکابر علم جو باہر سے لاہور آتے تھے اس مسودے سے استفادہ کرتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں:

ایک دفعہ حضرت سید امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین اور علوبہ پاشا لاہور آئے۔ مولوی سید ممتاز علی نے ان کو چائے کی دعوت دی اور تفصیل البیان دکھائی۔ مفتی اعظم نے اس کتاب کی بے حد تعریف کی اور کہا کہ ایسی کتاب عرب دنیا میں بھی

موجود نہیں۔ نجوم الفرقان، فتح الرحمن وغیرہ موجود ہیں جن کا قاعدہ صرف اس قدر ہے کہ ایک لفظ بھی یاد ہو تو آیت کا پتہ مل جاتا ہے۔ لیکن مسائل کی فہرست اور پھر ہر مسئلے کے متعلق تمام آیات کی یکجائی یہ خوبی عربی زبان کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ اس کتاب کو عربی میں بھی چھاپنا چاہیے۔ ۱۰

آپ کو قرآن مجید سے ایسا عشق تھا کہ وقت سے ایک دن پہلے بھی تفصیل البیان کی آخری جلد کے متعلق کام کر رہے تھے۔ حالانکہ طبیعت بے حد کمزور ہو رہی تھی اور ڈاکٹروں نے کام کرنے سے بالکل منع کر رکھا تھا۔

حواشی

۱۔ عبد المجید سالک - یارین کمن - لاہور: مطبوعات چٹن، ۱۹۵۵ء - ص - ۵۸

۲۔ سر مورگرتھ - یکم جون ۱۸۹۱ء

۳۔ انقلاب - ۱۹ جون ۱۹۳۵ء

۴۔ سر سید بنام ممتاز علی - مکتوبہ - ۱۳ جولائی ۱۸۷۹ء

۵۔ ایضاً - مکتوبہ - ۲ اگست ۱۸۷۹ء

۶۔ شکی بنام ممتاز علی - مکتوبہ - ۱۱ مئی ۱۸۹۲ء

۷۔ ایضاً - مکتوبہ - ۲۱ اکتوبر ۱۸۹۲ء

۸۔ تفصیل البیان - ص - ۶-۵

۹۔ ایضاً - ص - ۷-۶

۱۰۔ سالک - یارین کمن - ص - ۶۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

یورپ میں ہوس ملک گیری کی جو آندھی زور شور سے چل رہی ہے اس نے ایشیا والوں کو بیدار کر دیا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ کہ اگر ہم باہمی اتحاد کو ترقی دے کر اپنے بچاؤ کی تدابیر جلد نہ کریں گے۔ تو دنیا میں بحیثیت قوم ہمارا باقی رہنا مشکل ہے۔ اسی سلسلے میں ہم مسلمانوں میں بھی قومیت کی روح کو مضبوط کرنے کا خیال پیدا ہوا ہے۔ اور وہ روز بروز استحکام پکڑتا جاتا ہے۔ اہل اسلام میں کہنے کو تو مدت سے ۳، فرقے بتائے جلتے تھے۔ لیکن اب ان کا شمار یقیناً اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ کہ اسلام میں جس قدر فرقے پیدا ہوئے۔ اس کے متناسب ہی ان کی قوم میں ضعف و افتراق نے ترقی پائی۔ کیونکہ ہر فرقہ بجائے خود موجودہ مسائل اسلام کے علاوہ کوئی نئی خصوصیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی خصوصیت کے لئے سب سے لڑنا جھگڑنا اور مناظرے کا ایک نیا لٹریچر پیدا کرتا ہے۔ ان حالات میں جتنی ایسی نئی خصوصیتیں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اتنا ہی اہل مسالک دین سے بوند بڑھتا جائے گا۔ اس لئے اس زمانے میں جو اتحاد و قومیت کی روح مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مقصد و طریق عمل یہ ہے۔ کہ سب مختلف فرقے اپنی اپنی فرقہ دارانہ خصوصیتوں سے قطع نظر کر کے دین کے اہم مسائل کو جو سب میں مشترک ہیں۔ اور اسلام کی بنیاد ہیں۔ مضبوط کریں۔ اس کا عملی نتیجہ تمام دنیائے اسلام میں یہ نظر آ رہا ہے۔ کہ جس قدر توجہ ہر فرقے کو زمانہ قدیم میں خاص اپنی فقہ کی طرف تھی۔ اس میں بہت کمی آگئی ہے۔ اور لوگوں نے اس امر کو زیادہ اہم سمجھا۔ کہ بجائے فقہ کے اس کے اس مافذ کی طرف رجوع کیا جائے جس سے وہ فقہ مستنبط ہوئی ہے چنانچہ اول اس خیال نے فقہ کی بجگتے لوگوں کی توجہ حدیث کی طرف زیادہ منطقت کر دی جس کے غائر مطالعہ سے ظاہر ہوا کہ حدیث اصلاً قرآن مجید کی تفسیر

تفصیل ہی ہے۔ یعنی مطالب قرآنی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے واضح کیا گیا ہے چنانچہ قرآن مجید کے مسلسل ادب و استیعاب مطالعہ کا خیال پیدا ہوا۔ بڑے بڑے سیاست دانوں کی جن میں متعدد و مستند علمائے دین بھی داخل ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ چونکہ صرف قرآن مجید ہی سب اسلامی فرقوں کا مشترک فیہ اور معتمد علیہ حصہ ہے۔ اس لیے اگر جماعت اسلامی کو بحیثیت قوم ترقی دی جاسکتی ہے۔ تو وہ اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے سے دی جاسکتی ہے۔ ان حالات میں اس زمانے میں قرآن مجید کے مطالعہ کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے ایک اور فائدہ بھی متصور ہے۔ قرآن مجید کے اکثر مقامات میں اللہ تعالیٰ نے مسلم قوم کو شرف خطاب سے مشرف فرمایا ہے۔ اور قومی انحطاط کے لوازمات اور ترقی کے وسائل کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے۔ اس مخصوص طرز تخاطب سے مخاطبین جو شرف عمل سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی قوت عمل المضعف ہو جاتی ہے۔ ولولہ عمل پیدا کرنے والا یہ انداز مطالب کتب حدیث میں نسبتاً کم اور کتب فقہ میں بالکل ناپید ہے۔

اوپر کی تقریر سے یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو برسوں سے سیاسیات اس مطالعہ کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اسی نظر سے اس کا مطالعہ نہیں کرنا چاہتے۔ کہ وہ کوئی عبادت ہے۔ اور اس سے انہیں کچھ ثواب حاصل ہوگا۔ بلکہ وہ قوم میں اتحاد، اسامہ پیدا کرنے کی غرض سے قوم کے لئے ایک ایسا مجموعہ آداب ملی مرتب کرنا چاہتے ہیں جس کی بناء پر قرآن پر ہر جس کے منجانب اللہ ہونے میں کسی فرقہ اسلام کو کلام نہیں لیکن جو ماہرین سیاسیات قرآن مجید کے مطالعہ کے خواہشمند ہیں۔ وہ بے حد معروض بے انتہا عظیم الفرست اور رات دن سیاسیات یا معاشیات میں ہنہماک ہیں۔ ایسی حالت میں وہ صرف ایسی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جن میں سب مضامین زمانہ حال کی کتابوں کی طرح مرتب ہوں۔ اور اول و آخر میں فہرست مضامین اور مفہم انڈیکس ملتی ہوں تاکہ وہ جو مضمون پڑھنا چاہیں منعم معلوم کر کے بہت لھوڑے وقت میں پورا کا پورا ایک جگہ پڑھ لیں۔ میں نے اس مقصد کے حصول کے لیے بہت کوشش سے تمام آیات قرآنی کو مضمون دار ایک ترتیب خاص سے ایک ایک جگہ جمع کر دیا ہے جس سے ایک حد تک اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ جس موضوع یا حکم یا مسئلہ پر قرآن مجید کی تعلیم معلوم کرنی ہو۔ وہ پوری کی پوری ایک جگہ نہایت آسانی سے بہت جلد مل جائے۔

جو کام میں نے سرانجام دیا ہے۔ وہ ایسا نہ تھا جس کی ضرورت سب سے پہلے مجھے ہی محسوس ہوئی ہو۔ نہیں مجھ سے پہلے کئی بزرگ خادمان دین نے اس راہ میں قدم رکھا۔ اور گو مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے بالکل اسی نوع کی خدمت قرآن کی ہو جیسی میں نے کی ہے لیکن یہ بزرگ کچھ نہ کچھ ضرور رک گئے ہیں۔ چنانچہ جن کتابوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اور جن میں سے بعض سے میں نے مدد بھی لی۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔

۱۔ جواہر القرآن۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔

۲۔ فتح الرحمن بطلب آیات القرآن۔ ترتیب علمی زاہد فیض اللہ بمعینی مقدسی۔ اس کی مدد سے قرآن مجید کی جو آیت

نکاحی مطلوب ہو فوراً نکالی جاسکتی ہے۔ یہ کتاب میرے کام کے سہل انجام دہی میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہوئی ہے؛
۳۔ مفتاح کنوز القرآن۔ یہ کتاب ایک ترک عالم کی تصنیف ہے۔ اور قازان ملک روس میں شائع ہوئی ہے۔ جب نواب عماد
الملک سید حسین بگلہاری مرحوم حیدرآباد کو میرے اس کام کی خبر ہوئی۔ تو انہوں نے ازراہ عنایت یہ کتاب تحفۃ مجھے ارسال
فرمائی۔ یہ کتاب فتح الرحمن کی مانند ہے؛

۴۔ ترویج القرآن تصنیف مولانا حافظ حیدر الزمان صاحب محدث حیدرآباد دکن۔

۵۔ آفتناس الانوار من کلام الغفار تصنیف مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم لاہور۔

۶۔ الجواہر السعیدیہ۔ لاہور۔

۷۔ دلیل الحیران فی الکشف عن آیات القرآن۔ طبع مصر۔

۸۔ سیکتہ الابریز۔ فی فہرس الکتاب الغریز۔

۹۔ نجوم العرقان۔ مطبوعہ جرمنی۔

۱۰۔ مفتاح القرآن۔ مرزا تلح بیگ لڑکانہ۔

۱۱۔ آیئنه قرآن۔ پادری ویری صاحب۔

۱۲۔ تنقید القرآن۔ پادری عماد الدین۔

ان کتابوں میں سے حضرت امام غزالی کا رسالہ جواہر القرآن ایسی کتاب ہے جس کی ترتیب اصولاً کچھ میری کتاب سے
طبی جلتی سی ہے مگر وہ نہایت ہی مختصر رسالہ ہے جس میں صرف اللہ کی ذات وصفات و افعال وغیرہ کے متعلق آیات جمع کی
گئی ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر اور بہت زیادہ ضخیم مولانا حیدر الزمان صاحب کی ترویج القرآن ہے۔ گواس میں بھی وہ تفصیل و استیعاب
نہیں۔ جو مجھے مطلوب تھا۔

مولانا حافظ نذیر احمد صاحب مرحوم کی فہرست معنایں بھی جو ان کے ترجمہ القرآن کے شروع میں لگی ہوئی ہے۔ اسی قسم کی کتابوں
میں شمار ہو سکتی ہے مگر اول تو وہ بے انتہا مختصر و مجمل و ناکافی ہے۔ دوم میں میں صرف معنایں کے حوالے دینے پر اکتفا کیا گیا ہے
آیات نقل نہیں کی گئیں۔

اختصار و اجمال کے علاوہ ان سب کتابوں میں ایک مشترک بات پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ کتب مذکورہ میں سے ہر ایک کتاب
حقیقت کسی خاص مقصد کو مدنظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اور اثنائے تالیف میں اسی مقصد کی طرف دھیان رکھا گیا۔ یا یوں کہنا چاہئے۔
کہ ان مصنفین نے کسی خاص نقطہ نظر کو ملحوظ رکھ کر صرف انہیں آیات قرآنی کا تذکرہ کیا ہے۔ جن کی انہیں ضرورت تھی۔ مثلاً کتاب آیئنه
قرآن جواہر اسد ام اور عیسا بیوں کے مناظرہ میں کام آنے والی کتاب ہے۔ اس کے مصنف نے زیادہ اہتمام انہی آیات کے حوالہ دینے
کا کیا ہے جن کی ضرورت بیشتر اثنائے مناظرہ میں پڑتی ہے۔ دوسری آیات کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔

اسی طرح اقتباس الانوار ایسے غیر مسلم لوگوں کے مقابلہ میں لکھی گئی ہے۔ جن کا دعویٰ تھا کہ قرآن مجید میں روحانی تعلیم نہیں ہے۔ اس لئے مصنف نے اسی موضوع کی طرف زیادہ خیال رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جو آیات معاملات دارو متد کے متعلق ہیں۔ ان کو قطعاً چھوڑ دیا ہے۔

لیکن میں نے ارادہ کیا کہ قرآن مجید کے جملہ مضامین پر نظر کر کے ہر مضمون کی تمام آیات کو ایک مخصوص عنوان کے ماتحت مرتب کر دیا جائے۔ پیناچر میں نے قرآن مجید کو اول سے پڑھا مشرور کیا۔ اور ہر آیت کی نسبت یہ سوچا کہ یہ آیت کس کس موضوع کے تحت میں آسکتی ہے جس جس موضوع کے ماتحت آنی مناسب پائی گئی۔ اس اس کے تحت میں لکھ دی ہیں نے کام شروع کرنے کے لیے چند بہت مشورہ موضوع اپنے سامنے لاکے لئے تھے لیکن جب کوئی آیت ایسی آتی تھی جو ان موضوعوں کے تحت میں نہیں آسکتی تھی۔ تو اس کے لئے ایک نیا موضوع یعنی عنوان قائم کر لیا جاتا تھا۔ اور وہ آیت اس کے ذیل میں لکھ دی جاتی تھی۔ اس طرح یہ نمل انتخاب قرآن مجید کی ہر آیت کے متعلق کیا گیا یہاں تک کہ جملہ آیات مضمون دار مرتب ہو گئیں۔ اس مجموعہ کی ضخامت قرآن مجید سے زیادہ ہوئی۔ یہ اس لئے کہ ایک ایک دفعہ تو ہر آیت یوں لی گئی جس سے اس میں پورا قرآن مجید آگیا مگر بہت سی آیات کے کئی کئی پہلو نکلتے تھے۔ وہ دوبارہ دوبارہ مختلف عنوانوں کے تحت میں لانی پڑیں۔

یہ کام دنوں یا ہفتوں کا نہیں تھا۔ بلکہ برسوں کا تھا۔ اور میں نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ قرآن مجید کی اس خدمت میں صرف کیا۔

یہ کام ایسا آسان بھی نہ تھا۔ جیسا یہاں چند سطروں میں بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں طرح طرح کی دقتیں درپیش آئیں۔ اول یہ کام اس قسم کا تو تھا نہیں۔ کہ میں درسوں سے مدد لئے بغیر اول سے آخر تک خود سر انجام دے لیتا۔ بلکہ مجھے اس کام کے لئے متعدد مددگار رکھنے پڑے۔ اور ان سے کام لینا پڑا۔ مگر افسوس مجھے ان مددگاروں سے سوا اس کے اور کچھ مدد ملی۔ کہ جن جن آیات پر نشان کر دوں۔ وہ ان کو نقل کر دیں۔ مگر سر کام عمن نقل کرانا ہی نہ تھا۔ نقل کرانا اس صورت میں تو مفید ہو سکتا تھا۔ جب عثمان یا مومنوں میں سے کسی آیت میں عبرت توکل یا توبہ کی تعریف کی گئی ہو۔ تو اس عنوان اور اس کے نیچے آیت کا نقل کر لینا کچھ مشکل نہیں لیکن جب آیت میں ظاہر کوئی نثران بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو اس کا تین بعض حالتوں میں شکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً سورہ ہود میں اس بات کا ذکر ہے۔ کہ حضرت ابراہیم کے پاس اللہ کے رسول آئے۔ تو وہ جلد گھر میں گئے۔ اور ان کے لئے بھنی ہوئی بھڑھے کی دان لے آئے اور جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم نے پوچھا۔ کہ آپ کھاتے کون نہیں اور کھانا آگے بڑھایا۔ میں نے ان آیات کا عنوان مہانداری قرار دیا ہے۔ اور کھانے کے انکار پر جو پوچھا ہے۔ کہ کیوں نہیں کھائے۔ تو اس آیت سے یہ نکالا ہے۔ کہ مہمان کے ساتھ کچھ تکلف بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی ذیل میں حضرت لوط کے قصے کی وہ آیات نقل کی ہیں۔ جہاں حضرت لوط نے بکر دار لوگوں سے کہا تھا۔ کہ مجھے مہمانوں کے باب میں رسوا نہ کرو۔ اس سے یہ نکالا ہے۔ کہ مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اس کی رسوائی کو اپنی رسوائی سمجھنا چاہیے۔ پھر جس آیت میں دیا گیا ہے۔ کہ ہم نے ان

بمعاشوں کو اندھا کر دیا۔ اس سے یہ نکلا ہے۔ کہ ہمان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے اللہ بھی ناخوش ہوتا ہے +
اس زمانے میں حبّ الوطنی کا بہت جوش ہے۔ اور اتحاد قومی کے لئے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کا ذکر مختصراً
اس نام سے گو قرآن مجید میں نہیں۔ مگر جن آیات میں لوگوں کو جہاد کے لئے ابھارا گیا ہے۔ وہاں انہیں اس بات کی
غیرت دلائی ہے۔ کہ تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے تمہیں تمہارے ملک اور تمہارے گھروں سے نکالا۔
اس قسم کی آیات کے لئے میں نے جہاد کے علاوہ حبّ وطن کا عنوان بھی تجویز کیا ہے +

جن آیات میں یم دذر کے جمع کرنے اور اسے سینت سینت کر رکھنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اُس کو ہمارے
علماء بخل یا حرص کے تحت میں لکھتے آئے ہیں۔ میں نے بھی ان کو ان عنوانوں کے تحت میں لکھا لیکن ان کے علاوہ
سیاسیات کے ضمن میں میں نے ان آیات کو سرمایہ داری کے عنوان کے تحت میں بھی لیا ہے +

ہم مسلمانوں کو قومی قوت حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مجید میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی تمام
آیات جمع کی ہیں۔ جن میں قوت کی مدح کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلتا تھا۔ غرض تعین عنیانات بہت شکل کام اور کتاب کی جان
تھا۔ اور افسوس اس میں مجھے اپنے مددگاروں سے نشان شدہ آیات کو نقل کرنے کے سوا اور کچھ مدد نہ ملی۔ اور اس باب
میں مجھے اپنی ذات پر ہی بھروسہ کرنا پڑا۔ اور جب کبھی یہ کام مددگاروں کی رائے پر چھوڑا گیا۔ تو پرتال کے وقت وہ
بالکل ناقابل اطمینان پایا گیا۔ اور ردی کرنا پڑا +

ترجمہ کی وجہ سے بھی ایک شکل پیش آئی۔ ابتدا میں میرا ارادہ آیات کے ساتھ ترجمہ شائع کرنے کا نہ تھا۔ اور یہ خیال
تھا۔ کہ شاید یہ تالیف عوام الناس کے لئے چندال کارآمد نہ ہو۔ اور صرف علماء ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لئے ترجمہ
کی ضرورت نہیں لیکن بعد میں بعض اصحاب کے اصرار سے ترجمہ چھاپنا مناسب قرار پایا۔ اگرچہ ارادہ پہلے سے ہوتا۔ تو آسانی سے
انجام پاسکتا۔ کہ جس قرآن مجید سے آیات نقل کی جاتی تھیں۔ اُن کے ساتھ ہی ان کا ترجمہ بھی نقل کر لیا جاتا۔ لیکن اس مجموعے
کے تیار ہونے کے بعد اس کام کے لئے دوبارہ اتنی ہی ورق گردانی کی محنت اٹھانا اور ہر ایک آیت اور آیت کے
نکڑوں کو پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا اور اس کا ترجمہ نقل کرنا بہت محنت کا کام تھا۔ مگر میں اپنے مرحوم دوست مولوی نجم الدین
سواردی سابق مدرس عربی گورنمنٹ ہائی سکول قصور کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ کہ انہوں نے ترجمے کا کام اپنے ذمے لے
لیا۔ مگر افسوس وہ ابھی آدھا ترجمہ بھی نہ کرنے پائے تھے۔ کہ انہوں نے انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔
اگر اس تالیف میں اُن کی یہ مدد نہ ہوتی۔ تو شاید یہ تالیف بے ترجمہ ہی رہتی +

میری دائمی دماغی علالت کی وجہ سے بار بار کام رُکا۔ اور بار بار شروع کیا گیا۔ ۱۹۲۸ء میں ایک اور مرض صعب
میں مبتلا ہو گیا۔ اور مجھے ہتھ خانے میں داخل ہونا پڑا۔ اور عمل جراحی کی نوبت پہنچی۔ تب تو میں زلیت سے ناامید ہو گیا۔
اس وقت مجھے اپنی زندگی کے بہت سے کاموں کے ادھورے رہ جانے پر افسوس اور رنج تھا۔ سب سے زیادہ اس

قرآنی خدمت کے غیر عمل رہنے کا سدھ تھا اور یہ کام صرف غیر مکمل ہی نہ تھا۔ بلکہ ایسی حالت میں تھا۔ کہ میرے سودے کی ترتیب مجوزہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور میں یہ سوچ کر بے حد گڑبٹا تھا۔ کہ یہ سب کیا کرایا کام میرے بعد برباد ہو جائے گا۔ اور میری برسوں کی محنت اکارت جائیگی۔ مجھے اس حالت میں جو مجھے اپنی زندگی کا کنارہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ خیالات بہت اذیت دیتے تھے۔ اور میری آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے۔ ایک رات جبکہ میری آنکھوں سے نیند بالکل اڑ گئی تھی۔ برے اضطراب کی حالت میں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور عند کیا۔ کہ اگر میں اس مرض صعب سے جانبر ہو جاؤں۔ اور مجھ میں لکھنے کی طاقت و ہمت آجائے۔ تو میں اپنا نام وقت اس خدمت قرآنی میں صرف کر دوں گا۔ اور جب تک اسے ختم نہ کر لوں گا۔ اور کسی کام کی طرف توجہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ دعا قبول فرمائی۔ اور میں شغلیابی کے وقت سے برابر اس کام میں لگا رہا۔ اور جس قدر مسودہ تیار ہوتا گیا۔ کتاب کو دیتا اور اسے چھپواتا رہا۔ خدا کا تکرہ ہے۔ کہ چھ حصوں میں سے چار حصے چھپ کر تیار ہو گئے۔ صرف دو باقی رہ گئے۔ وہ بھی بفضل خدا انشاء اللہ جلد تیار ہو جائیں گے۔ یہ چار حصے حسب ذیل ہیں:-

۱۔ کتاب العقائد۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کا بیان ہے۔ اور وہ سب استدلاوت بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا حصہ ان آیات پر مشتمل ہے جو بدراخلق سے تعلق رکھتی ہیں۔

۲۔ کتاب الاحکام۔ اس کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جملہ احکام فقہی جمع کئے گئے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جس کا نام کتاب الافلاق ہے۔ آیات متعلقہ افلاق پر مشتمل ہے۔

۳۔ کتاب الرسالہ۔ اس میں یہ بیان ہے۔ کہ قرآن مجید کب اور کس طرح نازل ہوا۔ اور اس پر کافروں کے کیا کیا شبہات و اعتراضات تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اعتراضات کے کیا کیا جواب دیئے گئے۔

۴۔ کتاب العاد۔ یعنی قیامت کو جو واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ان کا مفصل بیان موت کے وقت سے بہشت یا دوزخ میں داخل ہونے تک۔

اس کتاب میں ہر موضوع کس طریق سے بیان کیا گیا ہے۔ تقویری ہی اس کی تفصیل بھی ضروری ہے۔ سب سے اول ہر موضوع بطور عنوان اوپر لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے تحت میں متعدد ضمنی سرخیاں یا عنوان حاشیہ میں قائم کئے گئے ہیں۔ پھر ضمنی عنوان کے بعد حوالہ اس طرح دیا گیا ہے۔ کہ ایک خط عرضی ڈال کر اس کے نیچے سورت کا نمبر دیا ہے۔ اور اوپر آیت کا۔ مثلاً ۲۔ اس سے یہ مطلب ہے۔ کہ ساتویں سورت کی بیسویں آیت۔

میں نے اس کتاب میں صرف حوالہ کے بیان پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ حوالہ دے کر سب آیات محولہ بھی ہر حوالہ کے ساتھ تھمیر کر دی ہیں۔ میں نے اس مطلب کے لئے بیچارہ اور رکوع کا حوالہ دینا پسند نہیں کیا۔ جیسا کہ ایسے حوالے دینے میں

عام دستور ہے +

افسوس ہے۔ اس طرح کے قرآن مجید نبشتا کیاب ہیں۔ کیونکہ عام طور پر قرآن مجید ایسے نہیں چھاپے جاتے۔ جن میں آیات پر بند سے لگے ہوں۔ پھر بھی تصور ابہت رواج اس کا ہو رہا ہے۔ اور ذرا سی کوشش سے ایسے قرآن مجید نہایت اڑا ہڈیے پر باسانی بل سکتے ہیں۔ مجھے رکوعوں کا حوالہ اس لئے پسند نہیں۔ کہ ایک آیت کی تلاش میں رکوع کی تمام اہمیت پڑھنی پڑنی ہیں۔ لیکن سورت و آیت کے نمبر کا حوالہ دینے سے وہ آیت براہ راست فوراً مل جاتی ہے +

شاید قرآن مجید کے مختلف چھاپوں کے نسخوں میں شمار آیات میں کہیں کچھ اختلاف ہو۔ مگر اس اختلاف کی وجہ سے شمار آیات میں ایک یا دو سے زیادہ کا فرق کبھی نہیں پڑتا۔ جو صاحب اس کتاب کے حوالہ کے بوجب کوئی آیت تلاش کریں۔ اور اتفاقاً وہ نہ ملے۔ تو حوالہ مندرجہ سے پہلے اور پیچھے کی دو دو تین تین آیتیں پڑھیں۔ تو یقیناً آیت مطلوبہ باسانی مل جائے گی +

اس کتاب میں حقیقت آیات مضمون دار مرتب کرنا اس قدر مشکل کام نہیں تھا۔ جس قدر ان موضوعوں کے عنوان قائم کرنا۔ جن کی زمانہ حال میں ضرورت ہے۔ اور جن کے متعلق صراحتاً نہیں تو اشارتاً یا دلائل قرآن مجید میں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکا ہے۔ میں نے ایسے مضامین کے نکالنے اور ان کے عنوان قائم کرنے میں بہت کوشش کی ہے۔ مثلاً اول العزمی۔ ثابت قدمی۔ پابندی اوقات۔ حفظ صحت۔ قوت۔ وغیرہ۔ مگر بہ ایسا کام ہے۔ جس پر ایک سے زیادہ کام کرنے والوں کی کوشش کی ضرورت ہے۔ اس لئے میں اس اپنی خیر خدمت کو کوئی کام نہیں بلکہ کام کی صرف داغ بیل ڈالنے کا درجہ دیتا ہوں۔ آگے سرکیں نکالنا اور انہیں سچتہ بنا کر مجھ سے زیادہ قابل اصحاب کا کام ہے +

فہرست مضامین جو ہر جلد کے ساتھ جدا جدا لگی ہے۔ وہ بہت مفصل ہے۔ اور اس خیال سے کہ کسی موضوع کی تلاش میں مطلوبہ موضوع کا خدا جانے کونسا پہلو تلاش کرنے والے کے ذہن میں آئے۔ فہرست میں ہر موضوع کے متعدد پہلوؤں کو درج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً نماز سفر میں قصر کا حکم تلاش کرنا ہو۔ تو وہ سفر کے عنوان کے تحت میں بھی ملے گا۔ قصر کے بھی۔ اور نماز کے بھی۔ افسوس جس استقصاء و استیعاب سے میں یہ کام دینا چاہتا تھا۔ ویسا نہ ہو سکا۔ مگر اللہ کا شکر کس زبان سے ادا کروں۔ کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنا کام کرنے کی توفیق بخشی۔ اگر توفیق الہی شامل حال رہی۔ تو باقی حصے بھی جن کا مسودہ تفریقاً تیار ہے۔ جلد لکھے جا کر شائع ہونگے۔ مجھے بخوبی معلوم ہے۔ کہ اس کام میں بہت سے ستم رہ گئے ہیں۔ اصولی بھی اور فروعی بھی۔ کوئی شخص مجھ سے زیادہ ان نقصوں سے آگاہ نہیں لیکن اگر یہ نسخے جلد نکل گئے۔ تو دوسری بار چھاپنے کے وقت انشاء اللہ تعالیٰ بہت سی اصلاحیں ہو سکیں گی۔ اور احباب اور بزرگان دین مجھے جو بھی مشورہ دیں گے۔ ان پر شکر یہ کے ساتھ کار بند ہو کر خاطر خواہ درستی کر سکوں گا +

دیباچے کو ختم کرنے سے پہلے مجھے اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ جن سے مجھے اس کام میں بیش بہا مدد ملی ہے سب سے مقدم مولوی نجم الدین صاحب سنواری مرحوم ہیں۔ جن کا ذکر اوپر گذرا۔ افسوس وہ اس تالیف کے شائع ہونے سے پہلے انتقال کر گئے +

میں اپنے ناضل دوست مولانا حافظ سید طلحہ صاحب منی ایم اے۔ پروفیسر اور فیل کالج لاہور کا بھی نہایت شکر گزار ہوں۔ کہ وہ بھی اس کام میں دلچسپی لیتے اور وقتاً فوقتاً اپنے مفید مشوروں سے مجھے مدد دیتے رہے۔ چنانچہ اس کتاب کی کتاب الافلاک میں جلعت انسان از روئے قرآن کے ضمن میں جو عنوان جذبات انسان قائم کیا گیا ہے۔ اور نیز عنوان بیایات آپ کے مشورے ہی سے قائم کئے گئے ہیں۔ سب سے آخر میں میرے ذمے اپنے دوست حافظ سلطان احمد صاحب کا شکریہ ہے جنہوں نے اس کتاب کے سروسے کا بہت سادھتہ کئی بار نقل کیا۔ اور کاپیوں اور پروفوں کی تصحیح بھی انہوں نے ہی کی۔ ان کے حافظ اور معراج ہونے اور اردو عربی کتابت میں خوش قلم ہونے کی وجہ سے مجھے اس کام میں بہت ہی مدد ملی +

اب آفریں دعا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے۔ اور اسے میرے لئے باقیات صالحات میں سے ٹھیرائے۔ اور ناظرین باتمکین سے التجا ہے۔ کہ وہ ازراہ ہرمانی اس مامی کے حق میں دعائے خیر فرمائیں +
غرض نقتے ست کز مایاد ماند . کہ ہستی رانے بنم نقائے -
مگر صاحب دلے رذزے برحمت . کند در کار این سکیں دملائے -

فاکساریتہ ممتاز علی۔ لاہور

موزخہ یکم رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ

مختصر فہرست کتاب العقائد

صفحہ	مضمون آیات	صفحہ	مضمون آیات
۱۰۸	۴۳ - زمین و آسمان سب اللہ کا		استدلال وجود باری تعالیٰ پر دنیا کی مختلف چیزوں
۱۰۹	۹ - اول و آخر سب اللہ کا	۳۲-۱	کے۔
۱۱۲-۱۰۹	رزاقیت -	۳۸-۳۲	دلائل توحید و عدم اشتراک در ذات و صفات حق تعالیٰ
۱۱۳-۱۱۲	آجر و ثواب (نیز دیکھو صفحہ ۱۵۲)	۳۸	۲۶ - ابطال الوہیت یسح
۱۱۴-۱۱۳	انعام اور نعمتیں	۳۹-۳۸	۲۷ - دلیل خدا تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی
۱۲۸-۱۱۴	مشیت باری تعالیٰ شانہ	۴۳-۳۹	توحید باری عز اسمہ
۱۲۸-۱۱۴	ہدایت و گمراہی اللہ کی طرف سے (نیز ۱۲۱-۱۲۲)	۵۴-۴۴	تفسیر باری تعالیٰ شانہ - آیات تسبیح
۱۲۸	۴۵-۴۴ - رحمت و فضل اس کے ہاتھ	۵۲	۱۹ - اللہ اولیٰ ابدی ہے
۱۳۱-۱۲۸	برکت و جلال و علو شان - عرش و کرسی	۵۸-۵۵	آیات تحمید
۱۳۴-۱۳۲	سطوت و جبروت - غلبہ - حساب - عذاب	۵۹-۵۸	اللہ کی بے نیازی (غنی ہونا)
۱۳۹-۱۳۸	ہر چیز اللہ کی مطیع -		۵ - اللہ کو بندوں کے سب اعمال اور ان کے
۱۴۱-۱۳۹	احاطہ - اللہ ہر جگہ موجود -	۶۰-۶۰	سب حالات کی خبر ہے -
۱۴۲-۱۴۱	۲ - خیر و شر سب اللہ کی طرف سے - (۱۱۴)	۶۴-۶۰	اسماء صفات و اسماء حسنیٰ مثبت علم
۱۴۴-۱۴۲	اللہ کا بندوں کو سمجھانا - مثالیں دینا -	۸۴-۶۴	۷ - علم غیب باری تعالیٰ شانہ -
۱۴۹-۱۴۴	آزمائش	۸۵-۸۵	۸ - اللہ قیامت کو فیصلہ کریگا -
۱۵۰-۱۴۹	کافروں کو ہمت	۸۶-۸۶	۹ - قیامت کو اعمال سے آگاہ کریگا -
۱۵۰	قرب حق - حیوۃ	۸۸-۸۶	۱۳ - اللہ استہزاء و مسخر کی جزا دیتا ہے -
۱۵۱	آرادہ	۹۴-۸۹	رحمت و رافت و فضل
۱۵۲	قرض حسنہ (نیز دیکھو صفحہ ۱۱۲-۱۱۳)	۸۹	۴ - اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی
۱۵۴-۱۵۳	اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش پر	۹۵	۳۱ - اللہ گنہگار ہے اور کار ساز
۱۵۶-۱۵۴	اعضاء انسانی کی نسبت اللہ کی طرف	۹۸-۹۶	صفت احیاء
۱۶۰-۱۵۶	تقدیر - جبر و اختیار -	۱۰۵-۹۸	قدرت باری عز اسمہ
۱۵۹	عمریں نکسی ہوئی مقرر ہیں	۱۰۵	۲۷ - گن گننے سے ہر چیز ہو جاتی ہے -
۱۶۰	نیکی خدا سے بڑی انسان سے	۱۰۹-۱۰۶	ملکیت باری عز اسمہ بمشرق مغرب سب اللہ کا

فہرست مضامین جزء اول کتاب تفصیل البیان فی مقاصد القرآن استدلال علی وجود الصانع

صفحہ	مضمون آیات	آیات	صفحہ	مضمون آیات	آیات
۷	کی صورتوں سے			استدلال آسمان وزمین کی پیدائش اور ان کی اندرونی چیزوں سے	۱
۸	استدلال چاند سورج ستاروں اور ان کے فوائد سے	۱۱	۱	زمین آسمان مصلحت سے پیدا کئے	۱
۹	استدلال چاند سورج اور ستاروں کے مسخر کرنے سے	۱۲	۱	سات آسمانوں کی طرح زمینیں	۲
۹	استدلال کشتیوں اور دریاؤں کے مسخر کرنے سے	۱۳	۲	استدلال آسمان وزمین اور دنیا کو چھ روز میں پیدا کرنے سے	۲
۱۰	استدلال دن رات کو مسخر کرنے سے	۱۴	۲	زمین دو دن میں	
۱۰	استدلال تمام چیزوں کو مسخر کرنے سے	۱۵	۳	پہاڑ وغیرہ چار دن میں	
۱۰	استدلال رات اور دن کے گھٹنے بڑھنے سے	۱۶	۳	سات آسمان دو دن میں	
۱۰	استدلال رات دن کے اول بدل سے	۱۷	۳	استدلال آسمان کی خاص خصوصیتوں سے	۳
۱۲	استدلال سایہ کے گھٹنے بڑھنے سے	۱۸	۴	بروج	
	استدلال بارش سے - اس سے زمین کو زندہ کرنے	۱۹	۴	سورج اور چاند	
۱۲	اور اس کی مختلف پیداوار سے		۴	آسمان کو چھت بنایا	
۱۶	استدلال گٹھلی اور دانے کے چیرنے سے	۲۰	۴	آسمان بلاستون تھما ہوا	
۱۶	استدلال کھیتی سے	۲۱	۴	سات راتے	
۱۶	استدلال پانی سے	۲۲	۴	سات مضبوط آسمان	
۱۸	استدلال رس بھری ہواؤں اور بارش سے	۲۳	۵	استدلال زمین کی خاص خصوصیتوں سے	۴
۱۸	استدلال بادل اولوں بجلی اور گرج وغیرہ سے	۲۴	۵	استدلال زمین کے فوائد سے	۵
۱۹	استدلال ہواؤں کے ادھر ادھر گھمانے سے	۲۵	۶	استدلال پیدائش آسمان وزمین اور اندھیرے اُجالے سے	۶
۱۹	استدلال دریاہیں کشتیوں اور جہازوں کے چلنے سے	۲۶	۷	استدلال آسمان وزمین کے معلق ہونے سے	۷
۲۱	استدلال دو دریاؤں کے باہم چلنے اور ایک دوسرے کا پانی نہ ملنے سے -	۲۷	۷	استدلال پیدائش آسمان وزمین اور بولیوں اور رنگتوں کے اختلاف سے -	۸
۲۱	استدلال دریا سے موتی اور مونگیا نکالنے سے	۲۸	۷	استدلال آسمان وزمین کی پیدائش اور انسان	۹
۲۱	استدلال شہاب ثاقب سے	۲۹			

۲۳	آسمان وزمین وغیرہ کی پیدائش میں شیطانوں کا سماجما نہیں ہے	۶	۲۱	استدلال پھاڑوں سے	۳۰
۲۳	آسمان وزمین میں صرف ایک اللہ ہی معبود ہے	۷	۲۱	استدلال آگ کے درخت سے	۳۱
۲۳	اللہ کی وحدانیت پر خود اللہ اور فرشتوں اور اہل علم کی شہادت -	۸	۲۱	استدلال زمین میں جانداروں کے پھیلانے سے	۳۲
	تمتذیہ باری تعالیٰ شانہ		۲۲	استدلال آسمان کے جانوروں اور پرندوں اور ان کے فوائد وغیرہ سے	۳۳
۲۴	اللہ پاک ہے	۱	۲۲	استدلال ہر شے کے جوڑا جوڑا پیدا کرنے سے	۳۴
۲۵	اللہ اولاد سے پاک ہے	۲	۲۳	استدلال انسان کی پیدائش - اس کے خاص کمالات اور اس کی مختلف حالتوں سے	۳۵
۲۷	اللہ نے اولاد اور بیوی اختیار نہیں کی	۳	۲۵	استدلال پیدائش سے بصر اور قلوب سے	۳۶
	اللہ توالد و تناسل کے بکیرے سے پاک ہے -	۴	۳۰	استدلال غیب سے اور بیدار ہونے سے	۳۷
۲۷	اللہ شرک سے پاک ہے	۵	۳۰	استدلال انسان کو سمیٹیں اور تکالیف سے بچانے سے	۳۸
۲۷	اللہ ان اوصاف سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں -	۶	۳۰	استدلال لباس سے	۳۹
۲۷	فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں	۷	۳۰	استدلال آسمان میں روزی ہونے سے	۴۰
۲۸	گنج اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے	۸	۳۰	استدلال نفوس انسانی سے	۴۱
	آسمان وزمین کی تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں -	۹	۳۱	استدلال موت اور حیات سے	۴۲
۲۸	اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں	۱۰	۳۲	استدلال غزوہ بدر کی فتح سے	۴۳
۲۹	اللہ لہو و لعب اور عبث سے بری ہے	۱۱		دلائل توحید و عدم انشراک و رذات و صفات حق تعالیٰ	
۲۹	اللہ اونگھ اور نیند سے بری ہے	۱۲	۳۸	دلیل ابطال الوہیت صحیح	۴۶
۵۰	اللہ سمکان سے بری ہے	۱۳	۳۸	مخدا تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل	۴۷
۵۰	اللہ کا وعدہ سچا ہے	۱۴		توحید باری عز اسمہ	
۵۰	اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے	۱۵	۳۴	اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں	۱
۵۱	اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا	۱۶	۴۱	معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہی ہے	۲
۵۱	اللہ کو مبول چوک نہیں لگتی	۱۷	۴۲	اللہ کا کوئی شریک نہیں	۳
۵۱	اللہ ظلم سے بری ہے	۱۸	۴۲	اللہ کا کوئی ہمسر نہیں	۴
			۴۳	صرف اللہ ہی حق ہے اس کے سوا سب باطل ہیں	۵

۶۶	اللہ حاملہ کے حمل اور وضع حمل کو جانتا ہے	۸	۵۲	اللہ اذلی اور ابدی ہے۔ اس کو فنا نہیں	۱۹
۶۷	اللہ ظالموں کو جانتا ہے	۹	۵۳	کوئی آنکھ اللہ کو نہیں پاسکتی	۲۰
۶۷	اللہ مفسدوں کو جانتا ہے	۱۰	۵۳	اللہ بڑی باتوں کا حکم نہیں دیتا	۲۱
۶۷	اللہ منتقوں کو جانتا ہے	۱۱	۵۳	اللہ کھلنے پینے سے بری ہے	۲۲
۶۷	اللہ بندوں کی نیکی کے کاموں کو جانتا ہے	۱۲	۵۳	اللہ سچا ہے	۲۳
۶۸	اللہ کو ہر شے کا علم ہے	۱۳	۵۳	اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے	۲۴
۶۹	اللہ کا کام علم سے ہے	۱۴	۵۳	اللہ کا کلام حق ہے	۲۵
۶۹	اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے	۱۵	۵۳	اللہ مدد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا	۲۶
اسماء صفات و اسماء حسنی منہب علم				اللہ کسی قوم سے اپنی دی ہوئی نعمت اُس وقت	۲۷
				بک نہیں مچیتا جب تک وہ قوم ہی خود اپنی	
			۵۳	مالت نہ بدلے -	
۷۰	سمیع و علیم	۱	۵۴	اللہ کسی کو رسول بھیجے سے پہلے ہلاک نہیں کرتا	۲۸
۷۱	علیم و حکیم	۲	۵۴	اللہ کا کلام نہیں بدلتا	۲۹
۷۱	علیم و حلیم	۳	۵۴	اللہ کے طریق میں تبدیلی نہیں	۳۰
۷۱	علیم و قدیر	۴		آیات تحمید	
۷۱	علیم و خبیر	۵		اللہ مستحق حمد ہے	۱
۷۲	حکیم و علیم	۶	۵۵	اللہ کی بے نیازی	
۷۲	خلاق و علیم	۷		اللہ بے پروا ہے	۱
۷۲	واسع و علیم	۸	۵۸	اللہ تمام جہان سے بے پروا ہے	۲
۷۲	شاکر و علیم	۹	۵۹	اللہ کو بندوں کی کچھ پروا نہیں	۳
۷۲	عزیز و علیم	۱۰	۵۹	اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں	۴
۷۳	فتاح و علیم	۱۱	۵۹	اللہ کو بندوں کے سب اعمال کی خبر ہے	۵
۷۳	خبیر	۱۲	۵۹	اللہ بندوں کو اور ان کے حالات و صفات اور	۶
۷۳	لطیف و خبیر	۱۳	۶۰	حرکات و سکات کو جانتا ہے۔	
۷۳	حکیم و خبیر	۱۴	۶۳	اللہ بندوں کے آگے اور پیچھے کے حالات و	۷
۷۳	سمیع و بصیر	۱۵	۶۴	واقعات جانتا ہے۔	

علم غیب باری تعالیٰ شانہ

- ۱ اللہ عالم الغیب ہے
- ۲ اللہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اور ان کے اسرار جانتا ہے۔
- ۳ اللہ سب باتوں کو جانتا ہے جو بندے ظاہر کرتے یا چھپاتے ہیں۔
- ۴ اللہ لوگوں کے دلوں اور سینوں کے حالات سے واقف ہے۔

حکومت باری تعالیٰ شانہ

- ۱ حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں
- ۲ ہر جاندار اللہ کے بس میں ہے
- ۳ فرشتے بغیر حکم خدا نہیں آتے
- ۴ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں
- ۵ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے
- ۶ اللہ کا حکم کوئی نہیں ہٹا سکتا
- ۷ اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے
- ۸ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
- ۹ اللہ قیامت کے دن اعمال سے آگاہ کرے گا
- ۱۰ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے
- ۱۱ اللہ استہز کی جزا دیتا ہے
- ۱۲ اللہ مکر کی جزا دیتا ہے۔
- ۱۳ اللہ تمسخر کی جزا دیتا ہے

رحمت و رافت

- ۱ اللہ نیک راہ بتلاتا ہے
- ۲ اللہ بندوں پر آسانی چاہتا ہے۔

- ۳ اللہ بندوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے
- ۴ اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی
- ۵ اللہ کسی بان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
- ۶ اللہ خبت اور مغفرت اور سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے۔
- ۷ اللہ مغفرت و فضل کا وعدہ فرماتا ہے
- ۸ اللہ گناہ بخشنے والا ہے
- ۹ اللہ کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے
- ۱۰ اللہ خطائیں معاف فرماتا ہے
- ۱۱ اللہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے
- ۱۲ اللہ بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے
- ۱۳ اللہ جو شریعت منسوخ کرتا ہے اس سے بہتر شریعت دیتا ہے۔
- ۱۴ اللہ معیبتوں اور سختیوں سے نجات دیتا ہے
- ۱۵ اللہ رحمت والا ہے
- ۱۶ اللہ نے رحمت اپنے اوپر لکھ لی ہے
- ۱۷ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔
- ۱۸ اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے
- ۱۹ اللہ نے رحمت سے دن اور رات بنائے
- ۲۰ کشتیوں اور جازوں کا غرق نہ ہونا اللہ کی رحمت سے ہے۔
- ۲۱ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال اور ظلموں پر پکڑتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا اور بہت جلد انہیں عذاب دیتا
- ۲۲ مومنوں پر اللہ کی خاص رحمت
- ۲۳ اللہ محبت کرنے والا ہے
- ۲۴ اللہ لوگوں پر فضل رکھتا ہے

۱۰۲	اللہ چاہے تو لوگوں کو غرق کر دے	۱۳	۹۴	اللہ جہاں والوں پر فضل رکھتا ہے	۲۵
۱۰۲	اللہ چاہے تو لوگوں کی صورتیں بدل دے	۱۵	۹۴	اللہ مومنوں پر فضل رکھتا ہے	۲۶
۱۰۲	اللہ چاہے تو آدمیوں سے فرشتے پیدا کر دے	۱۶	۹۴	اللہ بڑے فضل والا ہے	۲۷
۱۰۲	اللہ چاہے تو وحی کو لے جائے	۱۷	۹۴	اللہ نے عالم سکھلایا	۲۸
۱۰۳	اللہ چاہے تو پیغمبر کے دل پر ٹھہر گا دے	۱۸	۹۴	اللہ نے خوف سے امن دیا	۲۹
۱۰۳	اللہ چاہتا تو ہرستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتا	۱۹	۹۴	اللہ کی طرف سے بندوں پر نگہبان مقرر ہیں	۳۰
۱۰۳	اللہ جو چاہے پیدا کرے	۲۰	۹۵	اللہ خود بندوں کا نگہبان ہے۔	۳۱
۱۰۳	اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے	۲۱	۹۵	اللہ ہر شے کا کارساز ہے اور ذمہ دار ہے	۳۲
۱۰۳	اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں	۲۲	۹۶	صفت احواء	
۱۰۵	اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوگی تو اللہ وہ نکال کر لا موجود کرے گا۔	۲۳		قدرت باری عز اسمہ	
۱۰۵	تم سب کا پیدا کرنا اور پھراٹھانا ویسا ہی ہے۔	۲۴			
۱۰۵	جیسا ایک جان کا	۲۵	۹۸	اللہ قادر ہے	۱
۱۰۵	اللہ ہزار سال کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے	۲۶	۹۹	اللہ ہر شے پر قادر ہے	۲
۱۰۵	اللہ کا کام پک جھپکنے میں ہو سکتا ہے	۲۷	۱۰۰	اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے	۳
۱۰۵	اللہ کے "ہو جائے" لٹنے سے ہر چیز ہو جاتی ہے	۲۸	۱۰۰	اللہ لوگوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے	۴
۱۰۵	اللہ وسعت والا ہے	۲۹		اللہ تمام جانداروں کو ایک جا جمع کرنے پر قادر ہے۔	۵
	ملکیت باری عز اسمہ				
۱۰۶	مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے	۱	۱۰۰	اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے	۶
۱۰۸	فرشتوں کے اول و آخر مالک اللہ ہی ہے	۲	۱۰۱	اللہ زمین کو بانی سے محروم کرنے پر قادر ہے	۷
۱۰۸	آسمان و زمین کی کھینچوں کا مالک اللہ ہے	۳	۱۰۱	اللہ مظلوموں کی مدد پر قادر ہے	۸
۱۰۸	آسمان زمین کے لشکروں کا مالک اللہ ہی ہے	۴	۱۰۱	اللہ چاہے تو کان اور آنکھیں چھین لے	۹
۱۰۸	آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے	۵		اللہ چاہے تو سب کو مار کر ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔	۱۰
۱۰۸	زمین کا مالک اللہ ہے	۶	۱۰۲	اللہ چاہے تو لوگوں کو زمین میں دھنسا دے	۱۱
۱۰۸	آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے	۷		یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر ادا ہے	
۱۰۸	قیامت کو صرف اللہ ہی کی ملک ہوگی	۸	۱۰۲	اللہ بندوں پر عذاب بھیجنے اور بندوں کو باہم لڑا دینے پر قادر ہے۔	۱۲
۱۰۹	اول و آخر سب کا مالک اللہ ہی ہے	۹	۱۰۲	اللہ اپنے وعدہ عذاب کو پورا کرنے پر قادر ہے	۱۳

زراعت

۱	۱۰۹	روزی دینے والا اللہ ہی ہے
۲	۱۱۰	اللہ جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے
۳	۱۱۰	اللہ جیسا چاہتا ہے روزی فراخ یا تنگ کرتا ہے۔
۴	۱۱۱	اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے
۵	۱۱۱	اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے

اجر و ثواب

۱	۱۱۲	اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا
۲	۱۱۲	اللہ نیکیوں کا عوض دو چند دیتا ہے
۳	۱۱۳	اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔
۴	۱۱۳	اللہ کے پاس اجر عظیم

انعام اور نعمتیں

۱	۱۱۳	اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا
۲	۱۱۳	ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے
۳	۱۱۳	اللہ کی عام نعمتیں
۴	۱۱۴	انسان کس کس نعمت کی ناشکری کرے گا

مشیت باری تعالیٰ شانہ

۱	۱۱۴	ہدایت اور گمراہی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
۲	۱۱۸	اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے
۳	۱۱۹	اللہ جسے چاہے گمراہ کرے جسے چاہے ہدایت دے۔

۱۲۰	۴	جسے اللہ گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
۱۲۱	۵	جسے اللہ ہدایت کر دے۔ اُسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔
۱۲۱	۶	اللہ مومنوں کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے
۱۲۱	۷	اللہ بدکاروں کو ہدایت نہیں کرتا
۱۲۱	۸	اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا
۱۲۱	۹	اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا
۱۲۱	۱۰	اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں کرتا
۱۲۲	۱۱	اللہ نے منافقوں کا مرض بڑھایا
۱۲۲	۱۲	اللہ منافقوں اور کافروں کی گمراہی بڑھاتا ہے۔
۱۲۲	۱۳	اللہ بدکاروں کو گمراہ کرتا ہے
۱۲۲	۱۴	اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے
۱۲۲	۱۵	اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے
۱۲۲	۱۶	اللہ زیادتی کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے
۱۲۲	۱۷	اللہ منکبروں کو اپنی آیتوں سے پھیرتا ہے
۱۲۳	۱۸	اللہ نیک راہ بیان کئے بغیر کسی کو گمراہ نہیں کرتا
۱۲۳	۱۹	اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کرتا ہے
۱۲۴	۲۰	اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر کر دیتا
۱۲۴	۲۱	اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی مذہب پر کر دیتا
۱۲۵	۲۲	اللہ چاہتا تو مشرک نہ ہوتا
۱۲۵	۲۳	اللہ چاہتا تو شیاطین اور جنات کا فروب نہ چلتا۔
۱۲۵	۲۴	اللہ چاہتا تو مشرک اپنی اولاد کو قتل نہ کرتے
۱۲۵	۲۵	اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں قتال نہ کرتے
۱۲۵	۲۶	اللہ جسے چاہے لڑکا لڑکی دیتا ہے
۱۲۵	۲۷	جسے چاہے دونوں دیتا ہے

۱۲۹	نہ ہوں -	۱۲۶	اللہ جسے چاہے معاف کرے جسے چاہے عذاب دے۔	۲۸
۱۲۹	اللہ کا بول بالا ہے۔	۱۲۶	اللہ جس پر چاہے رحم کرے جسے چاہے عذاب دے۔	۲۹
۱۲۹	اللہ کے لشکر کو سوائے اُس کے کوئی نہیں جانتا۔	۱۲۶	اللہ جسے چاہے ملک دیتا ہے	۳۰
۱۳۰	اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے	۱۲۶	اللہ جس سے چاہے ملک چھین لے	۳۱
۱۳۰	اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں	۱۲۶	اللہ جسے چاہے دو چند دے	۳۲
۱۳۰	اللہ کا ہم نام کوئی نہیں	۱۲۶	اللہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے	۳۳
۱۳۰	اللہ کی شان عالی ہے	۱۲۶	اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرنا ہے	۳۴
۱۳۰	اللہ بڑے درجے والا ہے	۱۲۶	اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔	۳۵
۱۳۰	اللہ کی مثل اعلیٰ ہے	۱۲۶	اللہ ہر چیز کا حصہ دیتا ہے	۳۶
۱۳۰	آسمانوں اور زمین میں بڑائی اللہ ہی کو ہے	۱۲۶	اللہ جس پر چاہے اپنے رسولوں کو مسلط کرتا ہے۔	۳۷
۱۳۰	اللہ صاحب جلال و اکرام ہے	۱۲۶	اللہ جسے چاہے پاک کرے۔	۳۸
۱۳۰	اللہ عرش بزرگ ہے	۱۲۶	اللہ جس پر چاہے احسان کرے۔	۳۹
۱۳۰	اللہ عرش کا مالک ہے	۱۲۶	اللہ رسالت کے لئے جسے چاہے چن لے	۴۰
۱۳۱	اللہ کی کرسی آسمان و زمین کی دست رکھتی ہے	۱۲۶	اللہ جس پر چاہے اپنے حکم سے روح کو اٹھا کرے۔	۴۱
۱۳۱	اللہ سے کوئی پوچھ نہیں	۱۲۶	اللہ جس کے چاہے درجے بلند کرے	۴۲
۱۳۱	اللہ سے سب اہل آسمان و زمین سوال کرتے ہیں۔	۱۲۶	اللہ جسے چاہے حکمت دے	۴۳
۱۳۱	اللہ روزئی شان میں ہے۔	۱۲۸	اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کرے	۴۴
۱۳۱	قیامت کو اللہ کے آگے کوئی نہ بول سکے گا۔	۱۲۸	فضل اللہ کے ہاتھ ہے وہ جسے چاہے دے	۴۵
۱۳۱	اللہ کے ہاں اس کی اجازت بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔			
۱۳۱	اللہ کسی سے منہ در منہ بغیر واسطہ بات نہیں کر سکتا۔			
	سطوت و جبروت		برکت و جلال و علو شان	
۱۳۲	اللہ کی بڑائی بھلائی کوئی نہیں روک سکتا	۱۲۸	اللہ بڑی برکت والا ہے	۱
۱۳۲	اللہ جس کی اعانت کرے۔ اس کا کوئی اکرام کرنے والا نہیں۔	۱۲۹	اللہ کے کلمات تمام دریاؤں کی سیاہی اور تمام درختوں کے قلموں سے لکھے جائیں۔ تب بھی ختم	۲
۱۳۲				۳

۱۳۱	بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور بُرائی اپنی طرف سے -	۲	۱۳۲	اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں	۳
۱۳۱	قبولیتِ نسیحت اللہ کے اختیار میں	۳	۱۳۳	اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں	۴
۱۳۱	انسان کی مشیت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے -	۴	۱۳۳	اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں	۵
۱۳۲	اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے	۵	۱۳۴	اللہ تہر والا ہے	۶
۱۳۲	مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے	۶	۱۳۴	اللہ غالب ہے	۷
	اللہ کا بندوں کو سمجھانا	۷	۱۳۴	قوت اللہ ہی کو ہے	۸
۱۳۲	اللہ آیتیں بیان کرتا ہے	۸	۱۳۵	عزت اللہ ہی کو ہے	۹
۱۳۳	اللہ حدیں بیان کرتا ہے	۸	۱۳۵	اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا	۱۰
۱۳۳	اللہ مثالیں بیان کرتا ہے	۸	۱۳۶	اللہ کی پکڑِ سخت ہے	۱۱
۱۳۴	اللہ نے ہر طرح کی مثال بیان کر دی	۸	۱۳۶	اللہ جلد حساب لینے والا ہے	۱۲
۱۳۴	اللہ پھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرنے سے نہیں ڈرتا -	۸	۱۳۶	اللہ جلد عذاب کرنے والا ہے	۱۳
۱۳۴	اللہ حق کو باطل پر غالب کرتا ہے	۸	۱۳۶	اللہ سخت عذاب والا ہے	۱۴
۱۳۴	اللہ آدمیوں اور فرشتوں میں سے رسول انتخاب کرتا ہے -	۸	۱۳۷	اللہ کا عذاب سخت ہے	۱۵
۱۳۴	اللہ اندازہ کرتا ہے	۸	۱۳۷	اللہ کا عذاب دردناک ہے	۱۶
	آزمائش	۸	۱۳۷	ہر چیز کا انجام اللہ ہی کی طرف سے	۱۷
۱۳۶	اللہ لوگوں کو آزماتا ہے	۹	۱۳۸	ہر چیز کا اللہ کے مطیع ہونا	
۱۳۹	کافروں کو مہلت	۹	۱۳۸	ہر چیز اللہ کی مطیع ہے	
۱۵۰	قرب حق	۹	۱۳۸	آسمان و زمین کی کل مخلوق سر پر سجدہ ہے	
۱۵۰	حیوۃ	۹	۱۳۹	اللہ کے حکم بغیر موت نہیں آسکتی	
۱۵۱	ارادہ	۹		احاطہ	
۱۵۲	قرض حسنہ	۹		اللہ کا ہر چیز پر احاطہ	۱
				اللہ ہر جگہ موجود ہے	۲
				اللہ بندوں کے قریب ہے	۳
				خبر و نشر اللہ کی طرف سے	
				ہر بُرائی بھلائی اللہ ہی کی طرف سے -	۱

		اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش پر			
۱۵۸	کتاب المحمود الاثبات	۴		اللہ آسمان میں	۱
۱۵۸	کل کام آسمان سے اترتے ہیں	۵	۱۵۲	اللہ عرش پر	۲
۱۵۸	سب کچھ خدا کی طرف سے ہے	۶	۱۵۲	اللہ کی کرسی	۳
۱۵۸	خدا کی مرضی بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا	۷	۱۵۲		
۱۵۸	لوگوں کا اختلاف خدا کی مرضی سے ہے	۸		اعضاء انسانی کی نسبت اللہ کی طرف	
۱۵۸	انسان کا دل خدا کے اختیار میں ہے	۹	۱۵۵	اللہ کی آنکھیں	۱
۱۵۸	لوگوں کا ایمان لانا خدا کے حکم پر موقوف ہے	۱۰	۱۵۵	اللہ کا منہ	۲
۱۵۹	خدا کا کسا ہوا انسان کو پہنچتا ہے	۱۱	۱۵۵	اللہ کا نفس	۳
۱۵۹	میرا و زندگی مقرر کی گئی	۱۲	۱۵۵	اللہ کا ہاتھ	۴
۱۵۹	عمریں لکھی ہوئی ہیں	۱۳	۱۵۵	اللہ کا داہنا ہاتھ	۵
۱۵۹	عمریں مقرر ہیں	۱۴	۱۵۶	اللہ کی مٹھی	۶
۱۵۹	موت کا وقت مقرر ہے	۱۵	۱۵۶	پینڈلی کا کھولا جانا	۷
۱۵۹	موت کا وقت بدل نہیں سکتا	۱۶	۱۵۶		
۱۶۰	موت سے کسی طرح بچاؤ نہیں	۱۷		تقدیر (جبر و اختیار)	
۱۶۰	انسان کی مرضی پوری نہیں ہو سکتی	۱۸	۱۵۷	خدا کے ہاں ہر چیز کا انمازہ مقرر ہے	۱
۱۶۰	نیکی خدا سے بدی انسان سے	۱۹	۱۵۷	ہر بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے	۲
۱۶۰	خدا کسی کو اس کی گنہگاروں سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا	۲۰	۱۵۷	خدا کے پاس حق بولتی کتاب ہے	۳
۱۶۰	انسان کو خدا نے نیک و بد دونوں رستے دکھائے ہیں	۲۱	۱۵۷		



كتاب العقائد

۳۹ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

کیا انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کسی حکمت سے اور ایک مقررہ میعاد
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ۝
کیلئے پیدا کیلئے اور بیشک اکثر آدمی اپنے پروردگار سے لٹنے کا انکار کرتے ہیں۔

۴۰ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

اُس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا

۴۱ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اس لئے پیدا کیا کہ ہر شخص کو اُس کے کئے کا بدلہ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

دیا جائے اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔

۴۲ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ

ہم نے تو آسمانوں اور زمین اور اُن کے اندر کی چیزوں کو کسی حکمت سے ایک مقررہ میعاد کیلئے پیدا کیا ہے
كَفَرُوا عَمَّا أَنْذَرُوا وَمَعْرُضُونَ ۝

اور جو منکر ہیں وہ ان باتوں سے جن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے منہ پھیر لیتے ہیں

۴۳ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں

۴۴ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝

اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے (قدرت) نشانیاں ہیں

۴۵ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝

اور آسمان کو ہم نے (ہٹنے) ہاتھوں سے بنایا اور بیشک ہم مائلے ہیں اور ہم ہی نے زمین کو کچھایا۔ تو ہم کیا

فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ۝

اچھا بچھلنے والے ہیں۔

۴۶ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور اُن ہی کی طرح زمین پیدا کی اُن کے درمیان (ہمارا) حکم اترتا ہے۔

۴۷ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قرار کھڑا وہ رات کو

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تُغْشَىٰ اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۝

دن کا پردہ پوش بناتا ہے رات اس کو تیزی سے ڈھونڈتی ہے۔

۳ - سات آسمانوں
کی طرح زمینیں

۴ - استدلال آسمان اور زمین
اور دنیا کو چھ روز میں پیدا
کرنے سے

۳۱ ۱۱ اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

بے شک تمہارا پروردگار شبے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قرار پکڑا۔
عَلَى الْعَرْشِ يَدَّ يَدًا اَلَا مَرَمًا مِنْ شَفِيعٍ اَلَا مِنْ بَعْدِ اِذْ نَزَّاهُ ذٰلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ
وہ کام کا انتظام کر لے کوئی (کسی کا) سفارشی نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ اللہ ہے
فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

تمہارا پروردگار تو تمہاری کو پوجو۔ کیا تم سوچتے نہیں؟

۳۲ ۱۱ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ

اور وہ وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اور (اس وقت) اس کا تخت پانی پر تھا
لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتَكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔

۳۳ ۱۱ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى

وہ جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر کی چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر قرار پکڑا
الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ فَاَسْئَلُ بِهِ خَبِيْرًا ۝

وہ رحمن ہے تو اس کو تو کسی خیردار سے پوچھو

۳۴ ۱۱ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر کی چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر قرار پکڑا
عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ قُرْبٰى وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے

۳۵ ۱۱ قُلْ اَيُّكُمْ كَفَرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ

دو دن میں زمین کو دو دن میں پیدا کیا۔ اور تم اس کے لئے شریک
اَنْذَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

انہی کے لئے ہے۔ اور اس نے اس زمین میں اس کے ادب پر پہاڑ کھڑے کئے اور

۳۶ ۱۱ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَنْوَاثَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيْلَيْنِ هٰٓؤُلَاءِ ثُمَّ اسْتَوٰى

اور اس میں برکت رکھی اور اس میں اس کی پیداوار مقرر کی رات چار دن میں پوچھنے والوں کے لئے پورا جو اب ہے پھر اس نے
اِلَى السَّمٰوٰتِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَاِلَى الْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا

آسمان کی طرف قصد کیا اور وہ ایک دہواں ساتھ پھر اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے

۳۷ ۱۱ اَتَيْنَا طٰوْعِيْنَ هٰٓؤُلَاءِ فَقَضٰىنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ

عاصر ہوا انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوئے۔ پھر وہ دن میں ان کو سات آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام



۵۔ زمین دو دن میں

۶۔ پہاڑ وغیرہ چار دن میں

سات آسمان
دو دن میں

سَمَاءٍ أَمْرَهُمْ قَرِيبٌ وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
 ۳۸ ۵۸
 اور بیشک تمہارے آسمان کے آسمان کو ہم نے (ستاروں کے) چراغوں سے سجایا اور (اسکی حفاظت کی یہ عورت والے جاننے والے کی تمہاری بات ہے
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝
 ۳۹ ۵۹
 اور بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر کی چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور تمہارے لیے ہمیں چھوٹا تک بھی نہیں
 كُفُوًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ

وہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قرار پکڑا

۴۰ ۶۰
 اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے جسے تم دیکھتے ہو کھڑا کیا پھر عرش پر قرار پکڑا

۴۱ ۶۱
 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ۗ وَحَفُوظُنَّهَا مِنْ كُلِّ

اور بیشک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسکو زینت دی۔ اور ہر ایک مردود

شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝ ۴۲ ۶۲
 إِلَّا مِنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ ۗ سَهَابٌ مُّبِينٌ ۝

شیطان سے ہم نے اس کی غفلت کی۔ مگر اس جو کوئی شیطان، چوری سے (کوئی بات) سن لے تو ایک ظاہر شہادہ کے نیچے لگتا ہے

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

برکت واہبہ وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں (سورج کا) ایک چراغ اور روشنی دینے والا چاند رکھا۔

۴۳ ۶۳
 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ ۝

اور ہم نے آسمانوں کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں

۴۴ ۶۴
 وَيُسَبِّحُكَ السَّمَاءُ بِمَا فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ وَالْحَيَوَاتِ وَالْحَيَوَاتِ وَالْحَيَوَاتِ ۗ

اور وہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے تمہارے ہوئے ہر ایک کے حکم سے گرسکتا ہے بیشک اللہ لوگوں کی شفقت کرنا لاہر ہر ایک ہے

۴۵ ۶۵
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

اور بیشک ہم نے تمہارے اوپر سات راہیں پیدا کیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں

۴۶ ۶۶
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے جسے تم دیکھتے ہو پیدا کیا

۴۷ ۶۷
 وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا

اور ہم نے قریب کے آسمان کو (ستاروں کے) چراغوں سے زینت دی اور اس کی حفاظت کی

۴۸ ۶۸
 أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝

کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسکو کیسا (بچھا) بنایا اور اسکو زینت دی اور اس میں کوئی ٹکڑا نہیں ہے

۴۹ ۶۹
 وَالسَّمَاءِ سَرَفَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھی۔

۳۰۔ استدلال آسمان کی
خاص خصوصیتوں سے

درج

سورج اور چاند

آسمان کی چھت بنانا

آسمان پر چھتوں
تھا ہونا

سات راستے

۳۶ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ يَا رَجِيعُ

وہ جس نے ایک کے اوپر ایک سات آسمان پیدا کئے (بے فاصلہ) تو رجوع کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں دیکھتا البصر هل ترى من فطوره ۳۶۔ تم اگر رجوع البصر کرتے ہیں تو قلب الیك البصر سے نظر پھل بھلا تو کوئی شکایت دیکھتا ہے۔ پھر اور درود فہ نظر پھرا۔ نظر تیری طرف ذلیل ہو کر لوٹے گی خاسئا وهو حسیرہ ۳۷۔ ولقد زیننا السماء الذیاء بصابیم وجعلناھا اور وہ تھکی ہوئی ہوگی اور بے شک ہم نے قریب کے آسمان کو (ستاروں کے) چراغوں سے

۳۷ رَجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

زینت دی اور ان (چراغوں) کو ہم نے شیطانوں کی مار بنایا اور ان کے لئے ہم نے دوزخ کا عذاب تیار کیا۔

۱۵ ألم تر واکیف خلق اللہ سبع سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک کے اوپر ایک کس طرح سات آسمان پیدا کئے۔

۱۶ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سَدَادًا

اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

۱۸ وَالِی السَّمَاوِ کَیْفَ رُفِعَتْ

اور دیکھا وہ آسمان کی طرف (نہیں دیکھتے) کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔

۳۳ وَهُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِیً وَأَنْهَارًا

اور وہ ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں رکھیں

۱۹ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِیً وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُونًا

اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر ایک مناسب چیز اگائی

۲۰ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا

اور اس میں ہم نے تمہارے لئے گزران کا سامان پیدا کیا

۳۴ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِیً أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ

اور ہم نے زمین میں پہاڑ رکھے کہ وہ ان کو لے کر ابل نہ جائے اور اس میں راہیں بنائیں تاکہ وہ راہ

يَهْتَدُوا

پائیں۔

۳۵ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لئے اس میں راہیں چلائی

۱۰ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْفِی الْأَرْضِ رَوَاسِیً أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے جسے تم دیکھتے ہو پیدا کیا اور زمین میں پہاڑ ڈال دیئے کہ وہ تمہیں لے کر

سات مضبوط آسمان

۳۳- استدال زمین کی خاص خصوصیتوں سے

وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ط

بن نہ بلئے اور اس میں ہر ایک قسم کے جانور پھیلا دئے

۱۳ الذی جعل لکم الارض هداً وجعل لکم فیہا سبلاً لعلکم تہتدون

وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو پھونانا بنایا اور اس میں تمہارے لئے رستے رکھے تاکہ تم راہ پاؤ

۱۴ والارض مدد نھا والقینا فیہا سراً واسبغنا فیہا من کل زوج کھینچ

اور ہم نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پیارا ڈال دیئے اور اس میں ہر قسم کی بار دلق چیز اگائی

۱۵ تبصیرة و ذکرئی لکل عبد منیب

تمہیں اپنی قدرت دکھائے اور ہر ایک رجوع کرنے والے بندے کی نصیحت کے لئے

۱۶ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکیبھا وکلوا من رزقہ

وہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے بس میں کر دیا سو تم اس کی راہوں میں چلو اور اس کی رسی ہوئی

والیہ الشور

روزئی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔

۱۷ واللہ جعل لکم الارض بساطا لیسئلکموا منہا سبلاً فحاجا

اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس میں کشادہ راہیں چلو

۱۸ ألم یجعل الارض کفانا ۲۶ احمیاء وامواتا ۲۷ وجعلنا فیہا سبلاً لیسئلکم

کیا ہم نے زمین کو سیٹھے وال نہیں بنایا۔ زندوں اور مردوں کو؟ اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ

واسقینا کرماء شراتا

رکھے اور تمہیں پیاس بجھانے والا پانی پلایا۔

۱۹ ألم یجعل الارض معاداً

یا ہم نے زمین کو پھونانا نہیں بنایا

۲۰ والی الارض کیف سطحت

اور کیا (انہوں نے) زمین کی طرف (نہیں دیکھا) کہ وہ کس طرح پھیلائی گئی ہے

۲۱ ولقد مکنکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معایش قلیلاً ما تشکرون

اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے گزاران کے سامان پیدا کئے تمہیں ہی کم شکر کرتے رہو

۲۲ اللہ الذی جعل لکم الارض قراراً والسماء بناءً وصورکم فاحسن صورکم

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تراز گاہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی پھر تمہاری صورتیں

وسرزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فقیارک اللہ رب العلمین

یعنی بنائیں اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی دی۔ اللہ ہے تمہارا پروردگار سو برکت والا ہے اللہ چنان کا پروردگار

۵۔ استدلال زمین کے
فائدے

۱۹ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ لِيَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جَاه ۝

اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا۔ تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو

۲۰ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝

اور زمین جو ہے اس کو اس نے لوگوں کے (نفع کے) لئے رکھا ہے اس میں میوہ ہے اور خوشے والی

۲۱ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝

کھجوریں۔ اور حبس والا غلہ اور خوشبو دار پھول۔

۱۵ ۲۵ ۲۴ ۲۷ دیکھو عنوان صدر

۲۲ دیکھو استدلال رات دن کے اول بل سے (عدد ۱۷)

۲۳ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۝

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا

۲۴ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۝

اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے (ایک) یہ ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔

۲۵ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِ كُمْ وَالْوَابِئِ كُمْ ۝

اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور رنگتوں کا اختلاف

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝

ہے بے شک اس میں سائے جان کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں

۲۶ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۝ وَعَسَوَ أَنْ تَنْصُرُوا لَكُمْ

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو گھیت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں سو تمہیں ابھی صورتیں

وَسَرَّزَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۝ ذَٰلِكُمْ بِرَبِّكُمْ ۝ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

دیں۔ اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی دی۔ یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار سو بڑکت والا ہے اللہ سائے تمہان کا پروردگار

۲۷ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۝ وَعَسَوَ أَنْ تَنْصُرُوا لَكُمْ وَالْبَيْتِ الْمُبِينِ ۝

اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں سو تمہیں ابھی صورتیں دیں اور (آخر) اسی کی طرف رجوع

۲۸ فَأَطْرَاقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۝ وَمِنَ الْأَنْعَامِ

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور موشیوں میں سے بھی

أَزْوَاجًا ۝ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۝ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

جوڑے بنائے اسی میں تم کو پھیلاتا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے

۲۹ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۝ وَهُوَ عَلَى

اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو ہا نور ان میں پھیلائے ہیں اور وہ

۱- استدلال پیدائش آسمان
زمین اور اندھیرا جاتے سے

۲- استدلال آسمان زمین
کے معلق ہونے سے

۳- استدلال پیدائش آسمان
زمین اور بولیوں اور رنگتوں
کے اختلاف سے

۴- استدلال آسمان زمین
کی پیدائش اور انسان
کی صورتوں سے

جَمَعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝

ان کے جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔

۹۶ فَالَّذِي أَصْبَحُ بِهِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

سبح (کنیو) کا پھاڑنے والا اور اُس نے رات کو راحت اور چاند کو گرد گھونٹنے والا بنایا۔ یہ انداز ہے

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ

غالب جاتے والے کا اور وہ ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

ان سے راہ پاؤں تک پہنچانے اور لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں تفصیل سے (اپنی قدرت کی) نشانیاں بیان کریں

۹۷ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ

وہ ہے جس نے سورج کو (راہیہ) روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ اور چاند کے لئے منزلیں ٹھہرائیں تاکہ تم

السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

اُس سے برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کرو اللہ نے اسکو بغیر کس مسنت کے پیدا نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کے

يَعْلَمُونَ ۝

لئے جو علم رکھتے ہیں تفصیل سے (اپنی قدرت کی) نشانیاں بیان کرتا ہے

۹۸ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

اور وہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا (پارہ اور سورج) ہر ایک ایک گھیرے میں تیرے ہیں

۹۹ وَأَيُّهُ لَمَسَّ اللَّيْلُ يَسْجُدُ مِنْهُ النُّهَارُ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ

اور ایک نشانی ان کے لئے رات ہے کہ ہم اُس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی دم وہ اندھیرے میں جاتے ہیں

تَجْرِي لِمْسْتَقَرِّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالشَّمْسُ قَدَرَهُ مَنَازِلَ

اور سورج اپنی قرار گاہ پر چلتا ہے یہ ٹھہرا یا ہوا ہے غالب جاتے والے کا۔ اور (را) چاند اس کے لئے ہم نے

حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

منزلیں منفر کردی ہیں بیان تک کہ وہ (گھومتے گھومتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ٹوٹ آتا ہے۔ نہ سورج ہی سے یہ

وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات ہی دن سے لگے بڑھنے والی ہے اور سب ستارے ایک ایک گھیرے میں تیرے ہیں

۱۰۰ وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

اور اُس کی (قدرت کی) نشانوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اللہ کو

وَتَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رَآيَاهُنَّ تَعْبُدُونَ ۝

سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔

۱۱۔ استدلال چاند۔ سورج

ستاروں اور دن کے فائدے

۵۱ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَانٍ ۝

سورج اور چاند گردش میں ہیں۔

۱۶ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝

اور اس نے چاند کو ان آسمانوں میں نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا

۱۷ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝

اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔

۵۲ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْجُرَاتٍ يَا مَعْرُوفُ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا جو اسکے حکم کے تابع ہیں خبردار ہو جاؤ اسی کا پیدا کرنا اور حکم کرنا بڑا بڑا ہے اللہ جہاں کا پروردگار

۱۲ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِّعِبَادِهِ لِيَجْزِيََ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِّغُوا

اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کیا۔ ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چلتا ہے وہ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ

سَرَاحًا تَوْفِيحًا ۝

تم اپنے پروردگار کی عطاات کا یقین کرو

۱۳ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَارِبَيْنِ ۝

اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ دونوں گردش میں ہیں۔

۱۴ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْجُرَاتٍ يَا مَعْرُوفُ إِنَّ فِي

اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ اور سب شے اس کے حکم سے مسخر ہیں بے شک

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اس میں ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں۔

۵۳ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِّعِبَادِهِ لِيَجْزِيََ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چلتا ہے۔ سن لو کہ وہی غالب ہے بخشنے والا

۱۵ وَالْفُلُكِ الَّتِي تُجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

اور کشتیوں میں (نشان ہے) جو سمندر میں لوگوں کے نفع کے لئے چلتی ہے۔

۱۶ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُكَ لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْآسْمَاءَ

اور تمہارے لئے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور تمہارے لئے ندیوں کو مسخر کیا۔

۱۷ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۝

(اے مخالف) کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں اور کشتیوں کو جو اسکے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں تمہارے لئے مسخر کیا۔

۱۸ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِيَجْرِيَ فِي الْفُلُكِ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۝ وَلِيَتَدَخَّلُوا مِنْ قَضَائِكُمْ فَتَشْكُرُونَ ۝

اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لئے مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تمہارا قضا فیصلہ ہو جائے اور تم شکر کرو

۱- استدلال چاند-سورج اور ستاروں کے مسخر کرنے سے۔

۲- استدلال کشتیوں اور دریاؤں کے مسخر کرنے سے۔

۳۳- استدلال رات دن کے
سفر کرنے سے

۳۳ وَ تَخْرَجُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَ أَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَسْأَلٍ تَمُودُونَ وَإِنْ تَعْدُوا
اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو سفر کیا۔ اور ہر چیز جو تم نے اس سے مانگی نہیں دی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو
نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهُمَا وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝
ان کو جن نہ سکو بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکر ہے۔

۳۵- استدلال تمام چیزوں کے
سفر کرنے سے

۳۴ وَ تَخْرَجُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ
اور تمہارے لئے رات اور دن کو سفر کیا

۳۵ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْرِجُكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ ۚ
(اے غالب) کیا تم نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ نے اُن تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں اور کشتیوں کو جو اسکے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں تمہارے
۳۶ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْرِجُكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
کیا تم نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارا سفر کر دیا اور تم پر اپنی
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِمَّنَّ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
نعمتیں ظاہر میں اور باطن میں کمال کو پہنچا دیں اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے ہاں سے میں بغیر علم بغیر ہدایت
كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝
اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے۔

۳۷ وَ تَخْرَجُكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اُس سب کو اپنی طرف سے تمہارا سفر کر دیا۔ بے شک اس
يَتَفَكَّرُونَ ۝
میں اُن لوگوں کے لئے جو سوچتے ہیں نشانیاں ہیں۔

۳۹- استدلال رات اور دن کے
گھٹنے بڑھنے سے

۳۸ يَكُونُ الرُّجُلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ الرُّجُلُ عَلَى اللَّيْلِ
رومات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔

۳۹ يَوْمَ لِيْلِ فِي النَّهَارِ وَيَوْمَ لِيْلِ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ
رومات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو سینوں میں چھپا ہے

۴۱- استدلال رات دن کے
اول بدل سے

۴۰ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلكِ الَّتِي تَجْرِي
بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اول بدل میں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے نفع
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
کے لئے چلتی ہیں اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اُس سے زمین کو اُس کے مرے پیچھے زندہ
مَوْتَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
کیا اور آسمانوں اور زمین کے درمیان ہر قسم کے ہاؤروں کو پھیلا دیا اور ہوا اُلک کے باہر سے اُور پھرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور

وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

۱۸۹ زمین کے درمیان سبز ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں
 ۱۸۹ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ

۱۹۰ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اول بدل میں ان عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں
 ۱۹۰ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ

جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر (لیٹے) یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور
 وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۙ بَسْمًاۙ نَّكَ فَمِنَّا عَذَابَ النَّاسِۙ

کہتے ہیں) کہنے ہمارے پروردگار تو نے یہ کارخانہ بقول پیدا نہیں کیا تو (ان سے) پاک ہے تو تو ہیں آگ کے عذاب سے بچا
 ۱۹۰ اِنَّ فِي لُحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لآيٰتٍ لِّقَوْمٍ

بے شک رات دن کے اول بدل میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے۔ اس میں ان لوگوں
 يَعْقِلُونَ ۝

کے لئے جو (گناہ سے) بچتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں

۱۹۱ وَ لَهُ اٰخِثِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

اور اسی کا کام رات دن کا اول بدل ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟

۱۹۱ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَۙ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

ردلات اور دن کا اول بدل کرتا رہتا ہے بیشک اس میں آنکھوں والوں کے لئے عبرت ہے

۱۹۲ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَۙ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝

اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے جانے والا بنایا اسکے لئے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر گزار رہنا چاہے

۱۹۳ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُۙ بِمَآ تَنسَخُ مِنْهُ النَّهَارَۙ فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُوْنَ ۝

اور ایک نشان ان کے لئے رات ہے ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی ہم وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں

۱۹۴ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِۙ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍۙ فَاَحْيَاۤ بِهٖ الْاَرْضَۙ

اور رات دن کے اول بدل میں اور جو اللہ نے آسمان سے رزق (کا ذریعہ) اتارا پھر اس سے زمین کو اس کے مرے

بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرَّزْقِۙ اِنَّ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝

پچھے زلفہ کیا اس میں۔ اور ہواؤں کے اور ہر پھرانے میں ان لوگوں کیلئے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں (لئے نبی) یہ اللہ کی

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ نَبَاۤىٕ حَدِيْثٍۙ بَعْدَ اللّٰهِۙ وَاٰيٰتِهٖۙ يَوْمَۙ مُنَوْنٍ ۝

کتیں ہیں جو ہم حق حق کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ اور اسکی آیتوں کے بعد ان کو کسی بات پر ایمان لائیں گے؟

۱۹۵ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِۙ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًاۙ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بنایا دکھانے والا۔ بے شک اس میں

لَا يَتْلُقُونَهُ يَوْمَئِذٍ وَيَسْمَعُونَ ۝

ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں

۶۶ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝

اور وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پردہ پوش اور نیند کو آرام اور دن کو اٹھنے کے لئے بنایا

۸۶ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوْا فِيْهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اُس میں اذم کر س اور دن بنایا دکھانے والا ہے شک

لَا يَتْلُقُونَهُ يَوْمَئِذٍ وَيَسْمَعُونَ ۝

اس میں ان لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں

۲۳ وَمِنْ اٰيٰتِنَا مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِنَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

اور اس کی (قدرت کی) نشانیاں ہیں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور تمہارا اُس کے فضل (رزقی) کو تلاش کرنا

لَا يَتْلُقُونَهُ يَوْمَئِذٍ وَيَسْمَعُونَ ۝

ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں قدرت کی نشانیاں ہیں۔

۶۱ اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اُس میں آرام کرو۔ اور دن بنایا دکھانے والا ہے شک اللہ لوگوں پر

عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

فضل کرنے والا ہے۔ لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے

۹ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۙ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ

اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا۔ اور رات کو ہم نے پردہ پوش بنایا۔ اور دن کو ہم نے معاش (کا ذریعہ) بنایا

۲۵ اَلَمْ تَرَ اِلٰى سَرِيْكَ كَيْفَ مَدَّ الْوَسْطٰى وَكُوْشًا لِّجَعَلَهَا سَاكِنًا ۙ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ

(مے) غالب کیا تو نے اپنے پردہ کو کی طرف نظر نہیں کیا کہ اُس نے کس طرح سایہ کو پھیلا دیا اور اگر وہ چاہتا تو ضرور اُس کو

عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۙ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا تَسْوِيْرًا ۝

ایک ہی جگہ تمہارا کھتا پھر ہم نے سورج کو اُس پر دلیل ٹھہرایا پھر ہم نے اُس کو اپنی طرف تھوڑا تھوڑا سمیٹا

۱۲۲ دیکھو استدلال رات دن کے اول بدل سے (عدد - ۱۷)

۱۹- استدلال سایہ کی گھٹنے

بڑھنے سے

۲۰- استدلال بارش سے اُس

سے زمین کو زندہ کرنے اور

اُس کی مختلف پیداوار سے

۲۲ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اِلَآءَ اَرْضٍ فِرَآسًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءٍ ۙ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ

وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو بچیت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اُس کے ذریعے تمہارے

مِنَ الشَّمْرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اٰدَا ۙ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

کھانے کے لئے (زمین سے) پھل نکالے تو تم ہاں بوجھ کر اللہ کے لئے شریک نہ ٹھہراؤ

۴۳ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اُس کے ذریعے ہر قسم کی روئیدگی (زمین سے) نکالی پھر
خَضِرًا أَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا مَاتَرًا كِبَاءً وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
ہم نے اُس سے (بلبلہانا) بہتر نکالا اُس بہتر سے ہم تہہ برتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور میں سے لکے کو بھی
مِنَ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره
(زمین کی پھل) جھکے ہوئے خوشے اور انگوڑوں کے باغ اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے اور مختلف جب اُس پر پھل لگے تو تم اُس

إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

کے پھل اور اسکے کئے کی پھل نکلیں۔ بیشک اِس میں اُن لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں۔

۴۴ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

اور وہی ہے جس نے ٹیوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے باغ اور کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کیں جن کے
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُنْتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُنْتَشَابِهٍ طَلْعُهَا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
مزنے کھانے میں مختلف ہیں اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے اور مختلف پیدا کئے تم اُس کے پھل میں سے جب اُس پر

وَأَلْوَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ○

پھل لگے کھاؤ اور اُس کے کاٹنے کے دن اُس کا حق (محتاجوں کو) دو اور فضول خرچی نہ کرو بیشک وہ بیجا خرچ کرے گا اور لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔

۴۵ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ طَاحِنًا إِذَا قُلَّتِ السَّحَابُ تَنْفَالًا

اور وہ ہے جو اپنی رحمت (بارش) کے لئے آئے (لوگوں کو) خوشخبری دینے والی ہوا میں بھیجتا ہے یہاں تک کہ سب وہ بجاری

سُقْنَاهُ لِيَكْدِرَ يُنْتِ فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ

اول اٹھاتی ہیں تو ہم اُس کو ایک مردہ بستی بکھڑا ہانکے جاتے ہیں پھر ہم اُس سے پانی اتارتے ہیں پھر اُس کے ذریعے ہم

يُخْرِجُ السَّحَابَ لِيُكْدِرَ تَذَكَّرُونَ ○ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ

ہر قسم کے پھل (زمین سے) نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے شاید اِس سے تم نصیحت پاؤ اور جو پاکیزہ بستی ہے اِسکی

وَالَّذِي حَبَّتْ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَسْكَالًا كَذَلِكَ نَعْرِفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ○

کھیتی اُسکے پروردگار کے حکم سے (زمین سے) نکلتی ہے اور جو نہیں ہے اُس سے تھوڑا ہی نکلتا ہے یوں ہم اُن لوگوں کے لئے جو شکر گزار ہیں

۴۶ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْتَشَى السَّبِيلَ اللَّهُمَّ إِنَّ فِي

اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دو قسم کے جوڑے پیدا کرے وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے بیشک اِس میں اُن لوگوں کیلئے جو

ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مَّجْجُورَاتٍ وَجَنَّاتٍ

سوچتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تعلقے ہیں اور انگوڑوں کے باغ

مِنَ أَعْنَابٍ وَزَّرْعٍ وَخَيْلٍ صِوَانٍ وَغَيْرِ صِوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ

اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں دو شاخی اُن کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے۔

یہ پھر کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں

تُفْضَلُ بَعْضُهُمَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر مزے میں برعادتے ہیں بیشک اس میں ان لوگوں کیلئے جو سمجھتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں
 ۱۳۷ اللہ الذی خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج من به من الشجرات
 ایشہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے
 سارے کھانے

پل (زمین سے) نکالے

۱۳۸ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ نُجِئُكُمْ مَاءً مَهِينًا ۝

وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا اس سے تمہارا (پینا) پینا ہے اور اسی سے درخت میں جن میں تم
 لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية
 اپنے سریشی (جراتے ہو۔ وہ تمہارے لئے اُس (پل) کے ذریعے کہیسی اور زمینوں اور کھجوریں اور انگوڑا اور ہر قسم کے
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

پل اگاتا ہے ہے شک اس میں ان لوگوں کے لئے جو سوچتے ہیں (قدرت کی) نشانی ہے۔

۱۳۹ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلَحِيحًا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً
 اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو اُس کے مرے پیچھے زندہ کیا ہے شک اس میں
 لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

ان لوگوں کے لئے جو حق بات کو سنتے ہیں (قدرت کی) ایک نشانی ہے۔

۱۴۰ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لئے اُس میں راہیں چلائیں اور آسمان سے پانی اتارا پھر
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ بَدَدًا حَلَوًّا وَاسْرَعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 ہم نے اُس کے ذریعے مختلف قسم کی روئیدگی (زمین سے) نکالی۔ اور اپنے جانوروں کو چراؤ بے شک
 الْآيَاتِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

اس میں عقل والوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں

۱۴۱ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
 کیا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے ہیں اس بات پر نظر نہیں ڈالی کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے
 مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

تو ہم نے ان دونوں کو جدا کیا اور پانی سے ہم نے ہر ایک زندہ چیز کو پیدا کیا تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟

۱۴۲ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَخَّبْنَا بِهِ الْأَرْضَ تُخْرِجُ مِنْهَا حَبًا حَلِيمًا ۝

کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا کہ اُس سے زمین نبرد جاتی ہے بیشک اللہ باریک بین خبردار ہے

۱۸
۲۳ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ

اور اُس نے ایک اندازہ پر آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اُس کو زمین میں بٹھرایا اور بے شک ہم اُس کے (زمین سے) لیجانے لگے اور اُن سے ۱۹
۲۴ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ تَحْتِهَا نَاجِيَاتٌ وَعُيُنٌ وَأَعْنَابٌ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهٌ وَ

پرتادریں پھر ہم نے اس سے تھکے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے اُس میں تھکے لئے کثیرۃ و منہا تا کلون ۲۰
۲۵ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ بیت سے میوے ہیں اور اُن ہی سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ اپنے وَصَبِغٌ لِّلَّذِينَ كَلَبُوا ۝

ساتھ کھانے والوں کے لئے پکنائی سان لئے ہوئے اٹکے۔

۲۸
۲۶ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اور وہ (اللہ) وہ ہے جو اپنی رحمت (بارش) کے آگے آگے خوشخبری دینے والی ہوا بھیجتا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے طہور مراء ۲۹
۲۷ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً آمِنًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سميعٌ كثيرٌ

پاک پانی اتارا تاکہ ہم اُس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کر سکیں اور جو چاہتے ہیں ہم نے پیدا کئے ہیں انہیں اور بیت سے آدمیوں ۳۰
۲۸ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِم مِّنْ قَبْلِهِ لِيَشْكُرُوا أَوَّلَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

کہ جہاں ہم نے ان کے درمیان میں پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت لیں سو اکثر آدمیوں نے سواگتاً ٹھکری کے اور بیت ۳۱
۲۹ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کیا اُنہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اُس میں کتنی ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں بے شک اس میں قدرت لآیۃ ۳۲
۳۰ وَمَا كَانَ آلُكَرْهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

کی نشانی ہے اور اُن میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک تیرا پروردگار وہی غالب بہر بان ہے۔ ۳۱
۳۱ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخْرِجُ الْأَرْضِ بَعْدَ وَهْمِهَا ۗ

سو تو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اُس کے مرے پیچھے زندہ کرتا ہے۔

۳۲
۳۲ دیکھو استدلال۔ بادل۔ اولوں۔ بجلی اور گرج وغیرہ سے (عدد ۲۵)

۳۳
۳۳ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین میں ہر قسم کی نفیس چیز اگائی ۳۴
۳۴ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم بحر زمین کی پانی کو ہانکے جلتے ہیں پھر ہم اُس کے ذریعے (زمین سے) کھیتی ۳۵
۳۵ أَنْعَامَهُمْ وَالنَّفْسُ أَمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝

نکالتے ہیں اُس سے اُن کے سریشی اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟

۲۳ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثْبِتُ سُحَابًا فَنَسُقُنَّهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ

اور اللہ وہ ہے جو ہوا میں بھیجتا ہے۔ پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے ایک مردہ بستی کی طرف لائے جاتے
بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ التَّشْوِيرُ ۝

پھر ہم اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کرتے ہیں اسی طرح قیامت کو اٹھانے۔

۲۴ ۲۳ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَأَنْزَلَ

کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل زمین سے نکلنے
مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَّا بِيَابٍ سُودَاتٍ ۝

اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں (یعنی درجوں) کے سفید اور سرخ ٹکڑے ہیں اور بعض گالے بھونگ ہیں۔

۲۵ ۲۴ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا لَحْيَابًا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝

اور ایک نشانی ان کے لئے مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے دانے دانے لگائے سو اسی سے

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَمِنْهَا يُكْرَأُونَ

وہ جگہ ہے اور اس میں ہم نے کھجور والی اور انگوروں کے باغ پیدا کئے اور اس میں ہم نے چشمے جاری کئے تاکہ وہ

مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ کام ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا۔ تو وہ شکر نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ جس نے

كُلِّهَا وَمَا تَشْتَرُ الْأَرْضُ وَمِنَ النَّفْسِ الْمَعْتَبَةِ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

ہر چیز کے جوڑے پیدا کئے اس (درندگی) سے بھی جس کو زمین نکالتی ہے اور انکی جانوں سے بھی اور ان چیزوں کے

۲۶ ۲۵ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ

کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کو زمین میں چشموں میں چلا یا پھر وہ اس

زُرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُهُمْ فِيهَا مُمْسِرًا ثُمَّ يُجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي

سے مختلف رنگوں کی کھیتی (زمین سے) نکالتا ہے۔ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ اور تو اس کو زرد دیکھتا ہے۔ پھر

ذَلِكَ لِنُذَكِّرَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

اس کو جو راہ چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقلمندوں کے لئے نصیحت ہے۔

۲۷ ۲۶ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنذِرُهُ ۝

وہ (اللہ) وہ ہے جو تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی قبول

۲۸ ۲۷ وَأَخْيَلْنَا لَيْلٍ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

اور رات دن کے اول بدل میں اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی اتاری پھر اس سے زمین کو اس کے

بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

میں پیچھے زندہ کیا اور ہواؤں کے ادھر سے ادھر پھرنے میں ان لوگوں کیلئے جو عقل رکھتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں

وہ (اللہ) وہ ہے جو تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی قبول

۱۷
۵۷
إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِنَا قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرے تیجے زندہ کرتا ہے بیشک ہم نے تمہارے لئے (اپنی قدرت کی) نشانیاں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو

۱۸
۷۸
وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَلْجًا ۝ ۱۸ لَخُرُوجِ رَبِّهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝

اور ہم نے بھونے والی بدیہوں سے بکثرت گرنے والا پانی اتارا۔ تاکہ ہم اس سے دانے اور روئیدگی (زمین سے)

۱۹
۷۸
وَجَنَّتِ الْقَافَا ۝

نکالیں اور گھن کے باغ

۲۰
۸۰
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ ۲۰ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ۲۰ ثُمَّ

سو انسان کو دیکھو کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے اوپر سے زور سے پانی ڈالا۔ پھر

شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ ۲۰ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ ۲۰ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝

ہم نے زمین کو ایک طرح سے بھاڑ دیا۔ پھر ہم نے اس میں دانے اور انگور اور ترکاریاں۔

۲۱
۸۰
وَسَرَسِوْنَا وَنَخْلًا ۝ ۲۱ وَحَدَائِقَ غَلْبًا ۝ ۲۱ وَفَاكِهَاتٍ وَأَبْنَا ۝

اور زیتون اور کھجوریں۔ اور گھن کے باغ۔ اور میوے اور دودھ

۲۲
۸۸
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے نفع کے لئے

۲۳
۹۷
إِنَّ اللَّهَ فَرَّقَ الْقُحْبَ وَالنَّوْمَىٰ يُجْرِبُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ

بے شک اللہ دانے اور گھن کا چیرنے والا ہے۔ وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ اور مردے کو زندے

مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَإِنِّي تَوَفَّكُونَ ۝

سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے پھر تم کہاں سے پھیر دے جاتے ہو

۲۴
۵۷
أَفَرَأَيْتُمْ مَا فَخَّرْتُون ۝ ۲۴ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ۝ ۲۴ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝

بھلا بتلاؤ تو تم جو کہتی کرتے ہو۔ تم اس کو پوتے ہو یا ہم بولنے والے ہیں؟

۲۵
۵۷
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝ ۲۵ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ۝

اگر ہم چاہیں تو ہم اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کہ بے شک ہم پر ڈنڈ ڈالا گیا

۲۶
۵۷
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ ۲۶ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝

نہیں بلکہ ہم محروم کئے گئے۔ بھلا بتلاؤ تو وہ پانی جسے تم پیتے ہو۔

۲۷
۵۷
أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۝ ۲۷ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ

تم نے اسے بادل سے اتارا ہے۔ یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا

أَجَا جًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝

کر دیں تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟

۲۱- استدلال گھن اور دانے کے چیرنے سے

۲۲- استدلال کہتی سے

۲۳- استدلال پانی سے

۲۴- استدلال رس بھری
ہواؤں اور بارش سے

۲۲
وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاجِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا
أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

اور ہم نے (پانی سے) بلبل ہوائیں بھیجیں۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ پانی ہم نے تمہیں پلایا اور تم
اس کا ذخیرہ جمع کرنے والے نہیں ہو۔

۲۵
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۝ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اور وہ (اللہ) وہ ہے جو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے بشارت لینے والی ہوائیں بھیجتا ہے اور ہم نے آسمان سے
طھوڑا ۝ لکھی ہے یہ بلدہ مہبتا و نسقیہ مما خلقنا انعاما وانا سعي
پاک پانی اتارا تاکہ ہم اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کریں اور جو جو پائے ہم نے پیدا کئے ہیں انہیں اور
کثیرا ۝ ولقد صرفناه بينهم ليدكرُوا فآبى اكثر الناس الا كفورا ۝

بہت سے آدمیوں کو وہ پالی پلائی اور بیشک ہم نے اس (قرآن) کو ان کے درمیان کی طرح بیان کیا تاکہ نصرت کریں
۲۶
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتُنَجِّيَنَّ

مہاس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت لینے والی ہوائیں بھیجتا ہے اور اس لئے بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں نعت
الْفَلَكَ بِأَمْرِهِمْ وَلِتَتَّعُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

لا نالتمہ کما علموہ تاکہ اُس کے حکم سے کشتیاں ملیں اور تاکہ تم اس کا فضل (روزی) کا شکر کرو تاکہ تم شکر گزار ہو
۲۷
اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَثِيرٌ مَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ

اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے سو وہ باطل اٹھاتی ہیں۔ پھر وہ اُسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا
وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۝ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
ریتا ہے۔ سو اس کو تہرتہ کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتے کہ مینہ اس کے درمیان سے نکلتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنے
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۝ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَإِنْ كَانُوا مِنْ

بندوں میں سے ہے چاہتا ہے۔ پہنچا دیتا ہے تو وہ اسی دم خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اور اگرچہ وہ اس
قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لِمُبْلِسِينَ ۝ فَإِنظُرْ إِلَى آثَارِ

رقت سے پہلے اس سے پیشتر کہ وہ ان پر اتارا جائے۔ پورے نا امید تھے۔ سو تو اللہ کی رحمت کی
رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُبْحَمٌ مُوتى وَهُوَ

نشانیوں کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کرتا ہے۔ بے شک یہ (اللہ) مردوں
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

کازندہ کرنے والا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔

۲۵- استدلال بادل اولیٰ
بکلی اور گرج وغیرہ سے

۲۴- دیکھو استدلال رات دن کے اول بدل سے (عدو ۱۶)

۱۳ ۱۴
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ ۱۳

وہ (خدا) وہ ہے جو ہمیں ڈرانے اور طمع دلانے کیلئے بجلی (کی چمک) دکھاتا ہے اور (پانی سے) جو جبل بادل پیدا کرتا ہے۔
يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۝ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ
اور گرج اسکی تعریف کے ساتھ (اسکی) پانی بیان کرتی ہے اور اس کے ڈر سے فرشتے بھی (اسکی) پانی بیان کرتے ہیں اور وہ گرنیوالی بجلی
بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۝ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ۝

بجرتا ہے۔ اور اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور وہ اللہ کے پاس سے جھگڑتے ہیں اور وہ سخت غذا ہے۔
۲۴ ۲۳
الْمُتَرَانِ اللَّهُ يُرِيهِمْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ
(اسے غالب) کیا نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہنکا تا ہے پھر ان کے درمیان ملاپ پیدا کرتا ہے پھر اسکو تہہ بہہ کرتا ہے پھر تو
يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ ۝ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ

دیکھتا ہے کہ میدان اس کے درمیان سے نکلتا ہے اور آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں ادا کرتا ہے پھر
بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ ۝ يَكَادُ سُنَّابُ رِقَابِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝
انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے پھر لیتا ہے۔ قریب ہے کہ اسکی بجلی کی چمک آنکھوں کو اچکے جانے
وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ
اور اسکی (قدرت کی) نشانیوں میں سے (ایک) یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈرانے اور طمع دلانے کیلئے بجلی (کی چمک) دکھاتا ہے اور آسمان سے

بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝
پانی ادا کرتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے سرے تک زندہ کرتا ہے بیشک اس میں ان لوگوں کیلئے جو عقل سے کام لیتے ہیں (اسکی قدرت کی)
۲۸ ۲۷
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝

اور وہ (اللہ) وہ ہے جو اس کے بعد کہ وہ (بارش سے) ناپسند ہوتے ہیں مینہ ادا کرتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اور وہی کارساز ہے
مقابلہ تعریف

۱۶ ۲ دیکھو عدد - ۱۷

۲۶- استدلال ہواؤں کے اور اُدھر اُدھر گھمانے سے

۵ ۶
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَالْحَيَا بِهِ

اور رات دن کے ادل بدل میں اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے رزق (کا ذریعہ مینہ) اتارا پھر اس نے زمین کو اس کے سرے
الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرَّيْحِ ۝ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

تکھے زندہ کیا اور ہواؤں کے اور اُدھر اُدھر پھرنے میں ان لوگوں کیلئے جو عقل رکھتے ہیں (قدرت کی) نشانیاں ہیں
۳۲ ۳۱
هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَ بِكُمْ

وہ (خدا) وہ ہے جو ہمیں جہل اور دریا میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ انہیں لگا رہتی ہواؤں کے
بِرِّيْحٍ طَبِيبَةٍ ۝ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رَيْحُ الْعَاصِفِ ۝ وَجَاءَهُمْ لَمَوْجٌ مِنْ

ساتھ چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں پر زور کی آندھی اُچھاتی ہے اور یہاں سے انہیں رخ اُگھرتی ہے

۲۷- استدلال دریا میں کشتیوں اور جہازوں کے چلنے سے

۲۲ ۳۰
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أَحْيَا بِهَمِّ دَعَا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِن

اور وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ (سوجوں میں) گھر گئے تو اس وقت وہ اللہ کو خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے پکارتے
لَجِئْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ ۳۰ فَلَمَّا أَحْبَبْتُمْ اِذَا هُمْ
ہیں کہ اللہ اگر تو نے میں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور ہی شکر گزار ہونگے پھر جب وہ انہیں پہا لیتا ہے تو فوراً ہی
يَبْعُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِخَيْرِ الْحَقِّ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بُغِيْكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
وہ ناق زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ لوگو! اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تمہاری سرکشی تمہاری ہی جانوں کے

مَتَاعِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

۱۴ ۱۴
نفسان کیلئے ہے دنیا کی زندگی کا لامدہ اٹھالو پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے سو ہم تمہیں باتیں بتا دیں جو تم (دنیا میں) کیا کرتے
وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ الْبَحْرَ لِنَا كَلْوَامِنَهُ كَمَا طَرِيًّا وَ يُسَخِّرُ جَوْلًا مِنْهُ جَلِيَّةً

اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے سمندر کو (تہا کے) بس میں کیا تاکہ تم اس سے (نکال کر) تازہ گوشت کھاؤ۔ اور اس سے زیور نکالو

تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِیْهِ وَ لَتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

۲۴ ۲۴
جسے تم پہنتے ہو اور لے کر تہا کے (تو اس میں کشتیوں کو رکھتا ہے کہ جانی کو بچا رہی جان جاتی) اس لئے ہی تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی)

رَبِّكُمْ الَّذِي يُرْجِيْ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ
(تو!) تہا کے پروردگار وہ ہے جو تہا کے سمندر میں کشتیاں چلائے تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) تلاش کرو بے شک وہ

رَحِيْمًا ۝ ۳۱ وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضَّرْبُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ فَلَمَّا

تم بد مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو نہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو سب بھولے بسر

تَخْتَضِعْنَ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۚ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝

ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پرے آئے تو تم (اس کی طرف سے) سُنہ پھیر لیتے ہو اور انسان ناشکر ہے

۲۲ ۲۲
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

اور تم ان (ولیشیوں) پر اور کشتیوں پر سوار کے جاتے ہو

۳۱ ۳۱
اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ يَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِنْ اٰيٰتِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ

لئے تہا کے (تو) یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے فضل سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی (قدرت کی) بعض نشانیاں

ذٰلِكَ لَا يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْءٍ رَّشْكُوْرًا ۝

دکھائے بے شک اس میں ہر سا بے شکر گزار کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں

۳۱ ۳۱
وَ اٰيَةٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنَ ۝ ۳۲ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ

اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو (نوح کی) بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اور ان کے

مِنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝
لئے ہم نے اسی کی مانند اور سواریاں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں

۳۲ ۳۲ **وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝** **۳۳** **إِنْ تَيْسَأُ يَسْئَلُ السَّرِيحَ**

اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والی پہاڑوں کی مانند کشتیاں ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا کو بند
فِيظَلُّنَّ سَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝
کے تو وہ اپنی پیڑ پکڑی کی کھڑی رہ جائیں بیشک اس میں ہر ایک صابری شکر گزار کیلئے (اسکی قدرت کی) نشانیاں ہیں

۳۴ ۳۴ **أَوْ يُوقِنُونَ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝**

یا وہ (اگر چاہے) تو ان کشتیوں کو ان بد اعمالیوں کی سزا میں جو انہوں نے کی ہیں تباہ کرے اور بہتوں کو معاف کرے

۲۵ ۲۵ **وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِئُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝**

اور اس کے لئے چلنے والی کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔

۵۳ ۲۵ **وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ**

اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے درسمندر باہم ملائے یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھا نیولا۔ اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَرَجًّا مَّجْمُوعًا ۝
اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑا اور مضبوط پردہ پیدا کر دی ہے۔

۲۸- استدلال دو دریاؤں کے باہم چلنے اور ایک دوسرے کا پانی نہ ملنے سے

۱۸ ۵۵ **مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝** **۱۹** **بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝**

اس نے دو دریاؤں کو ملایا اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ملتے ہیں انکے درمیان ایک آڑ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے

۲۱ ۵۵ **يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْبُوعُ لَوٌ وَالْمَرْجَانُ ۝**

ان دونوں سے موتی اور سونگے نکلتے ہیں

۲۹- استدلال دریا سے موتی اور مونگا نکالنے سے

۳۵ ۵۵ **يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۝**

(لے جو آوار آدمیوں) اگر تم آسمان کی طرف چڑھنا چاہو تو تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے اور تم بدلہ نہ لے سکو

۳۰- استدلال شہاب ثنابق سے

۶ ۵۸ **وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا ۝** **۱۹** **وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝**

اور (اسد نے) پہاڑوں کو بیخ بنایا اور (کیا وہ) پہاڑوں کی طرف (نہیں دیکھتے؟) کہ وہ کیسے گاڑے گئے ہیں

۳۱- استدلال پہاڑوں سے

۷ ۵۶ **أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝** **۱۹** **عِزَّاتٌ لِّمَنْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ لِمَنْ**

بھلا تم نے اس آگ کو بھی دیکھا جو تم جلاتے ہو۔ تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم (اس کے) پیدا کرنے

۳۲- استدلال آگ کے درخت سے

۱۶ ۵۶ **الْمُنْشِئُونَ ۝** **۱۹** **لِمَنْ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَمْتَهَا لِّلْمُتَّقِينَ ۝**

والے ہیں ہم نے اس کو مسافروں کے لئے نصیحت اور نادمہ بنایا ہے۔

۱۶۴ ۲ **وَكَيْفَ اسْتَدْلَال رَاتِ دِنِ كِے اَدِل بَدَلِ سِے (عَدِو-۱۷)**

۳۳- استدلال زمین میں جانداروں کے پھیلانے سے

۳۵ **وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝**

اور تمہاری پیدائش میں اور جو جاندار وہ (زمین میں) پھیلاتا ہے انیس ان لوگوں کیلئے جو یقین لائے ہیں (اسکی قدرت کی) نشانیاں ہیں

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

اور ان کی اونٹوں اور ان کی پشموں اور ان کے بالوں سے ایک مدت تک کیلئے (تمہارے) اسباب اور نالہ سے کی چیزیں
 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ

۳۱

بنائیں۔ اور اللہ نے منجلا بنی پیدائش کی ہوئی چیزوں کے تمہارے لئے سائے پیدا کئے اور تمہارے لئے پہاڑوں سے چھینے
 سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَرْدَ وَالْجِبَالَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْلَمُونَ

ہیں۔ یوں وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اطاعت کرو۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً مَّا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

۳۲

اور بے شک تمہارے لئے جو پانیوں میں عبرت کی جگہ ہے کہ ہم تمہیں اس چیز میں سے جو انکے پیٹوں میں ہے (دودھ)
 كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

چلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لئے اور بہت سے نفعے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي

۳۳

اور اللہ نے ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو کوئی ان میں وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ اور کوئی ان میں وہ
 عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے اور کوئی ان میں وہ ہے جو چار پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بیشک ہر چیز پر قادر ہے
 وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

۳۴

اور آدمیوں اور جانوروں اور چار پاؤں میں سے جن کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح (پیدا کئے) بات یہ ہے کہ اللہ
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

سے تو اس کے بندوں میں سے صرف عالم ہی ڈرتے ہیں بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا

أُولَئِكَ يَرْوُونَ أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا جَارٌّ لَهُمْ لَهَا مَا يَكُونُونَ

۳۵

کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کیلئے منجلا ان چیزوں کے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائیں جو پائے پیدا کئے کہ وہ ان
 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

۳۶

کے مالک بنے ہوئے ہیں اور انہیں ہم نے ان کا مطیع کر دیا کہ بعض ان میں سے ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض
 وَمَشَارِبٌ أَفْلا يَشْكُرُونَ

کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لئے بہت سے نفعے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟

وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ حَمْلِيَةً أَرْوَاحًا

۳۷

اور اللہ ہی نے تمہارے جو پانیوں میں سے آٹھ جوڑے اتارے

۱۱۹ اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ لِيَتَّكِبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

اور وہ ہے جس نے تمہارے لئے جو پائے پیدا کئے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہو
وَلَكُمْ مِنْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ
اور تمہارے لئے ان میں اور بھی نفع ہے اور (یہ اسلئے ہے) تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دل کی مراد کو پہنچو۔ اور ان پر اور کشتیوں
تَحْمَلُونَ ۝ ۱۲۰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فِي مَا تَكْسِبُونَ ۝

پر تم سوار کئے جاتے ہو۔ اور وہ تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیوں دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ کی کونسی نشانیوں کا انکار کرنے ہو۔
وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝

اور (اللہ وہ ہے) جس نے تمام قسموں کو پیدا کیا اور تمہارے لئے کشتیوں اور جو پائیوں سے وہ چیز پیدا کر دی جس پر تم سوار ہوتے ہو
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ تَدْعُوا نِعْمَةً رَّبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا
تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سوار ہو پھر جب تم ان پر سوار ہو جاؤ اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے
سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ ۱۲۱ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝

اس کے ہمارے بس میں کیا اور ہم اس کو بس میں کونے والے نہ تھے اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِالرَّحْمٰنِ
کیا انہوں نے اپنے اور ان کی طرف پرندوں کو نہیں دیکھا کہ بند کھوٹے ہوئے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں۔ انہیں رحمن
إِن تَدْعُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبَدِّئًا ۝

کے سوا کون تھا ہے ہونے نہیں ہے۔ بے شک وہ ہر شے کا دیکھنے والا ہے۔

۱۲۲ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آلِ إِبْرٰهٖمَ كَيْفَ خَلَقْتُمْ

تو کیا وہ ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا (محب اور نافع) پیدا کیا گیا ہے ؟

۱۱۱ وَايَهُوَ اسْتِدْلَالِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ بَدَنِهِ ۝ ۱۱۲ أَسْ كَفَخْتُمْ كَمَا لَاتِ الْأَنْعَامِ وَالْحَالَتُونَ سَعَىٰ (عدد ۵)

۳۵- استمال ہر شے کے
جوڑا جوڑا پیدا کرنے سے

۱۲۳ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِةً أَزْوَاجًا ۝

اور اس نے تمہارے لئے جو پائیوں میں سے آٹھ جوڑے اتارے

۱۲۴ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝

اور (اللہ وہ ہے) جس نے تمام قسمیں پیدا کیں اور تمہارے لئے کشتیوں اور جو پائیوں سے وہ چیز بنائی جس پر تم سوار ہوتے ہو

۱۲۵ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو

۱۲۶ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝

اور تمہیں مرد و مادہ پیدا کیا

۱۔ استلال انسان کی
پیدائش اس کے خاص
کلمات اور اس کی مختلف
حالتوں سے

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ

وہ (اللہ) وہ ہے جو رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَنَا
لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا
وَبَتَّ مِنْهَا إِنثًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو (زمین) پر پھیلا دیا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَنْجَلَ مَسْمًى عِنْدَ لُثْمٍ ۚ

وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہیں (گیلی) مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری (میعاد مقرر کی اور ایک میعاد اس کے ہاں
أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۚ

مقرر ہے پھر بھی تم (اس میعاد میں) شک کرتے ہو۔

۹۹
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا قَدْ فَضَّلْنَا
اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر (تمہارے لئے) ایک جگہ ٹھہرنے کی ہے اور ایک
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ ۚ

جگہ سوچنے جانے کی۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں (اپنی قدرت کی) نشانیاں تفصیل سے بیان
۱۸۹
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا
وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف آرام پکڑے
تَغَشَّيْهَا حَمَلًا خَفِيْفًا فَهَرَّتْ بِهِ ۚ

پھر جب اس مرد نے اس عورت کو ڈنپ لیا تو وہ ایک جگہ بوجھ سے بوجھل ہو گئی اور اسکو لے کر چلی پھری
۲۷
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۚ ۲۸ وَالْحَبَّ أَنْ خَلَقْنَاهُ
اور بے شک ہم نے انسان کو بھتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے بنی تھی پیدا کیا اور جو جن ہیں
مِنْ قَبْلِ مِنْ قَارِ السَّمُومِ ۚ

انہیں ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا

۴
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَلَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۚ

(اللہ نے) انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو اسی دم وہ کھلا تھا بگڑا ہوا بن گیا۔

۶
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْرِكُ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا

اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں مائے گا اور کوئی تم میں وہ ہے جو ذلیل ترین عمر کی حالت لوٹایا جاتا

يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ

ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے بے شک اللہ علم والا قدرت والا ہے۔

۴۱ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي

اور کسی نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت دی تو جو لوگ فضیلت رکھے وہ اپنی روزی ان روزی

۴۲ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَ

نظروں پر دمانے لئے نہیں بلکہ جن کے اہل کمال ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں

۴۳ حَفْدَةً وَسَرَّزَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَتَى الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی دی تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ کی نعمت کا

۴۴ هُمْ يَكْفُرُونَ ○

انکار کرتے ہیں۔

۴۵ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالنَّجْوَى وَالسَّكِينِ وَالْحَبْرِ وَالسَّوَادِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الرِّزْقَ وَجَعَلْنَا لَهَا جُودًا وَأَغْنَيْنَا

اور جو شک نہیں کہ ہم نے آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور سردی میں (سوریلوں پر) سوار کیا اور پاکیزہ چیزوں

۴۶ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ○

سے انہیں روزی دی جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے بہتوں پر انہیں بزرگی دی

۴۷ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ○

اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں پھر لٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری بار نکالیں گے

۴۸ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ طِينٍ ○ ۴۹ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً

اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اسکو نطفہ کی شکل میں

۵۰ فِي قَرَارٍ مُسْكِينٍ ○ ۵۱ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

ایک مضبوط ٹورنگاہ میں رکھا۔ پھر نطفے کو ہم نے خون منجھ بنایا پھر خون منجھ کو ہم نے گوشت کا لوتھرا بنایا

۵۲ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْوِطْأَانَ عِظْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

پھر گوشت کے لوتھرے کو ہم نے ہڈیاں بنایا۔ پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا پھر ہم نے اس کو ایک اور طرح

۵۳ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ○

کی پیدائش میں پیدا کیا تو برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔

۵۴ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

اور وہ (اللہ) ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اور اسی کی طرف تم لوٹنے کے جاؤ گے

۵۵ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ○

اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا پھر اسکے لئے رشتہ اور سہرا اور تیرا پروردگار قدرت والا ہے

۳۳ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ○

اور اسکی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اسی دم تم بشر ہو گئے کیسے ہوئے ہو

۳۴ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

اور اسکی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے تمہی میں سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان کی طرف آرام کرو

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

اور تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی بے شک اس میں ان لوگوں کیلئے جو سوچتے ہیں (اسکی قدرت کی) نشانیاں میں

۳۵ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ناتواں پیدا کیا پھر ناتوانی کے بعد قوت دی پھر قوت کے بعد (بھری) ناتوانی اور

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ○

بڑھا پایا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔

۳۶ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ○ ثُمَّ

وہ جس نے ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے اچھا بنایا۔ اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی پھر

جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ○

اس کی نسل حقیر پانی کے غلا سے (مٹی) سے بنائی

۳۷ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْسِبُونَ

اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے۔ پھر تمہیں نر و مادہ بنایا اور تمہیں اس کے علم کے ذکون عورت

أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْتَرِفُ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عَمْرِهِ إِلَّا

ما ظہر لہ ہے۔ اور نہ جنتی ہے اور نہ کوئی بڑی عمر والا عمر دیا جانتا ہے۔ اور نہ اس کی عمر سے کچھ کم کیا جاتا ہے مگر سب کچھ

فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

ایک کتاب میں (لکھا) ہے۔ بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔

۳۸ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ ط

وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں (انگولوں کا) جانشین کیا۔

۳۹ وَمَنْ يُعْمِرْهُ تَنْكِيحُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ○

اور جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں اُسے ہم پیدائش میں (کمزوری کی طرف) الٹ دیتے ہیں تو کیا وہ (اس بات کو) سمجھتے نہیں؟

۴۰ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانَ إِذَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ○

کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اُسے نطفے سے پیدا کیا۔ تو پیدا ہوتے ہی وہ کھلا جھگڑا لو ہو گیا۔

۴۱ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ

اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لئے جو پاپوں کے آٹھ جوڑے پیدا کئے

تَمْنِيَةَ اَزْوَاجِهِمْ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي

وہ نہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تارکیوں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری
ظَلُمْتَ ثَلَاثًا ذَلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ اِلَّا اِلٰهٌ هُوَ فَلَنُصْرَفُوْنَ
طرح کی پیدائش میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار جس کی بادشاہت ہے اس کے
نُصْرَفُوْنَ ۝

سوا کوئی عبود نہیں پھر تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟

۶۴ ۶۵
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ رُّبَابٍ ثُمَّ مِّنْ لُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

وہ (خدا) ہے جس نے تمہیں سنی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تھے ہوئے خون سے پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا
وَلَقَدْ كُنْتُمْ لِفِتْيَانٍ لِّبَطْنِكُمْ لِيُؤْتِكُم مِّنْ اَمْتٍ مِّنْ بَنِي اَدَمَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ كِسْفٌ مِّنْ ذَهَبٍ
ہے پھر تمہیں پالتا ہے تاکہ تم رہی جوانی کو پہنچو پھر تمہاری نوت کو گناہ ہے تاکہ تم بڑھے ہو جاؤ اور کوئی تم میں وہ ہے
مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

جواب دے رہے تھے ہی مرہاتا ہے اور یہ اطلب ہے تاکہ تم ایک مقرر سیدار کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو

۶۶ ۶۷
وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتَلِيْنَ مِنْ دَابَّةٍ اَيْتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۝

اور (لوگو!) تمہاری پیدائش میں اور جو ہاں نذر دہ (زمین میں) پھیلاتا ہے انہیں ان لوگوں کیلئے جو یقین لیتے ہیں قدرت کی نشانیوں میں

۱ ۲
الرَّحْمٰنُ بِرَبِّهِ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

رحمن نے انسان پیدا کیا۔ اس کو پونا سکھایا۔

۱۳ ۱۴
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ

انسان کو ٹھیکرے کی مانند کھنکھناتے مٹی سے پیدا کیا۔ اور جنوں کو ڈیک مارنے والی آگ سے پیدا

مِّن نَّارٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

کیا۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کونسی نعمت کو جھٹلاتے ہو

۱۵ ۱۶
لَخَنَّ خَلْقَكُمْ فَلَوْلَا نُصْرَتِي قُوْن ۝ اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ

ہر نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو تم جو مٹی سے کاتے ہو

۱۷ ۱۸
رَاٰتُمْ تَخْلُقُوْنَ اَمْ تَخْلُقُوْنَ ۝

تم اُسے پیدا کرتے ہو یا ہم (اس کے) پیدا کرنے والے ہیں

۱۹ ۲۰
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۝ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی تم میں مومن اور اللہ ان

بَصِيْرٌ ۝

اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھتا ہے۔

۲۶	قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَيْتُ تَحْشُرُونَ ○	
۲۷	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ○ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَأَسًا ○	
۲۸	وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ○ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ○	
۲۹	بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ○ وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَادِيرَهُ ○	
۳۰	هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ○	
۳۱	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ○	
۳۲	إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا ○ وَإِمَّا كَفُورًا ○	
۳۳	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ○ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ○	
۳۴	إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ○ فَقَدَرْنَا مَنَاقِبَ فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ○	
۳۵	وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ○	
۳۶	إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَهُ ○ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن عَلَقٍ ○	
۳۷	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ○ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○	
۳۸	ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ○ وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ	
۳۹	وَالْأَفْئِدَةَ ○ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○	

۳۶- استدلال پیدائش
سمیع لبصر اور قلوب سے

۲۳ ۶۴ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا

رہے بنی (کہے وہ (میں) وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے
مَا تَشْكُرُونَ ○

تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو

۲۴ ۶۵ وَهُوَ الَّذِي يُتَوَفَّيْكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ

اور وہ (میں) وہ ہے جو رات کو تمہیں (سلا کر) مار ڈیتا ہے۔ اور جو کاشی تم دن میں کرتے ہو وہ جانتا ہے
فِي دَرَجَاتٍ لِيُبْتَلِيَ بِهَا أَجَلَ مَرَجَعِكُمْ ثُمَّ يَرْجِعْكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا
پھر وہ تمہیں دن میں (بندے) اٹھاتا ہے۔ تاکہ سقرہ وقت پورا کیا جائے پھر اسی کی لڑتے ہیں اور کربان
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

ہے۔ پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال جلا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔

۲۵ ۶۶ قُلْ مَنْ يُضِلِّكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

رہے بنی (کہے) پوچھ کر تم کو (شکل) اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جسے تم گڑبگڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے
لَيْسَ الْاٰجِنَا مِنْ هٰذِهِ لَنُكُوْنُ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ○ قُلِ اللّٰهُ يُضِلُّكُمْ
ہو۔ کہ اگر اس نے میں اس نسبت سے نجات دی تو ضرور شکر گزاروں سے ہوں گے (کہے بنی) کہ اللہ کی
مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْكِرُوْنَ ○

تمہیں اس سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم شکر کرتے ہو۔

۲۶ ۶۷ اٰیٰتِیْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْاٰتِکُمْ وَرِیْثًا وَّ

لے نبی آدم (کہے) تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرکاء ہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا لباس اتارا
لِبَاسٍ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَیْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○
اور پرہیزگاری کا جو لباس ہے وہ بہتر ہے یہ (سب) اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ تاکہ وہ نصیحت پکریں

۲۷ ۶۸ وَفِی السَّمٰوٰتِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُوْنَ ○

اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بات جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

۲۸ ۶۹ وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفْلاَ تَبْصُرُوْنَ ○

اور خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔

۲۹ ۷۰ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِثٰتِ السِّنِّتِکُمْ وَالْوٰاِنِکُمْ وَاٰیٰتِہٖ

اور اسکی (قدرت کی) نشانوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف ہے
اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ ○

بے شک اس جہان والوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں

۳۸- استدلال نیند سے
بیدار ہونے سے

۳۹- استدلال انسان کو
سختیوں اور تکالیف سے
بچانے سے

۴۰- استدلال لباس سے

۴۱- استدلال آسمان میں
روزی ہونے سے

۴۲- استدلال نفوس انسانی
سے

۴۳- استدلال رنگوں کے
اختلاف سے

۱۳
۱۶ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ
اور جو کچھ اس نے تمہارے لئے زمین میں بھیلایا کہ اس کے رنگ مختلف ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں
یَدَّكُرُونَ ۝

کے لئے جو نصیحت پکڑتے ہیں (قدرت کی نشانی ہے)

۲۸
۴ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
تم افسوس کا سلسلہ انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا۔ پھر
كُنْتُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۲۴-۲۵- استدلال موت
اور حیات سے

(دوبارہ) تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۹۶
۴ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَمُخْرِجُ الْمَمِيتِ مِنَ الْحَيِّ ۝

اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کا زندے سے نکالنے والا ہے۔

۲۳
۱۵ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝

اور بے شک ہم ہی زندہ رکھتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی (سب کے) وارث ہیں

۲۱
۲۱ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

اور ہم نے (مٹی) کے پانی سے ہر ایک زندہ چیز کو پیدا کیا تو کیا وہ (اس پر) ایمان نہیں لاتے؟

۶۶
۲۲ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورًا ۝

اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا۔ بیشک انسان ناشکر ہے

۸۰
۲۳ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۝

اور وہ (اللہ) وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔

۱۹
۲۴ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَمُخْرِجُ الْمَمِيتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝

وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ اور زمین کو اس کے مرے پیچھے

وَكَذَلِكَ نُخْرِجُوهُمْ ۝

زندہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح (قبروں سے) نکالے جاؤ گے۔

۸۱
۵۶ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ۝ ۵۷ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ

تو کیا تم اس بات کے قبول کرنے میں ڈھیلے پڑتے ہو؟ اور اپنا حصہ تم پر ٹھہراتے ہو کہ تم (اس کو)

تَكْذِبُونَ ۝ ۵۸ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝ ۵۹ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ

جھٹلاتے ہو۔ پس کیوں نہیں (اس وقت) جب جانِ حلق میں آپہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھتے

تَنْظُرُونَ ۝ ۶۰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ ۝

(کیفیت) دیکھتے ہو۔ اور تمہاری بہ نسبت ہم اس جان کے زیادہ قریب ہیں لیکن دیکھتے نہیں

۵۶ ۵۶ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيْنَ ۝ ۶۴ تَرْجِعُوْنَہَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

ہیں اگر تم کسی کے زیرِ حکم نہیں ہو تو کیوں نہیں اس کو لوٹا دیتے اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو

۶۱ ۶۱ لَخَنَّ قَدْ سَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ۝ ۶۱ عَلٰى اَنْ

ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی اور ہم عاجز نہیں ہیں

۶۲ ۶۲ تَبْدِيْلَ اَمْثَالِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ۶۲ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ

کہ تمہیں تمہاری مثل سے بدل دیں اور تمہیں اس جہان میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ اور کچھ شک نہیں

الْاُولٰٓئِ فَلَوْلَا تَذٰكُرُوْنَ ۝

کہ تم پہلی (دفعہ کی) پیدائش کو جانتے ہو تو تم نصیحت کیوں نہیں کرتے

۱ ۶۴ تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيْدِيْهِ الْمَلٰٓئِكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ۶۴ وَالَّذِيْ خَلَقَ

برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے موت اور حیات کو

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْدُلَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ ۶۴ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝

پیدا کیا۔ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے اور وہی غالب ہے بخشنے والا

۱۲ ۱۲ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئْتَيْنِ التَّفْتٰنِ فِئَةٌ تَقٰتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْآخَرٰى

(مسلمانوں) بیشک تمہارے لئے ان دو جماعتوں میں (قدرت کی) نشانی تھی جو (ہر کے دن) آپس میں بھڑبھڑی

كَافِرَةٍ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلِيْهِمْ رَاٰى الْعَيْنُ ۝ ۱۲ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنۡ يَّشَآءُ ۝

تھیں ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی دوسری کافر تھی وہ ان کو دیکھتے آنکھوں اپنے سے روچند دیکھ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصٰرِ ۝

بے تھی اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہے توت لے۔ بیشک اس میں آنکھوں والوں کے لئے عبرت ہے۔

۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱
فتح سے

دلائل توحید و عدم اشترک در ذات و صفات

حق سبحانہ تعالیٰ

۶۳ ۶۳ دیکھو! استدلال انسان کو سختیوں اور تکالیف سے بچانے سے (عدد - ۳۹)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَتَنْتَبِهُونَ ۚ

بے نی اچھ کہ تہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے۔ یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے اور
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ
کون زندے کو مرے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور کون کام کا انتظام کرتا ہے؟

اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَنَا لَأَتَّقُونَ ۚ قَدْ أَكْرَهُهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ
وہ کہیں گے کہ اللہ تو کہہ کیا تم (اس سے) ڈرتے ہیں؟ پس ہی اللہ ہے تمہارا سچا پروردگار سو حق کے بعد سوائے
فَأَنِّي تَصْرَفُونَ ۚ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا
گمراہی کے اور کیا ہے۔ تو تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ یوں تیرے پروردگار کی بات ان لوگوں پر جو نافرمانی

يُؤْمِنُونَ ۚ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
کرتے ہیں پوری ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لاتے پوچھ کہ کیا کوئی تمہارے (پھیرے ہوئے) شریکوں میں ایسا ہے جو پہلے
قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۚ قُلْ هَلْ مِنْ

پیدا کرے پھر اسکو دوبارہ کرے کہہ گئے کہ اللہ ہی پہلے بار پیدا کرتا ہے پھر اُسے دوبارہ کرے گا تم کہاں سے پھیرتے
شُرَكَائِكُمْ مَن يَمْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَمْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ أَفَمَنْ يَمْدِي إِلَى
جاتے ہو۔ پوچھ کیا کوئی تمہارے (پھیرے ہوئے) شریکوں میں ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے کہہ گئے کہ اللہ
الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَمْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُلْمًا إِنَّ الظُّلْمَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
یا وہ جو بغیر اس کے کہ اسکو رستہ بتلایا جائے خود بھی رستہ نہیں پاتا سو تمہیں کیا ہو گیا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو اور ان میں سے اکثر
بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ

تو جس انکل پر چلتے ہیں کچھ شک نہیں کہ انکل حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتی بیشک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ سَوَاسِيََ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَكْهَرَاءُ سَبِيلًا لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ ۚ

اور اللہ نے زمین میں پہاڑ ڈال دیئے کہ وہ تمہیں لیکر ابل نہ جلائے اور نہریں اور راہیں پیدا کیں تاکہ تم راہ پاؤ
وَعَلَّمَتْهُمُ بِالْجِمِّ هَيْدُون ۚ كَلِمَةً يَخْتَارُونَ ۚ كَلِمَةً يَخْتَارُونَ ۚ كَلِمَةً يَخْتَارُونَ ۚ
اور ماہ کی نشانیاں پیدا کیں اور وہ ستاروں سے راہ پاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی بنا ہے جو
أَنلَاتُ كُرُون ۚ

کچھ پیدا نہیں کرتا تو کیا تم نصیحت نہیں پکارتے
أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ
تو کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں لڑکوں کیلئے انتخاب کیا اور خود فرشتوں سے بیٹیاں اختیار کیں بے شک

تَوَلَّا عَظِيمًا ۝۴۱ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَدَّكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ
 إِلَّا نُفُورًا ۝۴۲ قُلْ لَوْ كَان مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ
 أَنِّي نَزَّلْتُهُ فِي بَرِّ مَاءٍ لَآتَيْنَهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ سَبِيلًا ۝

اس سورت میں وہ ضرور صاحب عرش پر (چڑھائی) کی راہ ڈھونڈ لیتے۔

۲۱
۲۱
أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۝۲۲ لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ
 كَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّسَكَّنًا فَسَوَّيْنَاهُم مِّمَّنْ نَحْنُ آئِنًا ۝

کیا انہوں نے ایسے معبود اختیار کئے ہیں جنہیں وہ زمین سے بنا کر کھڑا کرتے ہیں اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے

۹۱
۲۳
سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں ضرور تباہ ہو جاتے تو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہو جو وہ بیان کرتے ہیں
 مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَطَ عَلَيْهِ
 الْغُلَّ ۝۹۱ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

سوائے مخلوق کو الگ لے بیٹھا اور ضرور ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا خدا ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں

۶۰
۲۷
أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ
 حَبًّا وَلَا نَبَاتًا ۝۶۰ أَمْ مَنْ مَلَائِكَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلَ الْغُلَّ كَالسَّارِقِ إِذْ
 ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا مُخْرَجًا ۝۶۱ أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
 وَجَعَلَ لَهَا سَوَاسِرًا وَسَبَّحْتَ لَهَا فِي بُحْرِهَا بِحَمْدِ رَبِّهَا ۝۶۲ أَمْ مَنْ يُضِلُّ الْقُرْآنَ أَفَافِي
 الْبُرُوجِ ۝۶۳ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَبَاسًا وَّجَعَلَ النَّوْءَ إِذْ أَنْتُمْ مُّقَامُونَ ۝۶۴ أَمْ مَنْ
 جَعَلَ الْبُرُوجَ كَالْأَعْنَاقِ ۝۶۵ أَمْ مَنْ جَعَلَ الْغُلَّ كَالسَّارِقِ إِذْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا مُخْرَجًا ۝۶۶
 أَمْ مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ رِجَالًا كَالسُّجَّادِ ۝۶۷ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا
 الْكُلُوبَ ۝۶۸ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۶۹ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ
 السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۷۰ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا
 الْكُلُوبَ ۝۷۱ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۷۲ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ
 السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۷۳ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا
 الْكُلُوبَ ۝۷۴ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۷۵ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ
 السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۷۶ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا
 الْكُلُوبَ ۝۷۷ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۷۸ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ
 السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۷۹ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا
 الْكُلُوبَ ۝۸۰ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۸۱ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ
 السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۸۲ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا
 الْكُلُوبَ ۝۸۳ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۸۴ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ
 السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۸۵ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا
 الْكُلُوبَ ۝۸۶ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۸۷ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ
 السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۸۸ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا
 الْكُلُوبَ ۝۸۹ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۹۰

بجلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تہا کے لئے آسمان سے پانی اتارا تم ہی نے اسکو اتار کر اس

حدائیت ذات ہجرتہ ما کان لکم ان تہبوا شجرہا ء ء الہ مع اللہ ط

سے بارہنق باغ اگلے تہاری طاقت ہیں کہ تم ان کے درخت اگاؤ۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟

۶۱
۶۱
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ۝۶۱ أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا

(کوئی نہیں) بلکہ وہ ایسے لوگ جو راہ حق سے انحراف کرتے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس

وَجَعَلَ لَهَا سَوَاسِرًا وَسَبَّحْتَ لَهَا فِي بُحْرِهَا بِحَمْدِ رَبِّهَا ۝۶۲ أَمْ مَنْ يُضِلُّ الْقُرْآنَ أَفَافِي

کے درمیان نہریں جاری ہیں اور اس میں پھاڑ پھیل کے اور دو دریاؤں کے درمیان آٹھ پیدائی کیا اللہ کیساتھ اور کوئی معبود

ہم لا یعلمون ۝۶۳ أَمْ مَنْ يُضِلُّ الْقُرْآنَ أَفَافِي الْبُرُوجِ ۝۶۴ أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا

کون ہی نہیں بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں کہتے بھلا وہ کون ہے جو بقرار کی دعا مانگتا ہے قبول کرتا ہے

وَجَعَلَ لَهَا سَوَاسِرًا وَسَبَّحْتَ لَهَا فِي بُحْرِهَا بِحَمْدِ رَبِّهَا ۝۶۲ أَمْ مَنْ يُضِلُّ الْقُرْآنَ أَفَافِي

نور تکلیف کو ہمارا تہا ہے اور ہمیں زمین میں جائیں کرتا ہے کیا اللہ کیساتھ اور کوئی معبود ہے تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو

۶۲
۶۲
أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا الْكُلُوبَ ۝۶۲ أَمْ مَنْ جَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ زُجُجًا فَنظَرْتُمْ فِيهَا

بجلا وہ کون ہے جو تمہیں منگلی اور سمند کی تاریکیوں میں راہ دکھلا تہا ہے اور اپنی رحمت (یعنی ہدایت) کے لئے تمہیں جہازت لینے والی

۱۱
هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَسْرُوْنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِي ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

۲۰
۳۱
اللہ کی پیدائش ہے سب تم مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا جو اس نے سوا میں کچھ بھی نہیں ظالم کلمہ ہی میں ہے
کیا تم نے اس پر نظر نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ نے سب تمہارے بس میں کر دیا
فِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُدْرِكُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دیں اور لوگوں میں کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں غیر
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝

علم اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے مجھکرتا ہے

۲۵
۳۱
وَلٰئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ
اور (کہے) اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

تو کہہ کہ اللہ کا شکر ہے مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے

۲۹
۳۱
الَّذِي تَرٰنَ اللّٰهُ يُوْرِي الْيَلِيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْرِي النَّهَارَ فِي الْبَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
(سیدنا غیب) کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے
كُلِّ مَجْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہر ایک ایک مقرر وقت تک چلتا ہے اور کیے جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خبردار ہے۔

۳۱
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الْبَاطِلِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ
یہ اس لئے ہے کہ اللہ ہی (معبود) برحق ہے اور جس کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں باطل ہے اور
الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

اللہ ہی بلند مرتبہ عالی قدر ہے۔

۱۳
۳۵
يُوْرِي الْبَيْلِ فِي النَّهَارِ وَيُوْرِي النَّهَارَ فِي الْبَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ مَجْرٰى
وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور انہیں سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہر ایک ایک مقرر

اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اذْكُرْ اللّٰهَ سَرَّ بِكُمْ لَهٗ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
وقت تک چلتا ہے ہی اللہ ہے تمہارا پروردگار اسی کی بادشاہت ہے اور وہ جنہیں تم اسکے سوا پکارتے ہو۔ تم بھر بھی

مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝ ۱۴
اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دَعْوٰكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا
اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سنیں تو تمہاری بات

مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِبَشَرِكُمْ ۗ وَلَا يَنْتَبِهٰنَّ بِشَرِّ خَيْرٍ
قبول نہ کریں اور قیامت کے دن تمہارے شرک کے منکر ہوں گے اور (کہے) خبردار کی مانند تجھے نہ بتلائیگا۔

۴۰
۳۵
قُلْ اَسْرَاۤءِیۡمٌ شَرَّكَآءُ كُمُ الَّذِیۡنَ تَدْعُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ اَسْرُوۡنِیۡ مَاذَا خَلَقُوۡا
 (لے نبی) کہنے کے بجائے اپنے ان شریکوں (کے مال) پر نظر ڈالی نہیں تم اللہ سے سوا پکارتے ہو مجھے نہیں تو دکھاؤ کہ
 مِنْ اَلۡاَسۡرَافِیۡنَ اَمْ لَهُمۡ شِرۡكٌۭ فِی السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اَتَّيۡنٰنَهُمۡ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰیۢ بَیِّنٰتٍ
 انہوں نے کونسی زمین پیدا کی یا آسمانوں میں ان کا ساتھی ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس (کتاب) پر
 مِّنۡهُ ۚ بَلۡ اِنْ تَعِیۡدُ الظَّٰلِمُوۡنَ بَعۡضُهُمۡۢ بَعۡضًا اِلَّا عُرُوۡرًا ۝۱۴۱ اِنَّ اللّٰهَ یَسۡۤیۡرُ
 سے کسی کھلی ریل پر نہیں بلکہ ظالم بعض بعض کو زے ہو کے ہی کے وعدے نیتے بہتے ہیں بے شک اللہ
 السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضِ اِنَّ نَزُوۡلًا لَّہٗۤ وَاٰیٰتِہٖۤ لَیۡنُزَّلُۙ وَلَیۡنُ زَالَتَاۤ اِنَّ اَمۡسَکَہُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنۡ بَعۡدِہٖ
 آسمانوں اور زمین کو اس بات سے روکے ہوئے ہو کہ وہ اپنی جگہ سے اٹل جائیں اور اگر وہ اٹل جائیں تو اس کے بعد
 اِنَّہٗ كَانَ حٰدِیۡمًا عَفُوۡرًا ۝

کوئی انہیں نہ تمام کے بیشک وہ برد بارے بخشنے والا

۳۸
۳۹
وَلٰۤیۡنُ سَاَلَتُهُمۡۙ مِّنۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضِ لَیَقُوۡلُنَّ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَرَاۤءِیۡمٌ
 اور (لے نبی) اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو
 مَا تَدْعُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَۤیۡنِ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضُرِّہٖ
 کہ تم مجھے یہ تو بتلاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے۔ تو کیا وہ اس کی بھیجی
 اَوْ اَسْرَادٰۤیۡنِ بِرَحۡمٰتِہٖۤ هَلۡ هُنَّ حٰمِیۡمٰتٌۙ سَرۡحَمٰتِہٖۤۙ قُلْ حَسۡبِیَ اللّٰهُ عَلَیۡہِ یَتَوَكَّلُ
 ہوئی تکلیف ہٹا سکتے ہیں۔ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں تو کہہ
 الْمَتَوَكَّلُوۡنَ ۝

کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں

۴۳
۴۹
اَمْ تَتَّخِذُوۡا مِنْ دُوۡنِہٖۤ شَفَعَاۡءَ ط قُلْ اَوَلَوْ كَانُوۡا لَا یَمۡلِکُوۡنَ شَیۡئًا وَّلَا
 کیا انہوں نے اس کے سوا اور سفارشی پکڑے ہیں (لے نبی) کہہ کر اگرچہ وہ نہ کسی چیز کا نہ اختیار رکھتے
 یَعۡقِلُوۡنَ ۝۱۴۲ قُلۡ لِلّٰهِ الشَّفَاعٰۃُ جَمِیۡعًا ۗ اَلَّذِیۡ مَلَکُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضِ
 ہیں اور نہ سمجھتے ہوں۔ تو کہہ ماری سفارش اللہ ہی کے لئے ہے۔ اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی
 ثُمَّ اِلَیۡہِۤ تُرۡجَعُوۡنَ ۝

بادشاہت ہے۔ پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۹
۴۳
وَلٰۤیۡنُ سَاَلَتُهُمۡۙ مِّنۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضِ لَیَقُوۡلُنَّ خَلَقۡنَاۤہُنَّ الْعَزِیۡزُ الْعَلِیۡمُ ۝
 اور (لے نبی) اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انکو غالب جاننے والا
 ۱۶
۴۳
وَلٰۤیۡنُ سَاَلَتُهُمۡۙ مِّنۡ خَلۡقِہُمۡ لَیَقُوۡلُنَّ اللّٰهُ ط فَآتٰیۡنَاۤہُمۡ یَوۡمَ نَفۡکُوۡنَ ۝
 اور اگر تو ان سے پوچھے کہ خود انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر وہ کہاں سے پھیر دیئے جاتے ہیں

۱۹
۴۷ اَوْلَم يَرْوِا لِي الطَّيْرُ فَوْقَهُمْ صُفْتًا وَيَقْبِضْنَ لِمَا يُمَسِّكُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ

کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں ڈالی کہ پتھر پھیلائے ہوئے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں انہیں سوائے رحمن کے
لَا تَلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرَةٌ ۝ ۲۱ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَبَدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ
دُونِ الرَّحْمٰنِ ط اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْبٍ ۝ ۲۲ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ
تبدلی مدد کے کا فر توڑے دہوکے میں ہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو تمہیں

اِنَّ اَمْسَكَ رِزْقَهُ ۝ ۲۱ بَلْ لَجَّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَنُفُوْرٍ ۝ ۲۲ اَمَّنْ يَمُشِيْ مُكِبًا
روزی روکے کوئی نہیں بلکہ وہ لوگ سرکشی اور نفرت میں بڑھتے جلتے ہیں۔ تو کیا جو شخص اوندھا اپنے منہ
عَلَىٰ وَجْهِهِ اَهْدٰى اَمَّنْ يَمُشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
کے بل چلتا ہے وہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلتا ہے۔

۲۴- دلیل ابطال التوسیت
سیح

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۝ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ

بیشک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مریم کا بیٹا سیح ہے (یہ نبی پوچھ کہ بھلا وہ کون ہے جو اللہ کے ہاں
اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يَّهْلِكَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۝
سے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر اللہ یہ چاہے کہ مریم کے بیٹے سیح اور اسکی ماں کو اور ان سب کو زمین میں ہیں دک کوئے اور اللہ
لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
ہی کیلئے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسکی بارشامت ہے جو وہ چاہتا ہے یا اگر تلبے یا اگر تلبے اور اللہ ہر شے

۲۵
۴۸ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۝ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۝ وَاَمْرٌ صِدْقٌ ۝
مریم کا بیٹا سیح تو محض ایک رسول ہے اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور اس کی ماں صدیقہ ہے وہ

كَانَا يَا كِلٰٓنَ الطَّعَامِ اَنْظُرْ كَيْفَ نَبِيْنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ تَمْ نَظُرُ اَنِّيْ يُوْفُوْنَ ۝
دونوں کھانا کھایا کرتے تھے (یہ نبی) ہم ان کیلئے کس طرح (اپنی وحدانیت کی) نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر دیکھ
۴۹
۵۰ قُلْ اَنْعَبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّكَانَ نَفْعًا ۝ وَاللّٰهُ
کہاں سے (حق سے) پھیر دینے جلتے ہیں (یہ نبی) پوچھ کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نقصان
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝
ہی پہنچا سکیں اور نہ نفع ہی۔ اور اللہ جو ہے وہی سننے والا جاننے والا ہے۔

۲۴- خدا تعالیٰ کے مستحق
عبادت ہونے کی دلیل

۲۲
۸۲ وَمَا لِيْ لَا اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝
اور مجھے کہا ہوا جو میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۲۳
۸۲ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا عَمَّرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ ۸۲ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
لے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم کر نیوالے پروردگار کے ہاں سے میں فریب دیا جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے عیب کیا

فَعَدَّ لَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝ كَلَّا بَلْ نُنَكِّتُ بَعُونًا

پرتھے ہو کر کیا۔ جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ (قریب تو کسی نے) ہرگز نہیں دیا بلکہ

بِالتَّيْنِ ۝

تم قیامت کو جھٹلاتے ہو۔

لَا يُلْفَىٰ قُرَيْشٍ ۝ الْفَهْمُ رَحْلَةَ الشَّنَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا

۱۰۴

(یعنی جو کچھ ہوا محض) قریش کو الفت دلانے کیلئے انہیں جاڑوں اور گرمیوں کے سفر کی الفت دلانے کیلئے تو انہیں عیبیے

رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ ۝ وَأَمَنَّهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝

کہ وہ بھی اس گھر کے پروردگار کی عبادت کو جس نے بھوک میں انہیں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن دیا

توحید باری عز اسمہ

۱۶۳ ۱۶۴ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

اس ضمن درحیم کے سوا کوئی معبود نہیں

۱۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

۲۵۵ ۲۵۶ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

اشد وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے (ہمیشہ) رہنے والا

۵۰ ۱۷۰ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اس غالب حکمت و لہجے کے سوا کوئی معبود نہیں

۸۷ ۸۸ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝

اشد وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲

۲۰	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝
۲۱	میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم مجھ سے ڈرو إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝
۲۲	بیشک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو (اے موسیٰ) تو میری عبادت کر اور میری یاد کیلئے نماز پڑھتا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
۲۳	تمہارا معبود تو بس وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
۲۴	اور (اے نبی) تجھ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجا اس کی طرف ہم ہی وحی بھیجتے رہے کہ میرے فَاعْبُدُونِ ۝
۲۵	سوا کوئی معبود نہیں ہے تو میری ہی عبادت کرو وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَفَلَحَ إِنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى
۲۶	اور (اے نبی) ذوالنون (یعنی یونس) کو یاد کر جب وہ غصے میں بھر کر گیا اور اس نے یہ خیال کیا کہ ہم اُس پر تکی نہیں فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝
۲۷	واللہ کے چار نامہ پیروں میں اُس نے ہیں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے کچھ شک نہیں کہ میں ظالموں میں ہوں لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ ۝
۲۸	اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ مالک ہے عرش بزرگ کا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝
۲۹	اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ مالک ہے عرش عظیم کا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
۳۰	اور وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
۳۱	وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَسَرَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝
۳۲	اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
۳۳	پس (اے نبی) تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
۳۴	وہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

۹/۴۳ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو (اے نبی) تو اسی کو کارساز پکڑ

۱۱/۳۳ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

۵۹/۲۳ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

اور بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے ان سے کہا کہ بھائیو! اللہ ہی کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے

۶۵/۲۱ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے ان سے کہا کہ بھائیو! اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے

۷۱/۲۱ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے ان سے کہا کہ بھائیو! اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے

۸۳/۲۱ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے ان سے کہا کہ بھائیو! اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے

۲۲/۲۳ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

پھر ہم نے ان میں ان ہی میں سے رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

۹۱/۲۳ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا الذَّهَبَ كُلُّهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ

اللہ نے کوئی اولاد نہیں پکڑی اور اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں اگر ایسا ہوتا تو ضرور ہر ایک معبود اپنی مخلوق کو

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

الگ لگے بیٹھتا اور ان میں سے بعضے بعضوں پر ضرور چڑھائی کرتے۔

۱۹/۴۱ أَمْ تَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً أَدْبُرَ الْأَنْعَامِ

کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کیساتھ اور بھی معبود ہیں (اے نبی) کہدے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا

۴۰/۲۴ عَرَّالَهُ مَعَ اللَّهِ

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟

۵۲/۲۴ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

کیا ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟

۱۴۳/۲۴ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

اور (لوگو) تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

۱۶۱/۲۴ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

صرف اللہ ہی ایک معبود ہے۔

۲۔ معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہی ہے۔

۴/ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ

اور سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔

۱۹/ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِّىءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

(سے نبی) کہہ دے کہ وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں

۵۲/ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِيُنذِرَ كُرْ

یہ لوگوں کے لئے پیغام رسائی ہے اور (اس لئے ہے) تاکہ وہ اس سے ڈرائے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ تو

أُولُو الْأَلْبَابِ

صرف ایک ہی معبود ہے۔ اسکا قتل والے نصیحت کریں

۲۲/ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ

(لوگو!) تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے

۵۱/ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ

اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ وہ تو فقط ایک ہی معبود ہے۔

۱۱۰/ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ

(سے نبی) کہہ دے کہ میں تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے

۱۱۸/ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ

(سے نبی) کہہ دے کہ میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے

۱۳۳/ أَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ رِذْوَانَ بْنِ مَرْثَدَةَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن

کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی تھی جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم

بَعْدِي دَقَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

میرے بعد کس کی عبادت کر دے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادوں ابراہیم اور

إِلَهًا وَاحِدًا

اسمیل اور اسحاق کے معبود ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے۔

۱۳۶/ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا

اور ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں۔

۴۶/ وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمُّ وَاحِدٌ

اور ہمارا معبود اور انہارا معبود ایک ہی ہے۔

۱/ وَالصَّفَاتِ صَفَاتٍ ۝ فَالْجِبْرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝

قسم ہے قطار باندھنے والوں کی پھر ڈانٹ دیکر بھڑکنے والوں کی پھر یاد کرنے کیلئے پڑھنے والوں کی

	<p>۴۴ اِنَّ الْاِلٰهَ الْوَاحِدَ ۝ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔</p>	
	<p>۴۵ قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنذِرٌ وَمَنْ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (مے نبی) کہے کہ میں تو محض ایک ڈرائیو الا ہوں اور سوائے اللہ کے جو ایک لایا بردست ہے اور کوئی معبود نہیں ہے</p>	
	<p>۱ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ (مے نبی) کہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔</p>	
	<p>۱۴۳ لَا شَرِيكَ لَهٗ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔</p>	۱-۶۳ اللہ کا کوئی شریک نہیں
	<p>۱۱۱ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وِليُّ اور (مے نبی) کہہ کہ ب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے نہ اولاد اختیار کی اور نہ اس کا بادشاہت میں کوئی شریک ہوا اور</p>	
	<p>۲ وَمِنَ الذَّلٰلِ وَكَثْرًا تَكْبِيْرًا ۝ نہ ذلت سے بچانے کے لئے اسکا کوئی دوست ہوا اور اس کی بڑائی بیان کر</p>	
	<p>۲۵ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوا۔</p>	
	<p>۲ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔</p>	۳- اللہ کا کوئی ہمسر نہیں
	<p>۶۲ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ یہ اس لئے ہے کہ اللہ جو ہے وہی حق ہے اور اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اللہ</p>	۵- صرف اللہ ہی حق ہے اسکے سوا باطل ہیں
	<p>۵۱ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ جو ہے وہی عالی مرتبہ بڑا ہے۔</p>	
	<p>۵۱ مَا اَشْهَدُ تَهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ یعنی ان (شیاطین) کو نہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت (سبھے کیلئے) موجود کیا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش</p>	۶- آسمان و زمین وغیرہ کی پیدائش میں شیطانوں کا ساجھا نہیں ہے
	<p>۵۲ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ۝ کے وقت اور میں گمراہ کرنے والوں کو قوت بازو بنانے والا نہیں ہوں</p>	
	<p>۵۳ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ اور وہ (اللہ) وہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔</p>	۷- آسمان و زمین میں سے ایک اللہ ہی معبود ہے
	<p>۱۶ شَهِدًا لِلّٰهِ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيْمُ الْقَدِيْمُ اللہ نے یہ گواہی دی کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کھڑے ہو کر انصاف سے گواہی دی</p>	۸- اللہ کی وحدانیت پر خود اللہ اور فرشتوں اور اہل علم کی شہادت

تمتذیہ باری تعالیٰ شانہ

۱۔ - اشدا پاک ہے

۱۰۲ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

فرشتوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں اُس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا تو نے ہمیں بتلا دیا ہے

۱۰۳ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّٰرِ

رہے اشدا تو پاک ہے۔ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا

۱۰۴ قَالِ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ

(میں نے) کہا تو پاک ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔

۱۰۵ فَلَمَّا اٰتٰنَا قَالِ سُبْحٰنَكَ تَبَّتْ اِلَيْكَ

پھر جب (میں) آبروش میں آیا تو کہا کہ تو پاک ہے میں نے تیری طرف رجوع کیا

۱۰۶ دَعُوْا لَهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ

ان بہشتیوں کا قول بہشت میں یہ ہو گا کہ اے اللہ تو پاک ہے۔

۱۰۷ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

اور اشدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں

۱۰۸ سُبْحٰنَ الذِّمِّيْ اَسْرٰى بَعْدِيْهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي

پاک ہے وہ (اسٹا جو اپنے بندے زبھاکرات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جس کے گرد ہم برکتنا حوالہ

نے برکت رکھی ہے لے گیا۔

۱۰۹ قُلِ سُبْحٰنَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مَّرْسُوْلًا

(اے نبی) کہہ دے کہ میرا پروردگار پاک ہے۔ میں تو محض اس کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔

۱۱۰ سُبْحٰنَ رَبِّيْ اِنْ كَان وَعْدُ رَبِّيْ لَمَفْعُوْلًا

ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔

۱۱۱ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے

۱۱۲ وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا

اگر جب تم نے اس کو سنا تھا تو کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں زبھاکرات سے (نامعقول) بات کو زبان پر لائیں

۱۲ ۴ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۡىٰ يَكُوۡنُ لَهٗ وَّلَدٌ وَّلَمۡ تَكُنۡ لَّهٗ صٰحِبَةً وَّوَخَلَقَ
آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کے اولاد کہاں سے ہو اس کے قریبی تک بھی نہیں۔
كُلِّ شَيْءٍ

اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔

۲۸ ۱۱ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وُلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ
انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے وہ تو اس سے پاک ہے وہ تو بے پروا ہے اس کا ہے جو کچھ آسمانوں
اِنَّ عِنۡدَ كُنۡهٖنۡ سُلۡطٰنٌ بِهٰذَا اِنۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۝

میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے کیا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں

۵۷ ۱۶ وَيَجْعَلُوۡنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمۡ مَا يَشۡتَهُنَّ ۝

اور وہ اللہ کے لئے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور ان کے لئے جو وہ چاہیں (سماں اللہ) وہ تو پاک ہے۔

۲۵ ۱۹ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهُ ط

اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے وہ تو (اس سے) پاک ہے۔

۸۸ ۱۴ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وُلَدًا ۝ ۸۹ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۝ ۹۰ تَكَادُ

اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے اولاد اختیار کی ہے کچھ شک نہیں کہ تم ایک ایسی نامعلوم بات لائے ہو قریب ہے

السَّمٰوٰتِ يَتَفَطَّرُنَّ مِنْهٗ وَتَنۡسِفُ الْاَرْضَ وَتَخۡرُ الْجِبَالَ هَدًا ۝

کہ آسمان اس سے بچٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ چورا چورا ہو کر گر پڑیں

۹۱ ۱۹ اِنْ دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وُلَدًا ۝ ۹۲ وَمَا يَبۡغِيۡ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وُلَدًا ۝

اس سے کہ انہوں نے رحمن کیلئے اولاد کا دعویٰ کیا اور رحمن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے

۲۶ ۲۱ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وُلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلۡ عِبَادٌ مُّكْرَمُوۡنَ ۝

اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے اولاد اختیار کی ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ (فرشتے تو) عورت والے بندے ہیں

۴۶ ۳۶ لَوۡ اَسۡرَدَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وُلَدًا لَاصۡطَفٰۤى مِمَّا يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللّٰهُ

اگر وہ اللہ اولاد اختیار کرنا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا جن لیتا۔ وہ تو پاک ہے وہ اللہ ایک

الْوٰحِدُ الْقَهَّارُ ۝

ہے زبردست

۸۱ ۳۳ قُلۡ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وُلَدٌ فَاَنۡا اَوَّلُ الْعٰبِدِيۡنَ ۝ ۸۲ سُبْحٰنَ رَبِّ

(مے نبی) کہہ دے کہ اگر رحمن کے اولاد ہوتی تو میں (اس کا) سب سے پہلے پوجنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ ۝

اور عرش والا ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں

۳۔	وَآتَهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝	۳۔ اللہ نے اولاد اور بیوی
	اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عورت بہت بلند ہے۔ اس نے نہ بیوی اختیار کی اور نہ اولاد	اختیار نہیں کی
۴۔	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝	۴۔ اللہ تو والد و تناسل
	نہ اس نے جنا اور نہ خود جنا گیا۔	کے بچنے سے پاک ہے
۵۔	سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝	۵۔ اللہ شرک سے پاک ہے
	وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔	
۱۸۔	سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝	۱۸۔
	وہ ان کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے۔	
۱۶۔	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝	۱۶۔
	اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا وہ ان کے شرک سے بالاتر ہے	
۶۳۔	تَعَالَىٰ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝	۶۳۔
	اللہ ان کے شرک سے بالاتر ہے	
۶۸۔	سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝	۶۸۔
	اللہ ان کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے	
۵۲۔	اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝	۵۲۔
	کیا ان کے لئے اللہ کے سوا مسبود ہیں اللہ تو ان کے شرک سے پاک ہے۔	
۶۳۔	سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝	۶۳۔
	اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔	
۱۲۔	سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝	۱۲۔ اللہ ان اوصاف سے
	وہ ان باتوں سے جو وہ (اس کی نسبت) کہتے ہیں پاک اور بالاتر ہے بڑی اونچائی پر	پاک ہے جو شرک بیان
۲۲۔	فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝	۲۲۔
	پس اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں	کرتے ہیں
۹۱۔	سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝	۹۱۔
	اللہ ان وصفوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں	
۱۸۰۔	سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝	۱۸۰۔
	لے نبی) تمہارا پروردگار عزت والا ان وصفوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں	۶۔ فرشتے اللہ کی پاکی
۲۰۶۔	اِنَّ الَّذِيْنَ يَنْعُبُوْنَ رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْوِطُ	۲۰۶۔
	بے شک وہ (فرشتے) جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں اس کی عبادت سے غرور نہیں کرتے	بیان کرتے ہیں

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۝

اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۝

اور گرج اس کی تعریف کے ساتھ (اسکی) پاکی بیان کرتی ہے اور سب فرشتے اس کے ڈر سے
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝

فرشتے رات دن اس کی پاکی بیان کرتے سستی نہیں کرتے۔

وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝

اور تو (قیامت کو) فرشتوں کو عرش کا گرد گھیرے ہوئے دیکھے گا وہ اپنے بدورد گار کی تعریف کیساتھ اسکی پاکی بیان کرتے ہوئے

الَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝

وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اُسکے گرد ہیں اپنے بدورد گار کی تعریف کیساتھ اسکی پاکی بیان کرتے ہیں ۝

فَاِنْ لِّسُتَلْبِرُوْا فَاذْكُرُوْا الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُوْنَ ۝

پھر اگر وہ لوگ فرود کریں تو وہ فرشتے جو تیرے پرورد گار کے پاس ہیں رات دن اسکی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں

وَالْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝

اور فرشتے اپنے پرورد گار کی تعریف کے ساتھ اسکی پاکی بیان کرتے ہیں۔

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۝

اور گرج اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے

الْمُرْتَضٰنَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفِقٰتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ

(لے نبی) کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ جو ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

صَلٰتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ ۝

اور پرندے صف باندھے ہوئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی نماز اور تسبیح معلوم کر لی ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۝ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا

ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اسکی تعریف

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۝

کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم ان کے پاکی بیان کرنے کو نہیں سمجھتے۔

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۝

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔

۸- گرج اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔

۹- آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں

۲۴ ۵۹	يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	
۱ ۶۴	يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ	
۱۸۰	وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا	۱۰۔ اللہ کے سب نام
۱۱۰ ۱۴	نَسِئَلُكَ اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوْا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا تَدْعُوْا فِيْهَا الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى	اپنے ہی اچھے ہیں
۸ ۶۰	لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى	
۲۴ ۵۹	هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى	
۱۶ ۲۱	وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ	۱۱۔ اللہ بولعب اور
۱۱۵ ۲۳	اَفْحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ لِبٰنَا لَا تَرْجَعُوْنَ	میت سے بری ہے
۲۴ ۳۸	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا	
۲۸ ۴۳	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٰتٍ	
۲۵۵ ۲	لَا تَاْخُذُهَا سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ	۱۲۔ اللہ اونگھ اور نیند
	لَا تَاْخُذُهَا سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ	کے بری ہے۔

۲۵۵ وَلَا يُؤْذِيهِ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

۶۳- اللہ تکوان سے
بری ہے۔

اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو تمھاری نہیں اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا

۲۵۸ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّا مِنْ غُوبٍ ۝

اور بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور کسی قسم کے تکان نے ہمیں نہیں چھوا

۱۲۲ ۱۰۰ ۹۰ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا

۱۲- اللہ کا وعدہ سچا ہے

اللہ کا وعدہ سچا ہے

۹۴ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے

۳۵ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

خبردار ہو جا ہے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے

۴۰ نَاصِبِينَ ۚ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَلَا يَسْتَخْفَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُوقِنُونَ ۝

پس (بے بنی) تو سب کر بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے کہیں تجھے سمجھو رانا بناویں

اور میں نہیں جانتا

۳۲ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعَرُوفُونَ ۝

بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ فریب دینے والا (شیطان) اللہ کے

۵ يَأْيُمُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا

لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ فریب دینے

يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعَرُوفُونَ ۝

والا (شیطان) اللہ کے بارہ میں تمہیں فریب دے

۵۵ ۴۰ نَاصِبِينَ ۚ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا

پس (بے بنی) تو سب کر بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

۱۴ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ

بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

۱۰۸ إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝

۱۵- اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے

بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا

۶۱ إِنَّكَ كَانَتْ وَعْدًا مَّا تَبِيعًا ۝

بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے

۵ ۲۹ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ

جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کی مقررہ میعاد ضرور آنے والی ہے۔

۱۶۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا

۳۱
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ ۝

بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا

۳۲
فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

تو (بے) نبی (تو) یہ گمان ہرگز نہ کر کہ اللہ اپنا وعدہ جو اسے اپنے رسولوں سے کیا خلاف کرنے والا ہے بیشک اللہ غالب بدل لینے والا

۳۳
وَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۝

اور (بے) نبی (تو) وہ تجھ سے عذاب کے لئے جلدی پہنچاتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا

۳۴
وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ لَٰ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے

۳۵
وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ ۝

اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا

۳۶
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝

اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے

۳۷
لَا يَذُرُّ الرَّحْمَٰنُ الْبُيُوتَ الَّذِينَ يَبْغُونَ ۝

میرا پروردگار نہ بھولتا ہے اور نہ بھولتا ہے

۳۸
وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدٍ ظَلَمَ لِلْعَالَمِينَ ۝

اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنا نہیں جانتا۔

۳۹
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں

۴۰
وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْصُرُ الظَّالِمِينَ ۝

اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

۴۱
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۝

بے شک اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا

۴۲
ذَٰلِكَ أَنْ لَّيْسَ لِرَبِّكَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتٍ يُظْلِمُونَ ۝

یہ اس لئے ہے کہ تیرا پروردگار بستیوں کو جب اس کے باشندے بیخبر ہوں ظلم کرنے والا نہیں ہے

۴۳
فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

سو اللہ کی تو یہ شان نہ تھی کہ وہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے

۴۴
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں

۱۶ ۱۱ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا

۱۱۶ ۱۱ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُضِلَّ الْقُرْآنَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ

اور (تو) نبی (تیرے) پروردگار کی یہ شان نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے ہٹا کرے اور ان کے باشندے نیکو کار ہوں

۳۳ ۱۶ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے

۱۱۸ ۱۶ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

۲۸ ۱۸ وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

اور (تو) نبی (تیرا) پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا

۲۱۰ ۲۶ ذِكْرَىٰ تَذَرُ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ

ہم نصیحت دیتے ہیں اور ہم ظالم نہیں ہیں

۳۹ ۲۹ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے

۱۱۷ ۳۱ وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدٍ ظَلَمَ الْعِبَادَ

اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا

۲۶ ۳۲ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

اور (تو) نبی (تیرا) پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے

۳۴ ۳۳ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے

۲۹ ۳۵ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيْهِ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

میرے پاس بات نہیں بدلتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں

۱۱۴ ۳۶ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَأَمْسَتْمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو تو اللہ کو تمہارے شکر سے کیا مطلب اور اللہ قدر دان ہے جاننے والا

۲۶ ۵۵ وَ يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اور (تو) نبی (تیرے) پروردگار ہی کی ذات باقی ہے گی جو بزرگی اور عزت والی ہے۔

۲ ۵۷ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ ہر شے کو جانتا ہے۔

۱۹- اللہ ازلی اور ابدی ہے اس کو فنا نہیں

۱۰۴ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

اس کو تکمیل نہیں پاتیں اور وہ آنکھوں کو پاتا ہے اور وہ ہے باریک بین خبردار

۲۰- کوئی آنکھ اللہ کو نہیں پاسکتی

۲۸ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا

۲۱- اللہ بڑی باتوں کا حکم نہیں دیتا

۱۴ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ

اور وہ کھانا دیتا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیا جاتا

۲۲- اللہ کھانے پینے سے بری ہے۔

۲ اللَّهُ الصَّمَدُ

اللہ بے پردا ہے

۲۳- اللہ سچا ہے۔

۱۴۴ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

اور بے شک ہم سچے ہیں

۲۴- اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔

۸۴ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے۔

۲۵- اللہ کا کلام حق ہے

۱۲۲ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

اور اللہ سے بڑھ کر سچ کہنے والا کون ہے

بعض دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا۔

۲۳ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ وَقَالُوا الْحَقُّ

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ

خدا نے فرمایا کہ یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں

۲۶- اللہ سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا

۸۴ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

بے شک اللہ سے باہر ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا

۲۷- اللہ کسی قوم سے اپنی دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں ہینتا جب تک وہ قوم ہی خود اپنی حالت نہ بدلے

۵۵ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

بے شک وہ حق سے باہر ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا

۵۲ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ بِهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا

یہ اس لئے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جس کے ساتھ اس نے کسی قوم پر انعام کیا ہے اس وقت تک نہیں

مَا بِأَنْفُسِهِمْ

بدلتا جب تک کہ وہ اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں

۲۸- اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں

۱۱ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں

۲۸۔ اشد کی نور رسول بھیجے تہ پہلے ہلاک نہیں کرتا	۲۰۹ ۲۷ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۝ اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی پہلے اس میں ڈرانے والے ضرور بھیجے
۲۹۔ اشد کا کلمہ نہیں بدلتا	۲۱۰ ۲۸ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ مَّرْسُومًا ۝ اور (لے نبی) تیرا پروردگار رہتیوں کو تار تیکہ وہ ان میں سے بڑی بستی میں رسول نہ بھیجے جو انہیں ہماری اٰیٰتِنَا ۝ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ اِلَّا وَاَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝ تہیں بڑھ کر بنا یا کریں ہلاک کرنے والا نہیں ہے اور ہم بستیوں کو ایسی حالت میں ہلاک کرنے والے نہیں ہیں کہ انکے باشندے ظالم ہوں
۳۰۔ اشد کے طریق میں تبدیل نہیں	۲۱۱ ۲۹ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ۝ اور اشد کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔
۳۱۔ اشد کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔	۲۱۲ ۳۰ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۝ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۝ اور (لے نبی) تیرے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کیساتھ پوری ہوئی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے
۳۲۔ اشد کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے	۲۱۳ ۳۱ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ۝ اشد کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے
۳۳۔ اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔	۲۱۴ ۳۲ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۝ اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔
۳۴۔ میرے ہاں بات بدل نہیں جاتی	۲۱۵ ۳۳ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ۝ میرے ہاں بات بدل نہیں جاتی
۳۵۔ اشد کی عادت میں تبدیلی نہ پائے گا	۲۱۶ ۳۴ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝ (لے نبی) تجھ سے پہلے جو ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے یہ انکی رسم ہے اور تو ہماری عادت میں تبدیلی نہ پائے گا
۳۶۔ اشد کی عادت ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزریئے ہیں تو اشد کی عادت میں تبدیلی نہ پائے گا	۲۱۷ ۳۵ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۝ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ یہ اشد کی عادت ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزریئے ہیں تو اشد کی عادت میں تبدیلی نہ پائے گا
۳۷۔ بس تو ہرگز اشد کی عادت میں تبدیلی نہ پائے گا	۲۱۸ ۳۶ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ۝ بس تو ہرگز اشد کی عادت میں تبدیلی نہ پائے گا اور ہرگز اشد کی عادت میں تبدیلی نہ پائے گا
۳۸۔ اور تو اشد کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پائے گا	۲۱۹ ۳۷ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ اور تو اشد کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پائے گا
۳۹۔ اشد کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہے۔	۲۲۰ ۳۸ لَا تَبْدِيْلَ لِمَا خَلَقَ اللّٰهُ ۝ اشد کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہے۔



آیات تحمید

۱- اللہ مستحق حمد ہے	۱	۶۵	الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝		
سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سائے جہان کا پروردگار ہے					
	۲۵	۱۸۲	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝		
اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سائے جہان کا پروردگار ہے۔					
	۱۰		وَإِخْرُجُوا لَهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝		
اور ان (بیشتیوں) کا اخیر قول ہے ہو گا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سائے جہان کا پروردگار ہے					
	۴۵	۳۹	وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝		
کہا جائیگا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سائے جہان کا پروردگار ہے۔					
	۱		الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۝		
سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا					
	۳۹	۲۹	وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا		
اور وہ (بیشتی) کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے جس نے ہمیں اس کی طرف راہ دکھلائی					
	۲۹	۱۲	لِالْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝		
سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق بخشا۔ بیشک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے					
	۴۵	۲۹	۱۴	۲۹	الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
سب تعریف اللہ کے لئے ہے پر ان میں سے اکثر (اس بات کو) نہیں جانتے					
	۱۱۱	۱۶	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الذَّلٰلِ ۝		
اور (مے نبی) کہہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے نہ اولاد اختیار کی اور نہ اس کا سلطنت میں کوئی شریک					
ہووا اور نہ ذلت سے بچانے والا اسکے لئے کوئی دوست ہے۔					
	۱		الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝		
سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور کچھ کجی اس میں نہیں رکھی					
	۲۸	۲۳	فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنَا		
پھر (مے نوح) جب تو اور میرے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔					

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

۱۵
۲۷
میں نے میں ظالم لوگوں (کے ہنیمہ) سے نجات دی
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى

ہر بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور انہوں نے کہا کہ سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے ہمیں اپنے
كثِيرِينَ عِبَادٍ الْمُؤْمِنِينَ ۝

بیت سے ایسا نادر بندوں پر بزرگی دی

۵۹
۲۷
۶۳
۲۹
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝

(اے نبی) کہہ دے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔

۶۳
۲۷
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۝

اور اے نبی (کہہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے وہ تمہیں عقوبت اپنی نشانیاں دکھلائے گا اور تم نہیں پہچان لو گے

۲۵
۳۱
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(اے نبی) کہہ کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے لیکن ان میں سے اکثر (اس بات کو) نہیں جانتے

۱
۳۴
لِلْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۝

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ہدایت سے اور آخرت میں بھی

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

اسی کی تعریف ہے اور وہی حکمت والا ہے خبردار

۱
۳۵
الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو رسول بنا لیا ہے جن کے دو

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ

دو-تین تین اور چار چار بازو ہیں اور وہ پیدا کرنا میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔

۲۴
۳۵
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝

اور وہ (بستی) کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بیشک ہمارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے

۴۴
۳۹
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّكَ

اور وہ (بستی) کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا

۳۷
۴۵
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سو تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں کا پروردگار ہے اور زمین کا پروردگار ہے اور سائے جہاں کا پروردگار ہے

۷۰
۲۸
لِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۝

اسی کے لئے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے

۱۸ ۳۱ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اسی کے لئے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں

۱۹ ۳۱ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ

اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف

۲۰ ۳۱ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اور جان لو کہ اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۲۱ ۳۱ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور جو زمین میں ہیں وہ سب کفر کریں تو بیشک اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۲۲ ۳۱ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

اور بے شک اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۲۳ ۳۱ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اور جو کفر کرے تو بے شک اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۲۴ ۳۱ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

اور بے شک اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۲۵ ۳۱ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اور اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۲۶ ۳۱ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

بیشک وہی قابل تعریف ہے بزرگی والا

۲۷ ۳۱ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

اور اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۲۸ ۵۷ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

اور جو کوئی حق سے پھر جائے تو بے شک اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۲۹ ۳۱ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝

اور وہی کارساز ہے قابل تعریف

۳۰ ۳۱ الرَّحْمَنُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝

(بے بنی) ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف سے اس لئے اتارا ہے کہ تو لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے

۳۱ ۳۱ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

(یعنی) ان کے بے دردی کار کے حکم سے غالب قابل تعریف (اللہ) کے رستے کی طرف

- ۲۳۲ وَهُدًى وَآلِى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهُدًى إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝
اور (بہشتی) پاکیزہ قول کی طرف راہ دکھلائے گئے اور قابل تعریف (اللہ) کے رستے کی طرف رہنمائی کئے گئے
- ۲۳۳ وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝
اور (قرآن) غالب قابل تعریف (اللہ) کے رستے کی طرف رہبری کرتا ہے۔
- ۲۳۴ تَزْيِينًا مِّنْ حِكْمِ حَمِيدٍ ۝
راہ کا، نازل کرنا حکمت کے قابل تعریف کی طرف سے ہے
- ۸ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
اور وہ (کافر) ان (مومنوں) سے بجز اسکے اور کسی بات سے ناخوش نہ ہوئے کہ وہ غالب قابل تعریف اللہ پر ایمان لکھتے
- ۱۳۱ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝
اور اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

اللہ کی بے نیازی

- ۲۶۳ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝
اور اللہ بے پروا ہے بڑا دبار
- ۲۶۴ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝
اور جان لو کہ اللہ بے پروا ہے قابل تعریف
- ۱۳۱ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝
اور اللہ بے پروا قابل تعریف ہے۔
- ۶۶ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ ۗ
انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے۔ وہ تو پاک ہے۔ وہ بے پروا ہے
- ۸ وَقَالَ مَوْلَايَ إِنَّ تَكْفُرًا لَّكُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝
اور وہ بتی نے کہا کہ اگر تم اور رہبرگ جو زمین میں ہیں کفر کریں تو بیشک اللہ بے پروا ہے قابل تعریف
- ۲۳۲ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝
اور بے شک اللہ جو ہے وہی بے پروا ہے قابل تعریف
- ۲۴ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝
اور جو شخص کفر کرے تو بے شک اللہ بے پروا ہے کرم کرنے والا

۲۶
۳۱ ۱۰
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

بے شک اللہ بے پروا قابل تعریف ہے۔

۱۲
۳۱ ۱۰
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اور جو کفر کرنے تو بے شک اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۱۵
۳۵ ۱۰
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

لوگو! تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۷
۳۹ ۱۰
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ قَدْ

اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے پروا ہے۔

۳۸
۳۶ ۱۰
هَاتُمْ هُوَ لَا يَرْجُو دُعَاؤَكُمْ لِتُنقِضُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ

خبردار ہو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اس لئے بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو سو بعض تم میں سے وہ ہیں

يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَخْشَى لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا

جو بخیلی کرتے ہیں اور جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بخیلی کرتا ہے اور اللہ بے پروا ہے اور تم محتاج ہو

يَسْتَبْدِلُ تَوَمَّ غَيْرِكُمْ شَيْئًا لَّيَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۝

اور اگر تم (حق سے) منہ پھیر گے تو وہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لا موجود کرے گا پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے

۲۳
۵۴ ۱۰
وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

اور جو منہ پھیرے گا تو بے شک اللہ بے پروا قابل تعریف ہے۔

۶
۴۳ ۱۰
ذَلِكَ بِأَنَّكَ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّكَ سُلُوكًا مِمَّا بَالِغًا مِنْكُمْ فَقَالُوا ابْشُرِ يَهُودَ وَنَنَا

یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھل رہے تھے کہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا آدمی ہمیں ہدایت کریں گے

فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

تو انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرا اور اللہ نے بے پروائی کی اور اللہ بے پروا ہے قابل تعریف

۹۶
۳۳ ۱۰
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے پروا ہے۔

۶
۲۹ ۱۰
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے محنت کرتا ہے بیشک اللہ جہان والوں سے بے پروا ہے

۷۷
۲۵ ۱۰
قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَفَقَدْتُمْ لَكُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَوَالٍ

(اے نبی) کہہ دے کہ میرے پروردگار کو تمہاری کیا پروا ہے اگر تم اسکو نہ بکارو سو تم تو جھٹلا چکے اب اسکی سزا تمہیں جٹ کر رہی

۳۱
۱۵ ۱۰
وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خِزْيَانَةٌ وَمَا نُنزِلُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّا عُلِّمْتُمْ ۝

اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں اور ہم اسکو سترہ اندازہ سے زیادہ نہیں اتارتے

۲۔ اللہ تمام جہان سے

بے پروا ہے۔

۳۔ اللہ کو بندوں کی کچھ

پروا نہیں

۴۔ اللہ کے پاس ہر چیز

کے خزانے موجود ہیں

۲۳۲ ۲	۲۴۱ ۲	۱۸۱ ۳	۱۰ ۵۴	۳ ۵۸	۱۱ ۵۸	۸ ۶۳	وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝	ہا شک کہ بندوں کے سب اعمال کی خبر ہے
۱۵۲ ۳	۱۶ ۶	۱۳ ۵۸	۱۱ ۶۳	وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝			اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔	
۸ ۵	۵۳ ۲۳	۱۸ ۵۶	اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝				اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو	
۲۹ ۳۱	وَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝						بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو	
۱۱۱ ۱۱	اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝						اور یہ کہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔	
۲۰ ۲۳	اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝						بے شک وہ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے	
۸۸ ۲۴	اِنَّهٗ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝						بے شک اللہ ان باتوں سے خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں	
۲۵ ۲۶	اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝						بیشک وہ ان باتوں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو	
۹۴ ۳۳	اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ۝						بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔	
۱۲۸ ۳	فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ۝						بے شک اللہ ان باتوں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے	
۱۱ ۱۸	بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ۝						تو بے شک اللہ ان باتوں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے	
۹۴ ۱۴	وَكَفَىٰ رِبِّيْكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۝						بلکہ اللہ ان باتوں سے جو تم کرنے ہو خبردار ہے۔	
۲۰ ۱۴	اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۝						اور (کے نبی) تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے دیکھنے والا	
۵۱ ۲۵	وَكَفَىٰ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ عِبَادَةَ خَبِيْرًا ۝						بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا	
اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔								

۴۲ ۲ ۵۵ ۲ ۱۳۹ ۲ ۹۸ ۳
 وَمَا لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝
 اور اللہ ان باتوں سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔

۱۳۳ ۲ ۱۳۳ ۲ ۱۳۳ ۲ ۱۳۳ ۲
 وَمَا لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝
 اور اللہ ان باتوں سے غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں

۱۳۳ ۲ ۱۳۳ ۲ ۱۳۳ ۲ ۱۳۳ ۲
 وَمَا سَرُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝
 اور (مے نبی) تیرا ہر درد و کار ان باتوں سے غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں

۱۳۳ ۱۱ ۹۳ ۲۴
 وَمَا سَرُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝
 اور (مے نبی) تیرا ہر درد و کار ان باتوں سے غافل نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو

۴۱ ۱۳
 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۝
 اور (مے نبی) تو اللہ کو ان باتوں سے غافل نہ جان جو ظالم کرتے ہیں

۳۶ ۱۰
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝
 بیشک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں

۹۱ ۱۶
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝
 بیشک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

۴۱ ۲۳
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝
 اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

۴۰ ۳۹
 وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝
 اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں

۲۵ ۲۲
 وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝
 اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو

۲۸ ۲
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝
 اور اللہ ان باتوں کو جو تم کرتے ہو جانتا ہے

۱۹ ۱۲
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝
 اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

۲۸ ۱۶
 بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
 کیوں نہیں بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

۴۸ ۲۲
 وَإِنَّ جَادِلُوكَ فَقِيلَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝
 اور (مے نبی) اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہنے لگے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

۱۸۸
۲۶

رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہوں

تَالرَّبِّي اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(شیب نے) کہا کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو

۳۰
۳۴

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝

اور اللہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔

۸
۳۵

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں

۴۴
۲۹

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

۷۷
۱۲

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝

اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو

۹۶
۲۳

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝

ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں

۹۶
۲
۱۹۲
۳

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں

۱۸
۲۹

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔

۱۱۰
۲

۲۳۷
۲

اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

بے شک اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

۲۳۲
۲

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

اور جان لو کہ اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے

۲۶۵
۲

۱۵۵
۳

۴۲
۸

۴۲
۵۴

۳۰
۶۰

۲
۴۳

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

۳۹
۸

فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

سو بے شک اللہ جو وہ کرتے ہیں دیکھتا ہے۔

۱۱۲
۱۱

۴۰
۲۱

اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

بے شک وہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے

۹/۳۳ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

۱۱/۳۲ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

بے شک میں جو تم کرتے ہو دیکھتا ہوں

۱۲/۳۱ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝

اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔

۱۳/۳۰ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝

بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے

۱۴/۲۹ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا

۱۵/۲۸ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا

۱۶/۲۷ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

سو بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔

۱۷/۲۶ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهٍ بَصِيرًا ۝

کیوں نہیں۔ بے شک اس کا پروردگار اس کو دیکھتا ہے

۱۸/۲۵ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

بے شک اس دن ان کا پروردگار ان سے خبردار ہے۔

۱۹/۲۴ عِلْمَ اللَّهِ أَنكُمْ كُنْتُمْ تُخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۝

اللہ نے معلوم کر لیا کہ تم اپنی جانوں کی خیانت کیا کرتے تھے سو وہ تم پر مہربان ہوا اور اس نے تمہیں معاف کر دیا

۲۰/۲۳ عِلْمَ اللَّهِ أَنكُمْ سَتَدُّوهُمُوهِنٌ ۝

اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان (عورتوں) کا ذکر تذکرہ کرتے رہو گے

۲۱/۲۲ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ

بے شک ہم جانتے ہیں کہ تجھے وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں

۲۲/۲۱ أَلَيْسَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضِعْفًا ۝

اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے معلوم کر لیا کہ تم میں کمزوری ہے۔

۲۳/۲۰ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ (منافق) جھوٹے ہیں

۲- اللہ بندوں کو۔ ان

کے حالات و صفات اور

حرکات و سکنات کو جانتا

ہے۔

۱۰۱
۴
وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

اور مدینے والوں میں سے بعض نفاق پر اڑے ہوئے ہیں (میں نے) انہیں نہیں پہچانتے ہیں۔

۵۰
۱۲
إِنَّ سَرَاتِي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ

بے شک میرا ہر دور و کار ان (عورتوں) کے کوسے واقف ہے۔

۲۶
۱۳
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

وہ جانتا ہے جو ہر نفس اپنے بڑے عمل کرتا ہے۔

۲۴
۱۵
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَفْذِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

اور بیشک ہم نے ان لوگوں کو جان لیا جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں اور انکو بھی جان لیا جو پیچھے ہجاتے ہیں

۹۷
۱۵
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

اور (میں نے) جانتا ہے کہ تیرا دل تنگ ہوتا ہے۔

۱۰۰
۱۶
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بسکو صرف ایک آدمی سکھاتا ہے۔

۲۲
۱۸
قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ

(میں نے) جانتا ہے کہ ان (صحابہ کرام) کی تعداد میری پروردگار جانتا ہے انکی تعداد مقبوضے ہی آدمی جانتے ہیں

۹۴
۱۹
لَقَدْ أَحْضَرْتَهُمْ وَعَدَّوْا لَهُمْ عَدَاوَةً

بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کی گنتی گن رکھی ہے۔

۵۲
۲۰
قَالَ عِلْمُهُمْ عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ

(میں نے) کہا کہ ان اگلی امتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے۔

۶۳
۲۱
قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَأ

بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آگے بھاگ کر چھپ کر نکل جاتے ہیں

۶۱۷
۲۲
قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا

بے شک وہ جانتا ہے جس حالت پر تم ہو اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ انہیں بتلا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

میں نے گا جو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔

۴۱
۲۹
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

بے شک اللہ جانتا ہے جس کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

۱۸
۳۳
قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا

بیشک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے (جہاد سے) روکنے والے ہیں اور انکو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طرف آ جاؤ

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝

رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں
يَوْمَ هُمْ بَايِرُ زُرُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ط

جس دن وہ (قیامت کے) کھلے میدان میں ہوں گے ان سے اللہ پر کوئی چیز چھپی نہ رہے گی
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝

اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے

فَدَعَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝

بے شک ہمیں معلوم ہے جو کچھ زمین ان (کے جسموں) سے کم کرتی ہے اور ہماری پاس حفاظت کرنے والی ایک کتاب ہے

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ۝

(بے شک) نبی (بیشک تیرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے جو اسکی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی اسکو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَاهُ فِي بَطُونِ أَعْمَاتِكُمْ ۝

وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝

ہوتے ہو تو اپنے آپ کو پاک نہ بتلاؤ وہی خوب جانتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۝

اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ط

اور (بے شک) اللہ جانتا ہے کہ بے شک تو اس کا رسول ہے۔

فَسَبِّحْهُ وَبِحَمْدِهِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ ۝

سو (بے شک) تمہیں ہی تو بھی دیکھ لیگا اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون نکتے میں پڑا ہے بے شک

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَشْهَدُوا ۝

تیرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے جو اسکی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی انکو بھی خوب جانتا ہے جو راہ ہانیوالے ہیں

وَرَأَيْنَا لَنْعَلَمَ أَنَّ مِنْكُمْ الْمُكذِبِينَ ۝

اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں بعض جھٹلانے والے ہیں

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِي رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

(وہ رسولوں پر نگہبان اس لئے مقرر کرتا ہے) تاکہ معلوم ہو جاوے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام

عددًا ۝

پہنچا دئے۔ اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسکو اپنے گھیر رکھا ہے اور ہر شے کی گنتی گن رکھی ہے

فقد افرقتون
رسالتی بول رہے ہیں

۲۱
رَانَ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ

دسے نبی بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو رات کے دو تہائی اور اسکے آدھے اور اسکے ایک تہائی کے قریب
مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ إِنَّ لَنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ
(نماز میں) کھڑا رہتا ہے اور ایک جماعت ان میں سے بھی جو تیرے ساتھ ہیں اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا
عَلَيْكُمْ فَأَقْرُبُوا مَا تَيْسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ بِعِلْمٍ إِنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
ہے اس نے معلوم کر لیا کہ تم اسکو ہرگز نہ بنا سکو گے سو وہ تم پر بہرہ بان ہوا تو قرآن میں سے جتنا آسان سمجھو پڑھو
اٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاٰخَرُونَ
لیا کرو۔ اسے معام ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کا فضل (یعنی روزی) ڈھونڈنے
يُنَاقِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رِجَالًا

اللہ تعالیٰ علم ہے

کیلئے ملک میں سفر کریں گے اور کچھ اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے
۲۲
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

اور اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو وہ دل میں رکھتے ہیں

۱۴
الَّذِي يَعْلَمُ بَيِّنَاتٍ اللَّهُ بِرِجَالِهِ
کہا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے

بہتر لایا اور اسکا ترجمہ

۲۵۵
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

۷
۲
۱۱۰
جانتا ہے
میں سے

وہ جانتا ہے جو انکے آگے ہے اور جو انکے پیچھے ہے اور وہ اسکے علم میں سے سوائے اتنے کے جتنا وہ چاہے اور کسی چیز پر اعلا نہیں

۱۱۰
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝

وہ جانتا ہے جو کچھ انکے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور ان کا علم اس کا اعلا نہیں کرتا

۲۸
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ

وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے (فرشتوں کے) آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اسی
مَنْ خَشِيَ اللَّهَ مُشْفِقُونَ ۝

کی جس سے وہ راضی ہے اور وہ اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔

۷۶
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاللَّهُ يُرْجِعُ الْأُمُورَ

وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ

۸
۱۳
۸۔ اللہ جاننے کے حل اور
وضع حل کو جانتا ہے

اشد جانتا ہے جو بہ عورت (پہیٹ میں) اٹھاتی ہے اور جو کچھ رحم گھٹاتے ہیں اور جو کچھ بڑھاتے ہیں اور ہر

شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

چیز اس کے پاس ایک اندازہ پر ہے۔

۱۱ ۳۵ وَمَا تَحْتَلِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ

اور بغیر اس کے علم کے نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے؟

۱۲ ۳۶ إِلَيْهِ رُجْدُ عِلْمِ السَّاعَةِ ۗ وَمَا تَحْرَجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْتَلِلُ مِنْ

قیامت کا علم اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو بھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے
أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِيْنِ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا أَا ذُنُوبِكُمْ
اور جو جنتی ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں

مَا فِئْتَا مِنْ شَهِيدٍ ۝

وہ کہیں کے کہہ رہے تھے خبر دیدی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا گواہ نہیں ہے (کہ تیرے شریک ہیں)؟

۹۵ ۲۲۶ ۲۴۴ ۴ ۴۲ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔

۹۔ اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔

۵۸ ۴ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

۲۲۰ ۲۲۰ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ

اور اللہ نساہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے ہر ایک کو جانتا ہے

۱۰۔ اللہ مفسدوں کو جانتا ہے۔

۶۲ ۳۳ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

پھر اگر وہ رو کر جانی کریں تو بے شک اللہ مفسدوں کو جانتا ہے

۱۱۴ ۳۳ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنْتَقِينَ ۝

اور اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔

۱۱۔ اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔

۳۲ ۵۳ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

وہ تمہیں خوب طرح جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں

فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۝

چھپے تھے تو تم اپنے آپ کو پاک نہ کہو وہی خوب جانتا ہے جو متقی ہے

۱۹۷ ۲ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ

اور جو نیک کام بھی تم کرو اللہ اسکو جانتا ہے

۱۲۔ اللہ بندوں کے نیکی کے کاموں کو جانتا ہے۔

۲۱۵ ۲ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

اور نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے تو بے شک اللہ اسکو جانتا ہے

۲۷۳ ۲ مَا تَفْقَهُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

اور جو چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے

۵۱/۳ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

اور جو چیز بھی تم لوہ خدا میں خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے

۵۲/۲ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

اور جو خرچ تم راہ خدا میں کرو یا جو نذر تم مال تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔

۵۳/۴ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

کیا اللہ شکر گزاروں کے مال سے خوب طرح واقف نہیں ہے

۵۴/۲۹ ۱۲/۶ ۲۲/۵ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور وہ ہر شے کو جانتا ہے۔

۵۵/۲ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور جان لو کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے

۵۶/۲ ۲۸۲/۲ ۱۷۷/۳ ۲۵۵/۲۲ ۴۲۷/۲۲ ۱۶/۱۱ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے

۵۷/۵ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور یہ کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔

۵۸/۸ ۷۱/۹ ۱۱۵/۹ ۵۸/۸ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

بے شک اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔

۵۹/۱۲ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

بے شک وہ ہر شے کو جانتا ہے۔

۶۰/۲۴ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

اور وہ ساری مخلوق کو جانتا ہے۔

۶۱/۲۲ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

۶۲/۲۴ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے

۶۳/۲۳ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

پس بیشک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے

۶۴/۴ وَسِعَ سَائِرَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

میرا ہر دور و کار علم میں ہر شے کو سمائے ہوئے ہے۔

۱۳۔ اللہ کو ہر شے کا علم ہے

۲۹ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

ہمارا پروردگار علم میں ہر شے کو سمائے ہوئے ہے۔

۳۰ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

لوگو! تمہارا معبود تو بس اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ علم کے لحاظ سے ہر شے پر عادی ہے

۳۱ رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مَرْحَمَةً وَعِلْمًا ۝

اے ہمارے پروردگار تو بلحاظ رحمت اور علم کے ہر شے پر عادی ہے

۳۲ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

اور یہ کہ اللہ کا علم ہر شے پر محیط ہے۔

۳۳ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝

اور ہم ہر شے کو جانتے ہیں

۳۴ وَأَنْتَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ مُّشْهِدٌ ۝

اور تو ہر شے پر موجود ہے۔

۳۵ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۝

ہم اس کا علم ہے

لیکن اللہ اس (قرآن) کی گواہی دیتا ہے جو اس نے تیری طرف اتارا ہے اُسے اس کو اپنے علم سے اتارا ہے

۳۶ فَلَنْقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

سو البتہ ہم ان پر (قیامت کو) علم سے (ان کے اعمال) بیان کرنے اور ہم ان کے کرتے وقت کہیں غائب نہیں تھے

۳۷ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِهِمْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

اور بیشک ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کیساتھ تفصیل سے بیان کیا ہے ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں

۳۸ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ

پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں (اور قرآن جیسی کوئی صورت نہ لائیں) تو جان لو کہ وہ اللہ ہی کے علم سے اتارا گیا ہے

۳۹ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ۝

اور بے شک ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ دی اور ہم اس کو جانتے تھے

۴۰ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاكُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلِيمِينَ ۝

اور بے شک ہم نے انہیں علم کے ساتھ جان والوں پر پسند کیا

۴۱ قَالُوا إِنَّا نَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(اللہ نے) فرمایا ہے۔ شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

۴۲ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

۴۳- اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

۴۰
 لَا تَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
 تم نہیں نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے
 ۴۲
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے
 ۶۷
 فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا
 سو اس نے وہ بات جان لی جو تم نے نہیں جانی سو اس نے اس سے ورے ہی ایک نزدیک فتح دی

اسماء صفات و اسماء حسنیٰ مثبت علم

۱۲۷
 ۳۳
 أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔
 ۱۳۷
 ۳۳ ۱۱۷ ۱۳ ۱۳۷
 ۲۹ ۲۹ ۲۱ ۲۹
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 اور وہی سننے والا جاننے والا ہے
 ۱۴۷
 ۵
 وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 اور اللہ جو ہے وہی سننے والا جاننے والا ہے۔
 ۷۱
 ۳۳ ۲۲۰ ۳۳ ۷۱
 ۱۲ ۲۶ ۲۱ ۲۱
 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے
 ۶۵
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 وہی سننے والا جاننے والا ہے
 ۲۲۳
 ۲۲۳
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
 ۱۸۱
 ۱۷ ۱۸۱
 ۲۱ ۸ ۲۱
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے
 ۲۶۳
 ۲۶۳
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے
 ۲۶۷
 ۲۶۷
 فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے

۱- سمیع و عظیم

۲۰۰	اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	بے شک وہ سنے والا جاننے والا ہے	
۲۲	وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ	اور بے شک اللہ سنے والا جاننے والا ہے	
۵۳	وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	اور یہ کہ اللہ سنے والا جاننے والا ہے	
۲۲	إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ	بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے	۲- عظیم و حکیم
۸۲	إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ	بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے	
۲۷	۱۸ ۵۲ ۱۱۰ ۱۰۶ ۹۷ ۶۰ ۱۵ ۷۱ ۸	اور اللہ عظیم و حکیم	
۲۸	۱۰ ۸ ۵۹ ۵۸ ۲۲ ۲۳ ۱۰	بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے	
۶	إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	(بے شک) بے شک تیرا پروردگار جاننے والا حکمت والا ہے	
۱۲	وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ	اور اللہ جاننے والا بردبار ہے	۳- عظیم و حکیم
۵۹	وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ	اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے	
۷	إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ	بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے	۴- عظیم و قدیر
۵۲	وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ	اور وہی جاننے والا قدرت والا ہے	
۵۰	إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ	بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے	
۳۲	۱۳ ۳۱ ۳۱	بے شک اللہ عظیم و خیر	۵- عظیم و خیر
		بے شک اللہ جاننے والا خیر دار ہے	

۲۷ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

اور وہی جاننے والا حکمت والا ہے

۱۸ ۵۲ ۱۱۰ ۱۰۶ ۹۷ ۶۰ ۱۵ ۷۱ ۸

اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

۱۰ ۸ ۵۹ ۵۸ ۲۲ ۲۳ ۱۰

بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

۶ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(بے شک) بے شک تیرا پروردگار جاننے والا حکمت والا ہے

۱۲ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

اور اللہ جاننے والا بردبار ہے

۵۹ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے

۷ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے

۵۲ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

اور وہی جاننے والا قدرت والا ہے

۵۰ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے

۳۲ ۱۳ ۳۱ ۳۱

بے شک اللہ جاننے والا خیر دار ہے

۳۲
۳۳

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

بے شک اللہ جانتے والا خبردار ہے

۴۲
۴۳

قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

(رسول نے) کہا کہ مجھے جانتے والے خبردار نے خبر دی ہے۔

۸۲
۴

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

(اے نبی) بے شک تیرا پروردگار حکمت والا جانتے والا ہے۔

۱۲۰
۴

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

بے شک وہی حکمت والا جانتے والا ہے

۸۲
۳۳

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

اور وہی حکمت والا جانتے والا ہے۔

۳۰
۵۱

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

بے شک وہی حکمت والا جانتے والا ہے۔

وَأِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

اور (اے نبی) کہہ شک نہیں کہ تمہارے قرآن کا القا حکمت والے جانتے والے کے پاس سے کیا جاتا ہے۔

۸۶
۱۵

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

(اے نبی) کہہ شک نہیں کہ میرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا جانتے والا ہے

۸۱
۳۴

وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

اور وہی پیدا کرنے والا جانتے والا ہے۔

۱۵
۲

إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

بے شک اللہ گنناش والا ہے جانتے والا ہے۔

۲۳۷
۲

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ سمائی والا جانتے والا ہے۔

۱۵۸
۲

فَرَأَى اللَّهَ مَشَاكِرَ عَلِيمٌ

پس بے شک اللہ قدر دان ہے جانتے والا

۹۷
۴

فَالِقِ الْأُصْبَاحِ ۖ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ

صبح (کی) بول کا بھانڈنے والا اور اس نے رات کو آرام کے لئے بنایا اور سورج اور چاند کو گرد پھرنے

تَقْدِيرِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

والے۔ یہ اندازہ ہے غالب جانتے والے کا

۶- حکیم و عظیم

۷- خلاق و عظیم

۸- واسع و عظیم

۹- شاکر و عظیم

۱۰- عزیز و عظیم

ذٰلِكَ يٰۤاَنَّا اللّٰهُ يُوۡرِثُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضَ وَكُلِّ شَيْۡءٍۭۤ اٰتٰى حِكْمًا ۝۶۱

اس لئے کہ ہر شے کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور یہ کہ اللہ سُننے والا دیکھنے والا ہے

۴۵ ۲۸ ۳۱ ۱ ۵۸ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌۭۤ اَبۡصِرٌۭۤ ۝۶۲

بے شک اللہ سُننے والا دیکھنے والا ہے

۲۰ ۲۴ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيۡرُ ۝۶۳

بے شک اللہ ہی سُننے والا دیکھنے والا ہے

۱۱ ۳۲ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيۡرُ ۝۶۴

اور وہی سُننے والا دیکھنے والا ہے

۱۹ ۶۲ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْۡءٍۭۤ اَبۡصِرٌۭۤ ۝۶۵

بے شک وہ ہر شے کا دیکھنے والا ہے

۱۳۴ ۳۲ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًاۭۤ اَبۡصِرًاۭۤ ۝۶۶

اور اللہ سُننے والا دیکھنے والا ہے

۵۸ ۴۸ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًاۭۤ اَبۡصِرًاۭۤ ۝۶۷

بے شک اللہ سُننے والا دیکھنے والا ہے

۳۵ ۳۲ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَاۤءٍۭۤ اَبۡصِرًاۭۤ ۝۶۸

(اے اللہ) بے شک تو ہمیں دیکھتا ہے

۲۰ ۳۵ وَكَانَ رَبُّكَۭۤ اَبۡصِرًاۭۤ ۝۶۹

اور (اے نبی) بے شک تیرا پروردگار دیکھنے والا ہے

علم غیب باری تعالیٰ شانہ

۱۰۹ ۱۱۶ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوۡبِ ۝۷۰

(اے اللہ) بے شک تو ہمیں باتوں کا جاننے والا ہے

۴۸ ۴۸ اَلَمْ یَعْلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْۭۤ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوۡبِ ۝۷۱

کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ انکی چھپی باتوں کو اور انکی سرگوشیوں کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے

۲۸ ۳۲ قُلْ اِنَّ رَبِّیۡ یَقۡدِرُ بِالْحَقِّۭۤ عَلٰمُ الْغُیُوۡبِ ۝۷۲

(اے نبی) کہہ دے کہ بیشک میرا پروردگار حق کو پھیلاتا ہے اور وہ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔

۱- اللہ عالم الغیب ہے

۷۴	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے اور وہی ہے حکمت والا خبردار
۷۵	ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم چھپے اور کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے
۷۶	وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور عنقریب ہی تم چھپے اور کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے
۷۷	عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ وہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے بلند مرتبہ عالی قدر
۷۸	عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے تو وہ ان کے شرک سے بالاتر ہے
۷۹	ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یہ (اللہ) چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے غالب مہربان
۸۰	قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (اے نبی) یوں کہا کر کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے چھپے اور کھلے کے جاننے والے
۸۱	عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے وہی ہے مہربان رحم والا
۸۲	عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا غالب حکمت والا ہے
۸۳	عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا وہ غیب کا جاننے والا ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا
۸۴	قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے ہمیں ایک سوا جتنا تو نے ہمیں بتلا دیا اور کچھ علم نہیں بیشک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے
۸۵	وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اس کی حقیقت سولے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا
۸۶	قُلِ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ (اے نبی) کہہ نہ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب نہیں جانتا اور
۸۷	لَكُمْ رَأْيِي وَمَلِكُكُمْ نہیں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں

۵۹ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَمَا

اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں انہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ جھل

تسقط من و سرقۃ إلا یعلمہا ولا حباۃ فی ظلمت الارض ولا

اور دریا میں ہے اور درخت سے) کوئی چٹانیں اس کے علم کے نہیں گرتا۔ اور زمین کی تاریکیوں میں نہ کوئی دانہ ہے

سأطرب ولا یأبیس إلا فی کتب مبین ۰

اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک ٹر سب ہی ایک کھلی کتاب میں مندرج ہے

۱۸۷ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا

(اے نبی) وہ تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کے قائم ہونیکا وقت کیا ہے کہہ دے کہ اسکا علم تو میرے

یُحِلِّيهِمَا لِوَقْتِهِمَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْ

پروردگار ہی کے پاس ہے وہی اسکو اسکے وقت پر ظاہر کر دیگا وہ آسمانوں اور زمین میں ایک بھاری چیز ہے وہ

بَعَثَهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِن آكثَرُ

تیریک ہمت ہی آجائے وہ تجھ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تو اسکی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہہ دے کہ میں اسکا علم تو اللہ ہی کے

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۰ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا

پاس ہے لیکن (اس بات کو) بہت سے آدمی نہیں جانتے کہہ دے کہ میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا مگر

شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا اسْتَكْرَمْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ

جستہ راب چاہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں (اپنے لئے) بہت سی بھلائی اکٹھی کر لیتا اور مجھے (کبھی کوئی) تکلیف

السُّوءِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۰

نہ پہنچتی میں تو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں

۳۱ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ

اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۰

ہوں اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی

وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۰

اور (کیا تمہیں انکی ذمہ دہن پہنچتی) جو ان (اقوام نوح و عمار و ثمود) کے بعد ہوئے جنہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا

۵۲ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۰

موسیٰ نے کہا کہ ان (پہلی قوموں) کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے۔

۶۵ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ

(اے نبی) کہہ دے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور انہیں یہ بھی خبر

آيَانَ يَبْعَثُونَ ۝

نہیں کہ وہ کب (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے۔

۳۳۲
۳۳۱

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل اسے کیا پیش آئے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا

تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

بے شک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہے

۳۳۳
۳۳۲

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ

دلے نبی، لوگ تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہہ دے کہ اسکا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے

۳۳۴
۳۳۳

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي

بچھ جب وہ (عصا) گر پڑا تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو (اپنی مدت) ذلت

الْعَذَابِ الْمُرِينِ ۝

کے عذاب میں نہ رہتے۔

۳۳۵
۳۳۴

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ

اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے

۳۳۶
۳۳۵

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

(ہو دے) کہا کہ علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے

۳۳۷
۳۳۶

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ هُوَ يُرِيهِ ۝

کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے

۳۳۸
۳۳۷

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

دلے نبی، کہہ دے کہ علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف کھوکھو کر ڈرا نبی والا ہوں اور بس

۳۳۹
۳۳۸

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا ۖ ۝ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۖ

دلے نبی، وہ تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کونسا ہے۔ تو اس کے ذکر

۳۴۰
۳۳۹

إِلَىٰ سَرَّيْكَ مِنْهَا ۖ

سے کس خیال میں ہے۔ اس کی اخیر حد تیرے پیرور دگار ہی کی طرف ہے

۳۴۱
۳۴۰

إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُنَبِّئُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

بیشک میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو

۳۔ مذہب میں آسمان کی تمام
چیزیں اور ان کے اسرار جانتا

۳۳ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمٰوٰتِ

بے شک اللہ پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں

۳۴ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے

۳۵ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ

یہ اس لئے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور
بِجُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

یہ کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے

۳۶ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ

اور (لئے نبی) تو جس مال میں بھی ہوتا ہے اور اس (اللہ) کی طرف سے قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتا ہے اور تم لوگ

اَلَا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ

جو کوئی کام بھی کرتے ہو ہم ہر وقت تمہارے اور پر موجود رہتے ہیں جب تم اس میں پڑتے ہو اور تیرے پروردگار سے

مُتَقَالٍ ذَرَّةً فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا

ذره بھر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی سب ہی کچھ

اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

کھول کر بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے

۳۷ وَاللّٰهُ غِيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْبِيْهِ يَرْجِعُ الْاَمْرَ كُلَّهُ فَاَعْبُدُوْهُ

اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور سب کام اسی کی طرف لوٹا یا جاتا ہے

وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

تو تو اس کی عبادت کر اور اس پر توکل کر

۳۸ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ يَرْزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

اور زمین میں جو جاندار بھی ہے اس کی روزی اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہی اس کے ٹھہرنے اور اس کے

مُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے سب کچھ ایک کھلی کتاب میں مندرج ہے

۳۹ سَرَبْنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نَعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلٰى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي

لئے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر

الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ

کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں

۷۷ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصِيرَاتِ

اور آسمانوں اور زمین کی بھی چیزیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور قیامت کا ہونا تو ایک پلک جھپکنے کی مانند ہے
هُوَ أَقْرَبُ مَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

یا وہ اس سے زیادہ قریب ہے بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے

۷۵ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور (بے) نہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں تیرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے

۷۶ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ

اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی چھپا ہونی چیزیں ہیں وہ ان کو کیسا کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے ؟

۷۴ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(رسول نے) کہا میرا پروردگار اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے جانتا ہے اور وہی سننے والا جانتے والا ہے

۷۳ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ مُّطَهَّرٍ

کیا تو نے یہ معلوم نہیں کیا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ جانتا ہے بے شک کتاب میں مندرج

ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

ہے بے شک یہ (بات) اللہ پر آسان ہے۔

۷۲ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا

(بے) نہیں) کہہ دے کہ اس (قرآن) کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی باتوں کو جانتا ہے

رَحِيمًا

بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے

۷۵ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

اور آسمان اور زمین میں کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھول کر بیان کرنا کتاب میں مندرج نہ ہو

۷۲ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

۱۶ يٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي

بیٹا اگر وہ چھپی چیز ایک رائی کے دانے کی برابر بھی ہو پھر وہ کسی پتھر میں (چھپی) ہو یا آسمانوں میں یا

السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

زمین میں اللہ اس کو نکال لاتا ہے بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے

۷۴ يَعْلَمُ مَا يَلْمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا

وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے نیچے اترتا ہے

قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبْدُوهُ لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ ط

۲۸
۳

رہے نبی کریم کے اگر تم میں بات کو چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ○

۱۷۷
۳

اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

۹۹
۵

اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ○

۲
۴

اور آسمانوں اور زمین میں وہی مہربان ہے وہ تمہارے بھیدوں اور آشکارا باتوں کو جانتا ہے اور اُسے بھی جانتا ہے جو تم کھاتے ہو

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

۷۸
۹

کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ ان کی چھپی باتوں اور انکی سرگوشیوں کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ چھپی باتوں کو جاننے والا ہے

أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَتَكْفُوا مِنْهُ الْأَجْرِينَ لِيَسْتَعْمِلُوا فِيهَا مَهْمًا

۲
۱۱

خبردار ہو جاؤ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں خبردار ہو جا کہ وہ اپنے کپڑے (پنچا وغیرہ) لپیٹتے

يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

ہیں وہ جانتے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

۱۰
۱۳

تم میں سے جو شخص بات کو چھپائے اور جو اس کو پکار کر کہے اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے اور

سَاءَ رَبِّ بِالْمُنَّازِرِ ○

دن کو راہ چلنے والا سب برابر ہیں

سَاءَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ○

۳۸
۱۲

اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ○

۱۹
۱۶

اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو

لَا جُرْمَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ط

۲۳
۱۶

کچھ شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں

وَإِنْ تَجهر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ○

۷
۲۰

اور اگر تو پکار کر بات کہے تو بے شک وہ بھید اور چھپی بات کو جانتا ہے۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُوهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ○

۱۱
۲۱

بے شک وہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو بات تم چھپاتے ہو اُسے بھی جانتا ہے۔

۲۵
۲۴
أَلَّا يَسْجُدَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

کیوں نہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں جیسی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم
تَخْفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ○

چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔

۵۴
۳۳
إِنْ تُبَدُّوْا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْنَ نِزَالَ اللَّهِ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ○

اگر تم کسی بات کو ظاہر کر دیا اُسے چھپاؤ تو کچھ شک نہیں کہ اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے۔

۷۶
۳۶
فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يَعْلِنُونَ ○

سو بے نی (بی) ان کا قول کچھ غم میں نہ ڈالے بیشک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ○

اور اللہ ان کے چھپا کر بات کرنے کو جانتا ہے۔

۱
۶۰
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ○

اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔

۶۴
۶۴
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ○

وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو

۷
۸۷
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ○

بے شک وہ کھلی بات کو اور جو چھپی ہوئی ہے اسکو جانتا ہے۔

۲۳۵
۲
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تو تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بیشک اللہ بخشنے والا بردبار ہے

۲۸
۳
قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْا يَعْلَمُهُ اللَّهُ ○

لے نبی کہہ دے کہ اگر تم ہر بات کو چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسکو ظاہر کرو۔ اللہ اسکو جان لیگا

۱۱۸
۵
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں (چھپا) ہے۔

۱۵۳
۳
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں (چھپا) ہے۔

۶۳
۶۴
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ○

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے

۱۱۷
۵
إِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ○

اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو بے شک تو اسے جانتا ہے تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں

۱۔ اللہ لوگوں کے دلوں
اور سینوں کے حالات
سے واقف ہے۔

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

جاننا جو تیرے دل میں ہے بے شک تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔

۳۳ ۵ ۳۸ ۷ ۳۲ ۳۹ ۳۲ ۳۲
وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝
بیشک وہ سینوں کی (چھپی) باتوں کو جانتا ہے

۳۱ ۱۱
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۝

اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔

۳۲ ۲۷
وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

اور (اے نبی) تیرا پروردگار ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔

۳۸ ۲۸
وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

اور (اے نبی) تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں

۱۰ ۲۹
أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝

کیا اللہ ان باتوں کو بہتر جاننے والا نہیں ہے جو جہان والوں کے سینوں میں (چھپی) ہیں

۵۱ ۳۳
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۝

اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔

۱۹ ۳۴
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝

وہ آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں اس کو جانتا ہے

۱۸ ۳۸
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

(اے نبی) بے شک اللہ مومنوں سے جس وقت وہ تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے راضی ہوا

۱۴ ۵۰
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَّمْنَا تَأْوِيلَهُ ۝

اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو جو وسوسے اس کے دل میں پیدا ہوتے

۱۱ ۵۱
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۝

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔

۶ ۵۷
وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

اور وہ سینوں کی (چھپی) باتوں کو جانتا ہے

۲ ۶۳
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ

وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔

۱۰ ۶۴
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالذَّاكِرِينَ ۝

اور اللہ یاد رکھنے والوں کو جانتا ہے

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

اور اللہ سینوں کی (چھپی) باتوں کو جانتا ہے۔

۱۳۴/۶۴ وَأَيُّرُوا تَوَلَّوْكُمْ أَوْ اجْمُرُوا بِهِ إِتَّكُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

اور (خواہ) تم اپنی بات آہستہ کہو یا اسے پکار کر کہو بیشک وہ سینوں کی (چھپی) باتوں کو جانتا ہے

حکومتِ باری تعالیٰ شانہ

۵۷/۶۴ ۱۳۴/۱۲ ۶۴/۱۲ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں۔

۶۲/۶۴ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسْبَانِ ۝

خبردار ہو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

۲۱/۶۴ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

اور (لے) نہیں (دے) اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں رکھتا

۸۸/۶۴ ۲۸/۶۴ لَهُ الْحُكْمُ وَالْيَوْمُ يُرْجَعُونَ ۝

اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

۱۲/۶۴ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝

پس حکم اللہ ہی کا ہے جو عالی مرتبہ بڑا ہے۔

۵۶/۱۱ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو۔

۶۴/۱۹ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۝

اور (لے) نہیں (دے) ہم (فرشتے) بغیر تیرے پروردگار کے حکم کے نہیں اترتے

۵۲/۶۴ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۝

خبردار ہو جاؤ کہ پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی کے لئے مضموم ہے

۱۳۱/۱۳۱ بَلِّغْ لِلَّهِ الْأَمْرَ جَمِيعًا

بلکہ تمام کام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔

۶۴/۱۳۱ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ ۝

سب سے پہلے اور سب کے بعد اللہ ہی کا حکم ہے

۱- حکومت اللہ کے سوا
کسی کی نہیں

۲- ہر جاندار اللہ کے
پس میں ہے

۳- فرشتے بغیر حکم خدا نہیں
اترتے۔

۴- سب کام اللہ ہی کے
تحت میں ہیں

۱۹ ۸۲	وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝	
۱ ۵	اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہے إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝	۵۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔
۴۱ ۱۳	بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۝	۶۔ اللہ کا حکم کوئی نہیں ہٹا سکتا۔
۴۵ ۱۱	اور اللہ حکم دیتا ہے کوئی اس کے حکم کو ٹیپھے ڈالنے والا نہیں ہے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝	۷۔ اللہ سب مالکوں سے بہتر مالک ہے
۸۴ ۱۰ ۱۲	اور (اے اللہ) تو ہی سب مالکوں سے بڑا عاقل مالک ہے ۱۰۹ ۸۰ ۱۲ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ ۱۰۹ ۸۰ ۱۲ ۱۰۹ ۸۰ ۱۲ ۱۰۹ ۸۰ ۱۲	۸۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
۱۱۳ ۲	اور وہ سب سے بہتر مالک ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝	۹۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
۱۱۱ ۴	سوا اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سِوَالَهُ قِيَامَتِ كَيْفَ تَقُولُونَ ۝	۱۰۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
۵۶ ۲۲	پر ہرگز الزام کی راہ نہیں دے گا الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۝	۱۱۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
۶۵ ۲۲	اللہ اس دن اللہ ہی کا ہے وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝	۱۲۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
۱۷ ۲۲	اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا قَدْ كَانُوا فِي كُفْرٍ كَبِيرٍ ۝	۱۳۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
۲۵ ۳۲	کچھ شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور بے دین اور نصاریٰ اور مجوس اور شرک و کفر کے ہیں ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِفِصْلِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝	۱۴۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
۳ ۶۰	اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۝	۱۵۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا
۳ ۶۰	اللہ قیامت کے دن تمہارے رشتے ہی تمہیں کچھ نفع دینگے اور نہ تمہاری اولاد ہی۔ وہی (اللہ) تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا	۱۶۔ اللہ قیامت کو ان میں فیصلہ کرے گا

۶۔ اللہ تیاست کے دن
اعمال سے آگاہ کرے گا

۱۳۷
۵ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

اور مغرب ہی اللہ انہیں ان کے وہ اعمال جلا دے گا جو وہ کرتے رہتے ہیں

۱۳۸
۵ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں تمہارے وہ اعمال جلا دے گا جنہیں تم اختلاف کرتے رہتے ہو

۱۰۵
۵ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں تمہارے وہ اعمال (جس کا ریکارڈ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

۶۰
۶ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے وہ اعمال (جس کا ریکارڈ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے

۱۰۹
۶ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمُ

اسی طرح ہم نے ہر ایک امت کو اس کے اعمال اچھے کر دکھائے ہیں پھر اسی اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جانا ہے سو وہ انہیں (ان کے وہ اعمال) جس کا ریکارڈ وہ (دنیا میں) کیا کرتے تھے

۱۴۰
۶ إِنَّ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَائِعًا لِّسْتِ مَنَّهُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ

بے شک جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فریق ہو گئے۔ (کے نبی) تجھے ان سے کچھ لگا نہیں ان کا معاملہ اللہ

هُم إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

کی طرف ہے پھر وہ انہیں (ان کے وہ اعمال) جس کا ریکارڈ وہ (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

۱۴۵
۶ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

پھر تمہیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں تمہاری ان باتوں کو جس کا ریکارڈ تم (دنیا میں) اختلاف کیا

۹۴
۹ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپا رکھے کا جاننے والا سو وہ تمہیں تمہارے وہ اعمال (جس کا ریکارڈ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے

۱۰۵
۹ وَسَنُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور مغرب ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے سو وہ تمہیں تمہارے وہ اعمال (جس کا ریکارڈ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے

۲۲
۱۰ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے سو ہم تمہیں تمہارے وہ اعمال (جس کا ریکارڈ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے

۶۴
۲۳ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۝

اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ انہیں جلا دے گا جو انہوں نے کیا ہے

۸
۲۹ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے سو میں تمہیں تمہارے وہ اعمال (جس کا ریکارڈ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے

۱۲۔ اللہ کرکے جزا دیتا ہے

۵۲/۳ وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَاللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ لِّمَا كَرِهْتُمْ ۝

اور وہ ایک چال چلتے اور اللہ بھی ایک چال چلا۔ اور اللہ سب چال چلنے والوں سے بہتر ہے

۳۰/۸ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرٌ لِّمَا كَرِهْتُمْ ۝

اور وہ چال چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے اور اللہ سب چال چلنے والوں سے بہتر ہے۔

۲۱/۱۱ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنَّا بَعُدُّوا شَرًّا وَمَكْرُؤُهُمْ إِذَا لَمْ نَمْسَسْهُمْ قُوَّةً

اور جب ہم لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہو اپنی رحمت کا مزہ کھاتے ہیں تو اسی دم وہ ہماری آیتوں میں چالیں

۵۱/۱۱ اِيْتِنَاهُ قِيلَ لَللّٰهِ اسْرِعْ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تُكْرَهُونَ ۝

چلنے لگتے ہیں (بے نیکی کے لئے) کہ اللہ چال چلا کر بھی تیزی سے جاتی ہے جیکے ہم نے بھی جو چیزیں لکھتے تھے وہی چلے ہیں جو چاہیں

۲۲/۱۳ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قُلِ اللّٰهُ الْمَكْرُجِبِيعَاءُ

اور بے شک لوگ بھی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں چال چلتے تھے سو سب چال اللہ ہی کے لئے ہے

۲۷/۱۲ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَتَزَوَّلَ

اور بے شک انہوں نے اپنا براؤ چلا یا اور ان کا داؤ اللہ کے ہاں (کھما) ہے اور ان کا داؤ ایسا نہیں

مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

ہے کہ اس سے پہاڑ (اپنی جگہ سے) ٹل جائیں۔

۲۶/۱۴ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاتَى اللّٰهُ بِنِيَابِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی داؤ کھیلا تھا۔ سو اللہ کا عذاب ان کی عمارتوں پر نیووں کی طرح سے

السَّمْفُ مِن نُّوقِهِمْ

آیات ان کے اوپر سے ان پر ٹھٹھ گری پڑی

۲۰/۲۶ وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرًا نَّامَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

اور وہ ایک چال چلتے اور ہم بھی ایک چال چلتے اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوتی

۱۵/۸۶ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ ۱۶/۸۶ وَاَكِيدُ كَيْدًا ۝

بے شک وہ ایک داؤ کھیلتے ہیں اور میں ایک داؤ کھیلتا ہوں

۴۹/۹ سَخَّرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ

اللہ ان سے تسخیر کرتا ہے۔

۱۳۔ اللہ تسخیر کی جزا دیتا ہے

رحمت و رافت

۲۷ ۱۔ اللہ نیک راہ بتلاتا ہے

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ

اللہ چاہتا ہے کہ تم سے (احکام) بیان کرنے اور تمہیں ان لوگوں کی راہ پر لگا دے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں
 عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۲۷ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ
 اور تم پر مہربان ہو اور اللہ عظیم والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو اور جو لوگ خواہشات
 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ۲۷
 فسانی کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم (راہ حق سے) بہت دور جا پڑو۔

۱۲ ۹۲

إِنَّ عَيْنَنَا لِلْهُدَى ۱۲

بے شک (نیک) راہ دکھلانا ہمارا ذمہ ہے۔

۱۸۵ ۲

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ تم پر سختی نہیں چاہتا

۲۲۰ ۲

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

اور (بے نبی لوگ) تجھ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دے کہ ان کی اصلاح بہتر ہے اور اگر تم ان میں
 فَأُخْوَانُكُمْ طَوَّالَهُ يُعَلِّمُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُضِلِّهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ
 مل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ مفسد اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے اور اگر چاہتا تو تم پر دشواری
 اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲۲۰

ڈال دیتا ہے شک اللہ غالب ہے حکمت والا

۱۶۸ ۲

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ شَرِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

یہ (دیت کا) حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے بیجو ہلکا اور اس کی رحمت ہے

۲۸ ۲

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے

۶ ۵

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ

اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور (یہ اس لئے) تاکہ وہ تم

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۶

پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم (اس کا) شکر کرو۔

۱۔ اللہ نیک راہ بتلاتا ہے

۲۔ اللہ بندوں پر آسانی
 چاہتا ہے

۳۔ اللہ بندوں کا بوجھ
 ہلکا کرنا چاہتا ہے۔

۴۔ اللہ نے دین میں تنگی
 نہیں رکھی

۴۸
۲۲ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں برگزیدہ کیا اور دین
الدین من حرج ط
میں تم پر کچھ تنگی نہیں کی

۲۸۲
۲ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس کے نام سے کیلئے ہے جو وہ اچھے کام کرے اور اس پر وبال ہے جو وہ
۲۲
۲۲ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
۱۵۲
۶

۱۔ اللہ کسی جان کو اس کی
گنہگاروں سے زیادہ تکلیف
نہیں دیتا

۴
۶ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

اللہ کسی جان کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اختیار اس نے اسے دیا ہے
۲۲۱
۲ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ وَيَاذَنْبُهُ

۲۔ اللہ جنت اور مغفرت
اور اللہ کسی کے گنہگاروں
بلاتا ہے

۲۵
۱۰ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

اور اللہ اللہ کسی کے گنہگاروں کی طرف بلاتا ہے۔

۱۰
۱۰ يَدْعُوا كَمَا يُغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

وہ تمہیں اس لئے بلاتا ہے تاکہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے

۲۶۸
۲ وَاللَّهُ يُعِيدُكُمْ مَعْفِرًا مِّنْهُ وَفَضْلًا

اور اللہ اپنی طرف سے تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے

۳۔ اللہ مغفرت و فضل کا
وعدہ فرماتا ہے
۸۔ اللہ گناہ بخشنے والا ہے

۶
۱۳ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ

اور (اے نبی) بے شک تیرا پروردگار لوگوں کے لئے باوجود ان کے ظلم کے بخشنے والا ہے

۲۹
۱۵ نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(اے نبی) میرے بندوں کو خبر دے کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں

۳۳
۳۳ إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

بے شک اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے

۳۴
۳۴ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔

۳۴
۳۴ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ

(اے نبی) تم سے صرف وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی بے شک تیرا پروردگار

وَدُّوعِقَابِ الْبِيمِ

مغفرت والا اور دردناک عذاب والا ہے

۲۷
۵۳ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَسْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

(بے نبی) جو لوگ بڑے بڑے گناہوں، اور بد کاریوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں بے شک تیرا

۲۸
۵۴ يُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ كَفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وہ تمہیں اپنی رحمت سے دہرا حصہ دیگا اور تمہارے لئے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تمہارے

وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۵۶
۴۳ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

وہ (اللہ) اس کا حق دار ہے کہ اس کا خوف کیا جائے اور بخشش والا ہے۔

۱۳۴
۳۳ وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ تَعْلَمُ

اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے

۹۔ اللہ کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے

۲۵
۴۲ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

اور وہ (اللہ) وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور خطائیں معاف فرماتا ہے اور جو تم کرتے ہو جانتا ہے

۱۰۔ اللہ خطائیں معاف فرماتا ہے

۳۰
۴۱ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کئے ہیں اور نہت سے خطائیں وہ معاف کرتا ہے

۱۰۶
۹ وَأَخْرَجُوا عَتْرَتَ قَوْمٍ بَدَنُوهُمْ خَلُطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرُ سَيِّئَاتٍ عَسَى اللَّهُ

اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا انہوں نے بے جلدی سے ایک عمل اچھا اور دوسرا بُرا۔

۱۱۔ اللہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے

ان يُتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۲۵
۴۲ وَكَيْفَ عَنَّا اللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ (عدد - ۱۰)

۶۰ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا

۱۲۔ اللہ بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے

۲۶
۴۲ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے

۱۰۶
۴ مَا تَشْتَكُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَذِيرٍ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اُسے (تیرے دل سے) بھلا دیتے ہیں تو ہم اسکی جگہ اُس سے بہتر یا اسکی مانند لاتے ہیں

۱۳۔ اللہ جو شریعت منسوخ کرتا ہے اس سے بہتر شریعت دیتا ہے

وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

۱۳۔ اللہ صیبتوں اور نصیبوں سے نجات دیتا ہے	۴۵/۴	قُلْ مَنْ يُنَجِّبِكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ
۱۵۔ اللہ رحمت والا ہے	۱۳۴/۴	لَئِنْ أَنْجَسْنَا مِنْ هَذِهِ لَسُكُونٌ مِنَ الشُّكْرِ بَيْنَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّبِكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكِرُونَ ۝ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر ایک سختی سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو
اور (سے نبی) تیرا پروردگار ہے پر دابے رحمت والا	۵۸/۱۸	وَسَرِّبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ط
۱۶۔ اللہ نے رحمت اپنے اوپر لکھ لی ہے	۱۶/۴	اور (سے نبی) تیرا پروردگار بخشہ والا رحمت والا ہے كُتِبَ عَلَيَّ نَفْسِيهِ الرَّحْمَةَ ط اس نے اپنے اور رحمت لازم کر لی ہے
۱۷۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے	۱۲۸/۴	فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ پھر (سے نبی) اگر وہ تجھے جھٹلا میں تو کہہ دے کہ تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور گنہگار لوگوں سے اس کا عذاب ہٹایا نہیں جاتا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط
اور میری رحمت ہر شے کو اپنے اندر سما لیتی ہے	۷/۳۰	سَرَّبْنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ رَحْمَةً وَعِلْمًا ط
۱۸۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے	۵۶/۱۵	اے ہمارے پروردگار رحمت اور علم کے لحاظ سے ہر شے پر مادی ہے۔ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِي رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝ (ابراہیم نے) کہا کہ اپنے پروردگار کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے اور کون ناامید ہوتا ہے۔
۱۹۔ اللہ نے رحمت سے دن اور رات بنائے	۷۳/۲۸	قُلْ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۗ (سے نبی میری طرف سے) کہہ دے کہ میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو وَمِنْ رَحْمَتِي جَعَلْتُ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتُبْتَغُوا مِنْهُ فَضْلَهُ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ دن میں اس کا فضل دروڑی (تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔
۲۰۔ کشتیوں اور جہازوں کا غرق نہ ہونا اللہ کی رحمت سے ہے	۲۳/۳۹	وَأَنْ نُنشِئَ لَكُمْ سُرُوحًا ۖ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ ۝ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں دریا میں غرق کر دیں پھر دان کا کوئی سد دگار ہو اور نہ وہ پھرتے جاویں مگر ہماری رحمت سے

۲۴ ۴۳ وَذَاتَ رَبِّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝

اور ذاتِ نبیٰ جیسا کہ تیرا پروردگار لوگوں پر فضل کرنا ہے لیکن ان میں سے اکثر اس کا شکر نہیں کرتے

۲۵ ۲۵۱ وَذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

لیکن اللہ جہاں والوں پر فضل کرنا ہے۔

۲۶ ۱۵۱ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے

۲۷ ۱۰۵ ۲۲ ۲۹ ۲۱ ۲۹ ۲۹ ۲۹ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ الْعَظِيمِ ۝ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

۲۸ ۱۴۳ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

۲۸ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ

پڑھ (نبیٰ پڑھ اور تیرا پروردگار کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا

مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

جو وہ نہیں جانتا تھا۔

۲۹ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ وَامَنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

اور اللہ نے انہیں خوف سے امن دیا۔

۳۰ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ

اور اللہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے فرشتے اس

سَأَسَلْنَا عَنْهُمْ لِأَلَّا يَفْتِرِطُونَ ۝

کو مار ڈالتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے

۳۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ لَدَا مُعَقِّبَاتٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ ۚ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ

اس (آدمی) کیلئے جو کھینچ رہا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے کی طرف سے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ

بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے دلوں کی حالت نہیں بدلتے اور جب اللہ کسی قوم کیساتھ بخیرائی

فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۝

کرنیکا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے ملتا نہیں اور ان کے لئے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔

۳۲ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ مَا يَلْفِظُ

جس وقت دو لینے والے لے لیتے ہیں ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہے۔ آدمی جو بات بھی

مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

بولتا ہے اس کے پاس ایک چوکیدار تیار ہے۔

۱/۸۶ وَالسَّمَاءِ وَالظَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الظَّارِقُ ۝ سَبِّحِ التَّجِيمِ

دو چکات ہونا

تسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ اور تو کیا جانے رات کو آنے والا کیا ہے۔

التَّاقِبِ ۝ بِمَنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

تارا ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر ایک نگہبان مقرر نہ ہو

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَرْقَبِيًّا ۝

بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ ۝

(میں نے قیامت کو کہیں گے) پھر جب تو نے مجھے اپنی نظر اٹھایا تو تو ان پر نگہبان تھا

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۝

اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے کارساز ہے

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

اور اللہ ہر شے پر کارساز ہے

فَلَمَّا اتَّوَلَّاهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

پھر انہوں نے اس کو اپنا قول و قرار دیا تو اس نے کہا کہ جو ہم کہتے ہیں اُس پر اللہ کارساز ہے

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

اور جو ہم کہتے ہیں اللہ اُس پر کارساز ہے

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر شے پر کارساز ہے

۸۱/۴ ۱۳۲/۳ ۱۶۱/۴ ۲۸/۳۳ ۲۸/۳۳ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

اور اللہ کافی کارساز ہے

۶۵/۱۶ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

اور (مے نبی) تیرا پروردگار کافی کارساز ہے

۱۔ اللہ خود بندوں کا نگہبان

۲۔ اللہ ہر شے کا کارساز ہے اور ذمہ دار ہے

صفت اِحیاء

۲۸ ۲	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
۴۳ ۲	تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو ماں! کہ تم مردے تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں ماریگا پھر تمہیں زندہ کرے گا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
۲۵۸ ۲	یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اِنِّى الْذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
۲۶ ۳	اور (اسے) جی وہ وقت یاد کر جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
۱۵۵ ۳	اور (اسے) اللہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۝
۹۶ ۴	اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۝
۵۶ ۱۰	وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتے والے ہے هُوَ الْحَيُّ وَيُمِيتُ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ۝
۲۳ ۱۵	وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَاِنَّا لَنَحْنُ الْوَحْيُ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝
۶۵ ۱۶	اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی (سب کے) وارث ہیں وَاللَّهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهٖ الْاَرْضَۢ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝
۶ ۲۶	اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کو اس کے مرے نیچے زندہ کیا ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاِنَّهٗ يُحْيِي الْمَوْتٰى
۶۶ ۲۶	یہ اس لئے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
۸۰ ۲۳	اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں ماریگا پھر تمہیں زندہ کرے گا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
	اور وہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے

۲۴ وَالَّذِي يُبَيِّنُ لَكُمْ بِحَبِيبٍ ۝

۱۹ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے

موتہماہ و كذلك تخرجون ۝

موتے کی طرح زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم (قیامت کو) نکالے جاؤ گے

۲۳ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مرے کی طرح زندہ کرتا ہے بے شک

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اس میں ان لوگوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں

۲۲ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر وہ تمہیں ماریگا پھر تمہیں جلانے گا

۲۵ فَانظُرْ إِلَىٰ آيَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ

سو تو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرے کی طرح زندہ کرتا ہے

لَمَعْنِ الْمَوْتَىٰ ۚ

بے شک یہ (اللہ) مردوں کو زندہ کرنے والا ہے

۲۶ إِنَّا نَحْنُ الْحَيُّ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

ہے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو (از قلم اعمال) انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کو اور ان پانوں

فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

کے نشانوں کو لکھتے ہیں اور ہر شے کو ہم نے ایک ظاہر کتاب (لوح محفوظ) میں شمار کر رکھا ہے

۲۷ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ

رے نبی کہہ دے کہ ان (بوسیدہ ہڈیوں) کو وہی زندہ کریگا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے

۲۸ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ

بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا مردوں کا زندہ کرنے والا ہے

۲۹ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ

کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز پکڑے ہیں سو اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردے کو زندہ کرتا ہے

۳۰ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ۖ

رے نبی کہہ دے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا پھر وہی تمہیں مارے گا

۲۲
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِبْ بِخَلْقِهِمْ

کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تمہکا نہیں وہ

بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْرِجَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اس بات پر قادر ہے کہ مردے زندہ کر دے کیوں نہیں بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔

۲۳
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۝

بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف (ہر ایک کو) رجوع ہوتا ہے

۲۴
وَإِنَّهُ هُوَ آتٍ وَآخِئٌ ۝

اور کچھ شک نہیں کہ اسی کا کام ملنا اور جانا ہے۔

۱۷
رَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝

جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کرتا ہے

۲۵
أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْرِجَ الْمَوْتَىٰ

کیا یہ (خالق) اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے زندہ کر دے

۱۵۸
۱۱۷ ۸ ۲
۹ ۳۳ ۵۴
يُحْيِي وَيُمِيتُ

وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے

۲۸
هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۝

وہ (اللہ) وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے

قدرت باری عز اسمہ

۱۳۹
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝

سو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے

۵۴
وَكَانَ سَرَبُكَ قَدِيرًا ۝

اور (سے نبی) تیرا پروردگار قدرت والا ہے

۲۴
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے

۷۰
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے

۱- اللہ قادر ہے

۵۰ ۳۲ ۵۰ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے

۶۰ ۶۰ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۝

اور اللہ قدرت والا ہے

۵۲ ۳۲ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔

۲۰ ۲۰ ۱۰۹ ۲ ۱۲۸ ۳ ۱۶۲ ۳ ۷۷ ۱۴ ۲۵ ۲۲ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے

۲۴ ۲۴ اَلَمْ نَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

کیا تو نے یہ نہیں جانا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے

۲۵۹ ۲۴ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(عبر نے) کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے

۲۶۳ ۲۴ ۲۸ ۳ ۱۸۸ ۱۹ ۱۶ ۵ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

اور اللہ ہر شے پر قادر ہے

۲۵ ۲۵ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

بے شک تو ہر شے پر قادر ہے

۱۲۰ ۵ ۲ ۱۱ ۵۰ ۳ ۹ ۲۲ ۲ ۱۶ ۶۲ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

اور وہ ہر شے پر قادر ہے

۱۷ ۶ فَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

پس وہ ہر شے پر قادر ہے

۶ ۲۲ وَاِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے

۳۹ ۳۱ اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے

۳۲ ۲۲ بَلٰی اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

کیوں نہیں بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے

۱۲ ۶۵ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوٰتٍ وَرَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلًا مِّنْ سَبْعِ مِثْلٍ نَزَلَ الْاَرْضِ

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور انہیں کی مانند زمین ان کے درمیان (اُسکا) حکم اترتا ہے

۲۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے

بَيْنَهُمْ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے

۲۴ ۲۱
۳۳ ۲۸ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

۳۷ ۳۴
۳۷ ۳۴ ۝ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً ۝

(اے نبی) کہہ دے کہ بے شک اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے

۹۹ ۹۶
۱۶ ۱۶ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ

کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں ڈال کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات

يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ

پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے اور پیدا کر دے

۸۱ ۳۶
۳۶ ۳۶ ۝ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۝

کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے اور پیدا کر دے

۲۹ ۲۶
۲۶ ۲۶ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ قَابِ قَوْظَيْنِ وَهُوَ

اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور وہ جانور جو اس نے ان میں

هُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝

پھیلانے میں اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے

۳۳ ۳۶
۳۶ ۳۶ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْنِ يَخْلُقِ سَنًا

کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کی پیدائش

بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ قَابِ قَوْظَيْنِ وَهُوَ

سے نہیں تمکا۔ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردے زندہ کر دے

۳۵ ۳۲
۳۲ ۳۲ ۝ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ سَنًا ۝

کیا انہوں نے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم (پوسیدہ) ہڈیوں کو ہرگز جمع نہ کر سکیں گے۔ کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس

أَنَّ نَسْوَىٰ بَنَانَهُ ۝

کے پوروں کو درست بنا دیں

۳۵ ۳۲
۳۲ ۳۲ ۝ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ سَنًا ۝

کیا یہ (اللہ) اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے زندہ کر دے

۸ ۸
۸ ۸ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

بے شک وہ اس کے واپس لوٹانے پر قادر ہے

۳۔ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے

۴۔ اللہ لوگوں کی شکل پیدا کرنے پر قادر ہے

۵۔ اللہ تمام جانداروں کو ایک جا جمع کرنے پر قادر ہے

۶۔ اللہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے

ان تبدل خیراً منهم وما نحن بمسبوقین ○

ہم کہ ان کو (ناپید کر کے) ان سے بہتر آدمی بدل دیں اور ہم عاجز نہیں ہیں

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً ○

ہم نے انہیں پیدا کیا اور انکے جوڑ بند مضبوط کئے اور جب ہم چاہیں یکساں ہی انہیں انکی مانند لوگوں سے بدل دیں

انکم یروا الی ما بین یدینہم وما خلفہم من السماء والارض

تو کیا انہوں نے ان چیزوں پر نظر نہیں ڈالی جو آسمان اور زمین سے ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں

ان نشأ نحیف بهم الارض او تسقط علیہم کسفاً من السماء

اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان سے ایک ٹکڑا ان پر گرا دیں بے شک اس

ان فی ذلک لآیۃٌ لِّکلِّ عبدٍ منیبٍ ○

میں ہر بندے کیلئے جو (اس کی طرف) رجوع کرنے والا ہے (قدرت کی) ایک نشانی ہے۔

قل هو القادر علی ان یمیتکم عن اباؤکم او من

لے نبی اکبر دے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے ادب سے یا تمہارے پانوں کے نیچے سے عذاب

تحت ارجلکم او یلیسکم شیعاً و یذیق بعضکم باس بعض

نیچے یا تمہارے مختلف فرتے کرے اور تم میں بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ لے نبی دیکھ کہ ہم

انظر کیف نصرنا الایۃ لعلہم یفقهون ○

کس طرح قسم قسم کی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔

قل رب انا تریبنا ما یوعدون ○ رب فلا تجعلنی فی

(اے نبی یوں) دعا کیا کہ لے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جسکا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو لے میرے

القوم الظالمین ○ وانا علی ان یریک ما نعدہم لقد سرون ○

پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں شامل کرنا اور بیشک ہم اس بات پر کہ ہم تجھے وہ عذاب دکھائیں جسکا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں

۲۸
۷۶۹
۳۳۶۵
۶۶۹۳
۳۳۶۳
۳۶۶۷
۳۶۶۰
۳۳۸۶
۱۷

۱۱- اللہ چاہے تو لوگوں کو زمین میں دھنسا دے یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے

۱۲- اللہ بندوں پر عذاب بھیجے اور باہم لڑا دینے پر قادر ہے

۱۳- اللہ اپنے وعدہ عذاب کے پورا کرنے پر قادر ہے

۱۴- اللہ چاہے تو لوگوں کو غرق کر دے

۱۵- اللہ چاہے تو لوگوں کی صورتیں بدل دے

۱۶- اللہ چاہے تو آدمیوں سے فرشتے پیدا کر دے

۱۷- اللہ چاہے تو وحی کو لے جائے

عَلَيْنَا وَكَيْلًا

پھر تو اپنے لئے ہمارے مقابلے میں کوئی کار ساز نہ پائے
فَإِنْ يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَكُنِ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

۲۲۲/۲۲۲ ۱۸۔ اللہ چاہے تو پتھر کے
دل پر پھر لگا دے

۵۱/۲۵ ۱۹۔ اللہ چاہتا تو ہر بستی
میں ایک پیغمبر بھیج دیتا

۲۴/۳ ۲۰۔ اللہ جو چاہے پیدا کرے

وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔

۲۵/۲۳ ۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

وَسَرُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

۲۸/۲۸ اور (لے نبی) تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جو چاہتا ہے) پسند کرتا ہے۔ ان کا اختیار نہیں ہے

۲۵۳/۲ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۳۹/۳۹ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

(فرشتے نے) کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۶/۱۲ ۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۱۲/۲۲ ۲۲۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۱۸/۲۲ ۲۳۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۱۰۶/۱۱ ۲۴۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۱۴/۸۵ ۲۵۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۱۳۵/۴ ۲۶۔ اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں

۳۳/۱۰ ۲۷۔ اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں

اور تم (ہمیں) عاجز کرنے والے نہیں ہو

۱۸۔ اللہ چاہے تو پتھر کے

دل پر پھر لگا دے

۱۹۔ اللہ چاہتا تو ہر بستی

میں ایک پیغمبر بھیج دیتا

۲۰۔ اللہ جو چاہے پیدا کرے

وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

اور (لے نبی) تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جو چاہتا ہے) پسند کرتا ہے۔ ان کا اختیار نہیں ہے

لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۲۱۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

- ۵۹
۸ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِلَهُمْ لِأَنْ يَعْجِزُونَ ۝
اور جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ (تم سے) آگے بڑھ گئے ہیں وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکیں گے
- ۲
۹ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو
- ۲
۹ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
اور اگر تم (حق سے) اٹھ بیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو
- ۲۰
۱۱ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
یہ لوگ زمین میں رہ کر ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں
- ۲۴
۱۴ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝
تو وہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں
- ۵۷
۲۳ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
(اے نبی) یہ خیال ہرگز نہ کر کہ جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ زمین میں رہ کر ہمیں عاجز کر دیں گے
- ۲
۲۹ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝
کیا ان لوگوں نے جو بدیاں کرتے رہتے ہیں یہ خیال کیا ہے کہ وہ ہم سے جیت جائیں گے وہ فیصلہ بڑا بے جوہر کرتے ہیں
- ۲۲
۲۹ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
اور تم ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہو نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی
- مِنْ قَوْلِي وَلَا نَصِيرٍ ۝
کار ساز ہے اور نہ مددگار
- ۵۱
۳۹ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝
اور وہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں
- ۲۲
۴۵ وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اسے کوئی چیز عاجز کر دے
- ۳۲
۴۶ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
اور تم زمین میں (اس کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو۔
- ۳۲
۴۶ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
اور جو شخص اللہ کی طرف بلائیے والے کی بات قبول نہ کرے گا وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے
- ۱۲
۴۶ وَأَنَا ظَنَنْتُكَ أَنْ لَنْ تُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تَعْجِزَهُ هَرَبًا ۝
اور بے شک تم نے یقین کر لیا کہ ہم زمین میں رہ کر اللہ کو ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے اور بھاگ کر بھی اسے ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے

<p>يُبْنَىٰ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَوَاتِ</p>	<p>۱۶ ۲۳- گرانی کے دانے کی برابر</p>
<p>بَيْتًا اِذْ رَوَّحْتَنِي بِمِزْرَانِي كَمَا رَوَّحْتَنِي بِمِزْرَانِي كَمَا رَوَّحْتَنِي بِمِزْرَانِي اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ</p>	<p>بھی کوئی چیز جیسی ہوگی تو اللہ وہ نکال کر لا موجود کرے گا</p>
<p>اس کو نکال کر لا موجود کرے گا بے شک اللہ باریک بین ہے خبردار</p>	
<p>مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ اِلَّا كُنْفُسًا وَّاحِدَةً اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ</p>	<p>۲۸ ۲۳- تم سب کا پیدا کرنا اور پھیلانا</p>
<p>لوگو! تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دو بارہ اٹھانا ایسا ہی (آسان) ہے جیسا ایک جان کا۔ بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا</p>	<p>وایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا</p>
<p>وَرَاثَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةِ هَٰذَا تَعْدُونَ</p>	<p>۲۶ ۲۵- اللہ ہزار سال کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے</p>
<p>اور (اے نبی) بے شک تیرے پروردگار کے ہاں ایک دن ان ہزار برس کی برابر ہے جو تم گنتے ہو۔</p>	
<p>وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاِحِدَةٌ كَلِمَةٍ بِالْبَصَرِ</p>	<p>۵۰ ۲۶- اللہ کا کام پلک جھپکنے میں ہو سکتا ہے</p>
<p>اور یہ (ا) کام تو ایک دقت ہی ہو جاتا ہے جیسے آنکھ جھپکانا</p>	
<p>بِدِيْعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ</p>	<p>۱۱۶ ۲۷- اللہ کے ہر جملے سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے</p>
<p>آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا خواجہ وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس سے صرف اتنا ہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے</p>	
<p>اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ</p>	<p>۲۷ ۳۳</p>
<p>جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس سے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے</p>	
<p>اِنَّ مِثْرَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمِثْلِ اٰدَمَ خَلَقْتَنِي مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ</p>	<p>۵۸ ۳۳</p>
<p>بیشک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہی ہے جیسی آدم کی مثال کہ اسکو مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا سو وہ</p>	
<p>وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ</p>	<p>۷۳ ۳۴</p>
<p>اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو کسی مسلمات سے پیدا کیا اور جس دن کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے</p>	
<p>اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَادْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ</p>	<p>۱۶ ۳۵</p>
<p>ہم (اللہ) کہنا کسی سے جب ہم اُسے چاہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے کہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے</p>	
<p>اِنَّمَا اَمْرُنَا اِذَا اَرَادْنَا شَيْءًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ</p>	<p>۸۲ ۳۶</p>
<p>اس کا کام جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے</p>	
<p>فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ</p>	<p>۶۸ ۳۷</p>
<p>سو جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔</p>	
<p>وَالسَّمٰوٰتِ بَيْنَهُمَا يٰدِرٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُونَ</p>	<p>۲۸ ۵۱- اللہ وسعت والا ہے</p>
<p>اور آسمان جو ہے اُسے ہم نے (اپنے) ہاتھ سے بنایا اور بے شک ہم گنجائش والے ہیں</p>	



ملکیت باری عز اسمہ

۱۱۵	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	۱۱۵	۲	۱- مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے
	اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔			
۱۲۶	قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	۱۲۶	۲	
	(اے نبی) کہہ دے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے			
۱۲۷	لَهُ الْمُلْكُ	۱۲۷	۳۹	
	اسی کی بادشاہت ہے			
۱۰۶	وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۱۰۶	۲	
	کیا سمجھے یہ معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے۔			
۱۸۸	وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۱۸۸	۳	
	اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے۔			
۱۶	وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا	۱۶	۵	
	اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے			
۱۲۰	لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ	۱۲۰	۵	
	آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان میں ہے اللہ ہی کے لئے ہے			
۲۶	لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۲۶	۲۶	
	آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے۔			
۱۵۸	لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۱۵۸	۲۶	
	آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے۔			
۱۱۶	إِنَّ لِلَّهِ لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۱۱۶	۹	
	بے شک اللہ جو ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لئے ہے۔			
۲	الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۲	۲۵	
	وہ (وہ ہے) جس کیلئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے			
۸۵	وَتَبْرَكَ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا	۸۵	۳۳	
	اور برکت والا ہے وہ جس کیلئے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔			

۹
۸۵ اَلَّذِي لَدُنْكَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(وہ ہے) جس کیلئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر شے پر موجود ہے۔

۱۰۸
۳ ۱۲۸ ۱۲۶ ۱۳۱ ۱۳۲ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے

۲۸۴
ط لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

۱۱۶
ط بَلَّغْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ط

بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے

۲۵۵
۴ ۱۶۱ ۶۶ ۶۴ ۱ ۳۲ ۳۲ ۳۲ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

۲۵
۳ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ ثَوْقِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ ۝

(اے نبی) کہہ کہ اے اللہ ملک کے مالک تجسے چاہے ملک دے

۱۱۱
ط وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

اور اگر تم کفر کرو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

۱۱۲
ط وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ط

اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

۶۲
ط فَلْيَمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ قُلِ لِلَّهِ ط

(اے نبی) پوچھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کس کا ہے۔ کہہ دے کہ اللہ ہی کا ہے

۶۴
ط وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّمَارِ ط

اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں رہتا ہے

۵۵
۱۰ ۶۴ ۶۴ اَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ط

خبردار ہو کہ بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔

۶۶
۱۰ اَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ط

خبردار ہو جا کہ بے شک جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے

۶۲
ط اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

اللہ وہ ہے جس کے لئے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں

۵۲
۱۶ ط وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاغُ اَلْعَيْزِ وَاللَّهُ تَتَمَتُّونَ ۝

اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کیلئے لازم عبادت ہے تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو

۲۰	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ	
۲۱	۱۹	۲۰
۲۲	۲۱	۲۲
۲۳	۲۲	۲۳
۲۴	۲۳	۲۴
۲۵	۲۴	۲۵
۲۶	۲۵	۲۶
۲۷	۲۶	۲۷
۲۸	۲۷	۲۸
۲۹	۲۸	۲۹
۳۰	۲۹	۳۰
۳۱	۳۰	۳۱
۳۲	۳۱	۳۲
۳۳	۳۲	۳۳
۳۴	۳۳	۳۴
۳۵	۳۴	۳۵
۳۶	۳۵	۳۶
۳۷	۳۶	۳۷
۳۸	۳۷	۳۸
۳۹	۳۸	۳۹
۴۰	۳۹	۴۰
۴۱	۴۰	۴۱
۴۲	۴۱	۴۲
۴۳	۴۲	۴۳
۴۴	۴۳	۴۴
۴۵	۴۴	۴۵
۴۶	۴۵	۴۶
۴۷	۴۶	۴۷
۴۸	۴۷	۴۸
۴۹	۴۸	۴۹
۵۰	۴۹	۵۰
۵۱	۵۰	۵۱
۵۲	۵۱	۵۲
۵۳	۵۲	۵۳
۵۴	۵۳	۵۴
۵۵	۵۴	۵۵
۵۶	۵۵	۵۶
۵۷	۵۶	۵۷
۵۸	۵۷	۵۸
۵۹	۵۸	۵۹
۶۰	۵۹	۶۰
۶۱	۶۰	۶۱
۶۲	۶۱	۶۲
۶۳	۶۲	۶۳
۶۴	۶۳	۶۴
۶۵	۶۴	۶۵
۶۶	۶۵	۶۶
۶۷	۶۶	۶۷
۶۸	۶۷	۶۸
۶۹	۶۸	۶۹
۷۰	۶۹	۷۰
۷۱	۷۰	۷۱
۷۲	۷۱	۷۲
۷۳	۷۲	۷۳
۷۴	۷۳	۷۴
۷۵	۷۴	۷۵
۷۶	۷۵	۷۶
۷۷	۷۶	۷۷
۷۸	۷۷	۷۸
۷۹	۷۸	۷۹
۸۰	۷۹	۸۰
۸۱	۸۰	۸۱
۸۲	۸۱	۸۲
۸۳	۸۲	۸۳
۸۴	۸۳	۸۴
۸۵	۸۴	۸۵
۸۶	۸۵	۸۶
۸۷	۸۶	۸۷
۸۸	۸۷	۸۸
۸۹	۸۸	۸۹
۹۰	۸۹	۹۰
۹۱	۹۰	۹۱
۹۲	۹۱	۹۲
۹۳	۹۲	۹۳
۹۴	۹۳	۹۴
۹۵	۹۴	۹۵
۹۶	۹۵	۹۶
۹۷	۹۶	۹۷
۹۸	۹۷	۹۸
۹۹	۹۸	۹۹
۱۰۰	۹۹	۱۰۰

۱۷
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

آج اور شابت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی جو ایلا ہے زبردست

۲۵
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ

سودنیا اور آخرت اللہ ہی کے لئے ہے

۱۳
۹۲
وَرَأَىٰ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

اور مجھے شک ہمارے ہی لئے دنیا اور آخرت ہے

رزاقیت

۱۲
وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ

اور وہ کھانا کھلاتا ہے اور اس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا

۱۵۲
۴
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِسْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

اور غلٹی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم ہی تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی

۱۱
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

(کے نبی) بوجھ کر تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے یا وہ کون جو کانوں اور آنکھوں کا مالک

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ

ہے اور مردے سے زندے اور زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے۔ اور کام کی تدبیر کون کرتا ہے۔

فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

وہ اس کا بھی جواب ہی دیں گے کہ اللہ۔ تو کہنا کہ پھر تم (اس سے) ڈرتے نہیں؟

۱۳
۲۱
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِسْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

اور غلٹی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں

۱۳۲
۲۰
لَا نَسْأَلُكَ بِرَأْسِكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ

(اے نبی) ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیتے ہیں

۴۵
۲۶
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

اور (اللہ وہ ہے) جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

۴۲
۲۴
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَاعَةَ اللَّهِ

جس کو کون پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ کرے گا اور آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون

صَعَّ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

دیتا ہے کیا اللہ کیساتھ اور کوئی معبود ہے؟ (اے نبی) کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی سند لاؤ۔

۲۹ ۵۹ وَكَانَ مِنْ دَابَّتِهِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ يُرْزِقُهَا وَإِن يَأْكُمِ

اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی
۳۳ ۲۲ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَى
(اے نبی) بتیہ کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے کہہ دے کہ اللہ ہی۔ اور ہم یا تم یا توہریت
ہدای او فی ضلّٰل مبین ۰

ہمیں یا کھل گمراہی میں۔

۳۵ ۲۰ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
لوگو! اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسکو یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے۔ جو تمہیں آسمان اور زمین سے
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَإِلَهِ إِلَّا هُوَ فَاذْكُرُونِ ۰

روزی دیتا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں سے (حق سے) لوٹنے جاتے ہو؟

۴۲ ۲۱ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۰
بھلا اگر وہ اپنی روزی روک لے تو وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا توئی نہیں بلکہ وہ سرکش اور (حق سے) بھاگنے میں لگے
۵۱ ۵۸ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۰

بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے بڑی مضبوط قوت والا

۴۶ ۴۰ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۰

وہ جس نے بھوک میں انہیں کھانا دیا۔

۴۴ ۲۶ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۰

۲۔ اللہ جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔

۴۷ ۲۷ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۰ وَالَّذِينَ يَبِغُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ

۳۔ اللہ جیسا چاہتا ہے روزی فراخ یا تنگ کرتا ہے

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۰ وَالَّذِينَ يَبِغُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۰

اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی چند روزہ ٹالو ہے۔

۴۸ ۳۰ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۰

(اے نبی) بے شک تیرا رب روزی فراخ کرے گا جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے

۴۸ ۲۸ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۰

وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔

۴۹ ۴۲ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۰

اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے

۳۳
 اَوَّلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

کیا نہیں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے
 لَا اٰتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

۳۴
 فَاِنَّ سَآءِیَّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَاَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

(اے نبی) کہہ دے کہ بے شک میرا پروردگار جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور (جس کیلئے)
 لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

۳۵
 قُلْ اِنَّ سَآءِیَّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَا

(اے نبی) کہہ دے کہ بے شک میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے
 اَنْفَقَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۝

۵۶
 اَوَّلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

کیا نہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا
 لَا اٰتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

۱۲
 یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ ۝

۲۸
 وَاللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝

۳۴
 اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝

۲۶
 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝

۱۹
 اللّٰهُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِهٖ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ ۝

۱۱
 وَاَمْرًا زُقْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّاٰزِقِیْنَ ۝

اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جسے چاہتا ہے حساب روزی دیتا ہے
 اور تو جسے چاہے بے حساب روزی دے

۱۲
 اللہ جسے چاہے بے
 حساب روزی دیتا ہے

۱۱
 اللہ سب سے بہتر
 روزی دینے والا ہے

اور تو جسے چاہے بے حساب روزی دے اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔

۵۸
۲۶ ○ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ○

اور بے شک اللہ ہی بہتر روزی دینے والا ہے

۴۷
۲۳ ○ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ○

اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے

۱۱
۶ ○ وَاللَّهُ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ○

اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے

اجر و ثواب

۱۴۳
۲ ○ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ○

اور اللہ ایسا نہیں کرے کہ تمہارے ایمان کو اکارت کر دے۔

۱۔ اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا

۱۲
۵ ○ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ○

اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو توت دی اور اللہ کو

وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا يَفِرَّنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلَتْكُمْ ○

ابھی طرح قرض دیا تو میں نہ دردم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ○

جگاہوں کے (درختوں) کے نیچے نہریں جاری ہیں۔

۲۔ اللہ نیکیوں کا عوض دو چند دیتا ہے۔

۱۴۵
۲ ○ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ○

وہ کون ہے جو اللہ کو عمل کے ساتھ قرض دے کر وہ اس کے لئے اس کو کئی گنا کرے میت سے مرتب تک

وَمَا كَانَ لِغَيْرِكُمْ مِنْ ذَلِكَ ○

اور اگر (ایک ذرہ) نیکی ہو تو وہ اس کو دو چند کر دے گا۔ اور اپنے پاس سے بڑا بھاری ثواب دے گا

۱۱
۵ ○ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ○

وہ کون ہے جو اللہ کو عمل سے قرض دے کر وہ اس کیلئے اس کو دو چند کر دے اور اس کے لئے عزت کا اجر ہو

۱۸
۵ ○ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ ○

بے شک خیرات دینے والے مرد اور خیرات دینے والی عورتیں اور وہ جو اللہ کو عمل کے ساتھ قرض دیتے ہیں انہیں

لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ○

دو چند دیا جائے گا اور ان کے لئے باعزت اجر ہے

۱۶
۶ ○ إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعَفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ○

اگر تم اللہ کو جس طرح قرض دو گے وہ اس کو تمہارے لئے دو چند کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ قدر دان بڑا دانا ہے

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا مِنْهَا
اور جو دنیا کا ثواب چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اسی میں سے
وَسَجِّزِي الشُّكْرَ بَيْنَهُمْ ۝

۱۳۴
۱- اللہ کے پاس دنیا اور
آخرت دونوں کا ثواب
موجود ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝

۱۳۵

جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝
اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض فتنہ ہیں اور اللہ جو ہے اس کے پاس بڑا بھاری ثواب ہے
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

۲۸
۲- اللہ کے پاس اجرِ عظیم

۲۲

بے شک اللہ کے پاس بڑا بھاری ثواب ہے
إِنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝
تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس بڑا بھاری ثواب ہے

۱۵
۶۴

انعام اور نعمتیں

وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۝

۳۳
۱۴
۱- اللہ کی نعمتوں کا شمار
نہیں ہو سکتا

وَمَا يَكْفُرُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَلَيْسَ أَلْيَسَ ۝

۵۳
۱۴
۲- ہر نعمت اللہ ہی کی
طرف سے ہے

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَلْجَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ

۸۱
۱۶
۳- اللہ کی عام نعمتیں

اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لئے سایہ پیدا کیا اور پہاڑوں میں تمہارے لئے چھینے
سَرَابِيلَ تَفِيكُمُ مِنَ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُمُ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
کی گھنٹی بنا لیں اور تمہارے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں اور وہ کرتے جو تمہیں تمہاری لڑائی
لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ۝

(کی زد) سے بچاتے ہیں یوں وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرماں بردار ہو
الْمُتَرَوِّا أَنِ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَنَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَنَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا

۲۰
۳۱

عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۝

اور اپنی نعمتیں تم پر کامل کیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی

۲۱ ۲۱ ۲۱
الْمَرْزَأَانَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ

کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اشد کے فقل سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں

۲۲ ۲۲ ۲۲
وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَكَ وَأَبْكَى ۝ وَإِنَّهُ هُوَ آمَاتٌ وَآخِي ۝ ۲۵ ۲۵ ۲۵

اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رو دلاتا ہے۔ اور وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ اور

۲۶ ۲۶ ۲۶
إِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۝

اسی نے زار اور مادہ دو قسمیں پیدا کیں۔ ایک نطفہ سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے

۲۷ ۲۷ ۲۷
وَإِنَّ عَلَيْهِ الشَّاهِدَةَ الْآخِرَى ۝ وَإِنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى ۝

اور اسی کے ذمے کھیل پیدائش ہے۔ اور اسی نے دولت مند اور خزانے والا کیا

۲۸ ۲۸ ۲۸
وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى ۝ وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادَانَ الْأُولَى ۝

اور وہی شعری (ستارے) کا پروردگار ہے۔ اور اسی نے عار اول کو ہلاک کیا

۲۹ ۲۹ ۲۹
وَتَمُودَ إِذْ كَفَى ۝ وَتَوْمَ نُوْحٍ إِذْ أَنْهَىٰ جُرُودَهُمْ أَنْ نُورَا

اور تمود کو۔ پس باقی نہ چھوڑا۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بے شک وہ بڑے ظالم اور

۳۰ ۳۰ ۳۰
هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَى ۝ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝ فَغَشَّاهَا مَا

سرکش تھے۔ اور ان بستیوں کو جو اٹ دی گئی تھیں دے مارا۔ پس اس پر

۳۱ ۳۱ ۳۱
غَشَّاهَا ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝

وہ چیز بھائی جو بھائی۔ تو تو اپنے پروردگار کی کسی نعمت میں شک کرتا ہے؟

۳۲ ۳۲ ۳۲
الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

رحمن نے قرآن پڑھایا اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو بونا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے

۳۳ ۳۳ ۳۳
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ ۳۶ ۳۶ ۳۶

ہیں اور بوٹیاں اور درخت (اس کو) سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان بلند کیا۔ اور ترازو قائم کی۔ کرتونے

۳۷ ۳۷ ۳۷
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ ۳۹ ۳۹ ۳۹

میں مد سے تجاوز نہ کرو اور انسان کے ساتھ پورا تولو۔ اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لئے

۴۰ ۴۰ ۴۰
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا

زمین کھپائی۔ اس میں سب سے اور کھجور کے درخت ہیں۔ جن کے خوشوں پر غلات ہوتے ہیں۔

۴۱ ۴۱ ۴۱
لِلنَّاسِ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذَرْبًا

اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اسے کروہ جن دانس) تم اپنے پروردگار کی

۳۲۔ انسان کس کس نعمت
کی ناشکری کرے گا؟

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ خَلَقَ

کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے۔ اسی نے انسان کو ٹھیکے کی طرح کی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا۔

الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ حَمِئٍ ۝

اور اسی نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے۔ وہی

تَا ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ

دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ تو اسے (روشنی و تاریکی) تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت

الْمَغْرِبَيْنِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

کو نہ مانو گے۔ اسی نے دو دریا چلائے جو آپس میں ملتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک آڑیے لڑکھو

يَلْتَقِيَنِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِي ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

اس سے (بڑھ نہیں سکتے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے۔ ان دونوں دریاؤں میں

۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا التُّورُ وَالسَّرَّاجَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے اور جہاز بھی اسی کے ہیں

۝ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

جو سمندری پہاڑ کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے۔ جو

تُكَذِّبِينَ ۝ كُلٌّ مِنْ عِلْمِهَا فَاِنَّ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارا پروردگار کی ذات جو صاحب عظمت اور بزرگ ہے باقی رہ جائے گی

وَالْاَكْرَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے سب اسی سے مانگتا ہے

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

اور وہ ہر روز مخلوق کے کام میں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اسے دونوں گروہوں

۝ سَنَفَعُكُمْ نَكْرًا آيَةَ الثَّقَلَيْنِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اسے گروہ

۝ يَبْعَثُ الْجِبْنَ وَالْاِنْسَانَ اِنْ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفَعُوْا مِنْ اَفْطَارِ السَّمٰوٰتِ

جن و انس اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو تمہیں جاؤ۔ اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے

وَالْاَرْضِ فَاَنْفَعُوْا وَاِذَا تَنْفَعُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

ہی کے نہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دُھواں

تُكَذِّبِينَ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئٌ مِّنْ ثَابِرَةٍ وَنَحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

برسایا جائے تو تم دفع نہ کر سکو گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ پھر جب آسمان

۳۷ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

پہلے ہونے کا تو وہ تیل کی طرح سٹخ ہو جائیگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟

۳۸ ۞ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

میں روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بابت پوچھا جائے گا اور نہ کسی بن سے۔ تو تم اپنے

۳۹ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے، گنہگار اپنے بھروسے ہی سے پہچانے جائیں گے۔ تو

۴۰ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

پہچاننے کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت

۴۱ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

کو نہ مانو گے؟ یہی وہ دوزخ ہے جسے گنہگار لوگ مجھوٹ سمجھتے تھے۔ وہ کھوچے

۴۲ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

پانی کے درمیان دوڑتے پھریں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اور جو

۴۳ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراس کے لئے دوزخ میں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی

۴۴ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

نعمت کو نہ مانو گے، وہ باغ بیت سے انہیوں والے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان میں

۴۵ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

روشنی بھی بہے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان میں سب سے دور

۴۶ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

گل ناکھلے زوچیں ۰ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ (ابن جنت) ایسے فرشتوں پر جن کے

۴۷ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

ہلے فرشتے بطائینہما من استبرق وجنا الجنتین دان ۰ تو تم اپنے پروردگار

۴۸ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ ان میں بیچی لکڑی والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان نے چھوڑا

۴۹ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

قبلہم ولا جان ۰ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ گویا وہ یا قوت اور مرغان ہیں تو تم

۵۰ ۞ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كُنْتُمْ

ایمان قوت والہرجان ۰ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟

جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ ۝ ۶۳ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْدِيبًا ۝ ۶۴ ۝

نیک کے سوا کچھ اور بھی ہے؛ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ اور ان دونوں میں سے دو انہما جنتین ۝ ۶۳ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْدِيبًا ۝ ۶۴ ۝ مُذْ هَامَانٍ ۝

باغوں کے علاوہ دو بلخ اور میں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے دونوں نہایت سرسبز و شاداب ہیں

۶۵ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْدِيبًا ۝ ۶۶ ۝ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتِنِ ۝ ۶۷ ۝

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؛ ان میں دو چشمے اہل رب سے ہوں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی

۶۸ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْدِيبًا ۝ ۶۹ ۝ فِيهِمَا خَيْرَاتُ حَسَانٍ ۝ ۷۰ ۝

پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے۔ اس میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی تو تم اپنے پروردگار کی

۷۱ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْدِيبًا ۝ ۷۲ ۝ لَمْ يَكُنْ لَكَ قَبْلَهُمْ وَلَا

۷۳ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْدِيبًا ۝ ۷۴ ۝ مَنَّكَ مِنْ عَلَى سَفَرٍ ۝

۷۵ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْدِيبًا ۝ ۷۶ ۝ تَبَارَكَ

۷۷ ۝ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمْ تَكْدِيبًا ۝ ۷۸ ۝

مشیت باری تعالیٰ شانہ

بُضِلَ بِهِ كَثِيرًا وَبَهِيَ بِهِ كَثِيرًا ۝

اللہ اس (مثال) سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے

وَمَنْ هُمْ مَنِ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ ۝ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الْعِصْمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝

اور (اے نبی) ان میں سے بعض وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تو بہر و نگو ساد لگا اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں

۱۔ ہدایت اور گمراہی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے

۳۱ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۝

ہر ان میں سے بعض وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تو اندھوں کو راہ دکھا دے گا اگرچہ انہیں نظر نہ آتا ہو۔

۱۰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ

اور (نبی) بے شک ہم نے تجھ سے پہلے پہلے پیروں کی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور جو رسول بھی ان کے

۱۱ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

پاس آتا تھا اسی کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ اسی طرح لا انکار ہم گنہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں

۱۲ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ۝

کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بڑھ چکی ہے

۳۶ إِنْ نَحْرُصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

(اے نبی) اگر تو ان کی ہدایت پر حرصیں ہو تو کچھ شک نہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو دوسروں کو گمراہ

تَنْصِرِينَ ۝

کرتا ہے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے

۳۳ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝

اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی راہ دکھلاتا ہے

۱۴ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے

۲۷ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝

(اے نبی) ان کو ہدایت بر لانا تیرا کام نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

۲۳ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے

۸۹ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝

یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے

۲۵ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور اللہ سہ متی کے گھر کی طرف بلا تا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا تا ہے

۱۶ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۝

اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے

۲ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۝

اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے

۱۔ اللہ جسے چاہتا ہے
ہدایت کرتا ہے

۵۶
۲۸
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
(اے نبی) اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تو جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت
بِالْمُهْتَدِينَ ۝

کرتا ہے اور وہی ان لوگوں کو خوب طرح جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں

۲۲
۳۵
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا
اور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تو انہیں نہیں سنا
أَنْتَ بِسَمْعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ۝ ۳۵ إِنَّ أَنْتَ لَآلَانْدِي ۝

سکتا جو قبروں میں (گڑے) ہیں۔ تو تو صرف ایک ڈرانے والا ہے

۲۲
۳۹
ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ

یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے

۵۲
۶۲
يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس (قرآن) سے ہدایت کرتے ہیں

۲۹
۴
مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۖ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے

۱۵۵
۷
تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۖ

(اے اللہ) تو اس (نفتے) سے جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت کرے

۲۶
۱۳
قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِنُفْلٍ مِّنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۝

(اے نبی) کہہ دے کہ بیشک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اسے اپنی طرف

۱۲
۱۲
فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ

سوائے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

۹
۱۶
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور تم سب کو ایک ہی فریق کر دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے

مَنْ يَشَاءُ ۖ وَلَتَسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور تم سے ان عملوں کی بابت ضرور پوچھا جائے گا جو (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

۸
۳۵
أَفَسِنَّ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ ۖ فَرَاةٌ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ۖ

تو کیا وہ شخص جس کو اس کے بڑے عمل اچھے کر کے دکھلائے گئے اور اس نے ان کو اچھا سمجھا (ہدایت پاسکتا ہے؟)

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۖ

بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے تو ان پر حسرت کھا کھا کر نہیں تیری جان

۲۔ اللہ جسے چاہے گمراہ
کرے جسے چاہے ہدایت
دے۔

یہی ہے

۱۳۱ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ

یوں ہی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

۱۳۲ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْتَدُوْا مِّنْ اَضَلِّ اللّٰهِ وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَلَنْ يَجِدَ
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے اُسے ہدایت کرو اور (اے نبی) جسے اللہ گمراہ کرے
لَهُ سَبِيْلًا

ہے۔ جسے اللہ گمراہ کرے
اُسے کوئی ہدایت کرنے
والا نہیں۔

اس کے لئے تو ہرگز کوئی راہ ہدایت دہائے گا

۱۳۳ وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا

اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لئے تو ہرگز کوئی راہ نہ پائے گا

۱۳۴ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے لئے تو اللہ کی طرف سے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ

لَمْ يُمِدِّ اللّٰهُ اَنْ يُطَيِّرْ قُلُوْبَهُمْ

ہی کو یہ منظور نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے

۱۳۵ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۗ وَمَنْ يُضِلِّ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پر ہے اور جسے گمراہ کرے وہی لوگ گھٹائے میں ہیں

۱۳۶ مَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

جسے اللہ گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے

۱۳۷ وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

اور جسے اللہ گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے

۱۳۸ وَمَنْ يَّمِيْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۗ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِنَا

اور جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پر ہے اور جسے وہ گمراہ کرے اُن کیلئے تو اُسکے سوا ہرگز دوست نہ پائے گا

۱۳۹ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۗ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وٰلِيًا مِّنْ دُوْنِنَا

جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پر ہے اور جسے وہ گمراہ کرے اس کیلئے تو ہرگز کوئی راہ تہا نیوالا دوست نہ پائے گا

۱۴۰ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرِ

اور جسے اللہ نے روشنی نہیں دی اس کے لئے کوئی روشنی نہیں ہے

۱۴۱ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ

بلکہ ظالم بغیر علم کے اپنی خواہشات نفسانی پر چلتے ہیں سو جسے اللہ گمراہ کرے اُسے کون ہدایت کر سکتا ہے

اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ مُّصْرِیْنَ

اور اُن کا کوئی مددگار نہیں ہے

۳۳ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَرِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۝

اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے گمراہ کرنے کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہے

۳۴ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝

اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لئے کوئی راہ ہدایت نہیں ہے

۳۵ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

سو اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اُسے کون ہدایت کرے تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے

۳۶ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۝

اور جسے اللہ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔

۳۷ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدَى الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں سیدھی راہ پر لگانے والا ہے۔

۳۸ وَيَهْدِي إِلَى الْبَيْرِ مَنْ يُنِيبُ ۝

اور جو رجوع ہوتا ہے اُسے وہ اپنی طرف لگاتا ہے

۳۹ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

اور اللہ بدکاروں کو ہدایت نہیں کرتا

۴۰ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

بے شک اللہ بدکار لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۴۱ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۴۲ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۴۳ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۴۴ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۴۵ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

اور یہ کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۴۶ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۝

بے شک اللہ کسی جھوٹے ناشکر گزار کو ہدایت نہیں کرتا۔

۵۔ جسے اللہ ہدایت کرے اُسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں

۶۔ اللہ مومنوں کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے

۷۔ اللہ بدکاروں کو ہدایت نہیں کرتا

۸۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا

۹۔ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

۱۰۔ اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں کرتا

۵۸
 ۵۸
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

بے شک اللہ کسی جھوٹے سے نکل جانے والے کو ہدایت نہیں کرتا

۱۰
 ۲
 فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا ۝ سوائے ان کا مرض (تفاق) اور برصا دیا

۱۱- اللہ نے منافقوں کو مرض بڑھایا

۱۵
 ۳
 وَيَهْدِيهِمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ اور اللہ انہیں انہیں کی گمراہی میں بڑھاتا ہے کہ جھٹکتے رہیں

۱۲- اللہ منافقوں اور کافروں

۱۱۱
 ۴
 وَنُقَلِّبُ أَقْبَادَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْنَا

کی گمراہی بڑھاتا ہے۔

اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو (حق کی طرف سے) پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی دفعہ ایمان

۱۸۶
 ۷
 هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

نہیں لے گئے تھے اور ہم انہیں ان کی گمراہی میں جھٹکتا چھوڑ دیں گے

۱۱
 ۳۰
 وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

اور وہ انہیں ان کی گمراہی میں جھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔

۲۶
 ۲
 فَذَرْنَاهُمْ لِمَا يَشَاءُونَ لِقَاءَ نَارٍ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

سو بڑا رک ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی گمراہی میں جھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔

۲۶
 ۲
 وَمَا يُغْنِي لَهُمْ إِلَّا الشَّقِيقِينَ ۝ الَّذِينَ يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ

۱۳- اللہ بدکاروں کو گمراہ

اور اس (شمال) سے بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد توڑ

کرتے

بَعْدَ مِيثَاقِهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتَلَ وَيُفْسِدُونَ

ڈالتے ہیں۔ اور جس رشتہ کے ملانے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور رک

۷۶
 ۳
 فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

میں نساہ ڈالتے ہیں وہی لوگ گھانے میں ہیں۔

۷۶
 ۳
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝

اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے

۱۴- اللہ کافروں کو

گمراہ کرتا ہے۔

۷۶
 ۱۳
 وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۝

اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے

۱۵- اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے

۱۷
 ۱۷
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ۝

یوں اللہ اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے باہر نکل جانے والا (دین میں) شک کرنے والا ہے

۱۶- اللہ زیادتی کرنے والوں

کو گمراہ کرتا ہے

۱۷
 ۱۷
 سَاءَ صُغُرَتْ عَنْ أَبِي الدَّيْنِ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ

۱۷- اللہ شکبوروں کو اپنی

آیتوں سے پھیرتا ہے

میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دینگا جو زمین میں ناحق اڑتے ہیں اور اگر وہ ساری نشانیاں

ان تیروا کل آية لا يؤمنوا بها وإن تروا سبيل الرشد لا تجنوا

ہیں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر نیکی کی راہ دیکھیں تو اسے اپنی راہ نہ بنائیں۔

سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا

اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اُسے اپنی راہ بنا لیں یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

جھٹلایا اور وہ اُن سے غافل رہے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۝

اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو بعد اسکے کہ وہ انہیں ہدایت کر چکا ہے جب تک کہ ان کیلئے وہ باتیں بیان نہ کر دے

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے سو وہ بہت ٹھوٹا ایمان لاتے ہیں

وَنُطْبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَا لَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ كَذَلِكَ يَطْبَعُ

اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں سو وہ نہیں سنتے۔

اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝

کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیا کرتا ہے

وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے سو وہ کچھ نہیں جانتے

كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝

یوں ہم حد سے باہر نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَ

یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی

أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

یوں اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ هَاكُورًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر سند کے جو (اللہ کی طرف سے) اُن کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک

وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ ۝

اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے ہیں بڑی بیزاری کی بات ہے میں اللہ تکبر کرنے والے رکش کے ہر دل پر مہر لگا دیتا ہے

اللہ اللہ نیک راہ بیان کرنے
بغیر کسی کو گمراہ نہیں کرتا
۱۔ اللہ کافروں کے دلوں
پر مہر کرتا ہے

اللہ اللہ نیک راہ بیان کرنے

بغیر کسی کو گمراہ نہیں کرتا

۱۔ اللہ کافروں کے دلوں
پر مہر کرتا ہے

اللہ اللہ نیک راہ بیان کرنے

بغیر کسی کو گمراہ نہیں کرتا

۱۔ اللہ کافروں کے دلوں
پر مہر کرتا ہے

اللہ اللہ نیک راہ بیان کرنے

بغیر کسی کو گمراہ نہیں کرتا

۲۳
۵۸
اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاَءَ هَوَاً وَاَصْلَهُ اللَّهُ عَلَيَّ عِزًّا وَخَتَمَ عَلَيَّ

(اسے نبی) بھلا تو نے اس شمس کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا سبب و بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم سمیعہ و قلبیہ و جعل علی بصرہ غشوة فمن يهدى الله من بعد الله فلا تنكرون ○

گمراہ کرنے کے بعد اسے کون ہدایت کرے تو کیا تم نصیحت نہیں کرتے

۱۶
۶۷
اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ ○

ہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے بہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے ہیں

۲۵
۶۶
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدَاىِ

اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا

۱۵۰
۶۶
فَلِئَلَّا يَهْتَمُّ الْمُجْرِمُ بِالْبَالِغَةِ فُلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ○

(اسے نبی) کہہ دے کہ کامل دلیل اللہ ہی کی ہے وہ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر کر دیتا

۳۱
۱۳
اَفَلَمْ يَأْتِ شِرِّ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَوْشِيَاءَ اللَّهُ لَهْدِي النَّاسَ جَمِيعًا

تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں مہربان آیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت پر کر دیتا

۹
۱۶
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ○

اور سیدھا راستہ اللہ ہی تک پہنچتا ہے اور کوئی ان میں ٹیڑھا ہے اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت پر کر دیتا۔

۱۳
۱۳
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ

اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شمس کو اس کی ہدایت دیدیتے لیکن میری بات پوری ہونے میں ضرور جنوں

۱۳
۱۳
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

اور آدمیوں سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔

۱۸
۱۳
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا آتَاكُمْ

اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فریق کر دیتا لیکن اس لئے نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں میں

فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ○

جو اس نے تمہیں دی ہیں آزمائے تو تم نیکیوں کی طرف لپکو

۱۱۸
۱۱
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَزَالُوا مُخْتَلِفِينَ ○

اور (اسے نبی) اگر نیزا بعد از گلہ چاہتا تو ضرور سب آدمیوں کو ایک ہی فریق کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے

۱۱۹
۱۱
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ

رہیں گے گمراہوں وہ جس پر نیزا پروردگار رحم فرمائے۔ اور اسی اختلاف کے لئے اس نے انہیں پیدا کیا ہے

۲۵- اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر کر دیتا

۱۸- اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی مذہب پر کر دیتا

جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

اور تیرے پروردگار کی بات پوری ہوئی کہ میں ضرور دوزخ کو جنوں اور آدمیوں سب ہی سے بھر دوں گا

۹۳
۱۶
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور تمہیں ایک ہی فریق کر دیتا۔

۸
۳۲
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور انہیں ایک ہی فریق کر دیتا

۱۰۸
۶
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور (اے نبی) ہم نے تجھے ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور تو ان پر دار و فرائض نہیں ہے

۱۱۳
۶
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى

اور اسی نے نبی جس طرح یہ لوگ تیرے دشمن ہو رہے ہیں (اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو ہر ایک نبی

بَعْضٍ زخِرفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ

کا دشمن بنا دیا تھا کہ ان کے بعض۔ بعض کی طرف فریب دینے کے لئے طمع کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں

وَمَا يَفْقَهُونَ ۝

تو تو انہیں اور ان کے افتراء کو سمجھو۔

۱۳۸
۶
وَكَذَٰلِكَ زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُردُّوهُمْ

اور اسی طرح بہت سے مشرکین کی نظر میں ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے انکی اولاد کا قتل کرنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ وہ

وَلِيُتَّبِعُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْقَهُونَ ۝

انکو ہلاک کریں اور تاکہ ان پر انکا دین مشتبہ کریں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے تو انہیں اور انکی افتراء کو سمجھو۔

۲۵
۲
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوا الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان سے پیچھے ہوئے اس بات کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آچکی تھیں

الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ

آپس میں نہ لاتے لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا سو کوئی ان میں سے ایمان لایا اور کسی نے ان

شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا قَتْلًا

میں سے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔

۲۶
۲
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنْ أَتَىٰ قَائِلًا هَبْ لِي مِن بَشَرٍ مِّثْلِكَ ۚ

وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے

۲۷
۲
أَوْ يَزْوِجَهُمْ ذَكَرْنَا قُرْآنًا نَّشَأَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے بیشک وہ جاننے والا قدرت والا ہے

۲۲۔ اللہ چاہتا تو شرک ہوتا

۲۳۔ اللہ چاہتا تو شیاطین اور جنات کا فریب نہ چلتا

۲۴۔ اللہ چاہتا تو مشرک اپنی اولاد کو قتل نہ کرتے

۲۵۔ اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں قتال نہ کرتے

۲۶۔ اللہ جسے چاہے لڑکا لڑکی دیتا ہے

۲۷۔ جسے چاہے دونوں دیتا ہے

۲۸۳ ۲۸۳ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ

۲۸۸۔ اللہ جسے چاہے سزا دے
کے جسے چاہے عذاب دے

۱۲۸ ۱۲۸ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۱۸ ۱۸ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ

وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔

۲۰ ۲۰ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ

وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخشتا ہے

۱۵۶ ۱۵۶ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ

(اللہ نے) فرمایا میرا عذاب جو ہے جسے میں چاہتا ہوں پہنچانا ہوں

۱۳۲ ۱۳۲ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۵۲ ۵۲ سَابِقُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ لِي شَأِيرَ حُكْمِكُمْ وَأُوْدَانَ لِي شَأِيرَ عَذَابِكُمْ

۲۹۔ اللہ جس پر چاہے تم کو
کرتے جسے چاہے عذاب دے

تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے

۲۱ ۲۱ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ

وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے

۲۴۷ ۲۴۷ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَالَكُمْ مَن يَشَاءُ

۳۰۔ اللہ جسے چاہے مالک
دیتا ہے

اور اللہ اپنا مالک جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

۲۵ ۲۵ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَالِ تُوْتِي الْمَالِ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَالِ مَن تَشَاءُ

۳۱۔ اللہ جس سے چاہے
مالک عین لے

(اے نبی یوں) کہا کر اے میرے اللہ مالک کے مالک تو جسے چاہے مالک دے اور جس سے چاہے مالک نکالے

۲۶۱ ۲۶۱ وَاللَّهُ لِيُضْعِفَ لِمَن يَشَاءُ

۳۲۔ اللہ جسے چاہے دو
چند دے

اور اللہ جسے چاہتا ہے دو چند دیتا ہے۔

۶۴ ۶۴ بَلْ يَلَّاكُم مَّبْسُوطَاتِنَ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

۳۳۔ اللہ جس طرح چاہے
خرچ کرتا ہے۔

بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے

۱۵ ۱۵ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ

۳۴۔ اللہ جس کی چاہے
توبہ قبول کرتا ہے

اور اللہ جس پر چاہتا ہے مہربان ہوتا ہے۔

۲۷ ۲۷ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَن بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ

پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہتا ہے مہربان ہوتا ہے

<p>۲۵ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ</p>	<p>۳۵۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت</p>
<p>اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے بیشک تو ہر شے پر قادر ہے</p>	
<p>۸۵ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا</p>	<p>۳۶۔ اللہ ہر چیز کا حسد دیتا ہے</p>
<p>اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔</p>	
<p>۶ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ</p>	<p>۳۷۔ اللہ جس پر چاہے اپنے رسول کو نازل فرماتا ہے</p>
<p>لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے</p>	
<p>۴۹ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكُونَ مَن يَشَاءُ</p>	<p>۳۸۔ اللہ جسے چاہے پاک کرے۔</p>
<p>راے نبی) کیا تو نے ان کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک بتلاتے ہیں بلکہ اللہ جس کو چاہے پاک</p>	
<p>لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا</p>	
<p>کرے اور ان پر تاگہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائیگا</p>	
<p>۲۱ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَزْكِي مَن يَشَاءُ</p>	
<p>لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے</p>	
<p>۱۱ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَدْعُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ</p>	<p>۳۹۔ اللہ جس پر چاہے احسان کرے</p>
<p>لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔</p>	
<p>۱۷۸ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَن يَشَاءُ</p>	<p>۴۰۔ اللہ رسالت کے لئے جسے چاہے چن لے</p>
<p>اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے</p>	
<p>۱۳۲ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ</p>	
<p>اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور جو اسکی طرف رجوع ہوتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت کرتا ہے</p>	
<p>۱۵ مَرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ</p>	<p>۴۱۔ اللہ جس پر چاہے اپنے حکم سے روح کا لفظ کرے</p>
<p>وہ اونچے درجے والا ہے عرش کا مالک اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کا لفظ</p>	
<p>۱۱۱ مَن يَشَاءُ</p>	
<p>ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں</p>	
<p>۲۶۹ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا</p>	<p>۴۲۔ اللہ جسے چاہے حکمت دے۔</p>
<p>اور جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت دی گئی اسے بڑی خیر دی گئی اور</p>	

تَبْرُكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

۱/۲۵

برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر (حق و باطل میں) فرق کرنا قرآن اتارا تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرانے والا ہو

تَبْرُكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

۱۰/۲۵

برکت والا ہے وہ اگر چاہے تو تیرے لئے اس سے بہتر سامان پیدا کرے (یعنی باغ جن کے (درختوں کے)

الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا

نیچے نہریں جاری ہوں اور تیرے لئے محل بنا دے

تَبْرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَهْرًا مُنِيرًا

۴۱/۲۵

برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں (سورج کا) ایک چراغ اور دشمنی دینے والا چاند رکھا

فَتَبْرُكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

۶۲/۲۵

سو برکت والا ہے اللہ جہان کا پروردگار

وَتَبْرُكَ الَّذِي لَهُ مَلَأُكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

۸۵/۳۳

اور برکت والا ہے وہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے

تَبْرُكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

۷۸/۵۵

برکت والا ہے تیرے پروردگار کا نام جو بزرگی اور عزت والا ہے

تَبْرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

۱/۶۶

برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے

قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مِدًّا دَأَىٰ تَكَلِّمَتِ سَارِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

۱۰۹/۱۸

(اے نبی) کہہ دے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات (حکمت کہنے) کے لئے سمندر سیاہی بن جائے تو ضرور سمندر اس

كَلِمَتِ سَارِي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدًّا

۲۶/۳۱

سے پہلے ہی ختم ہو جائے اور میرے پروردگار کے کلمات (حکمت) ختم ہوں اگرچہ ہم اتنی ہی مدد اور لائیں

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامًا وَالْبَحْرُ يَمْدُةٌ مِنْ بَعْدِهَا

۲۶/۳۱

اور اگر وہ تمام درخت جو زمین میں ہیں قلم بن جائیں اور سمندر ان کی سیاہی اس کے بعد سات سمندر

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور - تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

۲۶/۳۱

اور اللہ کی بات جو ہے وہی اونچی ہے

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ

۱۱۱/۷۴

۴- اللہ کے لشکر کو سوائے

اس کے کوئی نہیں جانتا

اور اللہ ہی ہے

Marfat.com

۳۵ ۲۴	اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ه	۵۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے
۱۱ ۴۲	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ه	۶۔ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں
۴۵ ۱۹	هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ه	۷۔ اللہ کا ہم نام کوئی نہیں
۳ ۶۷	وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ه	۸۔ اللہ کی شان عال ہے
۱۱۶ ۲۳	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ه	۹۔ اللہ بڑے درجے والا ہے
۶ ۱۶	وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ه	۱۰۔ اللہ کی مثل اعلیٰ ہے
۲۷ ۳۱	وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ه وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ه	۱۱۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی کھادت اعلیٰ ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے
۲۷ ۳۱	وَأَلَّهُ الْكَبِيرُ يَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ه وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ه	۱۲۔ آسمانوں اور زمین میں اس کے لئے بڑائی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے
۲۷ ۵۵	وَيُنْقِضُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ه	۱۳۔ اللہ صاحب جلال و اکرام ہے
۷۸ ۵۵	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ه	۱۴۔ اللہ عرش پر ہے
۵ ۲۰	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ه	۱۵۔ اللہ عرش کا مالک ہے
۱۲۹ ۹	وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ه	۱۶۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے
۲۲ ۲۱	فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ه	۱۷۔ سو اللہ عرش کا مالک ہے ان اوصاف سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں
۱۱۶ ۲۳	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيمِ ه	۱۸۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش کبیم کا مالک ہے۔

۲۶
۲۶
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے
سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

آسمانوں اور زمین کا پروردگار عرش کا مالک ان اوصاف سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں

۱۵
۸۵
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

وہ عرش بزرگ کا مالک ہے

۲۵۵
۲
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۝

اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ۝

اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے اور ان سے پوچھا جائیگا

۲۹
۵۵
يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس سے مانگتے ہیں

۲۹
۵۵
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝

ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے

۳۷
۷۸
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ لَا يَمِيْلُ مِنْهُ خِطَابًا ۝

آسمانوں اور زمین اور انکے درمیان کی چیزوں کا پروردگار رحمن وہ اس سے ایک بات کر نیکا بھی اختیار نہیں رکھتے

۳۸
۷۸
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ ۝

جس دن روح (جبریل) اور سب فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو وہ کچھ نہ بولیں گے مگر وہ جسے رحمن

الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ۱۰۳
۷۸
ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۝ فَمَنْ شَاءَ اٰتَحَنَّنْ

اجازت دے اور وہ درست بات کہے گا۔ یہ دن حق ہے پس جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف

اِلٰی رَبِّهِ مَابَا ۝

رجوع ہونے کی راہ پکڑے

۲۵۵
۳
مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا يَا ذِيْنَ ۝

وہ کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے سفارش کرے

۳
۳
مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ۝

کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد

۱۵
۴۲
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ

اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے اور بدو ہو کر کلام کرے مگر اس وحی بھیج کر یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ

۱۵۔ اللہ کی کرسی آسمان اور

زمین کی وسعت رکھتی ہے

۱۶۔ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں

۱۷۔ اللہ سے سب اہل آسمان

اور زمین سوال کرتے ہیں

۱۸۔ اللہ روز نئی شان میں ہے

۱۹۔ نیامت کو اللہ کے

آگے کوئی نہ بول سکیگا

۲۰۔ اللہ کے ہاں اس کی

اجازت بغیر کوئی سفارش

نہیں کر سکتا

۲۱۔ اللہ کسی سے منہ در منہ

بغیر واسطہ بات نہیں کرتا

رَسُولًا نِيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ رِيشَةً عَلَيَّ وَحَكِيمًا ۝

وہ کوئی فرشتہ پیغامبر بھیجے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے

سطوت و جبروت

۱۶ ۶ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَصِيرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ

اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کا سوائے اس کے اور کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے

۱۷ ۱۰ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَصِيرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ

اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کا سوائے اس کے اور کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے
فَلَا مَرَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کا ہٹا کر نہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچائے اور وہی بخشنے والا ہے
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝

اور جب اللہ کسی قوم کو کسی تباہی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی انکا کارساز نہیں ہے
أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ مِنْ نَحْوِهِمْ مِنْ أَلْفِ مِائَةٍ أَوْ مِائَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم زمین (کفر) کو اس کی ہر طرف سے گھساتے چلے جاتے ہیں اور اللہ حکم
مُعَقَّبٌ بِحُكْمِهِ ۝

کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ہٹانے والا نہیں ہے۔

۱۸ ۲۳ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

(اے نبی) بولو کہ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے جب وہ تمہارے ساتھ بڑائی کا ارادہ کرے یا تم پر رحمت کرنا چاہے
مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا

اللہ بندوں کے لئے جو رحمت کھول دیتا ہے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے وہ روک لیتا ہے تو اس
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

کے بعد کوئی اسکا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

۱۹ ۲۲ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۝

اور جس کی امداد اللہ سے کم ہو تو اسکو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔
۲۰ ۲۱ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۝

تمہارے لئے کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہے۔

۱- اللہ کی بڑائی بھلائی کوئی
نہیں روک سکتا

۱۱

۱۳

۲۴

۲۵

۱۸

۲۲

۲۰

۲۱

۲- اللہ جس کی امانت
کرے اسکا کوئی اکرام کرنے والا نہیں
۳- اللہ سے بچانے والا
کوئی نہیں ہے

۲۲
۴۲ قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

راے نبی اکبر دے کر مجھے اللہ سے ہرگز کوئی پناہ نہیں دیگا اور میں اُسکے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا

۱۰۴ ۱۱۶ ۲۲ ۳۱
۲ ۲۹ ۲۲

۴۔ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔

اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار
وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ

اور (اے نبی) اگر تو بعد اس کے بھی کہ تیرے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلا تو تیرے لئے
دَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

اللہ کی طرف نہ کوئی درست ہو گا اور نہ کوئی مددگار۔

۱۲۳
۲ مَنْ يَجْمَلْ سَوْءَ بَعْضِهِمْ وَلَا يَجِبْ دَلَّةً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

جو بُرا کام کریگا اُسکو اس کا عوض دیا جائیگا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی درست پائیگا اور نہ کوئی مددگار

۱۴۴ ۱۶
۳۳ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی درست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار

۵۱ ۶
۴ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

ان کے لئے اس کے سوا نہ کوئی درست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا

۶۰ ۶
۵ وَذَكَرَ لَهُ أَنْ يَنْسِلَ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهُا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

اور (اے نبی) تو اس قرآن کیساتھ نصیحت کر سدا کوئی شخص اپنے کئے کی سزا میں مبتلا ہے معیت ہو جائے اُسکے لئے اللہ کے سوا

۳۷ ۱۳
۶ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَكُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ دَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

اور (اے نبی) اگر تو اس کے بعد بھی کہ تیرے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ کی طرف سے تیرے

وَلَا وَاقٍ

لئے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی حفاظت کرنے والا

۲۴ ۲
۷ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَرِيٍّ

ان کے لئے اُس کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔

۲۵ ۲
۸ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَرِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ

تمہارے لئے اس کے سوا نہ کوئی درست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا

۲۶ ۲
۹ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَرِيٍّ مِنْ بَعْدِهَا

اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے بعد اس کے لئے کوئی دوست نہیں ہے۔

۱۰۴ ۱۱۶ ۲۲ ۳۱ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۰ ۱۰۴
۲ ۲۹ ۲۲ ۲۹ ۹ ۲ ۲ ۲

۵۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔

دیکھو عنوان صدر (عندو - ہم)

۱۵۹ ۳ ان یتصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذ لکم فمن ذالذی یتصرکم من بعد

اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اُس کے بعد تمہاری مدد کرے

۱۶۰ ۶ ان ھذا الذی ھو جند لکم یتصرکم من ذور الرحمن ان الکفر ان الا فی غیرہ

بغلا وہ کون ہے جو تمہارے لئے شکر ہو کہ خدا نے تمہارے سوا تم کو مدد دے کا فر تو محض دہوکے میں (پڑے) ہیں

۶- اللہ تمہارا ہے

۱۶۱ ۶ اور وہ اکیلا ہے زبردست

۱۶۲ ۱۳ یصاحبی السجین اسر بآب منتفرقون خیر اھم اللہ الواحد القہار

و اے میرے قید خانے کے درسا تھیو۔ بعدا متفرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ

۱۶۳ ۱۴ وھو الواحد القہار

اور وہ اکیلا ہے زبردست

۱۶۴ ۱۴ وبرزو اللہ الواحد القہار

وہ اکیلے زبردست اللہ کے سامنے ہوتے

۱۶۵ ۲۸ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار

اور کوئی معبود سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے زبردست نہیں ہے

۱۶۶ ۳۹ هو اللہ الواحد القہار

وہ اللہ اکیلا ہے زبردست

۱۶۷ ۲۱ لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار

آج تک کس کا ہے اللہ کا جو اکیلا ہے زبردست

۷- اللہ غالب ہے

۱۶۸ ۵۸ کتب اللہ لا غلبین انا ورسولہ ان اللہ قوی عزیز

اللہ نے لکھ لیا ہے کہ نہ تو میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے بے شک اللہ قوت والا ہے غالب

۸- قوت اللہ ہی کو ہے

۱۶۹ ۵۱ ان الفوۃ للہ جمیعاً وان اللہ شدید العذاب

بے شک سب قوت اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ سخت عذاب والا ہے

۱۷۰ ۵۲ ان اللہ قوی شدید العقاب

بے شک اللہ قوت والا ہے سخت عذاب والا

۱۷۱ ۶۶ ان ربک هو القوی العزیز

(اے نبی) بے شک تیرا پروردگار وہی ہے قوت والا غالب

<p>۱۲ ۸۵</p> <p>اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝ ۱۲ اِنَّهُ هُوَ يُدْرِي وَيُعِيدُ ۝</p>	<p>۱۱- اللہ کی پکڑا سخت ہے</p>
<p>بے شک تیرے پروردگار کی پکڑا سخت ہے بے شک وہی ہیں رفتہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ کرے گا</p> <p>۲۹ ۲۲</p> <p>وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝</p> <p>اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے</p>	<p>۱۲- اللہ جلد حساب لینے والا ہے</p>
<p>۱۸ ۳</p> <p>فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝</p> <p>سو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے</p>	
<p>۱۹۹ ۳</p> <p>۲۷ ۱۴</p> <p>۱۱ ۱۴</p> <p>اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝</p> <p>بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے</p>	
<p>۲۱ ۱۳</p> <p>وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝</p> <p>اور وہ جلد حساب لینے والا ہے</p>	
<p>۱۶۵ ۶</p> <p>اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ</p> <p>بے شک تیرا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے</p>	<p>۱۳- اللہ جلد عذاب کرنے والا ہے</p>
<p>۱۶۴ ۶</p> <p>اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ</p> <p>بے شک تیرا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے</p>	
<p>۱۹۶ ۶</p> <p>۲۵ ۸</p> <p>۲۵ ۸</p> <p>وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝</p> <p>اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔</p>	<p>۱۴- اللہ سخت عذاب والا ہے</p>
<p>۲۱۱ ۲</p> <p>۱۳ ۸</p> <p>۲۷ ۹</p> <p>فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝</p> <p>پس بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے</p>	
<p>۲۸ ۳</p> <p>وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝</p> <p>اور اللہ سخت عذاب والا ہے</p>	
<p>۲ ۵</p> <p>۷ ۹</p> <p>اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝</p> <p>بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے</p>	
<p>۹۸ ۵</p> <p>۹۸ ۵</p> <p>اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p> <p>جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے</p>	
<p>۵۲ ۸</p> <p>اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝</p> <p>بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے</p>	
<p>۶ ۱۳</p> <p>وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝</p> <p>اور بے شک تیرا پروردگار سخت عذاب والا ہے</p>	

سَدِّ يَدِ الْعِقَابِ	۱۱	
سخت عذاب والا		
رَأَتْهُ قَوْتِي سَدِّ يَدِ الْعِقَابِ	۲۲	
بے شک وہ قوت والا سخت عذاب والا ہے		
وَأَنَّ اللَّهَ سَدِّ يَدِ الْعَذَابِ	۱۶۵	
اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے		
إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ	۷	۱۵- اللہ کا عذاب سخت ہے
بے شک میرا عذاب سخت ہے		
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ	۲۲	
لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے		
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ	۵۰	۱۶- اللہ کا عذاب دردناک ہے
اور یہ کہ جو میرا عذاب ہے وہی دردناک عذاب ہے		
إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ	۱۳۱	
(اے نبی) بے شک تیرا پروردگار مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے		
وَاللَّهُ شَرِّعَ الْأَمْوَالِ	۱۰۸	۱۷- ہر چیز کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے
اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں		
وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأَمْوَالِ	۱۲۱	
اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے		
وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأَمْوَالِ	۲۲	
اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے		
إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمْوَالُ	۵۲	
سُنُّ لَوْ كَسَبَ كَامِ اللَّهِ هِيَ كِي طَرَفِ رَجُوعِ هُوسْتِي هِي		

ہر چیز کا اللہ کے مطیع ہونا

۱۱۶ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

۱- ہر چیز اللہ کے مطیع ہے

سب اس کے فرماں بردار ہیں

۸۲ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اَفَغَيَّرِ دِينَ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ضَرُّوْا
تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور کوئی دین اڑھونڈتے ہیں حال آنکہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں
طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ رَآلِیْہِ یُرْجَعُوْنَ ۝

خوشی سے اور ناخوشی سے سب اس کے فرماں بردار ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے جائیں گے
۹۳ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰتٰی الرَّحْمٰنُ عٰبِدًا ۝ لَقَدْ
آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے زمین کے پاس سب ہی بندہ بن کر حاضر ہونگے بے شک اس
اَخْطٰہُمْ وَّ عَدَّہُمْ عَدًّا ۝

نے ان سب کو گنیر رکھا ہے اور ان کی گنتی گن رکھی ہے

۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰

وَعَنَتِ الْوُجُوْہُ لِلْحٰجِیِّ الْقٰیُّوْمِ ۝

اور اس زندہ قائم رہنے والے کے آگے چہرے جھکے ہوئے ہونگے۔

۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلِی السَّمٰوٰی وَہِیْ دُخٰنٌ فَقَالَ ہَا وَاِلَی الْاَرْضِ اٰتِیًّا طَوْعًا
پھر اس نے آسمان کی طرف تھم کیا اور وہ دُھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ خوشی
اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اٰتِیْنَا طٰرِعِیْنَ ۝

سے یا ناخوشی سے آو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آئے

۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظَلَمُوْا بِالْعَدُوْ
اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سائے
وَالْاَصٰلِ ۝

۲- آسمان زمین کی کل مخلوق سجدہ کرتے ہیں۔

میں صبح بھی اور شام بھی

۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اَوْ لَمْ یَرَوْا اِلٰی مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ یَّتَفَتِّحُوْا ظِلْمَہُ عَنِ الْیَمِیْنِ وَالشَّمَاخِیْلِ
کیا جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس پر انہوں نے نظر نہیں کیا کہ ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے
لُیْسَ دَاخِرُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا
دہنی طرف سے اور بائیں طرف سے پھرتے رہتے ہیں اور وہ سب ذیل میں اور جانداروں میں سے جو آسمانوں

فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ۝ نَحْنُ بِجَاوِلُونَ

میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور لڑتے بھی اور وہ غرور نہیں کرتے۔ اپنے
سائیکس من فوقہم وبقعلون ما یومرون ۝

۱۸
۳۲
پہر در دگر سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ

۱۹
۳۳
دے بنی کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ
اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی اور بہت سے (آدمی) ایسے
حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۝

میں کہ ان پر عذاب حق ہو چکا ہے

۲۰
۳۴
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝

اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں

۲۱
۳۵
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْنَ مُؤَجَّلًا ۝

اور کسی جان سے نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر اللہ کے حکم کے مر جائے لکھا ہوا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔

۲۔ اللہ کے حکم بغیر موت
نہیں آسکتی

احاطہ

۱۹
۳۲
وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

اور اللہ کا فزوں کو گھیرے ہوئے ہے

۱۱۹
۳۳
إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

بے شک اللہ ان اعمال پر جو وہ کرتے ہیں احاطہ کئے ہوئے ہے

۱۲۸
۳۴
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

اور اللہ ان اعمال پر جو وہ کرتے ہیں احاطہ کئے ہوئے ہے

۱۲۴
۳۵
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ۝

اور اللہ ہر شے پر احاطہ کئے ہوئے ہے

۱۲۶
۳۶
وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

اور اللہ ان اعمال پر جو وہ کرتے ہیں احاطہ کئے ہوئے ہے

۱۔ اللہ کا ہر چیز پر احاطہ

إِنَّ سَأْلِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝	۹۲ ۱۱	
بے شک میرا پروردگار ان اعمال پر جو تم کرتے ہو اعاطہ کئے ہوئے ہے۔		
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۝	۹۰ ۱۲	
اور زبانی نبی رو وقت یاد کر جب ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ بے شک تیرے پروردگار نے لوگوں کا اعاطہ کر رکھا ہے۔		
وَقَدْ أَحْضَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خَيْرًا ۝	۹۰ ۱۸	
اور ہم نے خیر داری سے اس چیز کا اعاطہ کر رکھا تھا جو اس (ذوالقرنین) کے پاس تھی۔		
إِلَّا إِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝	۵۴ ۲۱	
خبردار ہو بے شک وہ ہر شے پر اعاطہ کئے ہوئے ہے		
وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۝	۲۱ ۳۸	
اور (ہم نے) ایک اور (نعم دی) جس پر تم قادر نہیں تھے اللہ اس کو گمیرے ہوئے تھا		
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝	۱۲ ۶۵	
اور کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے پر اعاطہ کر رکھا ہے۔		
وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝	۲۸ ۴۲	
اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو اُس نے گمیرے رکھا ہے اور ہر شے کی گنتی گن رکھی ہے		
وَاللَّهُ مِن وَّرَائِهِمْ مُّحِيطٌ ۝	۲۰ ۸۵	
اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گمیرے ہوئے ہے		
فَإِذَا تَوَلَّوْا فَمَثَرٌ وَجْهَ اللَّهِ ۝	۱۱۵ ۲	۲۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے
سو بد صورت ہو نہ پھیرو وہیں اللہ کی ذات موجود ہے		
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۝	۲ ۵۴	
اور جہاں کہیں تم بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے		
مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ	۷ ۵۸	
نہیں تین شخصوں میں باہم سرگوشی ہوتی ہے کہ وہ انیس چوتھانہ ہو۔ اور نہ پانچ کی کہ وہ ان میں چھٹانہ ہو اور نہ		
سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۝		
اس سے کم کی ہوتی ہے اور نہ زیادہ کی مگر وہ ضرور ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں		
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۝	۱۸۶ ۲	۳۔ اللہ بندوں کے
اور بے ہی جب تجھ سے میرے بندے میری بابت پوچھیں تو (جان لے کر) بے شک میں ان کے قریب ہوں		قریب ہے
وَلِحَنٍّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝	۱۶ ۵۰	
اور ہم اس سے اُس کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔		

۸۶
۵۶ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝
اور ہم اس (مرئیوے) کے تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم (ہیں) دیکھتے نہیں

خیر و شر اللہ کی طرف سے

۷۸
۴۸ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ
اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے
سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ
تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے (اے نبی) کہہ دے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے سو ان

۱۔ ہر برائی بھلائی اللہ ہی
کی طرف سے ہے

الْقَوْمِ لَا يُكَاذِبُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝

لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں گئے

۱۳۰
۶۴ فَاِذَا جَاءَ تَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِذَةُ وَانْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ لَيَقُولُوا
پھر جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ہے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انکو موسیٰ

بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ اِلَّا اَتَمَّ طَرِيقَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بدلتے ہیں خیر ہمارا ہو جاؤ تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس سے ہے لیکن ان میں سے اکثر

۲۱
۵۷ مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِّنْ
جو مصیبت بھی زمین میں یا تمہاری جانوں پر پڑتی ہے ایسی نہیں ہے جو اس سے پہلے ہی کہ ہم اُسے پیدا

قَبْلَ اَنْ نَّبْرَاهَا طَرِيقًا ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ لِيَسْئُرَ ۝

کریں۔ کتاب میں نہ لکھی جا چکی ہو بے شک یہ (لکھنا) اللہ پر آسان ہے

۱۱
۶۳ مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ قَلْبَهُ
جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اسکا دل ہدایت پر کر دے گا

۷۹
۴۹ مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
جو بھلائی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تکلیف تجھے پہنچتی ہے وہ تیری ذات کی طرف سے ہے

۵۶
۶۴ وَمَا يَدْعُونَ اِلَّا اَنْ يَكْتَسِبَ اللّٰهُ
اور وہ بنیر اس کے کہ اللہ چاہے نصیحت نہیں کر سکتے

۳۰
۶۶ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝
اور تم بنیر اس کے کہ اللہ چاہے چاہ ہی نہیں سکتے بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

۲۔ بھلائی اللہ کی طرف سے
ہے اور برائی اپنی طرف سے

۳۔ قبولیت نصیحت اللہ
کے اختیار میں

۴۔ انسان کی مشیت اللہ
کی مشیت پر موقوف ہے

۷۹
۸۱ وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ جان کا پروردگار چاہے

۷۴
۳ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۝

اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے قوت دیتا ہے

۵
۳۰ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

اللہ کی مدد سے (مومن خوش ہوں گے) وہ جس کی چاہے مدد کرے اور وہی غالب بہر بان ہے

۱۲۵
۳ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

اور فتح نہیں ہے کہ مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا

۱۰
۸ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور فتح اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا

۱۔ اللہ جس کی چاہے
مدد کرتا ہے

۶۔ مدد اللہ ہی کی طرف
سے ہے

اللہ کا بندوں کو سمجھانا

۲۱۹
۲۶ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

یوں اللہ تمہارے لئے (اپنی) نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو

۷۵
۵ أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْمِنُونَ ۝

(اے نبی) دیکھ ہم ان کے لئے کس طرح اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر دیکھ کہ وہ کہاں سے الٹے لڑتے

۲۶
۶ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْنَا الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَجِدُونَ ۝

(اے نبی) دیکھ کہ ہم کس طرح ہیر پھیر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ سونہ پھیرے چلے جا رہے ہیں

۷۵
۶ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝

(اے نبی) دیکھ کہ ہم کس طرح نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں

۱۰۶
۶ وَكَذَلِكَ نَصَرْنَا الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا إِلَهِاتِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ أُنزِلَتْ إِلَيْنَا مِنْ سَمَاءٍ أَمْ جَاءَنَا بِالْحَقِّ فَيُلَاقُونَ رَبَّهُمْ حَقَّ الْحَقِّ ۝

اور (اے نبی) یوں ہم بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں اور (اسلئے کرتے ہیں) تاکہ وہ کہیں کہ تو نے (قرآن) پر مدعا

۵۸
۴ كَذَلِكَ نَصَرْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

یوں ہم ان لوگوں کے لئے جو شکر گزار ہیں نشانیاں بیان کرتے ہیں

۱۱
۹ وَنَفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

اور ہم ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں

۱۔ اللہ آیتیں بیان کرتا ہے

یوں اللہ تمہارے لئے (اپنی) نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو

(اے نبی) دیکھ ہم ان کے لئے کس طرح اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر دیکھ کہ وہ کہاں سے الٹے لڑتے

(اے نبی) دیکھ کہ ہم کس طرح ہیر پھیر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ سونہ پھیرے چلے جا رہے ہیں

۱۸ ۲۴	وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝
۵۹ ۲۴	اور اللہ تمہارے لئے نشانیاں بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝
۶۱ ۲۴	یوں اللہ تمہارے لئے نشانیاں بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
۱۸۷ ۲	یوں اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝
۲۲۱ ۲	یوں اللہ لوگوں کے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝
۲۶۶ ۲	اور اللہ لوگوں کے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
۱۱۲ ۳	یوں اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
۸۹ ۵	یوں اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
۵۹ ۲۴	یوں اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ ۝
۵۵ ۶	یوں اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝
۳۲ ۲	اور یوں ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں اور اس لئے کرتے ہیں کہ گنہگاروں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ كَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
۱۶۳ ۲	یوں ہم ان لوگوں کے لئے نشانیاں بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝
۱۱ ۶	اور یوں ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں اور اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ (حق کی طرف) رجوع کریں۔ وَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
۲۲ ۱۰	اور ہم ان لوگوں کے لئے نشانیاں بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ تَتَفَكَّرُونَ ۝
	یوں ہم ان لوگوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔

۲۸ ۳۰	كَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝	
۵ ۱۰	یوں ہم ان لوگوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں يُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝	
۲ ۱۳	اللہ ان لوگوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں يُفِصِلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُوْنَ رَبِّكُمْ تَوَقُّوْنَ ۝	
۱۱۸ ۲	اللہ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی علامت کا یقین کرو۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝	
۱۱۷ ۳	بے شک ہم نے ان لوگوں کے لئے جو یقین لاتے ہیں نشانیاں بیان کر دیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝	
۱۶ ۵۷	بے شک ہم نے تمہارے لئے اگر تم سمجھتے ہو نشانیاں بیان کر دیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝	
۹۸ ۶	بے شک ہم نے تمہارے لئے نشانیاں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو قَدْ فَمَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝	
۹۹ ۶	بے شک ہم نے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ ۝	
۱۲۷ ۶	بے شک ہم نے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت پکارتے ہیں تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝	
۵۷ ۷	اور بے شک ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کے ساتھ تفصیل سے بیان يُؤْمِنُونَ ۝	
۱۶ ۱۷	کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور رحمت ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ۝	
۲۳۱ ۲	اور (قرآن میں) ہم نے ہر شے کو تفصیل سے بیان کیا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝	۱۰۲۔ اللہ حدیں بیان کرتا ہے
۱۷ ۱۳	اور یہ اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں كَذَلِكَ يُفَصِّرُ اللَّهُ الْآمْتَالَ ۝	۱۰۳۔ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے
	یوں اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔	

۲۵
۱۴
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

۲۵
۲۴
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے

۲۲
۲۱
وَتِلْكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ○

اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور ان کو وہی سمجھتے ہیں جو جانتے والے ہیں

۲۱
۲۰
وَتِلْكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔

۲۵
۱۴
وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ○

اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کیں

۲۵
۲۵
وَكَأَنَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ

اور ہر ایک ر ہاک شدہ قسم کے لئے ہم نے مثالیں بیان کیں۔

۲۲
۱۴
الْمُتْرَكِيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ

راے نبی (کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کسی اچھی مثال بیان فرمائی ستمری بات ستم سے و رفت کی مانند اسکی جڑ

۲۵
۱۴
وَقَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ ○ ۲۵ نوٹی اکلہا کل حین یا ذن سربھا ویضرب

مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا جیل دیتا رہتا ہے اور اللہ لوگوں

اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

کیلئے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

۴۵
۱۴
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک شخص غلام ہے دوسرے کے بس میں جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک وہ ہے

رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يَفِيْقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ هَذَا أَحَدٌ لِلَّهِ

جسے ہم نے اپنے مال سے عمدہ روزی دی وہ اس میں چھپا کر اور کھلے خزانے خرچ کرتا رہتا ہے کیا وہ (دونوں) برابر ہیں؟

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ ۲۶ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا

المسدد - لیکن اکثر ان میں سے اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی

أَبْكُمَا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَانٌ وَجِهَةٌ لِيَايَاتٍ بِخَيْرٍ

ایک ان میں گونگا ہے جو کسی بات پر قادر نہیں اور وہ اپنے آپ پر بار ہے جہاں وہ اسکو بھیجتا ہے وہاں سے کوئی بھلائی

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

نہیں تاکہ کیا یہ شخص اس کی برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کیساتھ حکم دیتا ہے اور سیدھی راہ پر ہے

۱۱۲
۱۶

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيْبَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنِّةً يَّاْتِيَهَا رِزْقُهَا مِنْ رَبِّهَا غَدًا مِنْ

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو ہر طرح سے امن و چین میں تھی اس کے ہر جگہ سے با فراغت اس کی ہفتی گل مکان فکفرت یا نعم اللہ فاذا قہا اللہ لباس الجوع والخوف بما پہنٹی تھی۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ترانہ نے اسے بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا ان کا نوا یصنعون ۰

امال کی سزا میں جو وہ کرتے تھے۔

۹۸
۳۰

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ شُرَكَاءُ فِي

لوگو! اللہ نے تمہارے لئے تمہارے ہی درمیان سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کیا تمہارے ہاتھ کے مال لوہڑی غلاموں کا رزق تمہارے لئے تمہارے ساتھ ہے سو اذیتا فونہم کخفیتکم انفسکم ۰

میں سے اس روزی میں تمہارے کوئی شریک ہیں جو ہم نے نہیں دی ہے کہ تم (اور وہ) اسیں برابر ہو اور تم میں سے اس طرح

۲۹
۳۹

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا شَرَجًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک آدمی میں کئی ہڈیوں شریک ہیں اور ایک آدمی پر ایک آدمی کے لئے غلام ہے هل یستویین مثلاً ۰

ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟

۱۰
۶۶

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاَتٌ نُوْجٍ وَاَمْرَاَتٌ لَّوْطٍ كَانَتْ تَحْتِ

اللہ نے کافروں کیلئے نوح کی بیوی اور لوہاک کی بیوی کی مثال بیان فرمائی وہ دونوں ہمارے دو نیک سخت بندوں عبد بن من عباد ناصا یحین فخانتم ما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئاً کے تحت میں تمہیں انہوں نے انکی خیانت کی تو وہ دونوں بندے اللہ کے ہاں (ان عورتوں کے) کچھ کام نہ آئے اور ان عورتوں وکیل دخل الناس مع الذاخلین ۰ ۱۱ وضرب اللہ مثلاً للذین امنوا امراة

سے کہا گیا کہ اور داخل ہو بیواہوں کیساتھ تم دونوں میں آگ میں داخل ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کیلئے فرعون کی بیوی فرعون ماڈ قالت سرب ابن لی عندک بیتا فی الجنة وینجینی من

کی مثال بیان کی جب اس نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار میرے لئے اپنے ہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون وعملہ وینجینی من القوم الظالمین ۰ ۱۲ ومريم ابنت

فرعون اور اسکے مہلوں سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی عمران التي احصنت فرجها فنحننا فیہ من سراجنا وصدقت

جس نے اپنی پاکر امنی کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح چھونک دی اور اس نے اپنے پروردگار کے احکام اور اس بکلمت سربها وکنیہ وکانت من القنیتین ۰

کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرماں برداروں میں تھی۔

۱۔ اللہ نے ہر طرح کی مثال
بیان کر دی

۵۹ ۱۷ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

اور بے شک ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن میں ہر ایک طرح کی مثال بیان کر دی ہے

۵۴ ۱۸ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے ہر ایک طرح کی مثال بیان کر دی ہے

۵۸ ۳۹ وَلَقَدْ صَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

اور بے شک ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن میں ہر ایک طرح کی مثال بیان کر دی ہے

۲۶ ۲ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ اَنْ يُّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضُهُ فَمَا فَوْقَهَا

بے شک اللہ اس بات سے انہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھریاؤں سے بھی کسی ادنیٰ چیز کی مثال بیان کرے

۳۔ اللہ مچھریاؤں سے بھی
معیرہ چیز کی مثال بیان کرنے
نہیں رکتا۔
۴۔ اللہ حق کو باطل پر
غالب کرتا ہے

۱۸ ۲۱ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ

جگہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو حق اس کا دماغ توڑ دیتا ہے اور اسی دم وہ باطل نیست و نابود ہو

التَّوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ۝

جاتا ہے اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان سے تمہارے لئے خرابی ہے

۳۸ ۳۴ قُلْ اِنَّ سَآءَئِيْ يَفْقَدُ بِالْحَقِّ عِلْمَ الْغِيُوْبِ ۝

اے پیغمبر تو کہہ دے کہ میرا پروردگار حق کے حربے چلا رہا ہے غیب کی باتوں کو خوب جانتے والا

۵۔ اللہ آدمیوں اور فرشتوں
میں سے رسول انتخاب کرتا ہے

۶۵ ۲۲ اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مِنْ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

بے شک اللہ فرشتوں اور آدمیوں میں سے رسول انتخاب کرتا ہے بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے

۲۰ ۳۳ وَاللّٰهُ يَفْقَدُ سُرَّ الْبَيْلِ وَاللَّهْمَا سِرَّ

اللہ طہ اور دن کو اندازہ پر رکھتا ہے

۸۔ اللہ اندازہ کرتا ہے

۲۳ ۲۷ فَقَدْ سَرَّ نَا فَنِعْمَ الْفَقِيْرُوْنَ ۝

پھر ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں

آزمائش

۱۵۵ ۲ وَلَنْبَلُوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

اور ہم ضرور تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور بچپلوں کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے

۱۵۔ اللہ لوگوں کو آزماتا ہے

۲۷۹ ۲ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ

پھر جب طالوت لشکروں کو ساتھ لیکر جدا ہوا تو کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعہ تمہارا امتحان لینے والا ہے

۱۵۱
۳ ثُمَّ صَرَفْنَا عَنْهُمْ كَيْدَهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ

پھر مشنہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور اس نے تمہاری خطا معاف کر دی

۱۵۳
۳ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہے اُسکو جانچ لے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے

۱۶۸
۵ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں

۱۶۹
۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ

سلمانو! اللہ تمہیں کس قدر شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے

وَمَا حُكْمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنِّي بِمَا خَفِيَ

تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے اس سے چھپتا ہے

۱۷۴
۶ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کئے

دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہیں

۱۷۶
۶ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

یوں ہم ان کا امتحان لیتے تھے اس لئے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔

۱۷۸
۶ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اور ہم نے بھلائیوں اور بُرائیوں سے ان کا امتحان لیا کہ شاید وہ (حق کی طرف) لوٹیں

۷
۱۱ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ

اور وہ (اللہ) وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش بانی پر تھا۔

عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے

۹۲
۱۶ إِنَّمَا يَبْلُوَكُمْ اللَّهُ بِهِ

اللہ تو بس اس سے تمہیں آزماتا ہے

۱۸
۷ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

ہے شک جو چیز بھی زمین پر ہے ہم نے اُسکو زمین کے لئے زینت بنا یا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون

۳۵
۲۱ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

اور ہم تمہیں تمہاری خیر اور شر میں پھنسا کر آزمائش کرتے ہیں

رَانَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّوَرَانُ كُنَّا لِمُبْتَلِينَ ۝

۲۰
۲۳

بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم تمہیں آزماتے ہیں
فَلَمَّا سَاءَ مَا مَسَّنَا وَعِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ سَرَّابِي وَقَدْ لَبِيتُ لَوْنِي ۝ اَشْكُرُ
پھر بے شک نے اس (ہلقیوں کے تحت) کو اپنے پاس بچھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل
اَمْ الْكُفْرُ ۝

۲۱
۲۴

بے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأُنْتَصِرُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۝

۲۲
۲۵

اور اگر اللہ چاہے تو ان سے (ابھی) بدلے لے لیکن اس لئے نہیں لیتا کہ وہ تمہیں بعض کو بعض کے ذریعے
وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ۝
اور بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو معلوم کر لیں اور ہم تمہاری خبروں کو جانچ لیں

۲۳
۲۶

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

۲۴
۲۷

تاکہ وہ تمہیں جانچ لے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ۝

۲۵
۲۸

بے شک ہم نے تمہیں اسی طرح آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا

کافروں کو بہلت

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُسَلِّيْهِمْ خَيْرًا لَّا يُفْقِرُونَ إِنَّمَا نُمَلِّيْ لَهُمْ
اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے

۱۶۴
۳۱

لِيَرْدَا دُونَ النَّمَاءِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

ہم تو ان کو صرف اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ سبٹ لیں اور ان کو ذلت کی مار ہے

وَأَمْلِيْ لَهُمْ إِنَّا كَيْدٌ مِّنْ مِّتِينٍ ۝

۱۶۵
۳۲

اور ہم ان کو بہلت دیتے ہیں۔ ہمارا داؤ بے شک بڑا ٹھیک ہے

وَلَقَدْ اسْتَمْتَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ رَبِّكُمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ
اور تمہے سے پہلے بھی پیغمبروں کی ہنسی اڑانی جا چکی ہے تو ہم نے منکروں کو بہلت دی پھر ان کو

۱۶۶
۳۳

أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

پکڑ لیا تو ہماری سزا کیسی تھی

وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَكُنَّ بِمُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

۱۶۷
۳۴

اور مدین والے پیغمبروں کو جب تک کہ وہ موسیٰ بھی جھٹلائے گئے تو ہم نے کافروں کو بہلت دی پھر ان کو پکڑ لیا (دیکھا) ہماری

۲۲ ﴿ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قُرْبَىٰ أَمَلَيْتُمْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُمْهَا وَارْتَقَى الْمَصِيرُ﴾

اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو ہم نے بہت دی اور وہ نافرمان تھیں پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور سب کو پہلی طرف لڑکھڑکھا

۲۳ ﴿وَنَارُ فِي وَالْمَلِكِ بَيْنَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمِمَّا هُمْ قَلِيلًا﴾

اور جہنم کے دہلے خوشحال لوگ ہیں ہم کو اور ان کو رہنے دو اور ان کو تھوڑی سی بہت دو۔

۲۴ ﴿فَمَهْلِكُ الْكُفْرِينَ مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ سُرُودًا﴾

تو کافروں کو بہت دو۔ ان کو تھوڑی سی بہت

قرب حق

۲۵ ﴿فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا وَجُوهَكُمْ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

تو جدھر منہ کر لو اور ہر ہی اللہ کا سامنا ہے

۲۶ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾

اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارہ میں سوال کریں۔ تو میں ان کے قریب ہوں

۲۷ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾

اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان مائل ہو جاتا ہے

۲۸ ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكُمْ إِعْمًا لَكُمْ﴾

اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عملوں کے ثواب میں ہرگز کمی نہیں کرے گا

۲۹ ﴿وَلَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

اور تم شریک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں

۳۰ ﴿وَلَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾

اور ہم تمہاری نسبت اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن تم نہیں دیکھتے

۳۱ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

اور تم لوگ کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے

۳۲ ﴿وَلَا آدَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْتِرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾

اور اس سے کم ہوں یا زیادہ کہیں بھی ہوں وہ ضرور ان کے ساتھ ہوتا ہے

حیوة

۳۳ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زندہ۔ سہمہا لنے والا نہ اس کو ادنگھ آتی ہے نہ چنہ

۳۲ ۱۱۱
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

۱۱۱

۱۱۱
وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

اور (قیامت کو) خدا نے زندہ پائیدم کے رو برو سب کے منہ نمکے ہوں گے اور جو شخص ظلم کا بوجھ اپنے پرہار کے

۵۸
۲۵
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ۝ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ

اور اُس زندہ خدا پر بھروسہ رکھ جس کو موت نہیں اور اُس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا رہ

۱۱۱
هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ

وہی ہمیشہ زندہ ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں تو فالس اسی کا فرماں بردار ہو کر اسی کی عبادت کر

۱۱۱
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سب تعریفیں خدا ہی کو ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے

ارادہ

۳۳
۲۵
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

۱۵
۱۱۱
إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ مَا يُرِيدُ ۝

بے شک خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے

۱۱۱
۱۱۱
إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝

بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے

۱۱۱
۱۱۱
إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو۔ وہ ہو جاتی ہے

۱۱۱
۲۲
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے

۱۱۱
۲۳
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۝

خدا جس کو چاہے ہدایت دے

۱۱۱
۳۶
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

اُس کی تو یہ شان ہے جب کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اُسے اتنا فرمادیتا ہے کہ ہو۔ اور وہ ہو جاتا ہے

۱۱۱
۲۵
فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝

جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

۱۱۱
۱۱۱
سب سے بڑے ہیں۔

قرض حسنہ

۱۲۴ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ

کوئی ہے جو خدا کو خوش دلی سے قرض دے کہ خدا اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا دے

۱۲۵ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي

اور فرمایا کہ تم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہمارے پیغمبروں پر ایمان

وَعَزَّيْتُمْ نَفْسَكُمْ وَآمَنْتُمْ بِاللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا لَّا يَفْزَنَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

لا تے اور ان کی مدد کرتے اور خوش دلی سے خدا کو قرض دیتے رہو گے تو ہم ضرور بالفرض تمہارے

وَلَا دُخِلَتْكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ

گناہ تم پر سے دور کر دیں گے اور ضرور بالفرض ایسے باغوں میں داخل کرینگے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی

۱۲۶ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَجْرًا كَرِيمًا ۝

ایسا کون ہے جو اللہ کو خوش دلی سے قرض دے اور وہ اس کا دو گنا اس کو ادا کرے اور بڑا عمدہ اجر دے

۱۲۷ إِنَّا الْمُقَدِّمِينَ وَالْمُؤَخِّرِينَ ۚ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضْعِفَ لَهُمْ

بے شک خیرات کرینوالے اور خیرات کرنے والیاں اور جو خدا کو خوش دلی سے قرض دیتے ہیں اُن کو

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

دو گنا ادا کر دیا جاوے گا اور اُن کو عزت کا اجر ملے گا

۱۲۸ إِن تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

اگر تم اللہ کو خوش دلی سے قرض دو تو وہ تم کو اس کا دو گنا دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر

حَلِيمٌ ۝

دے گا۔ اور اللہ بڑا قدر دان اور بردبار ہے

۱۲۹ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا

اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو خوش دلی سے قرض دیا کرو۔ اور جو نیکی اپنے لئے

لَا تُفْسِدُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ

پہلے سے بھیج دو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے وہ بہتر ہے اور اجر میں بڑا + نیز دیکھو اجر و ثواب ص ۱۱۱

عزیز بن عبدالمطلب

۶۰ الَّذِينَ يَخِصُّونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور جو اس کے گرداگرد ہیں۔ وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح

۶۱ رَافِعَةَ الذَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ

بلند درجوں والا۔ عرش کا مالک۔

۶۲ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

آسمانوں اور زمین کا مالک عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں۔ پاک ہے۔

۶۳ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ

اور اس روز تیرت پروردگار کے عرش کو ان کے اوپر آٹھ (فرشتے) اٹھائے ہوئے ہوں گے۔

۶۴ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ

قوت والا۔ مالک عرش کی جناب میں معزز۔

۶۵ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّؤُوفُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا۔ عرش کا مالک عالی شان ہے۔

۶۶ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔

۳۔ اللہ کی کرسی۔

اعضا السانی کی نسبت اللہ کی طرف

۶۷ وَلَنُصَنِّعَ عَلَىٰ عَيْنِي

اور میں اپنے لئے کہ تو ہماری نگاہی میں پرورش پائے۔

۶۸ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔

۶۹ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

۷۰ نَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹیر رہی تھی۔

۷۱ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

اور ہر ہی اللہ کا منہ ہے۔

۷۲ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

فدا ہی کا منہ کر کے (خیر کرنے ہو)۔

۱۔ اللہ کی آنکھیں

۲۔ اللہ کا منہ

۲۲
۱۳ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور جنہوں نے اپنے پروردگار کا منہ کر کے صبر کیا۔

۲۳
۱۴ خَيْرَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ يَتْرِكُونَهُ

بہتر ہے ان کے لئے جو اللہ کے منہ کے طالب ہیں۔ جو تم اللہ کے منہ کے طالب ہو کر (زکوٰۃ) دیتے ہو

۲۴
۱۵ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

اور صرف تیرے پروردگار کا منہ باقی رہ جائے گا۔ جو جلال و اکرام والا ہے۔

۲۵
۱۶ إِنَّمَا نَطَعِمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ

ہم تو تم کو صرف خدا کا منہ کر کے کھلاتے ہیں۔

۲۶
۱۷ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ

صرف اپنے پروردگار عالی شان کے منہ کا طالب ہے۔

۲۷
۱۸ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

تو میرے نفس (دل) کا حال جانتا ہے۔ میں تیرے نفس کا حال نہیں جانتا۔

۲۸
۱۹ كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِي الرَّحْمَةَ ۝

اس نے (لوگوں پر) رحم کرنا اپنے نفس پر لازم کر لیا ہے۔

۲۹
۲۰ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيَّ نَفْسِي الرَّحْمَةَ

تمہارے پروردگار نے تمہارے رحم کرنا اپنے نفس پر لازم کر لیا ہے۔

۳۰
۲۱ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝

اور میں نے تجھ کو اپنے نفس کے لئے تیار کیا ہے۔

۳۱
۲۲ وَيُحَدِّثُ كَمَا اللَّهُ نَفْسَهُ

اور اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔

۳۲
۲۳ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ ۚ

تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے۔

۳۳
۲۴ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۚ

تو کہہ دے کہ بڑائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

۳۴
۲۵ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدْعِي اللَّهُ مَغْلُوبَةً ۚ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۝

اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے۔ انہیں کے ہاتھ تنگ رہیں۔ اور ان کے قول پر خدا کی لعنت۔

۳۵
۲۶ يَدَا مَبْسُوطَتَيْنِ يُفْسِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ

نہیں اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔

۳۳۔ اللہ کا نفس

۳۴۔ اللہ کا ہاتھ

۸۸
۲۲ قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ

کہہ دے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔

۸۱
۳۶ خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا

ہم نے ان کے لئے چار پائے بنائے کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔

۸۳
۳۶ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور تم ذکر کرنا اسی کی طرف لوٹانے جانے والے ہو۔

۸۵
۳۸ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي

جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کو سجدہ کرنے سے تمہارے کس چیز نے روکا؟

۸۸
۳۸ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

۱
۳۹ لَا تُقَدَّرُ مَوَابِينُ بِيَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں کے آگے باتیں نہ بنایا کرو۔

۸۴
۵۱ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدِيكُمْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ○

اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور ہم ہر طرح کی قدرت رکھتے ہیں۔

۱
۵۱ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلَكُوتُ

برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔

۸۶
۳۹ وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ

اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔

۸۷
۳۹ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا نَبْذَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور قیامت کے دن زمین سب کی سب اس کی نٹھی میں اٹوگی۔

۸۲
۶۸ يَوْمَ يَكْتُفُ عَنِ سَائِقٍ وَيُرِي عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ○

جس روز پٹیلی کھیل دی جائے گی۔ اور وہ سجدہ کی طرف بلائے جائیں گے۔ سو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔

۵۔ اللہ کا ہاتھ

۶۔ اللہ کی نٹھی

۷۔ پٹیلی کا کھولا جانا

تقدیر جبر و اختیار

۱۰۰ **وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا أَتْرَافًا مَعْلُومًا** ○
 اور کوئی چیز نہیں کہ جہاں سے اس کے نزلنے نہ بھرے پڑے ہوں۔ مگر ہم ایک مقررہ اندازہ سے انہیں اُتارتے
 اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ○

۱۔ نزل کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے۔

۱۰۱ **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** ○ **وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى** ○

بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا۔ اور رستے لگا دیا۔

۲۔ بہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔

۱۰۲ **وَمَا أَهْلُ الْكُتُبِ مِنْ قَرِيْبِهِ إِلَّا أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ** ○
 اور ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں کی۔ مگر اس کے لئے ایک سیما مقرر نہیں ہوئی تھی۔

۱۰۳ **إِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ** ○

بے شک یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

۱۰۴ **وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِنَا وَمَا يَعْتَرِفُ مِنْ تُعْمُرٍ وَلَا يُنْقِصُ** ○

اور نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے۔ اور نہ وہ بچہ جنمتی ہے۔ مگر خدا ہی کے علم سے۔ اور نہ کسی شخص کی عمر زیادہ

۱۰۵ **مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ** ○

اور نہ کسی کی عمر کم کی جاتی ہے۔ مگر یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

۱۰۶ **وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الْوَعْدِ ○** **وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ** ○

اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہر ایک چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔

۱۰۷ **مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ** ○

بنتی مصیبتیں زمین پر اور جو خود تم پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ سب ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کتاب میں لکھی

۱۰۸ **نَبْرَاهِيمَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○** **لِيَكِلَآءُ تَأْسُرَ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا** ○

رکھی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے۔ یہ اس لئے ہے۔ کہ کوئی چیز تم سے جاتی رہے۔ تو اس

۱۰۹ **بِمَا أَنْتُمْ بِمُخْتَارٍ مُخْتَارٍ ○**

کا بچ نہ کرو۔ اور کوئی نعمت نہ اتم کو عطا کرے۔ تو اس پر اترنا اہمیت۔ اور اللہ کسی اترنے والے شیئی باز کو پسند نہیں کرتا۔

۱۱۰ **وَلَا يَكْفُرُ نَفْسًا إِلَّا رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ فِي فِعْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○**

اور ہم کسی شخص کی طاقت سے بزرگتر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو ٹھیک حال بتاتی ہے اور ان پر ظم

۳۔ خدا کے پاس حق ہوتی کتاب ہے۔

۴- کتاب للمحور والاشبات

۲۹

يَعْوَدُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثَبُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ○

خدا جس کو چاہتا ہے سوئی کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تاہم رکھتا ہے اور اُس کے پاس اصل کتاب ہے
يُدْبِرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِضُ إِلَيْكَ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
آسمان سے زمین تک ہر امر کا انتظام کرتا ہے پھر جب تمہاری گنتی سے ہزار برس کی مدت کا ایک دن ہوگا۔ اُس
سَنَةٍ قِيمًا تَعْدُونَ ○

دن تمام انتظام اُس کے حضور میں گذرے گا۔

۵

۵- کل کلام آسمان سے اترتے ہیں۔

قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ ○ کہہ دے سب اللہ کی طرف سے ہے۔

۶

۶- سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔

۱۱

۷- خدا کی مرضی بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔

۱۴

۸- لوگوں کا اختلاف خدا کی مرضی سے ہے۔

۱۹

۹- انسان کا دل خدا کے اختیار میں ہے۔

۱۱۸

۱۰- لوگوں کا ایمان لانا خدا کے حکم پر موقوف ہے۔

۲۴

۱۱- لوگوں کا ایمان لانا خدا کے حکم پر موقوف ہے۔

۳۱

۱۲- لوگوں کا ایمان لانا خدا کے حکم پر موقوف ہے۔

وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ نَّخْتَلِفُوهَا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

اور لوگ پہلے ایک ہی طریقے پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہو گیا۔ اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے وعدہ نہ ہوا ہوتا۔ تو جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان کبھی کا اُن کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ○

اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اُس کے دل کے درمیان عامل ہو جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

خدا کی طرف سے جو لوگوں پروردگار کے حکم کے مستوجب ٹھہر چکے ہیں۔ وہ تو جب تک عذاب دردناک نہ دیکھ لیں گے کسی کل آیتِ حقیقیہ و العذاب الالیم ○

طرح ایمان لانیوالے نہیں ہیں۔ اگرچہ تمام معجزے ان کے سامنے آجائیں۔

۵۹ ﴿۵۹﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُنْكِرُ النَّاسَ

اور تیرا پروردگار پامنا تو جتنے آدمی زمین پر ہیں۔ سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے۔ کہ وہ
 حتیٰ یٰکونوا مؤمنین ﴿۵۹﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ
 ایمان لے آئیں۔ اور بے حکم نہ کسی شخص کے اختیار میں نہیں کہ ایمان لے آئے۔ اور خدا کندی انہیں
 الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۹﴾

پر ڈالتا ہے۔ جو عقل کو کام میں نہیں لاتے۔

۵۱ ﴿۵۱﴾ قُلْ لَنْ يُغِيبِنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾

۱۱۔ خدا کا لکھا ہوا انسان کو پہنچتا ہے۔

۱۲۔ عبادتِ مقرر کی گئی

۱۳۔ عمریں کسی ہوتی ہیں۔

۱۴۔ عمریں مقرر ہیں۔

۱۵۔ موت کا وقت مقرر ہے

۱۶۔ موت کا وقت بدل

نہیں سکتا۔

۱۷۔

۱۸۔

۱۹۔

۲۰۔

۲۱۔

۲۲۔

۲۳۔

۲۴۔

۲۵۔

۲۶۔

۲۷۔

۲۸۔

۲۹۔

۳۰۔

۳۱۔

۳۲۔

۳۳۔

۳۴۔

۳۵۔

۳۶۔

۳۷۔

۳۸۔

۳۹۔

۴۰۔

۴۱۔

۴۲۔

۴۳۔

۴۴۔

۴۵۔

۴۶۔

۴۷۔

۴۸۔

۴۹۔

۵۰۔

۵۱۔

۵۲۔

۵۳۔

۵۴۔

۵۵۔

۵۶۔

۵۷۔

۵۸۔

۵۹۔

۶۰۔

۶۱۔

۶۲۔

۶۳۔

۶۴۔

۶۵۔

۶۶۔

۶۷۔

۶۸۔

۶۹۔

۷۰۔

۷۱۔

۷۲۔

۷۳۔

۷۴۔

۷۵۔

۷۶۔

۷۷۔

۷۸۔

۷۹۔

۸۰۔

۸۱۔

۸۲۔

۸۳۔

۸۴۔

۸۵۔

۸۶۔

۸۷۔

۸۸۔

۸۹۔

۹۰۔

۹۱۔

۹۲۔

۹۳۔

۹۴۔

۹۵۔

۹۶۔

۹۷۔

۹۸۔

۹۹۔

۱۰۰۔

۱۰۱۔

۱۰۲۔

۱۰۳۔

۱۰۴۔

۱۰۵۔

۱۰۶۔

۱۰۷۔

۱۰۸۔

۱۰۹۔

۱۱۰۔

۱۱۱۔

۱۱۲۔

۱۱۳۔

۱۱۴۔

۱۱۵۔

۱۱۶۔

۱۱۷۔

۱۱۸۔

۱۱۹۔

۱۲۰۔

۱۲۱۔

۱۲۲۔

۱۲۳۔

۱۲۴۔

۱۲۵۔

۱۲۶۔

۱۲۷۔

۱۲۸۔

۱۲۹۔

۱۳۰۔

۱۳۱۔

۱۳۲۔

۱۳۳۔

۱۳۴۔

۱۳۵۔

۱۳۶۔

۱۳۷۔

۱۳۸۔

۱۳۹۔

۱۴۰۔

۱۴۱۔

۱۴۲۔

۱۴۳۔

۱۴۴۔

۱۴۵۔

۱۴۶۔

۱۴۷۔

۱۴۸۔

۱۴۹۔

۱۵۰۔

۱۵۱۔

۱۵۲۔

۱۵۳۔

۱۵۴۔

۱۵۵۔

۱۵۶۔

۱۵۷۔

۱۵۸۔

۱۵۹۔

۱۶۰۔

۱۶۱۔

۱۶۲۔

۱۶۳۔

۱۶۴۔

۱۶۵۔

۱۶۶۔

۱۶۷۔

۱۶۸۔

۱۶۹۔

۱۷۰۔

۱۷۱۔

۱۷۲۔

۱۷۳۔

۱۷۴۔

۱۷۵۔

۱۷۶۔

۱۷۷۔

۱۷۸۔

۱۷۹۔

۱۸۰۔

۱۸۱۔

۱۸۲۔

۱۸۳۔

۱۸۴۔

۱۸۵۔

۱۸۶۔

۱۸۷۔

۱۸۸۔

۱۸۹۔

۱۹۰۔

۱۹۱۔

۱۹۲۔

۱۹۳۔

۱۹۴۔

۱۹۵۔

۱۹۶۔

۱۹۷۔

۱۹۸۔

۱۹۹۔

۲۰۰۔

۲۰۱۔

۲۰۲۔

۲۰۳۔

۲۰۴۔

۲۰۵۔

۲۰۶۔

۲۰۷۔

۲۰۸۔

۲۰۹۔

۲۱۰۔

۲۱۱۔

۲۱۲۔

۲۱۳۔

۲۱۴۔

۲۱۵۔

۲۱۶۔

۲۱۷۔

۲۱۸۔

۲۱۹۔

۲۲۰۔

۲۲۱۔

۲۲۲۔

۲۲۳۔

۲۲۴۔

۲۲۵۔

۲۲۶۔

۲۲۷۔

۲۲۸۔

۲۲۹۔

۲۳۰۔

۲۳۱۔

۲۳۲۔

۲۳۳۔

۲۳۴۔

۲۳۵۔

۲۳۶۔

۲۳۷۔

۲۳۸۔

۲۳۹۔

۲۴۰۔

۲۴۱۔

۲۴۲۔

۲۴۳۔

۲۴۴۔

۲۴۵۔

۲۴۶۔

۲۴۷۔

۲۴۸۔

۲۴۹۔

۲۵۰۔

۲۵۱۔

۲۵۲۔

۲۵۳۔

۲۵۴۔

۲۵۵۔

۲۵۶۔

۲۵۷۔

۲۵۸۔

۲۵۹۔

۲۶۰۔

۲۶۱۔

۲۶۲۔

۲۶۳۔

۲۶۴۔

۲۶۵۔

۲۶۶۔

۲۶۷۔

۲۶۸۔

۲۶۹۔

۲۷۰۔

۲۷۱۔

۲۷۲۔

۲۷۳۔

۲۷۴۔

۲۷۵۔

۲۷۶۔

۲۷۷۔

۱۱ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا

اور جب کسی کی موت موجود ہوتی ہے تو خدا کبھی اس کو ہلت نہیں دیا کرتا۔

۱۲ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ

کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی بس چلتا ہوتا تو ہم یہاں مارے ہی نہ جاتے۔ کہو۔ کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے

لَبُرَّ زَالِذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا۔ گھروں سے نکل کر خود اپنے پھرنے کی جگہ موجود ہوتے

۱۳ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَكُ مِثْلَ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

تم یہیں بھی ہو۔ موت تو تم کو آکر رہے گی۔ اگرچہ تم نے گنبدوں ہی میں کیوں نہ ہو۔

۱۴ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ

کہ بے۔ اگر تم موت یا قتل سے بھاگتے ہو۔ تو بھاگنا تم کو ہرگز نائدہ نہیں دے گا۔

۱۵ أَمْ لِلِإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ۝ ۲۵ قَلِيلٌ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝

کیا انسان کی تمنا میں پوری ہوتی ہیں۔ سو آخرت اور دنیا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

۱۶ مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

اور تجھے کوئی نائدہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔

۱۷ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے گی۔

۱۸ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

۱۹ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اور ہم کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

۲۰ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

ہر کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

۲۱ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

اللہ نے جس کو بتا دے رکھا ہے اس سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔

۲۲ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝

پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری اسے سمجھا دی۔

۱۸۔ انسان کی مرضی پوری

نہیں ہو سکتی۔

۱۹۔ نیک خدا سے۔ بدی

انسان سے۔

۲۰۔ خدا کسی کو اس کی گنجائش

سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

۲۱۔ انسان کو خدا نے نیک

و بد دونوں رستے دکھائے

کتاب الحکمہ

فہرست مضامین جزء دوم کتاب تفصیل البیان فی مقاصد القرآن کتاب الاحکام

صفحہ	مضمون آیات	اعداد آیات	صفحہ	مضمون آیات	اعداد آیات
۵	مومنوں کے ساتھ خدا ہے	۲۰	۱	ایمان لانے کا حکم	۱
	نیکو کار مومنوں کو زمین کی حکومت تکمیل دین	۲۱		سارے پیغمبروں اور ان کی کتابوں پر ایمان	۲
۶	اور امن کا وعدہ		۲	لانے کا حکم	
۶	مومنوں کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک	۲۲		ایمان لانے اور جہاد کرنے کا اجر - مغفرت	۳
۶	مومن نیک بختوں میں داخل ہوں گے	۲۳	۲	اور دخول جنت	
	قیامت کو مومنوں کے آگے آگے اور داہنی	۲۴		ایمان دار اور حاجیوں کو پانی پلانے والے	۴
۶	طرف روشنی چلے گی		۳	برابر نہیں	
	مومن قیامت کو تختوں پر بیٹھے کافروں پر	۲۵	۳	نزول عذاب کے وقت ایمان قبول نہیں	۵
۶	ہنسیں گے -		۳	ایمان نہ لانے سے عذاب	۶
۷	مومنوں کو بشارت	۲۶	۳	ایمان میں صرف اقرار معتبر نہیں	۷
۸	مومنوں کو اجر	۲۷	۳	ایمان کا بڑھنا (صفحات ۱۹-۲۰-۲۱)	۸
۸	مومنوں کو پورا اجر بلکہ اس سے بھی زیادہ	۲۸	۴	مومنوں کو نیک جزا	۹
۹	مومنوں کو اچھا اجر	۲۹	۴	خدا تعالیٰ کا مومنوں کی طرف رجوع	۱۰
۹	مومنوں کو بے انتہا اجر	۳۰	۴	مومن نیکو کار کم ہیں	۱۱
۹	مومنوں کو اجر آخرت	۳۱	۴	مومن پتھے ہیں	۱۲
۹	مومنوں کو اجر کبیر	۳۲	۴	مومن اور مشرک کی تمثیل	۱۳
۹	مومنوں کو اجر کرمیم	۳۳	۴	مومنوں کے لئے دعا فرشتگان	۱۴
۹	مومنوں کو اجر عظیم	۳۴	۴	مومنوں کی مثال دو بیویوں سے	۱۵
۱۰	مومنوں کے لئے مغفرت	۳۵	۵	مومن صاحب تقویٰ اور اس کے حق دار ہیں	۱۶
۱۰	مومنوں کو عزت کی روزی	۳۶	۵	مومنوں کا قرآن پر ایمان	۱۷
۱۰	مومنوں کو ہمیشہ کے لئے جنت	۳۷	۵	مومن اور کافر برابر نہیں	۱۸
۱۵	مومنوں کی باغ میں آؤ بھگت	۳۸	۵	مومن اور فاسق برابر نہیں	۱۹

۲۱	اسلام پر ہی مرد	۵	۲۶	ہر ایک بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے	۲
۳۱	خدا کے دین کی مدد کرو	۶	۲۶	خدا کے پاس حق بولتی کتاب ہے	۳
۳۱	دین تو خدا کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے	۷	۲۶	کتاب الحمد والاثبات	۴
۳۱	ہدایت صرف اسلام ہی میں منحصر ہے	۸	۲۶	کل کام آسمان سے اترتے ہیں	۵
۳۲	اسلام کے سوا کوئی دین مقبول نہیں	۹	۲۶	خدا کی مرضی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا	۶
۳۲	دین اسلام خدا کا سیدھا رستہ ہے	۱۰	۲۶	سب کچھ خدا کی طرف سے ہے -	۷
۳۲	دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں	۱۱	۲۶	لوگوں کا اختلاف خدا کی طرف سے ہے	۸
۳۲	دین اسلام میں اللہ نے آسانی رکھی ہے - سختی نہیں رکھی -	۱۲	۲۸	لوگوں کا ایمان لانا خدا کے حکم پر موقوف ہے	۹
۳۳	اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا	۱۳	۲۸	انسان کا دل خدا کے اختیار میں ہے	۱۰
۳۳	ضعیفوں - لنگڑوں - اندھوں اور مرثیوں وغیرہ معذورین پر جمعہ - جماعات اور جہاد وغیرہ کی تکلیف نہیں ہے	۱۴	۲۸	خدا کا لکھا ہوا انسان کو پہنچتا ہے -	۱۱
۳۳	اسلام بڑا محکم کڑا ہے	۱۵	۲۸	کوئی شے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتی	۱۲
۳۳	خدا دین اسلام سے راضی ہے -	۱۶	۲۸	خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا	۱۳
۳۳	دین اسلام نوح - ابراہیم - موسیٰ - عیسیٰ وغیرہ کا ایک ہی ہے -	۱۷	۲۹	خدا نیکوں کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور بدوں کو بدی کی	۱۴
۳۳	اسلام سے تعزیش کی ممانعت	۱۸	۲۹	انسان کو خدا نے نیک و بد دونوں رستے دکھلا دیئے ہیں -	۱۵
۳۵	غلبہ اسلام کی پیشین گوئیاں	۱۹	۲۹	نیکی خدا کی طرف سے ہے اور بدی انسان کی	۱۶
۳۵	مسلمان نیکو کار بے خوف و بے غم ہیں -	۲۰	۲۹	انسان کی مرضی پوری نہیں ہو سکتی	۱۷
۳۵	مسلمان نام ابراہیم نے رکھا ہے	۲۱			
۳۵	مسلمان اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں	۲۲			
۳۶	مسلمانوں کا اللہ کا رساڑ ہے -	۲۳	۲۹		
۳۶	مسلمانوں کی سلطنت کی نسبت زبور کی پیشین گوئی	۲۴	۳۰		
۳۶	مسلمان اللہ کے نور پر ہیں -	۲۵	۳۰		
۳۶	مسلمانوں پر فرشتوں کا نزول جنت کی بشارت کے ساتھ	۲۶	۳۱		
۳۶					

۲۴	۳۶	مسلمان اور مجرم برابر نہیں ہیں	۲۷
۲۴	۳۶	دعوت اسلام تبلیغ	۱
۲۵	۳۶	تبلیغ کا حکم	۱
۲۵	۳۷	لوگوں کو سمجھانے کا حکم	۲
۲۵	۳۸	خدا کے بندے نصیحت کو بغور سنتے ہیں	۳
۲۵	۳۸	ابھی باتوں کی ہدایت کرنا اور بُری باتوں سے منع کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔	۴
۲۵	۳۸	بنی اسرائیل لوگوں کو بُرے کاموں سے منع نہ کرنے پر داؤد اور عیسیٰ کی زبان طعنوں قرار دیئے گئے	۵
۲۵	۳۹	اپنی اصلاح کے بعد کسی کی گمراہی سے ضرر نہیں	۶
۲۶	۳۹	لوگوں کو عذابا سے ڈراؤ۔	۷
۲۶	۳۹	اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم	۱
۲۶	۳۹	رسول اسی غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔	۱
۲۶	۴۰	رسولوں کے آنے سے اعمال بد کی سزا ملتی ہے	۲
۲۶	۴۰	رسولوں کے جھٹلانے والوں کو خدا ڈھیل دیتا ہے۔	۳
۲۶	۴۰	رسولوں کے جھٹلانے والوں کے اعمال اکارت ہیں۔	۴
۲۶	۴۰	رسولوں کے جھٹلانے والے دوزخی ہیں	۵
۲۶	۴۲	رسولوں کا اتباع کرنے والے قیامت کو بیخوف دشمن ہوں گے	۶
۲۶	۴۲	اللہ سے نجات کرنے والوں کو اتباع رسول کا حکم	۷
۲۶	۴۲	اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم	۸
۲۶	۴۲	اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہدایت اور بڑا بھاری اجر ہے	۹
۲۵	۱۰	رسول کی اطاعت بعینہ خدا کی اطاعت ہے	۱۰
۲۵	۱۱	اللہ اور رسول کا حکم رد کرنے کا کسی مسلمان کو مرد ہو یا عورت اختیار نہیں ہے۔	۱۱
۲۵	۱۲	اللہ اور رسول کے تابعدار اپنی مراد کو نہیں گے	۱۲
۲۵	۱۳	قیامت کو اللہ اور رسول کے تابعدار نہیں۔	۱۳
۲۵	۱۳	صدقیوں۔ شہدا اور صالحین کے ساتھ ہونگے	۱۳
۲۵	۱۴	اللہ اور رسول کے تابعداروں کو جنت	۱۴
۲۵	۱۵	اللہ اور رسول کے نافرمان گمراہ ہیں	۱۵
۲۵	۱۶	اللہ اور رسول کے مخالف رد ہیں	۱۶
۲۶	۱۷	اللہ اور رسول کے مخالف ذلیل ہوں گے	۱۷
۲۶	۱۸	قیامت کو رسول کے نافرمان زمین کا پیوند ہونے کی متاثر کریں گے	۱۸
۲۶	۱۹	اللہ اور رسول کے نافرمانوں کو عذابِ دونخ ہوگا	۱۹
۲۶		تقویٰ	
۵۲	۱	خدا سے ڈرنے کا حکم	۱
۵۲	۲	ڈر صرف اللہ ہی کا چاہیئے	۲
۵۲	۳	قیامت سے ڈرو	۳
۵۲	۴	دوزخ سے ڈرو	۴
۵۲	۵	متقی ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں	۵
۵۲	۶	متقی شیطان سے چوکتے رہتے ہیں	۶
۵۲	۷	متقیوں کے اعمال مقبول ہیں	۷
۵۲	۸	خدا متقیوں کے ساتھ ہے	۸
۵۳	۹	خدا متقیوں کا دوست ہے	۹

۵۹	خدا کی آیتیں جھٹلانے والوں کو آگ	۲۹	۵۳	خدا متقیوں سے محبت رکھتا ہے	۱۰
۶۰	خدا کی آیتیں جھٹلانے والے دوزخی ہیں	۳۰	۵۳	قیامت کو متقی خدا کے ہمان ہوں گے	۱۱
	خدا کی آیتیں جھٹلانے والے نہ قیامت کو	۳۱		خدا کے ہاں سب سے زیادہ عزت اسی کی	۱۲
	کچھ بول سکیں گے نہ انہیں خدا کرنے کی		۵۳	ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔	
۶۰	اجازت ملے گی		۵۳	خدا سے ڈرنے والوں کا نیک انجام	۱۳
	خدا کی آیتیں جھٹلانے والوں کو خدا ڈھیل دیتا	۳۲		متقیوں کے لئے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت	۱۴
۶۰	ہے۔		۵۴	اور بڑا بھاری اجر ہے	
	خدا کی آیتیں جھٹلانے والوں کی بری مثال	۳۳	۵۴	ڈرنے والوں سے خدا تعالیٰ رضا مند ہے	۱۵
۶۰	جیسے بانپتا گنا		۵۴	متقیوں کے صفات	۱۶
	قرآن اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں	۳۴	۵۵	اللہ سے ڈرنے والوں کو بے گمان روزی	۱۷
۶۱	کے لئے آگ۔ گرم پانی۔ طوق زنجیر اور سیڑھ کھانا			ڈرنے والے کے کاموں میں خدا آسانی	۱۸
	احکام قرآن کو جھٹلانے والوں کے لئے ویل	۳۵	۵۵	کر دے گا۔	
	نار جنہم۔ گلے میں اٹکتا کھانا۔ عذاب الیم بین		۵۵	قیامت کو متقی کفار پر غالب ہوں گے	۱۹
۶۱	شاخوں والا تکلیف دہ سایہ			ڈرنے والوں کے لئے نہروں والی جنتیں	۲۰
	خدا کی آیتوں اور قیامت کے منکرین کے	۳۶	۵۵	اور طرح طرح کے آرام و آسائش	
۶۲	اعمال باطل ہیں		۵۸	ڈرنے والوں کے لئے دو جنتیں	۲۱
۶۲	قیامت کو جھٹلانے والے گھائے میں ہیں	۳۷	۵۸	متقیوں کو دوزخ سے نجات	۲۲
۶۳	منکرین قیامت کے لئے دوزخ	۳۸	۵۸	قیامت کو متقی بے خوف و غم ہوں گے	۲۳
۶۳	منکرین قیامت کے لئے ویل	۳۹			
۶۳	منکرین دوزخ کے لئے وہی دوزخ	۴۰			
	شُرک				
۶۳	شُرک کی ممانعت	۱	۵۸	سچی بات کو جھٹلانے والوں سے بڑھ کر	۲۴
	خدا کے ساتھ شُرک کرنے میں والدین کی	۲		کوئی ظالم نہیں	
۶۴	اطاعت نہیں		۵۹	خدا کی آیتوں کو جھٹلانے والوں سے بڑھ	۲۵
۶۴	قباحت شُرک کی ایک تمثیل	۳	۵۹	کوئی ظالم نہیں	
۶۴	شُرک بڑا ظالم ہے۔	۴		خدا کی آیتوں کو جھٹلانے کی ممانعت	۲۶
۶۴	شُرک کی بخشش نہیں	۵	۵۹	خدا کی آیتیں جھٹلانے والے بہرے اور	۲۷
				گو گئے ہیں	
			۵۹	خدا کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کو عذاب	۲۸

۷۶	مشرکوں پر جنت حرام ہے	۲۸	۶۵	شُرک کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے	۶
۷۶	مشرک ذشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں مگر اپنے لئے بیٹی ناپسند کرتے ہیں۔	۲۹	۶۶	مشرک اپنے شرک اور بد اعمالیوں کا الزام خدا پر لگاتے ہیں	۷
۷۸	مشرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ناحق جھگڑتے ہیں	۳۰	۶۷	مشرکوں نے خدا کی قدر نہیں کی	۸
۷۸	مشرکوں کو دوزخ	۳۱	۶۷	مشرک مسجدیں آباد نہیں کر سکتے	۹
۷۹	مشرکوں کو عذاب	۳۲	۶۷	مشرک بتوں کی عبادت سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں	۱۰
۷۹	مشرک محض اہل زہد پر چلتے ہیں	۳۳	۶۷	مشرک ہزار برس کی زندگی چاہتے ہیں	۱۱
۸۰	مشرک خدا کے ذکر سے نفرت کرتے ہیں اور غیر خدا کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں	۳۴	۶۷	مشرک ناپاک ہیں یہ مسجد الحرام پاس نہیں آئیں	۱۲
۸۰	مشرک اکیلے خدا پر ایمان نہ لاتے جب اس کے شریک ٹھہرائے جاتے تو ایمان لاتے ہیں	۳۵	۶۷	مشرکوں کے لئے استغفار کی مانعت	۱۳
۸۰	مشرک خدا کی نسبت بڑا گمان رکھتے ہیں	۳۶	۶۷	مشرک اور مومن کی تمثیل عہد سے	۱۴
۸۰	مشرک معیبت کے وقت صرف خدا ہی کو بگارتے ہیں	۳۷	۶۷	مشرک اپنی کمستی اور موشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لئے مقرر کرتے ہیں اور ایک حصہ بہتوں کے لئے	۱۵
۸۰	مشرکوں کو دین اسلام ناگوار گذرتا ہے۔	۳۸	۶۸	مشرکوں کے اعمال اکارت ہیں	۱۶
	کفر		۶۸	مشرکوں پر اللہ کا غضب اور لعنت	۱۷
۸۱	کفر نہ کرو	۱	۶۹	مشرک خدا پر بہتان باندھتے ہیں	۱۸
۸۲	کفر خدا کے ہاں بڑا گناہ ہے	۲	۶۹	مشرک شیطان کو بچارتے ہیں	۱۹
۸۲	کفر کے وقت کافروں کے پاس نہ بیٹھو	۳	۶۹	مشرکین کے معبودوں کا عجز	۲۰
۸۲	اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا۔	۴	۷۲	قیامت کو مشرکوں کے معبودان سے بیزار ہو گئے	۲۱
۸۲	اہل کتاب کی طرح سخت دل اور فاسق نہیں ہونا چاہیے۔	۵	۷۲	قیامت کو مشرک اپنے معبودوں سے بیزار ہوں گے اور اپنے شرک کا انکار کریں گے	۲۲
	موالات با کفار		۷۵	قیامت کو مشرکوں کا انتراسب جاتا رہیگا۔	۲۳
۸۲	کافروں سے دوستی کرنے کی مانعت	۱	۷۵	قیامت کو مشرکوں سے ان کے شرک اور اجابت انبیاء کی نسبت سوال	۲۴
			۷۶	مشرک باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں	۲۵
			۷۶	مشرکوں سے نکاح کی مانعت	۲۶
			۷۶	مشرک لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں	۲۷

	سستی۔ کاہلی اور ریاضی کا ری سے نماز پڑھنا	۲۸	۹۹	نماز بقید اوقات	۵
۱۰۳	مناقتوں کا کام ہے۔		۱۰۰	درمیان نماز کی پابندی	۶
۱۰۳	نماز گناہوں سے روکتی ہے	۲۹	۱۰۰	نماز مسجد میں	۷
۱۰۳	نماز منجملہ نیکی کی ہے۔	۳۰	۱۰۰	نماز زینت کے ساتھ	۸
	مسلمانوں کے رفیق صرف وہی مسلمان ہیں۔	۳۱	۱۰۰	زینت کو کس نے حرام کیا؟	۹
۱۰۳	جو نماز پڑھتے ہیں		۱۰۰	نماز نشہ کی حالت میں منع ہے	۱۰
۱۰۳	نمازیوں سے لڑنا درست نہیں	۳۲	۱۰۰	قرأت نماز متوسط آواز میں	۱۱
۱۰۳	مومنوں کی صفت نماز پڑھنا ہے۔	۳۳	۱۰۱	حاجت مندوں کو تھوڑی قرأت	۱۲
۱۰۳	نمازیوں کے لئے دارِ آخرت	۳۴	۱۰۱	نماز جمعہ	۱۳
۱۰۳	نمازیوں کے لئے بہشت	۳۵	۱۰۱	نماز خوف و سفر	۱۴
۱۰۵	نماز کا اجر ضائع نہیں ہے	۳۶	۱۰۱	نماز خوف پیادہ پڑھو یا سوار	۱۵
۱۰۵	نمازیوں کے لئے فلاحِ آخرت	۳۷	۱۰۱	نماز سفر میں قصر	۱۶
۱۰۶	نمازیوں کو ہدایت	۳۸	۱۰۱	نماز خوف میں جماعت باری باری	۱۷
۱۰۶	نمازیوں کو بشارت	۳۹	۱۰۱	نماز خوف میں ہتھیار ساتھ رہیں	۱۸
۱۰۷	نمازی بے خوف و غم ہیں	۴۰	۱۰۱	حالتِ عذر میں ہتھیار آتا رکھو مگر اپنا	۱۹
۱۰۷	نمازیوں کو اجرِ عظیم	۴۱	۱۰۲	بچاؤ اپنے ساتھ رکھو۔	
۱۰۷	نمازی اور بے نماز برابر نہیں ہو سکتے	۴۲		نماز خوف کے بعد کھڑے۔ بیٹھے۔ لیٹے جیسے	۲۰
۱۰۷	بے نمازوں کے لئے دوزخ	۴۳	۱۰۲	حالت ہو۔ اللہ کو یاد کرو۔	۲۱
۱۰۸	بے نمازوں کا اللہ کے آگے حاضر کیا جانا	۴۴	۱۰۲	نماز تہجد	۲۲
	غفلت اور ریاضی سے نماز پڑھنے والوں کے	۴۵		تہجد میں جس قدر ہو سکے۔ اسی قدر قرأت	۲۳
۱۰۸	لئے دیل		۱۰۲	قرآن کافی ہے	
	نماز جنازہ			ابتداءً مسلمانوں کو صرف نماز اور زکوٰۃ ادا	۲۴
	مناقیق اور کافر کے جنازے پر نماز نہ پڑھی	۴۶	۱۰۲	کرنے کا حکم تھا۔	
۱۰۸	جائے		۱۰۳	شیطان اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا	۲۵
	استعاذہ			ہے	
	شیطان سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم	۴۷	۱۰۳	اہل کتاب نماز کی ہنسی اڑاتے ہیں۔	۲۶
۱۰۸			۱۰۳	نماز خدا سے ڈرنے والوں کے سوا سب	۲۷
				پر بھاری ہے	

استغفار

۱۰۸	استغفار کا حکم	۴۰
۱۰۹	استغفار مقبول ہے -	۴۱
۱۰۹	استغفار کرنے والوں کو عذاب سے امن	۴۲
	اللہ کی معافی کے ذریعے پیدا کرنے میں	۴۳
۱۰۹	جلدی کرو -	

یکبیر
تسبیح
تحمید

ذکر

۱۱۱	اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے	۴۴
۱۱۱	ذکر کرنے کا حکم	۴۵
۱۱۲	خدا کو کثرت سے یاد کرو	۴۶
۱۱۲	اللہ کو شعرا الحرام کے پاس یاد کرو	۴۷
	حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کو اپنے باپ	۴۸
۱۱۲	دادوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو	
۱۱۲	امن میں اللہ کو یاد کرو	۴۹
	اللہ کو گڑگڑا کر اور ڈر کر صبح و شام آہستہ سے	۵۰
۱۱۲	یاد کرو	
۱۱۳	اللہ کی نعمت یاد کرو	۵۱
۱۱۳	اللہ کی یاد سے دل تسلی پاتے ہیں	۵۲
	تجارت اور بیع اللہ کی یاد اور دیگر عبادات	۵۳
	سے مانع نہیں ہے۔	
۱۱۳	اللہ کی یاد سے جن کے دل سخت ہیں۔ ان کو	۵۴
۱۱۳	ویل	
۱۱۳	اللہ کی یاد سے فافلوں پر شیطان کا تسلط	۵۵

۱۱۳	اللہ کو بھولنے والے بدکار ہیں	۵۶
۱۱۳	اللہ کی یاد سے غافل ٹوٹے ہیں	۵۷
۱۱۳	اللہ کی یاد سے روگردانی کرنے میں عذاب	۵۸

توبہ

۱۱۴	توبہ کرنے کا حکم	۱
۱۱۴	توبہ کے ساتھ عمل صالح بھی شرط ہے	۲
۱۱۴	خدا توبہ قبول فرماتا ہے۔	۳
	توبہ کرنے والوں کے گناہ نیکیوں سے بدل	۴
۱۱۵	جلتے ہیں بشرطیکہ عمل صالح ساتھ ہو	
	توبہ کرنے والوں کے لئے فرشتے مغفرت کی	۵
۱۱۵	دعا کرتے ہیں	
	توبہ کرنے والے لوگوں سے اللہ محبت	۶
۱۱۵	کرتا ہے	
۱۱۵	توبہ صرف بھول چوک کے گناہ سے ہوتی ہے	۷
۱۱۶	موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔	۸
	مجرم اگر کپڑے جانے سے پیٹے توبہ کریں تو	۹
۱۱۶	جرم معاف ہے	
۱۱۶	چوری سے توبہ	۱۰
۱۱۶	توبہ شرک سے	۱۱
۱۱۶	توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں	۱۲
۱۱۶	مرتدوں کی توبہ قبول نہیں	۱۳

رجوع الی اللہ

۱۱۶	اللہ کی طرف دوڑو	۱
	اعمال موجب مغفرت و فلاح آخرت	
	خوف خدا۔ ایمان۔ نیک کام۔ صبر۔ عبادت	۱

زکوٰۃ

۱۱۶	انبیائے سابقین اور اہم سابقہ کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔	۱
۱۱۷	انبیائے سابقین کو زکوٰۃ کا حکم	۲
۱۱۷	اسماعیل علیہ السلام	۳
۱۱۷	عیسیٰ علیہ السلام	۴
۱۱۸	بنی اسرائیل سے زکوٰۃ اور نماز کا عہد	۵
۱۱۸	اہل کتاب	۶
۱۱۸	اصحاب رسول اللہ زکوٰۃ دیتے تھے	۷
۱۱۸	زکوٰۃ دینے کا حکم	۸
۱۱۸	زکوٰۃ دینے والوں پر خدا کی رحمت	۹
۱۱۸	ابتداء میں صرف نماز اور زکوٰۃ ہی کا حکم تھا	۱۰
۱۱۸	زکوٰۃ دینے والے ہدایت پر ہیں	۱۱
۱۱۸	زکوٰۃ دینا جملہ نیکی کے ہے	۱۲
۱۱۸	مسلمانوں کے بیتی و وجہ زکوٰۃ دیں	۱۳
۱۱۸	مومنوں کی صفت زکوٰۃ دینا ہے	۱۴
۱۱۸	زکوٰۃ دینے والوں سے لڑنا درست نہیں	۱۵
۱۱۸	زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کی صفت ہے	۱۶
۱۱۸	زکوٰۃ خدا ایسا ہے	۱۷
۱۱۸	زکوٰۃ دینے والوں کا مال دگنا ہوتا ہے	۱۸
۱۱۸	زکوٰۃ دینے والوں کو فلاح آخرت	۱۹
۱۱۹	زکوٰۃ دینے والوں کے لئے بہشت	۲۰
۱۱۹	زکوٰۃ دینے میں اصل سے زیادہ ملے گا۔	۲۱
۱۱۹	زکوٰۃ دینے والوں کو اجر عظیم	۲۲
۱۱۹	زکوٰۃ دینے والے بے خوف و غم ہیں	۲۳
۱۱۹	زکوٰۃ دینے والوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ	۲۴

۱۱۹	علیہ وسلم کو دعا دینے کا حکم	
۱۱۹	زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے	۲۵
۱۱۹	زکوٰۃ پر کفار کا اعتراض	۲۶
۱۱۹	زکوٰۃ کے بارے میں منافقوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگانا	۲۷

صدقات

۱۲۰	صدقہ دے کر احسان جانا نہیں چاہیے۔	۱
۱۲۰	احسان جتا کر صدقات کا اجر باطل نہ کرو۔	۲
۱۲۰	صدقہ دینا بہتر ہے	۳
۱۲۰	صدقہ ظاہر کر کے اور چھپا کر دونوں طرح دینا اچھا ہے۔	۴
۱۲۰	صدقہ دینے والوں کو خدا جزا دے گا۔	۵
۱۲۰	صدقہ دینے والوں کو عزت کا اجر ملے گا۔	۶
۱۲۰	صدقات نافلہ کے مستحقین	۷
۱۲۱	خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم	۸
۱۲۱	خرچ کرو قیامت سے پہلے	۹
۱۲۱	خرچ کرو موت سے پہلے	۱۰
۱۲۱	خرچ کرو حاجت سے زیادہ	۱۱
۱۲۱	راہِ خدا میں اپنی پاک کمانی میں سے خرچ کرو۔	۱۲
۱۲۱	نپاک اور ناکارہ نہیں	۱۳
۱۲۲	راہِ خدا میں خرچ کرنے والے ہدایت پر ہیں	۱۴
۱۲۲	محبوب چیز کو خرچ کئے بغیر نیکی حاصل نہیں ہو سکتی	۱۵
۱۲۲	خرچ کرنے والوں کو بشارت	۱۶
۱۲۲	خرچ کرنے والوں کو پورا اجر ملے گا۔	۱۷
۱۲۲	خرچ کرنے والوں کو اجر کبیر	۱۸
۱۲۲	راہِ خدا میں بے منت خرچ کرنے والے بخون	۱۹

۱۲۴	صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کرو	۱۰	۱۲۲	دغم ہیں	
۱۲۴	اعتمکاف میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ۔	۱۱		چھپا کر اور علانیہ خرچ کرنے والے بے خوف	۱۹
	لیلة القدر		۱۲۲	دغم ہیں	
۱۲۵	لیلة القدر میں قرآن نازل ہوا۔	۱	۱۲۳	خدائی خرچ دانہ گندم جیسا	۲۰
۱۲۵	لیلة القدر میں ہر کام کی تقسیم ہوتی ہے	۲	۱۲۳	نمودی خرچ گرد آلود پتھر جیسا	۲۱
	بیت القدر میں خدا کے حکم سے ملائکہ اور جبرائیل	۳	۱۲۳	خدائی خرچ والے مثل باغ کے	۲۲
۱۲۵	زمین پر اترتے ہیں		۱۲۳	نمودی خرچ مثل خزاں زدہ باغ کے	۲۳
۱۲۵	لیلة القدر صبح تک امن کی رات ہے۔	۴	۱۲۳	دنیا کا خرچ مثل ہوائے یخ	۲۴
۱۲۵	لیلة القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔	۵	۱۲۳	خدا کو قرض دو	۲۵
	حج		۱۲۳	خدا اپنے قرض دینے والوں کو ڈگنا دیگا	۲۶
۱۲۵	ابراہیم کو حکم ملا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو۔	۱		خدا کو قرض دینے میں گناہوں کا کفارہ اور	۲۷
۱۲۶	مقدور والوں پر حج فرض ہے	۲	۱۲۳	دخول حجت	
۱۲۶	حج کا حساب چاند پر ہے	۳		روزہ	
۱۲۶	حج کے مہینے مقرر ہیں	۴	۱۲۳	روزہ اسی طرح فرض ہے جس طرح پہلی	۱
۱۲۶	حج میں نسی اور لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے۔	۵	۱۲۳	امتوں پر فرض تھا	
۱۲۶	حج میں توشہ ساتھ لینا چاہیے۔	۶	۱۲۳	روزہ گنتی کے چند دنوں میں ہے	۲
۱۲۶	احرام میں شکار کی ممانعت	۷		مریض اور مسافر کو دوسرے ایام میں روزہ	۳
۱۲۶	شکار کا کفارہ	۸	۱۲۴	رکھ لینا چاہیے	
۱۲۷	دریا کا شکار حلال ہے	۹	۱۲۴	مریض اور مسافر کو روزہ کی تاخیر کی کیوں مہلت	۴
۱۲۷	احرام کے بعد حج اور عمرہ پورا کرو	۱۰		دی گئی	
۱۲۷	صفا مروہ کا طواف	۱۱	۱۲۴	جن پر روزہ رکھنا مشکل ہو وہ ایک محتاج کو	۵
	عرفات سے لوٹنے کے بعد خدا کو مشعر الحرام	۱۲	۱۲۴	کھانا دیں	
۱۲۷	کے پاس جاؤ کرو		۱۲۴	روزہ رکھنا بہر حال بہتر ہے	۶
	جہاں سے تمام لوگ لوٹتے ہیں۔ وہیں سے	۱۳	۱۲۴	روزوں کا مہینہ رمضان کا ہے	۷
۱۲۷	(یعنی عرفات سے) اے قریش تم لوٹو		۱۲۴	جو ماہ رمضان پائے وہ روزے رکھے	۸
	جو لوگ حج سے روکے جائیں۔ ان پر آسان سی	۱۴	۱۲۴	روزوں کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا اور	۹
				کھانا پینا صبح صادق تک درست ہے۔	

۱۴۹	مفصلہ بالا کے سوا کُل عورتوں سے نکاح جائز ہے۔	۱۴۴	دین میں زبردستی نہیں۔	۲۹
۱۴۹	نہر مقرر اور ادا کرنے کا حکم	۱۴۵	اگر کافر نہ لڑیں تو ان سے لڑنا درست نہیں	۳۰
۱۴۹	یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا ہو تو ان کو ان کا پورا	۱۴۵	صلح کا حکم	۳۱
۱۴۹	مہر دو۔	۱۴۵	ایسران جنگ کو احسان کر کے یا فدیہ لے کر	۳۲
۱۴۹	اگر عورتیں اپنی خوشی سے مہر چھوڑ دیں۔ تو	۱۴۶	چھوڑ دو	۳۳
۱۴۹	جائز ہے	۱۴۶	مالِ غنیمت اللہ اور رسول کا ہے	۳۴
۱۴۹	اگر عورت کو طلاق دینے کا ارادہ ہو۔ تو اس	۱۴۶	مالِ غنیمت کے مستحق	۳۴
۱۴۹	سے مہر یا جو کچھ دے چکے ہو۔ واپس لینا	۱۴۶	مالِ فدیہ کی تعریف	۳۵
۱۴۹	جائز نہیں	۱۴۶	فدیہ کی منسرف	۳۶
۱۵۰	مہر مقرر ہوئے۔ بیٹھے زوجین کی رضامندی			
۱۵۰	سے اس میں کمی ہو سکتی ہے			
	طلاق		نکاح	
۱۵۰	طلاق اصلی صرف دو ہیں	۱۴۷	چار نکاح تک کی اجازت	۱
۱۵۰	تین طلاقوں والی عورت بغیر طلاقِ شوہر باقی کے	۱۴۷	اگر کئی عورتوں میں انصاف نہ ہو سکے گا اور بیشہ	۲
۱۵۰	نکاح میں نہیں آسکتی	۱۴۷	ہو تو صرف ایک نکاح	۳
۱۵۰	طلاق والی عورتوں کو خوبی کے ساتھ روک رکھو یا	۱۴۷	زیادہ عورتوں اور نیک بخت لڑکیوں کا نکاح کر دو	۴
۱۵۰	خوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔ انہیں ضرر پہنچانے	۱۴۷	نکاح حصولِ غنیمت کے لئے ہو	۵
۱۵۰	کے لئے نہ روکو	۱۴۷	اگر آزاد عورتوں کا خرچ اٹھانے کی طاقت نہ ہو	۶
۱۵۰	طلاق والی عورتوں کو نکاح سے نہ روکو	۱۴۷	اور زنا کا انہیں نہ ہو تو ایماندار لڑکی کے ساتھ	۷
۱۵۰	عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دینی	۱۴۷	اس کے آقا کی اجازت سے نکاح کر لو۔	۸
۱۵۱	گناہ نہیں	۱۴۷	کتابیہ عورت سے نکاح درست ہے	۹
۱۵۱	مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کے زیادہ	۱۴۷	جنہیں نکاح کا تقدیر نہیں دو بیچے رہیں	۱۰
۱۵۱	حقداران کے خاوند ہیں	۱۴۸	مسلمان مرد کو مشرک سے اور مسلمان عورت کو	۱۱
۱۵۱	طلاق دینی ہو تو زمانہ عدت یعنی پاک کے دنوں	۱۴۸	مشرک سے نکاح جائز نہیں	۱۲
۱۵۱	میں دو۔	۱۴۸	زنا کاروں سے نکاح جائز نہیں۔	۱۳
۱۵۱	طلاق والی عورتوں کو اپنی وسعت کے	۱۴۸	زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو	
		۱۴۸	اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔	
		۱۴۸	جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی تفصیل۔	
		۱۴۸	خاوند والی عورتیں حرام ہیں	

میراث

۱	والدین اور اقربا کے ترکے میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ۔
۲	تقسیم ترکہ پر اگر غیر حقدار یتیم مسکین اور اقربا موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ دو۔
۳	لڑکے کا حصہ لڑکی سے دوچند۔
۴	دو لڑکیوں سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ دو تہائی۔
۵	ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا آدھا ہے۔
۶	اولاد ہو تو ماں باپ میں ہر ایک کا چھٹا حصہ۔
۷	اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ ایک تہائی۔
۸	بھائی ہو تو ماں کا چھٹا حصہ۔
۹	میراث وصیت اور زین کے بعد ہے۔
۱۰	میراث خدا کی طرف سے مقرر ہے۔
۱۱	اولاد نہ ہو تو خاوند کا نصف۔
۱۲	اولاد ہو تو چوتھائی۔
۱۳	اولاد نہ ہو تو بیوی کا چوتھائی حصہ ہے۔
۱۴	اولاد نہ ہو تو بیوی کا آٹھواں ہے۔
۱۵	اگر میت کلالہ (اوت نبوت) ہے اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔
۱۶	ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو وہ سب تہائی میں شریک۔
۱۷	وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔
۱۸	کلالہ کے اگر صرف ایک بہن ہے تو اس کا آدھا ہے۔ اگر وہ دو ہیں تو دونوں کا دو تہائی۔

اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ عورت سے دوگنا۔

۱۴۳

میراث صرف اقربا کے لئے ہے دوستوں سے زندگی میں سلوک کرو۔

۱۴۳

منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا۔

۱۴۳

قرض و رہن

ہر ایک معاملے کو لکھنا اور اس پر گواہ کرنا

۱۴۴

سفوف میں رہن

سود

سود خوار قیامت کو شیطان کے چھوٹے

۱۴۴

ہوتے شخص کی طرح منجھوٹا الحواس اٹھانگے۔

۱۴۴

سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔

۱۴۴

حمانعت سے پہلے کا سود حلال۔

۱۴۵

حرام ہونے کے بعد جو سود کھائے۔ وہ

۱۴۵

دوزخی۔

۱۴۵

اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔

۱۴۵

باقی سود چھوڑ دو۔

۱۴۵

سود خواروں کی اللہ اور رسول سے لڑائی۔

۱۴۵

دو گنے پر دو گنا سود نہ کھاؤ۔

کتمان حق

حکم خدا چھپانے والوں پر خدا کی پھینکار۔

۱۴۵

خدا کا حکم چھپانے والوں کو دردناک عذاب۔

۱۴۵

شہادت

بھی گواہی دینے کا حکم

۱۴۴

۱۴۹	قتل عمد کی سزا ہمیشہ کو دوزخ اور خدا کا غضب اور لعنت اور بڑا عذاب۔	۵	۱۴۹	گواہی نہ چھپاؤ۔ جو چھپائے وہ گنہگار۔	۲
۱۴۹	قاتل کو دوہرا عذاب۔	۶	۱۴۹	گواہی چھپانے سے بڑھ کر ظالم کون؟	۳
۱۴۹	قتل کی دنیوی سزائیں	۷	۱۴۹	سچی گواہی دینے اور جھوٹی گواہی سے بچنے والوں کی مرع	۴
	زنا			قصاص و دیت	
۱۴۹	زنا کی ممانعت	۱	۱۴۷	قصاص قتل مومنوں پر فرض ہے۔	۱
	خدا کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے اور زنا کاروں کو قیامت کو دوہرا عذاب ہوگا۔	۲	۱۴۷	قصاص میں مساوات۔	۲
۱۴۹	بے غیر صاحب کو عورتوں سے زنا اور دیگر گناہوں کے ترک پر بیعت لینے کا حکم۔	۳	۱۴۷	قصاص معاف ہو تو دیت (خون بہا) لازم۔	۳
۱۴۰	زنا کی دنیوی سزا	۴	۱۴۷	یہ آسانی خدا کی رحمت ہے۔	۴
	حدود			دیت قبول کرنے کے بعد تعدی کرنے والے کو عذاب ایلم۔	۵
	حد زنا			قصاص میں گواہوں کی زندگی ہے۔	۶
۱۴۰	عورتیں فواحش کی مرتکب ہوں تو گواہی کے بعد انہیں مرتے دم تک گھروں میں بند رکھو۔	۱	۱۴۷	غلامی سے قتل ہو تو دیت اور مسلمان غلام آزاد کرنا۔	۷
۱۴۰	اگر مرد ایسا کریں تو انہیں سزا دو۔	۲	۱۴۷	جیسے مسلمان غلام دستیاب نہ ہو تو گلا تار دوہینے کے روزے رکھے۔	۸
۱۴۰	زنا کی سزا سو ڈربے ہیں۔	۳	۱۴۸	توریت میں بھی قصاص فرض تھا۔	۹
۱۴۰	زال و زانیہ کا نکاح زانی یا مشرک ہی کے ساتھ ہو۔	۴		مقتول کے اولیاء قصاص لینے میں زیادتی نہ کریں	۱۰
۱۴۰	لڑکیوں کو فواحش کی سزا بیبیوں سے آدھی	۵		الکباہر	
	لوٹ مار۔ دیکھی			گناہ کبیرہ۔ قتل	
۱۴۰	مخاربین کو سزا۔	۱	۱۴۸	قتل کی ممانعت۔	۱
۱۴۱	مخاربین تو بچے کے تو سزا معاف۔	۲	۱۴۸	قتل اولاد کی ممانعت۔	۲
			۱۴۹	اولاد کے قاتل ٹوٹے ہیں۔	۳
			۱۴۹	قیامت کو دختر کشی کی بابت باز پرس۔	۴

چوری کی سزا

- ۱ چور کے ہاتھ کاٹو۔
۲ توبہ سے سزا معاف۔

حدِ قذف

- ۱ مومنوں کو بدنام کرنے کا عذاب۔
۲ بے خبر پاک دامن مومنات پر ہمت لگانے پر لعنت اور عذابِ عظیم۔
۳ ہمت لگانا کھلے گناہ کا بوجھ اٹھانا ہے۔
۴ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے کی سزا اسٹی کوڑے اور عدم قبول شہادت۔
۵ بہتان لگانے کی سزا توبہ کے بعد معاف ہے۔

ماپ تول

- ۱ پورا ماپنے اور تولنے کا حکم۔
۲ صحیح ترازو سے تولو۔
۳ کم ماپنے اور تولنے والوں کو دیں۔

شرابِ خواری و قمار بازی

- ۱ شرابِ خواری اور قمار بازی کی ممانعت۔

دوسرے گناہ

- ۱ فواحش سے بچنے کا حکم۔
۲ چھپے اور کھلے سب گناہوں کے چھپوڑنے کا حکم۔

امانت

- ۱ امانت کے ادا کرنے کا حکم۔
۲ امانت داروں کی خوبی۔

خیانت

- ۱ نبی خائن نہیں ہوتے۔
۲ خیانت کرنے والوں کی طرف داری منع ہے۔
۳ خیانت کی ممانعت۔
۴ خیانت کرنے والوں سے خدا محبت نہیں کرتا۔

ظلم

- ۱ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا
۲ اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔
۳ ظالم کیلگی گمراہی میں ہیں۔
۴ ظالم بڑے اختلاف میں۔
۵ ظالم آیاتِ خدا کا انکار کرتے ہیں۔
۶ ظالم ایک دوسرے کے رقیب ہیں۔
۷ ظالموں کو قرآن سے نقصان۔
۸ خدا کا بھلائی کا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں۔
۹ ظالموں کو ظلم کا مزہ معلوم ہوگا۔
۱۰ اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔
۱۱ ظالم خدا کی رحمت سے دور اور اُن پر خدا کی لعنت بھی۔
۱۲ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
۱۳ ظالموں کو فلاح نہیں۔

۱۸۱	خدا فساد نہیں چاہتا۔	۲	۱۷۷	ظالموں کو عذاب۔	۱۳
۱۸۱	اللہ مفسدوں سے محبت نہیں رکھتا۔	۳	۱۷۷	ظالموں کا فخر کام نہیں آئے گا۔	۱۵
۱۸۱	ان کے کام نہیں بناتا۔	۴	۱۷۷	ظالموں کو خوف	۱۶
۱۸۱	لوگوں کو فساد سے روکنا چاہیے۔	۵	۱۷۷	ان کی قابل دید حالت	۱۷
			۱۷۷	ذلت سے سر جھکے ہوئے	۱۸
			۱۷۷	دنیا میں لسنے کی خواہش	۱۹
			۱۷۸	شدید حسرت و ندامت	۲۰
			۱۷۸	دنیا بھر کا خزانہ فدیہ	۲۱
۱۸۲	اچھے کام کو کئے اور برے کام سے روکنے کا حکم۔	۱	۱۷۸	ظالموں کے لئے آگ	۲۲
۱۸۳	مسلمانوں میں ایک گروہ بلیغین کا ہونا چاہیے	۲	۱۷۸	ظالموں کو ذلت کا عذاب	۲۳
۱۸۳	امر معروف اور نہی عن المنکر کے درجے	۳	۱۷۸	بڑی طرح کا عذاب	۲۴
	غریب مسلمان طاقت پکڑیں تو پورے دیندار	۴	۱۷۹	ہمیشہ کا عذاب	۲۵
۱۸۴	بن جائیں		۱۷۹	عذاب کبیر	۲۶
۱۸۴	پہلے بھی ان اوصاف کے لوگ ہو گزرے	۵	۱۷۹	عذاب الیم	۲۷
	بنی اسرائیل میں بھی ہدایت کرنے والے	۶	۱۷۹	عذاب میتیم	۲۸
۱۸۴	پیدا ہوئے۔		۱۷۹	ظالموں کوویل	۲۹
	کاش وہی واجہار یہود کو برے کاموں		۱۸۰	عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔	۳۰
۱۸۴	سے روکیں۔		۱۸۰	نہ دوست نہ سفارش	۳۱
۱۸۴	وہ برے کاموں سے باز نہ آتے تھے۔	۸	۱۸۰	ظالموں کا ٹھکانہ بڑا	۳۲
	کافر نہ خود قرآن سنتے ہیں نہ اوروں کو سننے	۹	۱۸۰	ظالموں سے بدلہ لینا جائز	۳۳
۱۸۴	دیتے ہیں۔		۱۸۰		
	برائی سے روکنے والے بچے اور ظالم	۱۰			
۱۸۴	گرفتار عذاب				
۱۸۴	مناق برائی کا حکم دیئے اور اچھے کام سے روکتے	۱۱	۱۸۰		

فساد

فساد پھیلانے کی ممانعت۔

مختصر فہرست مضامین کتاب الاحکام

صفحہ	مضمون آیات	صفحہ	مضمون آیات
۸۱	کفر۔ کافروں سے دوستی کرنے کی ممانعت	۱	ایمان لانے کا حکم
۸۹	ارتداد۔	۳	نزول عذاب کے وقت ایمان قبول نہیں
۹۰	عبادت۔ خدا کی عبادت کا حکم۔	۳	ایمان میں صرف اقرار معتبر نہیں۔
۹۲	غیر خدا کی عبادت کی ممانعت	۳	ایمان کا بڑھنا۔ (نیز دیکھو صفحہ ۱۹)
	خلقت کی پیدائش سے مقصود صرف عبادت کرانا	۲۳	صفات مومنین
۹۲	ہے۔	۲۵	تزکیہ نفس
۹۵	ناز۔	۲۶	جبر و قدر و اختیار افعال
۱۰۱	ناز سفر میں قصر۔	۲۷	خدا کی مرضی بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔
۱۰۳	ناز گناہوں سے روکتی ہے۔	۲۷	سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔
۱۰۸	ناز جنازہ۔	۲۹	خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا
۱۰۸	استغاثہ۔ استغفار۔		خدا نیکوں کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور بدوں کو بدی
۱۱۰	تسبیح۔	۲۹	کی۔
۱۱۱	تحمید۔	۲۹	نیکی خدا کی طرف سے اور بدی انسان کی طرف سے۔
۱۱۳	ذکر۔ اللہ کی یاد سے دل تسلی پاتے ہیں۔	۲۹	اسلام لانے کا حکم
۱۱۴	توبہ۔ توبہ کے ساتھ عمل صالح بھی شرط ہے۔	۳۲	دین اسلام میں آسانی ہے۔ سختی نہیں۔
	توبہ صرف بھول چوک کے گناہوں سے ہوتی	۳۲	دین سب انبیاء کا اسلام ہے
۱۱۵	ہے۔	۳۵	مسلمان نام ابراہیم نے رکھا ہے۔
۱۱۶	رجوع الی اللہ	۳۸	دعوت اسلام۔ تبلیغ۔
۱۱۷	زکوٰۃ۔		تقویٰ۔ خدا کے ہاں سب سے زیادہ عزت اسی
۱۲۰	صدقات	۵۳	کی ہے۔ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔
۱۲۰	احسان جتا کہ صدقات کا اجر باطل نہ کرو۔	۵۸	دین کو جھٹلانا۔
۱۲۳	روزہ	۶۲	شرک۔ مشرک کی بخشش نہیں۔
	جنہیں روزہ رکھنا مشکل ہو۔ وہ ایک محتاج کو	۶۷	مشرک ناپاک ہیں۔ وہ مسجد الحرام کے پاس نہ آئیں۔
۱۲۴	کھانا دیں۔	۷۶	مشرکوں سے نکاح کی ممانعت

۱۵۴	ظہار	۱۲۵	لیۃ القدر۔
۱۵۵	رضاع	۱۲۵	حج۔
۱۵۵	دودھ پلانے میں بچے کی ماں کو اجرت دینا۔	۱۲۸	حج میں تجارت کرنے میں گناہ نہیں
۱۵۶-۱۵۵	معاشرت انسا۔ پر وہ۔		کعبہ سب سے پہلا معبد ہے۔ اس میں ہدایت۔
۱۵۹	وصیت	۱۳۰	برکت۔ امن اور مقام ابراہیم ہے۔
۱۶۱	میراث	۱۳۳	مسجد الحرام میں مشرکوں کو نہ گھسنے دو۔
۱۶۳	قرض و رہن	۱۳۳	مسجد الحرام میں لانا منع ہے۔
۱۶۴	سود	۱۳۴	ہجرت۔
۱۶۵	دگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ۔		ہجرت۔ جب کافر مسلمان بچوں اور غورتوں کو دیکھ
۱۶۵	کتمان حق۔	۱۳۶	پہنچائیں تو ان سے لڑنا چاہیے۔
۱۶۶	شہادت	۱۳۹	جو تم سے لڑیں تم ان سے لڑو۔ خود ابدانہ کرو۔
۱۶۶	قصاص و دیت	۱۴۲	دین میں زبردستی نہیں۔
۱۶۹	زنا۔	۱۴۵	اسیران جنگ کو احسان کر کے یا ذیہ لے کر چھوڑ دو۔
۱۷۰	لوٹ مار۔ ڈکیتی	۱۴۶	مال منیت کے مستحق۔
۱۷۱	چوری کی سزا۔	۱۴۶	فنی کے مصرف۔
	پاکدامن عورتوں پر بہتان لگانے کی سزا اسی کوڑے	۱۴۷	نکاح۔ چار بیویوں تک کی اجازت۔
۱۷۲	اور عدم قبول شہادت۔		اگر کئی عورتوں میں انصاف نہ ہو سکنے کا اندیشہ ہو۔
۱۷۲	مآب تول	۱۴۷	تو صرف ایک نکاح۔
۱۷۳	شراب خواری و قمار بازی۔	۱۴۷	کتابیہ عورت سے نکاح درست ہے۔
۱۷۳	دوسرے گناہ		مسلمان مرد کو مشرک سے اور مسلمان عورت کو مشرک
۱۷۴	امانت	۱۴۸	سے نکاح جائز نہیں۔
۱۷۴	خیانت	۱۵۰	طلاق۔
۱۷۵	ظلم	۱۵۱	خلع۔ زوجین کی رضامندی سے خلع میں گناہ نہیں۔
۱۸۰	فساد	۱۵۲	عدت۔
۱۸۲	امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔	۱۵۳	رجعت یا تفریق پر دو معتبر گواہ کر لینے چاہئیں۔
	مسلمانوں میں ایک گروہ مبلغین کا ہونا	۱۵۳	ایلاء۔
۱۸۳	چاہیے	۱۵۳	لعان۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْإِيمَانِ

۱۔ ایمان لانے کا مکم

۱۴۸ ۳ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۙ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۙ

تو اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لاؤ اور خدا سے ڈرو تو تمہارے لئے بڑا اجر ہے۔

۱۴۹ ۴ يَاۡۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ الَّذِيۡ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِۦ وَالْكِتٰبَ الَّذِيۡ

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اس کتاب پر

اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۙ

میں جو پہلے اتاری ہے۔

۱۵۰ ۵ يَاۡۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ

لوگو! تمہارے پاس رسول تمہارے پروردگار کے پاس سے دین حق کے آیا ہے تو تم ایمان لاؤ کہ تمہارے لئے بہتر ہوگا۔

۱۵۱ ۶ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ لِّلنَّبِيِّۨ الْاَمْرِ الَّذِيۡ يُؤْتِيۡ مِنْۢ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِۦ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ

تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر یقین رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم

تَهْتَدُوْنَ ۙ

ہدایت پاؤ۔

۱۵۲ ۷ قُلْ يَاۡۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيۡ شَكٍّ مِنْۢ دِيْنِيۡ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

اے نبی کہہ دے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان کو تو پوجتا نہیں جن کو تم خدا کے سوا

اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيۡ يَتَوَقَّعُكُمْ وَاٰمُرُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ

پوجتے ہو لیکن میں اس خدا کو پوجتا ہوں جو تمہیں ہوت دیتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔

۱۵۳ ۸ لَتُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَتَعَزُّوْا وَتُقِرُّوْا وَتَسْبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا

تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح و شام اس کی یا کی بیان کرو۔

۱۵۴ ۹ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

۱۵۵ ۱۰ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِۙ يَدْعُوْكُمْ لَتُوْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تم کو بکار رہا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور خدا تم سے تمہارا عہد لے چکا

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ مَنَازِلَ

ہے اگر تم ہوں ہو تو یقین کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ

سلمانو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

تو اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے اور اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔

قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی اور اس پر جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب

وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفْرَقُ بَيْنَ

اور اولاد کے تقرب پر اتارا گیا اور جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو کہ دوسرے نبیوں کو کتب کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں

أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

سے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے خدا بنے ہیں۔

قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر اتارا گیا اور جو تم پر اتارا گیا اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم

مُسْلِمُونَ

اس کے خدا بنے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْفِيْكُمْ مِّنْ عَنَابِ الدُّنْيَا

سلمانو! میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک مذاب سے نجات دے۔

الَّتِي تَدْفَعُونَ بِهَا لِلَّهِ فِرْسَانًا وَمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے حق میں

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ

بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل

يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ

کریگا جن کے درختوں کے نیچے نہریں باہری ہیں اور رہنے کے باغوں میں سترے مکانات دے گا یہی بڑی

الْعَظِيمُ ۝ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَسِيمٌ وَالْبَشِيرُ

کا بیان ہے اور ایک اور چیز جو ہے تمہیں پسند کرتے ہو خدا کی طرف سے مدد اور جلد فتح اور ایمان داروں

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۲- سات پینچہ میں لوگوں کی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم۔

۳- ایمان لانے اور جہاد کرنے کا اجر۔ مغفرت اور دخول جنت۔

الْمُؤْمِنِينَ ۝

کو بشارت دے

۱۳ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جُزِيَ مِنْ
اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے گناہ مٹا کر دے گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن
تحتہا الا نهر خلدین فیہا ابدًا ذلک الفوز العظیم ۝

کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے۔

۱۹ اجعلتم سقایة الحجاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن امن باللہ والیوم الآخر وجاهد
کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کا ثواب اس کی برابر کیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور
فی سبیل اللہ لا یستون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین ۝

اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے ہاں تو وہ برابر ہیں نہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

۵۱ اشد اذاما واقع امتم ربہم اللہن وقد کنتم ربہم تسکجلون ۝

کیا اس موقع پر جب کہ عذاب آیا تم اس پر ایمان لائے اب ایمان لائے تو تم ان کے انیکو جلد مانتے تھے۔

۸۵ فلربک ینفعہم انما لہم لعمار او باسناسنت اللہ الی قد خلک

پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انکا ایمان لانا انکو نفع نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اللہ کی عمارت جو پہلے سے علی آئی ہے۔

۱۱۱ قل انظرو اماذا فی السموات والارض وما تعین الایات والتذکر عن قوم لا یؤمنون ۝

کہہ دے کہ نظر کرو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اور نشانیاں اور ذراوے ان لوگوں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے

۱۱۲ فهل ینظرون الا ومثل ایام الذین خلوا من قبلہم قل فانظروا الی معکم من المنتظرین

تو کیا یہ لوگ ان ہی لوگوں کے دنوں کے منتظر ہیں جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں تو کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر نیوالوں میں ہوں

۱۱۳ لہم نبی رسولنا والذین امنوا کذلک حقا علینا نبی المؤمنین ۝

پھر ہم اپنے رسولوں کو اور جو ایمان لائے ان کو بھیجتے ہیں اسی طرح مومنوں کو نجات دینا ہم پر حق ہے۔

۱۱۴ ما کان اللہ لیکن المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب

خدا ایمان نہیں کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم ہو۔ جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔

۱۲۹ المہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا وهم لا یفتنون ۝

کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لے آئے اور انکی آزمائش نہ کی جائے۔

۱۳۰ ولقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکذبین

اور بیشک ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے ہوئے تھے تو اللہ نے انکو جان لیا جو اپنے ایمان میں سچے تھے اور ان کو بھی جان لیا جو جھوٹے تھے۔

۱۴۵ الذین قال لہم الناس ان الناس قد جمعوا الیکم فاخشوہم فنادہم ایمانا ۝

وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لئے ایک لشکر جمع کیا ہے تو تم ان سے ڈرو تو اس بات نے انکا ایمان اور بے عادی۔

۱۳

۱۹

۵۱

۸۵

۱۱۱

۱۱۴

۱۲۹

۱۴۵

۳۔ ایمان اور حاجیوں کے
پانی پلانے والے برابر نہیں

۵۔ نزول عذاب کے وقت
ایمان قبول نہیں

۶۔ ایمان نہ لانے سے عذاب

۷۔ ایمان میں صرف تڑپ نہیں

۸۔ ایمان کا ٹھکانا

۲۲ وَلْتَأْتِيَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ

اور جب یمنوں نے مشرکوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ اور اس

۲۳ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور ان کا ایمان اور فرمان برداری اور تسلی

۱۷ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا وَآزَادَهُمْ هُدًى وَالتَّهْمَةَ تَقُولُهُمْ

اور جو لوگ ہدایت پر بہ گئے ہیں ان کو اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو انکی پرستش گاری میں ملازمتی

۱۸ لَيْسَتِيقِنَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ وَزَادُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ

تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقین کریں اور جو لوگ ایمان لانے میں وہ ایمان اور زیادہ کریں اور انکی کتاب اور

وَالْمُؤْمِنُونَ

مومن نیک ہیں۔

۱۹ دیکھو صفات مومنین (خود ۸۰)

۲۰ دیکھو مومنوں پر تسلی کا تعلق (خود ۱۵۶)

۲۱ وَأَمَّا مَنْ أَمَّنْ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُ جُزْءٌ مِمَّا كَسَبَ

لیکن جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کئے اس کے لئے نیک جزا ہے۔

۲۲ دیکھو مومنوں کے گناہوں کا کفارہ

۲۳ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور مومن عورتوں پر مہربان ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۲۴ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور وہ قلیل ہیں۔

۲۵ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

یہ لوگ سچے ہیں۔

۲۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی سچے ہیں۔

۲۷ دیکھو کتاب التمثیلات

۲۸ دیکھو ذکر ہانگہ

۲۹ دیکھو کتاب التمثیلات

۹- مومنوں کو نیک جزا

۱۰- خدا تعالیٰ کا مومنوں کی طرف رجوع

۱۱- مومن نیکو کار کم ہیں

۱۲- مومن سچے ہیں۔


۱۳- مومن اور مشرکوں کی تمیز

۱۴- مومنوں کیلئے صاف نیک کام

۱۵- مومنوں کی مثال بیویوں کی

۱۶۔ مومن صاحب لقونے اور اس کے حق واد میں	۲۸ وَالرَّهْمَةُ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور ان کو پرہیزگاری کی بات بچھائے رکھا اور وہ اس کے لائق اور سزاوار تھے
۱۷۔ مومنوں کا قرآن پر ایمان	۹۳ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو لوگ آخرت برتتیں رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت رکھتے ہیں
۱۸۔ مومنوں اور کافروں پر ایمان	۱۲۲ أَوْ مَنْ كَانَ مُبْتَلًى فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَشَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ بہاؤ شخص (کفر کو جو سے) مردہ تھا پر ہم نے اسلام کی توفیق دیکر اسے زندہ کیا اور اس کیلئے روشنی پیدا کی جس کی روشنی میں جلتا پیرتا ہوا اس شخص
۱۹۔ مومنوں اور کافروں پر ایمان	۱۲۳ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسیار سکتا ہے جو اذیت نہیں پہنچاتا اور ان کیلئے عمل اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مِّمَّنْهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَتَمْكُرُونَ إِلَّا بِالْأَنفُسِ اور اسی طرح ہم نے ہر شہر میں اس کے بڑے بڑے مجرم پیدا کئے تاکہ وہ اس شہر میں فساد پھیلا سکیں اور جو فساد پھیلاتی ہیں اپنے ہی نقصان کینے
۲۰۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۱۲۴ وَمَا يَشْعُرُونَ پھیلاتے ہیں اللہ سمجھتے نہیں۔
۲۱۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۱۲۵ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ تو کیا جو مومن ہے اس کی مانند ہے جو بہ کار ہے وہ برابر نہیں ہیں۔
۲۲۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۲۸ أَمْ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلُوا کیا ہم ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ملک میں فساد پھیلانے والوں کی برابر کر دیں گے؟ یا ہم پرہیزگاروں کو
۲۳۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۲۹ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ بہ کاروں کی برابر کر دیں گے۔
۲۴۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۵۸ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ مومنوں کیساتھ ہے۔
۲۵۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۵۹ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ اور گنہگار برابر نہیں
۲۶۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۶۰ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ہیں تم لوگ کم غور کرتے ہو۔
۲۷۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۶۱ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے بدیاں کہیں یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم ان کو ان کی برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک
۲۸۔ مومنوں کے ساتھ حکمت	۶۲ سَوَاءٌ قَحْبًا هُمْ وَمَا لَهُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ کام کئے نہیں ان کی تو زندگی اور موت برابر ہے وہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔

۳۳



۲۱- نیکو کاروں کو زمین کی حکومت تکمیل میں اور امن کا وعدہ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَدَلٍ مَا يَشَاءُونَ لِيُخْرِجُوهُمْ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ انہیں فرود فرود ملک میں اپنا ماتین استخلاف الذین من قبلہم وکمکننہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم ولیدلہم لکم

۲۲- مومنوں کے لئے جہنم کی ٹھنڈک

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ شَرٍّ اِغْيَا عَنِ خِرَاءِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جو کوئی شمس نہیں جانتا جو انہوں کی ٹھنڈک لگے ہے پہچان کر رکھی گئی ہے بلکہ میں ان کاموں کے جو وہ کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم فرود فرود انہیں نیک جنتوں میں داخل کریں گے۔

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورٌ هُمْ

ان کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔

۲۳- مومن نیک جنتوں میں داخل ہوں گے
۲۴- قیامت کو مومنوں کے آگے آئے اور دینی طرف رو دینی چلے گی

يَوْمَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ سَاقِدِينَ لِنُورِهِمْ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ تُسَازِمُهُمْ
الْيَوْمَ جَنَّاتٌ جَزْيَةٌ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

لے ایسے باغوں کی خوشخبری سے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے۔

وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ

وہ تمہارے لئے نور پیدا کر دینگا جس کی روشنی میں تم چلے گے۔

نورہم یسعی بین یدیہم و بایمانہم یقولون ربنا آتھم لنا نورنا واغفر

ان کا نور ان کے آگے آئے اور ان کے دینی طرف چلتا ہو گا اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے ہمارا نور

لنا انک علی کل شیء قدیر

ہاں کہہ رہے ہیں جس سے ایک توہینہ پر قادر ہو۔

۲۵- مومن قیامت کو جنتوں پر بیٹھے کافروں پر نہیں گے

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کفار پر نہیں رہے ہیں

۲۶- ہل توبہ کفار کا نوا بفعلون
بہلا کافروں کا نوا کافروں کا نوا بجا جو وہ دنیا میں آیا کرتے تھے۔

۲۷- علی الاربابک یبظرون
تمہوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں

۲۶۔ مومنوں کو بشارت

۲۲

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ فِيهَا يُخَلَّدُونَ
 نہیں جاسی ہیں جب کبھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھائے تو وہ کہیں گے۔ یہ تو وہی ہے جو تم کو اس سے پہلے دیا جا چکا ہے اور
 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○
 اور ایک سی سہل دینے جائیے اور ان کے ہے ان انھیں پاک مہیاں ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔

۲۳۔ ۲۴۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

اور انہی مومنوں کو بشارت دے۔

۲۱۔ وَيُشْرِكُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ○
 ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کیلئے پاک اور نعت ہے۔
 ۲۲۔ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○
 وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے ایک اجر ہے اس کے پاس بڑا ثواب ہے۔

۲۱

۱۳۔ النَّارِ يُومِنُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ ○
 توبہ کرنے والے ہیں عبادت گزار (اللہ کی) ترغیب کرنے والے (راہ خدا میں) سفر کرنے والے (رکوع کرنے والے) سجدہ کرنے والے (جیسی باتوں کی ہدایت
 بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○
 کرنے والے اور پرہیزگاری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اور انہی مومنوں کو بشارت دے۔

۱۳

۲۵۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجَبَ ○

۲۵

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کیلئے خوشخبری ہے اور ایسی ہی بازگشت

۱۴۔ فِيمَا لَيْسَ دَرَبًا سَاءًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
 (کتاب) درست چیز ہے تاکہ سخت عذاب سے جو اس کی طرف سے آئے گا انہیں ڈرانے اور مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دے
 أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ○ مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ○
 کہ ان کے لئے اچھا اجر ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۱۴

۱۶۔ وَالَّذِينَ ابْتَغَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يعبُدُوهَا وَأَنَا بُورِئٌ إِلَيْهِمْ لِيَوْمِ الْبَشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ○
 اور جو لوگ بتوں سے بچے کہ انہیں پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کی ان کے لئے بشارت ہے (تو انہی) نبی امیر بندوں
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ
 کو بشارت دے جو بات کو سنتے ہیں پھر اس میں اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی
 هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ○
 ہے اور یہی قلمند ہیں

۱۶

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَةَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ
 ۲۳
 ۳۲
 یہی روہ ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے رکھے ہیں اور یہی
 اجْرٌ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى وَمَنْ يَقْرَأْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهَا فِيْهَا حَسَنًا مَّا لَانَ اللّٰهَ
 کریں آپ سے اس (مظاہرہ) پر کچھ مزدوری نہیں، لیکن تم ان کے لئے جو بشارت دیتے ہو، اس کے لئے نیک کام میں ان کے لئے خیر زیادہ کرینگے یہی
 غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

مشبہ والاندرون ہے۔

يَوْمَ تَرٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُ
 ۱۲
 ۵۴
 جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دہی طرف دوڑ رہا ہو گا اور ان کے کہا
 الْيَوْمَ جَنّتٌ مُّجْرِيَةٌ مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝
 جاپیگا کہ آج تمہارے لئے بشارت ہے (یعنی ایسے باغ جگے) جو تمہارے نیچے جاری ہیں وہ ہمیشہ انہی میں رہینگے یہی بڑی کامیابی ہے۔

دیکھو مومنوں کو اجر کبیر۔ (حد ۳۲)

دیکھو مومنوں پر خدا کا فضل۔ (حد ۴۳)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِٗ وَالْحَقِيْقَةُ قَوْلًا بَيِّنًا اٰحَدٍ مِّنْهُمْ اَوْ لِيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ
 ۱۵۲
 اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ
 اَجُوْرًا هُمْ وَاِذَا كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝
 ان کے اجر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۲۴۔ مومنوں کو اجر

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝
 ۱۸
 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے تو ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جسے اہم کام کیا۔

وَ اِنْ تَوٰمَنُوْا وَ تَتَّقُوا يٰۤاُوْتِيْكُمْ اَجْرًا كَثِيْرًا وَلَا يَسْئَلُكُمْ اَمْوَالُكُمْ
 ۲۶
 اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو وہ تمہارے لئے بڑے اجر ہیں اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔

لَهُمْ اَجْرٌ هُمْ وَاُوْتُوْا لَهُمْ
 ۱۹
 ان کے لئے ان کا اجر امان کا نور ہے۔

دیکھو مومنوں کے لئے پاکیزہ زندگی۔ (حد ۳۸)

دیکھو مومن نیکو کار بے خوف غم ہیں۔ (حد ۵۴)

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَبِئْسَ مَا اَجُوْرُهُمْ
 ۲۷
 لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ انکو ان کے لئے بڑے اجر سے ڈالے گا۔

۲۸۔ مومنوں کو پورا اجر دیکھو
 اس سے بھی زیادہ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَبِئْسَ مَا اَجُوْرُهُمْ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِٗ
 ۱۶
 لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ ان کو ان کے لئے بڑے اجر سے ڈالے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دینگے۔

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ

اور یہی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے

مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والے مرد اور محفوظ رکھنے والی عورتیں

اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○

اور اللہ کی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجر عظیم عطا کیا ہے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس درجے اور مغفرت اور عورت کی روزی ہے۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

ان کے لئے مغفرت اور عورت کی روزی ہے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ○

اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي عَجُزٌ وَأَنَا آتِيكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنَا نَذِيرٌ ○

اور نوح میں اس شخص کو بھیجئے دلا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کے پھر رہا ہے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے مغفرت اور عورت کی روزی ہے۔

لِيُخْرِجَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

تاکہ اللہ ان لوگوں کو عرصہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہی ہیں جن کے لئے مغفرت اور عورت کی روزی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ○

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

وَيُغْفِرُ لَكُمْ وَأَلَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

اور وہ تمہیں بخشنے والا مہربان ہے۔

۳۵ دیکھو مومنوں کو اجر عظیم (عدد ۳۴)

۳۶ مومنوں کو عورت کی روزی

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہی بنتی ہیں وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔

۳۵ مومنوں کے لئے مغفرت

۳۶ مومنوں کو عورت کی روزی

۳۷ مومنوں کو ہمیشہ کے لئے

جنت

۱۲۲ ۵۴ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کرینگے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری
فِيهَا أَبَدًا ○

میں وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے۔

۱۲۳ ۳ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ كَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ

اور جو کوئی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان نہ اڑھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل بھری
لَا يُكَلِّمُونَ تَكْرِيمًا ○

کلمہ نہیں کیا جائے گا۔

۱۲۴ ۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وِجْرًا وَلَا وَسْعَةً أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے نہیں تو یہی لوگ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

جنتی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۱۲۵ ۹ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○

اور انہیں ان کا پروردگار اپنی رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کیلئے پائیدار نعمت ہے۔

۱۲۶ ۴ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنْ أَرَادَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ○

وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے بے شک اللہ جو ہے اس کے پاس بڑا ثواب ہے۔

۱۲۷ ۹ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ وَسِيْرٌ

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور نیر رہنے کے باغوں
فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

میں سحرے گھر کا اور اللہ کی رضامندی اس سے بھی بڑی چیز ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔

۱۲۸ ۹ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

اللہ نے ان کیلئے ایسے باغ تیار کئے ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے۔

۱۲۹ ۴ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ ان کیلئے جنت ہے وہ اللہ کی
اللَّهُ فَيُقَاتِلُونَ وَيُقَاتَلُونَ وَعَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ

راہ میں لڑتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں یہ اللہ کا اس پر سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ

يُعْتَدِلُ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا وَابْتَاعُوا الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے تو تم اپنی اس بیعت سے خوش ہو جو تم نے اس سے کی ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۲۴ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ بَجْرِىٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُدْخِلُهُمُ

یہ شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جیسے وہ نختوں کے نیچے
فِيهَا مِنْ أَسَاوِدٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْ لُؤْلُؤًا ۝ وَلِيَا سُهُودٍ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

نہیں جاری ہیں انہیں ان میں سے کئی کئی رنگوں اور موتی پنائے جائیں گے اور وہاں انکی پوشاک تیشی ہوگی

۲۵ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔

۲۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرًّا فَاصِحًا ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم انہیں جنت کی بالاخانوں میں بسائیں گے ان کے نیچے نہریں جاری

۲۷ خُلْدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ ۲۸ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

ہوں گی ہمیشہ وہ انہیں میں رہیں گے کام کرنے والوں کا بھی کیا ہی اچھا اجر ہے یعنی انکا جزا سب سے زیادہ اور وہ اپنے دردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں

۲۸ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ ۲۹ خُلْدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے نعمت کے باغ ہیں اور وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے اللہ کا وعدہ حق

۳۰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

۳۱ أَمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا ۝

یہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے نعمت کے طور پر رہنے کے باغ ہیں بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے۔

۳۲ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرَدُّونَ

اور جس نے نیک کام کئے مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہے تو وہی جنت میں داخل ہوں گے وہاں وہ بے حساب روزی

۳۳ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

دیے جائیں گے۔

۳۴ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ بہشت کے باغوں کے سبزہ زاروں میں ہوں گے ان کیلئے جو وہ چاہیں گے

۳۵ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

انکے پروردگار کے ہاں موجود ہو گا یہی بڑا فضل ہے۔

۳۶ الَّذِينَ آمَنُوا يَا بَنِي آدَمَ ۝ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ ۝

جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے وہ فرماؤ تمہارا میں ان سے کہا جائیگا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو تم اور تمہارے

۴۱
۳۳۰ یُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُحُفٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَالْكَوَابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَكْتُمُ

ان پر سونے کی کتھیوں اور پیالوں کا اور کیا مانے گا اور اس میں وہ چیز ہے جسے دل چاہتے ہیں اور جس سے آنکھیں
الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۳۰﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ

لذت پاتی رہیں اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ جنت ہے جس کے تم اپنے مہلوں کے بہت دار بنائے
تَكْمَلُونَ ﴿۳۳۱﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۳۳۱﴾
گئے۔ تمہارے لئے بہت سا میوہ ہے جس سے تم کھاؤ گے۔

۱۲
۳۴۰ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جُزْئِيًّا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے نہیں
الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَمْتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿۳۴۰﴾

جاری رہیں اور جو لوگ کافر ہیں وہ فائدہ اٹھائیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح مویشی کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔

۵
۳۴۱ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جُزْئِيًّا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے درختوں کے نیچے نہیں جاری ہیں وہ ہمیشہ انہیں میں
يَكْفُرُ عَنْهُمْ سُبْحَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۳۴۱﴾

رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے اور یہی اللہ کے ان بڑی کامیابی ہے۔

۲۲
۵۸ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ جُزْئِيًّا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جسے درختوں کے نیچے نہیں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے۔

۹
۶۴ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جُزْئِيًّا مِنْ تَحْتِهَا

اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جسے درختوں کے

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۶۴﴾

نیچے نہیں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔

۱۱
۶۵ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جُزْئِيًّا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا وہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے درختوں کے نیچے نہیں جاری ہیں

فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿۶۵﴾

وہ ہمیشہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے۔ اللہ نے اس کو اپنی روزی عنایت فرمائی۔

۸
۶۶ عَسَىٰ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ جُزْئِيًّا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُؤْمِنُونَ

اسیہ ہے کہ تمہارا یہ درد گارت تم سے تمہارے گناہ دور کرے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے درختوں کے نیچے نہیں

لَا يَجْعَلِي اللَّهُ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

جاری ہیں جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ذلیل نہیں کرے گا۔

۱۱
 اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنَّتٌ جَزِيْرَةٌ مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری
 الْكَبِيْرُ

ہیں بڑی کامیابی ہے۔

۲۹
 ۸۹
 فَاَدْخُلُوْا فِيْ عِبَادِيْ ۝۹۰ وَاَدْخُلُوْا جَنَّتِيْ ۝

تو اے روح پاک (تو میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔

۸
 ۹۸
 جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا

ان کا عرصہ ان کے پروردگار کے ان ایسے باغ میں ہے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے۔

۱۲
 ۵۶
 دیکھو مومنوں کو بشارت (عدد ۳۶)

۲۲
 ۵۸
 دیکھو صفات مومنین (عدد ۸۰)

۱۵
 ۳۱
 فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ ۝

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ باغ میں آؤ بھگت کئے جائیں گے۔

۲۲
 ۳۲
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 دیکھو مومنوں کو ہمیشہ کے لئے جنت (عدد ۳۷)

۳۸۔ مومنوں کی باغ میں
 آؤ بھگت

۶۲
 ۹
 وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنَّتٍ جَزِيْرَةٍ مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْكٰتُهُنَّ

۳۹۔ ایمان داروں کو بہشت
 میں نیا کیزہ مکان۔

مومنین اور مومنات سے اللہ نے ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہونگی ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیا کیزہ

طَيِّبَةٌ فِيْ جَنَّتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

مکانات کا بھی اور خدا کی خوشنودی ہوگی جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے۔

۱۲
 ۶۱
 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ جَزِيْرَةٍ مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ وَمَسْكٰنٌ طَيِّبَةٌ فِيْ جَنَّتٍ

خدا تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی اور نیا کیزہ مکانات میں جو

عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ہمیشہ کی جنت میں ہونگے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

۴۵
 ۳۵
 اُوْلٰئِكَ يَجْرُوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَوْنَ فِيْهَا حَيٰتٍ وَسَلٰمًا ۝۳۶ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

۴۰۔ مومنوں کے لئے جنت
 میں بالاخانے۔

یہی لوگ ہیں جن کو ان کے مہر کے بدلے بہشت میں ہنر کو بالاخانے ملیں گے اور وہاں ما اور سلام کیسے انکا استقبال کیا جائیگا اور یہ لوگ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے

۵۸
 ۲۹
 وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرًّا جَزِيْرَةٍ مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کو ہم بہشت کے بالاخانوں میں جگہ دیں گے جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝۳۹ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى سَرَائِرِهِمْ

اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ایک عمل کرنے والے۔ جنہوں نے دنیا میں صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ

يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ رکھتے رہے ان کا یہی ایسا اجر ہے۔

۳۳ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَزَّاهُ وَأَوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعَرْشَاتِ

جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل بھی کئے آخرت میں اپنے لوگوں کے لئے ان کے عمل کا وہ ہر عوض ہے اور وہ بہشت کے بالاخانوں میں
 آمِنُونَ ○

الیمان سے ٹپے ہوں گے۔

۳۴ لَكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ قَوْمِهَا عَرَفَتْ مَبِينَةً يَخْرُجُ مِنْ خُبْرٍ بِالْأَنْفِ

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کیلئے بہشت میں بالاخانوں میں اور بالاخانوں کے اوپر اور بالاخانوں کے نیچے میں جگہ نہیں ہے۔ یہی جوگی۔
 دیکھو مومنوں کو جنت میں بالاخانے۔ (مدد: ۴۰)

۳۵ يُوْتِيكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ

وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو ہر حصہ دینگا۔

۳۶ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا لَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لشکر راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں
 رَحْمَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۳۷ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ○

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم مزد سولے چند آدمیوں کے شیطان کے تابع ہوتے۔

۳۸ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَ

لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو سنبھولی سے پکڑا وہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور
 يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

ان کو اپنی طرف سے راستے پر گھارے گا۔

۳۹ يُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِهِ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○

ان کو اللہ اور اللہ کا راز نہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لئے پائدار نعمت ہے۔

۴۰ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں وہ آپس میں باتوں کی ہدایت کرتے ہیں اور بڑی باتوں سے
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ○

روکتے ہیں اور ناساز کو قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
 أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

وہی ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

۳۱۔ مومنوں کو ان کے اعمال کا
 عوض دو چند

۳۲۔ مومنوں پر اللہ کی رحمت

۹۹/۶ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ

اور دیہاتیوں میں کوئی ایسا ہی ہے جو اللہ اور تیسراست پر ایمان رکھتا ہے اور جو مال وہ در راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اسکو اللہ کی
وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ الْأَنْبِيَاءِ قُرْبَةً لَهُمْ سَيِّدُ خَلْقِهِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ
نزدیکی اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتا ہے من لو کہ بے شک وہ انکے لئے خدا کی نزدیکی کا باعث ہے اللہ عنقریب ان کو اپنی رحمت میں
عَفْوًا رَحِيمًا

دہل کر بیکار اللہ بخشے والا مہربان ہے۔

۳۵/۵ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے انہیں ان کا پروردگار اپنی رحمت میں دہل کرے گا۔ یہی روشن
النَّوْزِ الْمُبِينِ

کا میابی ہے۔

۳۳/۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا حَسَنًا لِّذَلِكَ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیں گے اور ہم ان کو ان اعمال کی جو وہ
كَانُوا يَعْمَلُونَ

کرتے تھے ہمیں بھی جزا دیں گے۔

۲/۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمْثَلُ مَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور نیز اس کتاب پر ایمان لائے جو مجھ پر اتاری گئی ہے اور وہ انکے پروردگار کا
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

کیلئے حق جو اللہ نے انکے گناہ دور کر دیا اور انکے دلوں کو درست کر دیا۔

۵/۶ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ بِجَنَّتَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا أَلَمٌ لِّمَنْ

تا کہ وہ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو ایسے باغوں میں دہل کرے جن کے درختوں کے نیچے نرس جاری ہیں وہ ہمیشہ نرس
سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا

میں رہیں گے اور ان سے انکے گناہ دور کرے اور یہی اللہ کے اس بڑی کامیابی ہے۔

۹۳/۹ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِهِ ۖ وَكَفِيرٌ مِّنْ سَيِّئَاتِهِ كَيْفَ يَشَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے گا وہ اس سے اسکے گناہ دور کر دیا۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے پروردگار کے ہاں صدیق اور گواہ ہیں ان کے لئے ان کا
وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

اجرا اور ان کا نور ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔

۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

۳۵۔ مومن بڑے نصیب والے ہیں
 ۱۶/۹
 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ۝ ﴿١٦﴾ أُولَٰئِكَ
 پھر وہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت
 اصحاب الميمنة ۝

کرتے رہے وہی دائیں جانب والے ہیں۔

۳۶۔ مومن قیامت سے ڈرتے ہیں
 ۱۶/۱۰
 يَسْتَعِجِلُّ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ
 اس قیامت کی بلدی وہی پہلے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے
 فَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ مِنْ شَيْءٍ فَسَاءَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْشَرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 سو جو چیز بھی آپس دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کیلئے بہتر اور جلدی دینے والا ہے
 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

۳۸۔ مومنوں کیلئے پاکیزہ زندگی
 ۱۶/۱۲
 مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَنَجْزِيَنَّهُمْ
 جس نے نیک کام کئے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان لے کر آئے ہو اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ کرے گا اور ان کے
 اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

بہترین عملوں کا جو وہ کیا کرتے تھے انیس ابرویں گے۔

۳۹۔ مومن سب ایک ہیں
 ۱۶/۱۳
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور مال سے اپنا جان و مال سے جہاد کیا اور جنہوں نے ذہنی کوشش کی اور
 أَوْفُوا نَصْرًا لِلَّهِ وَأُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهِجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلَا يَتِيمٌ
 اور وہ کی وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارا ان کی وصیت سے
 مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهِجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۚ لَوْلَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّثْلُكُمْ
 کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں
 وَيَدْعُكُمْ مِمَّا تَأْتُوا بِهَا ۚ وَاللَّهُ يُمْسِكُ بِالْحَمْلِ ۚ

جن کے ساتھ تمہارا حمل ہے اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

۴۰۔ مومنوں پر خدا کی رحمت
 ۱۶/۱۴
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ
 اور جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا وہ تمہیں میں سے ہیں اور رشتہ دار اللہ کی
 بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

کتاب میں ایک ایک کے وارث ہیں بے شک اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔

دیکھو مومنوں پر خدا کی رحمت (عدد ۴۲)

۴۱۔ مومنوں کی رحمت
 ۱۶/۱۵
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۚ وَمَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ رِجْعَتًا فَهُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۲۱۳	۵۰۔ مومنوں کو ہدایت	فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
۲۱۶		سوا اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے ارادے سے اسحق کی طرف تگاریا جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔
۲۱۷		فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَهُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
۲۱۸		سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا وہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں دہن کرے گا اور ان کو
۲۱۹		إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
۲۲۰		اپنی طرف سیدھا راستہ دکھلائیگا۔
۲۲۱		الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
۲۲۲		جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملا یا دمی ہیں جن کے لئے اس پر اور وہی ہدایت پر ہیں۔
۲۲۳		وَهُدًى وَآلِ الطَّيِّبِينَ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
۲۲۴		اور وہ پاکیزہ قول کی طرف ہدایت کئے گئے اور اللہ کے رستے کے طرف ہدایت کئے گئے۔
۲۲۵		وَهَدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
۲۲۶		اور تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔
۲۲۷		وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ
۲۲۸		اور جو شخص اللہ پر ایمان لائیگا وہ اس کا دل ہدایت پر لگا دئیگا۔
۲۲۹		وَيُكْوِئُهَا كَالْكَوْكَبِ (عدد ۶) ۱۹ دیکھو ایمان کا بڑھنا (عدد ۵)
۲۳۰		لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا
۲۳۱		جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان پر اس میں جو انہوں نے کھایا کہہ گناہ نہیں جو وہ ڈلے اور ایمان لائے
۲۳۲		الصَّالِحَاتِ لَمْ يُكْفَرُوا أَوْ كَفَرُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَاللَّهُ يَهْدِي الْمُحْسِنِينَ
۲۳۳		اور انہوں نے نیک کام کئے پھر ڈرے اور ایمان لائے اور پھر ڈلے اور نیکی کی اور اللہ نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔
۲۳۴		فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِلَّا لَهُ لُكَاؤُهُ
۲۳۵		پھر جو کوئی نیک کام کرے اور وہ ایمان دار ہے جو تو اس کی جانثانی کی ناقدری نہیں ہے اور بے شک ہم اس کو لکھنے دلتے ہیں۔
۲۳۶		وَيُكْوِئُهَا كَالْكَوْكَبِ (عدد ۸) ۲۰ دیکھو ایمان کا بڑھنا (عدد ۵)
۲۳۷		وَذَكَرْنَا فِيكَ الذِّكْرَ الَّذِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
۲۳۸		اور دلتے ہیں تو نصیحت کر کے بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔
۲۳۹		ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ
۲۴۰		یہ اس لئے ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے باطل کی پیروی کی اور کچھ نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اس حق کی پیروی کی
۲۴۱		لَكَذَٰلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
۲۴۲		جو انکے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں اللہ لوگوں سے انکی کماتیں بیان کرتا ہے۔

۵۱۔ مومنوں پر ایمان لانے سے پہلے افعال کا گناہ نہیں ہے

۵۲۔ مومنوں کے نیک اعمال ضائع نہیں

۵۳۔ مومنوں کو ایمان کی باتوں

۵۴۔ مومنوں کو نصیحت نفع دیتی ہے۔

۵۵۔ مومن حق پر ہیں۔

۵۶- سونوں پر تلی نازل	۲۶ ۹ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
	پہر اللہ نے اپنی تسلی اپنے رسول اور سونوں پر نازل فرمائی۔
	۲۷ ۱۱۱ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَّا صَعَّرْنَا بِمَا زَيَّمُوا
	وہ وہی ہے جس نے سونوں کے دلوں میں تسلی نازل کی تاکہ وہ سہنے رہیں، ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھائیں۔
	۲۸ ۱۱۲ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
	سورہ نے ان پر تسلی نازل کی۔
	۲۹ ۱۱۳ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
	پہر اللہ نے اپنے رسول اور سونوں پر اپنی (مرکز) تسلی اتاری۔
۵۷- سونوں کو کار بخوت	۳۰ ۱۱۴ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
	بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دی ان کے لئے ان کے پروردگار کے
	۳۱ ۱۱۵ رَتَبَتِهِمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
	ان ان کا ثواب موجود ہے اور نہ ان پر خوف ہی ہے اور نہ وہ غمگین بھی ہوں گے۔
۵۸- سونوں بے ثبوت	۳۲ ۱۱۶ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
	سو جو کوئی ایمان لیا اور اصلاح پر آگیا تو ان پر نہ کچھ خوف ہی ہے اور نہ وہ غمگین بھی ہوں گے۔
۵۹- سونوں کو امن	۳۳ ۱۱۷ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
	جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا انہیں کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں۔
۶۰- نیکو کار سونوں کو ظلم	۳۴ ۱۱۸ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا
	اور جو کوئی نیک کام کرے اور وہ ایمان دار رہی ہو وہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ کسی قسم کے دباؤ سے۔
۶۱- سونوں کی جان مال	۳۵ ۱۱۹ لَتَبْلُغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ
	تم پر دماغ مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے اور ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان سے
	۳۶ ۱۲۰ مِنَ الَّذِينَ أَنْشَرَكُمُ الْأَدْيَاءُ كَثِيرٌ مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَلَنْ ذَلِكُمْ مِنْ عَذَابِ الْأُمُورِ
	جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے اور اگر تم مہر کرو اور اللہ سے ڈرو تو بیک یہ بہت کام نہیں ہے۔
۶۲- سونوں کو نلاج	۳۷ ۱۲۱ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔
	۳۸ ۱۲۲ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
	اور وہی لوگ نلاج پانوں لے ہیں۔

۱۳ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

بے شک مومنوں نے نجات پائی۔

۱۴ وَلَا مَسْئَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ..... وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

اور بے شک ایماندار لڑائی (آزاد) مشرک سے بہتر ہے اور بے شک ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔

۱۵ يَخْرُجُ جُوهَرٌ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝ يَخْرُجُ جُوهَرٌ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکالتا ہے۔ تاکہ اللہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکالے۔

۱۶ يَخْرُجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝

تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے، تاریکیوں سے روشنی میں نکالے۔

۱۷ يَشَهِدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ

جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ مضبوط قول رکھ کر توحید پر دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ

اللَّهُ الظَّالِمِينَ قَدْ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۱۸ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے، عنقریب اللہ ان کیلئے (لوگوں کے دلوں میں) محبت پیدا کر دیگا۔

۱۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَمَسُ مِنْهُمْ

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی بیوی کی ہم ان سے ان کی اولاد کو ملائیے اور ہم انکے

مِنْ شَيْءٍ كُلِّ امْرَأَةٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنًا ۝ وَأَمَّا دُنْيَاهُمْ فَكَارِهَةٌ وَلِكُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ

مثل (کے ثواب) میں سے کچھ نہیں کرینگے، ہر ایک مرد اپنے کئے کے بدلے کر رہے۔ اور ہم ان کیلئے بیویوں اور گوشت کی جس قسم کا وہ چاہینگے

۲۰ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوِ فِيهَا وَلَا تَأْسِيْرٌ ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ زُمُرَانٌ

وہ اس بشت میں وہ ایک دوسرے سے پیائے چھیٹتے ہوئے نہ اس میں کوئی مہر دگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ۔ اور ان پر انکے خوبصورت

كَأْسًا لَّهُمْ لَوْ لَوْ فَكُنُونَ ۝

رہے کے دورہ کرینگے، زیادہ چھپائے ہوئے موتی ہیں۔

۲۱ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔

۲۲ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِهِمْ قَمِنَهُ

وہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنے فضل سے ان کی مدد کی۔

۲۳ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

یہی اللہ کا گروہ ہے جن کو اللہ کا جو گروہ ہے وہی نجات پائے والا ہے۔

۶۳۔ مومن مشرک سے

بہتر ہے

۶۴۔ مومن کو خدا اللہ سے

سے اچلے میں لانا ہے

۶۵۔ مومنوں کو دنیا اور

آخرت میں مضبوط قول

پر ثبات

۶۶۔ مومنوں سے خدا کی

محبت

۶۷۔ مومنوں کی ایماندار

اولاد کا آخرت میں اپنے

باپوں سے ملنا اور جنت

میں عیش و نشاط کیساتھ

انہیں کے درجوں میں رہنا

۶۸۔ نیکو کار مومن بہترین

خلائق میں

۶۹۔ مومنوں کی خدا نے اپنے

نبی سے مدد کی

۷۰۔ مومن خدا کی جماعت ہیں

۱۹ ۳۹	دیکھو مومنوں کو بشارت (مد ۲۶)	۴۱ - مومن قتل نہ ہوں۔
۲۱ ۹	دیکھو مومنوں پر خدا کی رحمت۔ (مد ۲۲)	۴۲ - مومنوں سے خدا کی
۲۲ ۵۸	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔	رعنائی
۲۴ ۸۹	يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً ۝ فادخلي اپنے پروردگار کی رضا سے راضی اور تو اس راضی۔ سو میرے	
	بے الہیمانہ والی روح فِي عِبَادِي ۝ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۝ بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔	
۴۲ ۹	دیکھو مومنوں کو ہمیشہ کے لیے جنت (مد ۳۷)	۴۳ - مومنوں پر خدا کا نفل
۴۳ ۱۳	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فسيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضِيٍّ وَ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو منجھول سے پرہیز کیا وہ ان کو مقرب اپنی رحمت اور نفل میں داخل کرے گا	
	يُدْخِلُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ۝ اور ان کو اپنی طرف سے راستے پر لگا دے گا۔	
۴۴ ۳۳	وَلَيَسِّرَ اللَّهُ لِيَأْتِيَ الْبِرَّ مِنْ اللَّهِ فَيُضِلَّكُمْ سُبُلًا ۝ اور مومنوں کو یہ بشارت دے کہ ان پر اللہ کا بڑا نفل ہے۔	
۴۱ ۹	دیکھو مومنوں پر خدا کی رحمت۔ (مد ۲۲)	۴۴ - مومنوں کے بچے ایسے
۴۲ ۹	الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ جو لوگ ایمان لائے اور مائوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجے	
	عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلَاحُونَ ۝ دیکھو صفاتِ مومنین۔ (مد ۸۷) دائے ہیں اور وہ اپنی راہ کو پہنچنے والے ہیں۔	
۴۵ ۲۰	وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝ اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آئے اور اس نے نیک کام کئے تو یہی وہ ہیں جن کے لئے اونچے درجے ہیں۔	
۴۶ ۲۱	جَنَّتُ عَدْنٍ جَبْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۝ بے کے باغ میں کلدنختوں کے نیچے نہیں جاری ہیں وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے اور یہی اس شخص کا عوض ہے جو پاک ہوا۔	
۴۷ ۵۸	يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۝ اللہ ان کے درجات میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔	
۴۸ ۸	وَإِذْ كَسَبْنَاكُمْ لَدُنَّ قَلِيلًا مَسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ خَائِفُونَ أَنْ يُكَلِّفَكُمْ النَّاسُ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں کمزور خیال کئے جاتے تھے اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں	۴۵ - مومنوں پر خدا کی مدد

فَاُولَئِكَ وَانْتَدَبْتُمُ مَن تَشَاءُونَ ۝

اپکیس سواس نے تمہیں نکالا دیا اور اپنی مدرسے تمہیں توت ری اور تھری چیزوں سے تمہیں روہنی دی تاکہ تم شکر کرو۔

۱۲۶ ۝ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور مومنوں کا مدد کرنا ہم پر ضروری ہے۔

۱۲۷ ۝ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

بیشک ہم اپنے رسولوں کی اور جو ایمان لاتے ہیں انکی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے اور نیز جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔

۱۲۸ ۝ وَكَيْفَ اَبْرٰ سِيْمٌ (كتاب القصاص)

۶۶۔ مومنوں کا حضرت ابیہم سے سب زیادہ تعلق ہے
۶۷۔ مومنوں کو خدا نے آگ کے گرات سے نکالا۔

۱۲۹ ۝ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً

اور سب مل کر اللہ کی رہی کو مضبوطی سے پکڑو اور اختلاف نہ کرو اور اپنے اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن

۱۳۰ ۝ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبِرْ لِمَا نِعْمَتِنَا اِنَّا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ السَّامِ

تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی تو تم اس کے فضل سے آپس میں ایک دوسرے کے بجائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے

۱۳۱ ۝ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

نکالے ہتھے سواس نے تمہیں اس سے رہائی دی۔ یوں اللہ تم سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

۱۳۲ ۝ بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ ۝

بلکہ اللہ تمہارا مالک ہے اور وہی اچھا مددگار ہے۔

۶۸۔ مومنوں کا دوست خدا ہے

۱۳۳ ۝ اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۝ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اللہ ان کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا مددگار ہے

۱۳۴ ۝ ذٰلِكَ يٰۤاَنۡ اِنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاِنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝

یہ اس لئے ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں

۱۳۵ ۝ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رُسُلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے تمہیں تمہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک

۱۳۶ ۝ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَالُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے

۱۳۷ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝

لیکن جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے

۱۳۸ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يَّخْتَدِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنۡدَادًا يَّحِبُّوْنَہُمْ كَمَا يَّحِبُّ اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَسَدُ حُبِّ اللّٰهِ

اور لوگوں میں کوئی ایسا ہی جو اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہیں انہیں اللہ کی محبت کی مانند محبت کہتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ سے اس محبت

۶۹۔ مومنوں پر اللہ کا احسان
۷۰۔ صفات مومنین۔

۲۵۰ اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ كَتَبَ وَرَسُولِهِ

۲۵۱ اَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاَلَيْكَ الْمَصِيرُ
۲۵۲ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰتِ اللّٰهَ وَاٰتِ رَسُوْلَهُ

۲۵۳ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰتِ اللّٰهَ وَاٰتِ رَسُوْلَهُ
۲۵۴ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ

۲۵۵ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ اٰوَا وَاَنْصَرُوا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
۲۵۶ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ

۲۵۷ وَاِذَا مَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُوْلُ اٰتِ اللّٰهَ وَاٰتِ رَسُوْلَهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
۲۵۸ فَمِنْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

۲۵۹ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا
۲۶۰ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَكُمْ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا

۲۶۱ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَكُمْ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا
۲۶۲ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَكُمْ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا

۲۶۳ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَكُمْ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا
۲۶۴ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَكُمْ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا

غَفُورٌ رَحِيمٌ

بخشنے والا مہربان ہے۔

الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝۳۱ أُولَٰئِكَ

جو لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝۳۲

ہماری آیتوں پر تو بس ہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انیس آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پھڑک کر گر جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف میں تو رکھی ہوئی ہوا

يَعْبُدُونَ فِي حَقِّهَا مِمَّا رَحِمَ رَبُّهُمْ يُسَبِّحُونَ ۝۳۳ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ۝

خوابگیوں سے لے کر پلٹ کر ہو جاتے ہیں اپنے پروردگار کو یاد دلانے سے بھارتے ہیں اور جو ہم نے انہیں یاہر اس میں سے خرچ کرتے ہیں

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ مِّنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ يُضِلُّوهَا وَآيَاتِنَا لَاحِظُونَ ۝۳۴

مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے اس میں کچھ ٹھک نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

سے جہاد کیا وہی راستے ایمان میں سچے ہیں۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ

دوست نہ بن سکتے، تو ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے محبت رکھتے ہیں ایسا نہیں پائیگا کہ اس شخص سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت

أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِهِمْ فَمِنْهُمْ

ہے اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا لے بیٹے یا لے بھائی یا ان کے کنبے والے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور

وَأَيَّدَهُم بِرُوحِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤَدِّي مِمَّا نَدَىٰ ۚ وَفِي قُلُوبِهِم مِّنْ رَّحْمَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ يُؤَدُّونَ لِمَا بَدَىٰ لَهُمْ

اپنی تائید سے ان کو توت دی اور وہ انہیں ایسے بانگوں میں داخل کرے گا جن کے (دشمنوں کے) نیچے نہریا جاری ہیں وہ ہمیشہ انہیں

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

میں رہیں گے اللہ نے انہیں ہوا اور وہ اس راضی ہو گا۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت میں ہیں جو کہ اللہ کی جو جماعت ہے وہی نجات پانے والے ہیں۔

تذکرہ نفس

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْمَعَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوهُ

وہ تو کہہ ب جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں مچھے تھے تو اپنے آپ کو پاک نہ کہو

أَنْفُسِكُمْ هُوَ أَعْلَمُ مِمَّنْ أَنْتُمْ ۝

وہ خوب جانتا ہے جو تمہاری ہے۔

۱۔ اپنے آپ کو پاک نہ کہو۔

جان کر کہ اللہ کی تعریف میں تو رکھی ہوئی ہوا

Marfat.com

۱۱ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ
 ۲۔ تزکیہ نفس کرنے والوں کو
 لندج۔

تس ہے سورج اور اسکی روشنی کی اور ماہ کی چہرہ اسکے پیچھے آئے اور دن کی جب وہ اسکو روشن کرے اور رات کی
 إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهَا ۝ وَالْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا ۝ وَكَيْفَ قَامَا
 جب وہ اس پر چھا جائے اور آسمان اور اسکے بنانے کی اور زمین اور اس کے پھیلانے کی اور جان اور اس کے
 سَوَاهَا ۝ فَالْهَمُّ بِأَجْوَدَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝
 دست بنانے کی پیرائش اس کو بگم دی اسکی بگامی اور پیرائش اسکی بیک وہ ملا کو پہنچا جس نے اسکو سنوار لیا۔

۱۱ ۳۔ تزکیہ نفس نہ کرنے والوں کو
 کی نامرادی۔

ما يتعلق بالجو القدر و حشر العباد في أفعالهم

۱۵ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِالْقَدْرِ مَعْلُومٍ ۝

۱۔ خدا کے ان ہر شے کا
 اذان مقرر ہے

اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں اور ہم اس کو مقررہ اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں۔
 ۱۶ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝

بیکہ ہم نے ہر شے کو بیک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

۱۷ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

بیکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔

۱۸ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝

اور وہ جس نے اندازہ کیا پھر راہ بتائی۔

۱۹ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا لَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝

۲۔ ہر ایک بات کتاب میں
 لکھی ہوئی ہے

اور ہم نے جس سستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لئے معلوم نوشتہ تھا۔

۲۰ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۝

بیکہ یہ کتاب میں ہے۔

۲۱ وَمَا تَجْمَلُ مِنْ أَنتَىٰ وَلَا تَضْمَعُ إِلَّا بِعِلْمِنَا ۝ وَمَا يُعْتَرِ مِنْ مَعْتَبِرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُبْرَةٍ ۝

اور کوئی عورت نہ پیٹ میں رکھتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم سے اور نہ کوئی دراز عمر مرد یا جاتا ہے اور نہ اس کی عمر کم کر کے

إِلَّا فِي كِتَابٍ ۝

جاتا ہے مگر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

۲۲ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الذُّبُرِ ۝ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ۝

اور ہر بات جو انہوں نے کی ہے کتاب میں موجود ہے۔ اور ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے۔

۲۲ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَاِلَّا فِي رُكْنٍ مِّنْ قَبْلِهَا لِيَتَذَكَّرَ

کہاں مصیبت زمین میں نہیں پہنچتی مگر اس سے پہلے ہی کتب میں بھی ہوئی نہ ہو کہ ہم اس سے توبہ کریں۔
 اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ۝۲۲ لٰكِنَّا نَسُوْا عَلٰی مَا فَاَنكُرُوْا وَلَا نَفْرَحُوْا بِمَا اَسْكُرُوْا وَاللّٰهُ
 بے شک یہ سہل ہے۔ تاکہ جو شے تم سے جاتی رہی اس پر تم غم نہ کرو اور جو اس نے تم کو روکے اس سے خوش

لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَلِفٍ فَخُوْرٌ

نہ ہو اور اگر جڑی بڑائی مارنے والے شجر خورے کو دوست نہیں رکھتے۔

۲۳ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وَّلًا وَّلَدًا وَّلَا نَفْسًا بِرَاحَتِهَا وَهِيَ كَالَّذِي يَرْجُوْا يُضَلُّوْنَ ۝۲۳

اور ہم کسی جی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ ہے اور ان پر ہم نہیں کیوں بولیں۔
 يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُرِيْٓتُ وَعِنْدَآ اَمْرٌ الْكَلِيْبُ ۝۲۳

اگر جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس کے پاس ہل کتاب ہے۔

۲۴ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَّشَاءُ مِمَّنْ يَّوْمُ الْقِيٰمَةِ سَبْعًا مِّنْ اُمَّةٍ

آسمان سے زمین کی طرف آمار کر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ کام اس کی طرف اوپر چلائے جاتا ہے اس دن میں جس کی مقدار
 مِمَّا تَعَدُّوْنَ ۝۲۴

ہزار سال ہے ان سالوں سے جو تم گنتے ہو۔

۲۵ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَاَرَمَيْتُمْ اِذْ رَمَيْتُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وِلْيَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ

سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا اور ازلے پھیرا جب تو نے ان کی طرف پھینکا تھا تو رحمت میں اتنے نہیں پھینکا تھا
 مِنْهُ بَلَاۤءٌ حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۲۵

لیکن اللہ نے پھینکا تھا کہ مومنوں کی اپنی طرف سے بھی طرح آزمائش کرے بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

۲۶ قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللّٰهِ ۝۲۶ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

کہنے کے (رحمت و تکلیف) سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی مصیبت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی۔

۲۷ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا وَلَوْ اَكَلَمَتْهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِقَضٰى

اور سب آدمی ایک ہی جماعت تھے پھر مختلف ہو گئے اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو تم سے پہلے وہ لوگوں کی طرف سے ہے ہی مقرر ہو چکی ہے تو
 بَيْنَهُمْ فِيمَا فِىْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝۲۷

ان کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں کبھی کا نہیں ہو چکا ہوتا۔

۲۸ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَن تَحَرَّمَ رَبُّكَ

اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے نہیں گے مگر وہ جس پر تیرا پروردگار حرم کرے
 وَلِذٰلِكَ خَلَقْنٰهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلٰٓئِكَةَ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝۲۸

اور اس نے اسی اختلاف کیلئے ان کو پیدا کیا ہے اور تیرے پروردگار کی بات نہ پوری ہوگی کہ میں نہرودنوخ کو جنوں اور آدمیوں کے ہی بھروسہ کا۔

۳۔ خدا کے پاس حق بولتی کتاب ہے
 ۴۔ کتاب بخیر و الاغیاب
 ۵۔ کل کام آسمان سے اترتے ہیں

۶۔ خدا کی مرضی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا

۷۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے

۸۔ لوگوں کا اختلاف خدا کی قدرت سے ہے۔

۹۶
۱۰
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ
بیک جن لوگوں پر تیرے پروردگار کی بات سہی ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگرچہ ان کے پاس ہر ایک نشانی آجائے
يُرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

۹- لوگوں کا ایمان لانا
خدا کے حکم پر موقوف ہے

۹۹
۱۰
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلِّ جَمْعٍ مِّمَّا أَفَاءتْ نَكَرُهُ النَّاسُ حَتَّىٰ يَكُونُوا
اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ سب جو زمین میں ہیں ایک ساتھ ہی ایمان لے آتے تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان
مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَفَّىٰ مِنْ أَكْثَرِ بِأَذْنِ اللَّهِ ۝ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لے آئیں۔ اور کسی جان کا کام نہیں کہ بغیر حکم خدا کے ایمان لے آئے اور انسان پر جو قتل نہیں رکھتے
لَا يَعْقِلُونَ ۝

پس یہی دانتا ہے۔

۱۰- انسان کا دل خدا کی
اختیار میں ہے

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان مائل ہو جاتا ہے۔

۱۱- خدا کا کھانا ہوا اس
کو پہنچتا ہے

۱۲- کوئی شے مقررہ وقت
سے آگے پیچھے نہیں پہنچ
سکتی

۱۳
۱۴
فَلَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَدَيْتُوكُمْ الْمُؤْمِنُونَ ۝
کہ دے کہ ہم کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی گمراہی ہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھی ہے وہی ہمارا مالک ہے اور دونوں کو اللہ ہی پر بھروسہ
الزَّانِثِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ۝ رُتَبًا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝
یہ کتاب اور بیان کرنے والے قرآن کی آیتیں ہیں۔ بہت ہر گاہ کہ وہ لوگ جو کافر ہیں چاہیں گے کہ اللہ انہیں مسلمان بنائے

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کہ دسہ کہ تمہارے لئے ایک دن مقرر ہے اس سے نہ تم ایک ساعت بھیچے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔

۱۳- خدا کسی کو اس کی گنجائش

۲۳۳ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا وَلَا تَكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وِزْرَهَا

کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔

سے زیادہ تکلیف نہیں

۲۳۴ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وِزْرَهَا

اللہ کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

دیتا

۲۳۵ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وِزْرَهَا

اور ہم کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

۱۴- خدا ایسوں کو نیکی کی

۱۵۳ لَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وِزْرَهَا

ہم کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

کسی جان کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جس قدر اس نے

۱۵۴ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۖ

سو جس نے (راہِ خدا میں) دیا اور ڈرا اور اچھی بات کو سچ جانا ہم اس کو نیکی کی توفیق دیں گے۔

توفیق دیتا ہے اور

۱۵۵ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ

لیکن جس نے بخل کیا اور بے پروائی کی اور اچھی بات کو جھوٹ جانا ہم اسے بدی کی توفیق دیں گے۔

بدوں کو بدی کی

۱۵۶ وَمَا يَغْنُتُ عَنْهُ قَالَةٌ إِذَا تَرَدَّى ۖ

اور اس کا مال کچھ کام آئے گا جب وہ اونچا گرے گا۔

بدوں کو بدی کی

۱۵۷ فَالْتَمِسْهَا فِي جُودِهَا وَتَقْوَاهَا ۖ

پھر اشد نے اس کے دل میں اس کی بیکاری اور اس کی پرہیزگاری ڈالی۔

۱۵- انسان کو خدا نے نیک

۱۵۸ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۖ

جو بھلائی تجھے پہنچی وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تکلیف تجھے پہنچی وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔

بدوں کو بدی کی

۱۶- نیکی خدا کی طرف سے ہے

اور بدی انسان کی۔

۱۵۹ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْتَعُ ۖ فَإِنَّهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۖ

کیسے انسان کو مانی ہر وہی ملی ہے سو آخرت اور دنیا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے

۱۷- انسان کی مرضی پوری

نہیں ہو سکتی

اسلام

۱۶۰ قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا

کہہ دے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکے اور کیا ہم اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو

۱۸- اسلام لانے کا حکم

۱۶۱ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ خَيْرَ الْأَرْضِ وَاسْوَأُهَا أَصْحَابُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُدْعُونَ لِلَّهِ

ہدایت پر نکال دیا ہے اس شخص کی طرح اپنی اڑیوں پر لکھ کر (موت) لڑتے ہیں جن کو جنوں نے جھگڑ میں حیران چھوڑ دیا ہے اس کے کچھ دست

۱۶۲ أَتَشْتَدُّ قُلُوبُ الَّذِينَ هُدِيَ اللَّهُ لَهُمْ هُدًى وَاسْمُهُمُ الْغَالِبِينَ ۖ

میں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہٹے پاس آ۔ کہہ دے اللہ ہی کی ہدایت اہل ہدایت ہر اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہان کے

۳۲
۲۳ ○ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَشَرَّ الْمُحْسِنِينَ ○

سو تم اسی کا حکم مانو اور اسے نبی تو نیکوں کو بشارت دے۔

۳۱
۲۴ ○ وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرماں برداروں میں رہوں۔

۳۰
۲۵ ○ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

تو تو ایک خدا کا ہو کر دین کی طرف منصفانہ قائم رکھ یہ خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی پیدائش میں

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

تبدیل نہیں ہے۔ یہی دین سیدھا ہے۔ لیکن اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے۔

۲۳
۲۶ ○ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْغِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ بَوَاصِلَ الَّذِينَ

تو تو سیدھے دین کی طرف اپنا رخ قائم رکھ اس سے پہلے کہ وہ دن آجود ہو جسے اللہ کی طرف سے ٹھٹھانے سے اس دن وہ لوگوں کو لگاؤں

۲۹
۲۷ ○ وَأَمْرٌ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ○

اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

۲۸
۲۸ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

مسلمانوں! اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔

۲۹
۲۹ ○ وَارْتَبِعُوا صَبَاتَكُمْ إِلَى رَيْكُمْ وَأَسْلِمُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ شَرًّا لَا تَنْصَرِفُونَ ○

اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمان بردار بنو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے اور پھر تمہاری مردہ کی جانے۔ اور

۳۰
۳۰ ○ وَأَمْرٌ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہان کے پروردگار کا فرمان بردار ہوں۔

۳۱
۳۱ ○ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهَا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةٌ ○

پس تو جیسا مجھے حکم دیا گیا ہے قائم رہ اور وہ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ خدا کی طرف رجوع کیا ہے اور کبھی نہ کرو بیچک اللہ تو تم کرتے ہو اور

۳۲
۳۲ ○ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ○

اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا۔ چہ کہ تمہیں ان کے پروردگار کے سوا کوئی دوست نہیں اور پھر تمہاری مدد بھی نہیں

۳۳
۳۳ ○ قِيلَ لَكَ فَاذْعُرْ وَاسْتَغْفِرْ لِمَا أَمَرْتَ ○ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ

پس تو اسی کی طرف بلا اور جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے قائم رہ اور ان کی خواہشوں پر نہ چل اور کہہ کہ میں اس

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمْرٌ لِأَعْمَالٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَالْحَمْدُ

کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہمارا پروردگار ہے اور

أَعْمَالِكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ○

تمہارا پروردگار ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال جمع کرے درمیان اور تمہارے درمیان کبھی بھگڑا نہیں ہے

۲ - اسلام میں پورے طور پر
داخل ہو

۳ - دین اسلام پر قائم رہو

۱۹
۳۵ كَمْ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شِرْيَعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

پہریم نے تجھے دین کی ایک راہ پر لگا دیا ہے تو تو اسی پر چل اور ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چل جو کچھ بھی نہیں جانتے۔
 ۱۹
۳۵ وَهُمْ أَنْتُمْ لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَليُّ الْمُتَّقِينَ ۝

وہ اللہ کے مقابلے میں تیرے کچھ کام نہ آئیں گے اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ متقیوں کا دوست ہے۔

۱۶
۳۹ قُلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ اللَّهِ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شئ عليم ۝ کہ دے یا تم اللہ کو اپنی دینداری جلاتے ہو مالا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر شے کو
 ۱۶
۳۹ شئ عليم ۝ ۱۶
۳۹ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامًا مَكْرَهًا بَلِ اللَّهُ يَمُنُ بِمَا يَعْلَمُ ۝

جانتا ہے۔ وہ تجھ پر یہ احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لائے تو کہہ دے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو۔ بلکہ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی طرف لگا دیا اگر تم سچے ہو۔

۱۳۲
۲ فَلَا تَمُونَنِي إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

پس تم مسلمان ہی ہو کر مرو۔

۱۴
۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْحَابَ اللَّهِ

سلمانو! اللہ کے دین کے امددگار بن جاؤ۔

۱۸
۴ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۝

بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

۱۳۷
۲ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ

اللَّهُ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اللہ ہے اور وہ سب کو سنا دینے والا ہے۔

۱۹
۳ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ

الَّذِينَ آمَنُوا أَسْلَمْتُمْ هُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ دُونَ

الَّذِينَ آمَنُوا ۝

ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اور عرب کے ان پڑھوں سے پوچھ کہ تم ہی اسلام لے آئے پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو بیشک

اللَّهُ بِصِيرٌ يَا عِبَادِ ۝ ۱۹
۳ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّتْ عَنْهُمْ شَرًّا ۝

وہ ہدایت پر ہو گئے اور اگر وہ نہ ہو گئے تو قرآن میں مرز بنیامین پر اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے جو اسلام لایا تو ایسی ہی لوگ ہیں جنہوں نے نہ

۳۔ اسلام لانے کے کسی
 پر احسان نہیں بلکہ خود
 اسلام لانے پر خدا کا
 احسان ہے

۵۔ اسلام ہی پر مرو۔

۶۔ خدا کے دین کی مدد کرو۔

۴۔ دین تو خدا کے نزدیک

صرف اسلام ہی ہے

۸۔ ہدایت صرف اسلام ہی

میں منحصر ہے

۱۹۔ ہدایت صرف اسلام ہی

میں منحصر ہے

۹۔ اسلام کے سوا کوئی دین
قبول نہیں

۸۳/۳ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

اور جو شخص اسلام کے سوا اور کوئی دین اختیار کر لیا تو وہ دین سے ہرگز قبول نہیں کیا جائیگا اور آخرت میں وہ گنہگار اٹھائے والوں میں ہوگا۔
۱۳۴/۲ فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ مِثْلَ مَا أَمْتَمْتُمْ بِهِ فَقَدْ أُهْتَدَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

پھر اگر وہ بھی تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو بے شک انہوں نے ہدایت پائی اور اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک وہ اختلافت میں

۱۲۶/۶ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝

۱۰۔ دین اسلام خدا کا سیدھا
رستہ ہے۔

اور یہ تیرے پروردگار کی یہی راہ ہے ہم نے ان لوگوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی ہیں جو نصیحت کھاتے ہیں۔

۱۵۲/۶ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَسْبَأُ بِرَبِّيَ إِسْمًا كَرِيمًا ۚ

کہہ دے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اس کا
۱۵۳/۶ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَثْمَارُكُمْ وَإِنَّمَا تَقْتُلُونَ أَمْوَالَكُمْ ۚ وَالْقَوَاعِصُ وَالظُّهْرُ
کے ساتھ احسان کرنا اور عیبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی ادا ہے حیالی کی باتوں کے
مِنهَا وَمَا بَطْنٌ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ

قرب بھی نہ جاؤ تو ان میں ظاہر میں اس کے بھی ماہر جمعی ہیں اس کے بھی اور اس جان کو تاق نہ مارو جس کا اللہ نے احترام کیا ہے

تَعْقِلُونَ ۝ ۱۵۳/۶ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَ

یہ ہے جس کے ساتھ اس نے تم کو وصیت کی ہے شایم کہ بھلاؤ تمہارے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہت ہی اچھا ہو

أَوْ فِى الْكَيْلِ وَالْيَمِينِ ۚ وَالْقَيْطُ لَا يَنْكِفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِدُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ

بیان تک کہ وہ اپنی جوانی کو بیچ جائے اور ماپ اور نکل کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو ہر کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ۱۵۴/۶ وَإِنْ هَذَا

نہیں ہے اور جب تم بات کرو تو انصاف کو نظر رکھو اگرچہ کوئی ہفتہ داری ہو اور اللہ کے عہد کو یاد رکھو ہر کسی اس نے تمہیں وصیت

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ

کی ہے تاکہ تم نصیحت کھو۔ اور یہ کہ یہ سیرا ہے سیدھا تو تم اسی پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ رستے تمہیں اس کے رستے

وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

ہے بنا کر دیں۔ یہ ہے جس کی اس نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔

۱۲۸/۳ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۚ وَالتَّبَعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ

اور اس سے اچھا کس کا دین جس نے اپنے رخ کو اللہ کا رخ بنا لیا اور وہ نیکو کار ہے اور اس نے ایک خدا کا پورا دین الہم کو پوری کی

۱۲۲/۳ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

اور اس سے اچھا کس کا قول؟ جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک کام کئے اور کہا کہ میں تمہارا دین میں ہوں۔

۱۱۔ دین اسلام سے بہتر کوئی
دین نہیں۔

۱۱۲۔ احسن اسلام میں اللہ نے آسانی رکھی ہے سختی نہیں رکھی

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے اور وہ تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرْجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُثَبِّرَكُمْ وَلِيُتَمِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم

اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تلخی ڈالے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

کے تاکہ تم شکر کرو

۱۱۳۔ اسکی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا

۲۸۶

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَبُّهَا مَا آكَسَبَتْ

اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس کے نفع کے لئے جو اس نے اچھا کیا اور اس پر ہاں ہے جو اس نے بگایا

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

اور کسی جان کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو اس نے اس کو دیا ہے

۱۵۲

لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

ہم کسی جان کو اس کی تمنا سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے

۱۱۴۔ ضعیفوں۔ لنگڑوں۔ اندھوں اور مریموں وغیرہ ضعیفین پر جمعہ جماعات اور عباد وغیرہ کی تکلیف نہیں ہے

۹۱

لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا

نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو شے نہیں پاتے جس کو وہ خرچ کریں کوئی گناہ جب اللہ اور اس کے

نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

رسول کی خیر خواہی کریں نیکو کاروں پر کوئی الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور نہ ان پر گناہ

إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لِحَاجَتِهِمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں کہ تو ان کو سوار کر دے تو تو کہتا ہے کہ میں وہ (سواری) نہیں پاتا جس پر میں تم کو سوار کر دوں

كِرْنَا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ

وہ واپس ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس میں کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں

۶۱

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

نہانے پر گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے

وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ

اور جو اپنے رخ کو اللہ کا رخاں بردار بنا دے اور وہ نیکو کار ہو اس نے بے شک مشرطہ سے کو پکڑ لیا اور سب کاموں

۱۱۵۔ اسلام پر ایمان لانا

۲۲

عاقبة الامور

کا انجام اللہ ہی کی طرف سے

۱۱۶۔ خداوند سلام فرماتا ہے

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ آخِذُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
آج کا فرسارے دین سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لئے تمہارے
دین کو کال کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام سے راضی ہوا

۱۱۷۔ دین اسلام فرماتا ہے۔ لبرکھ
مسئلہ۔ عیسیٰ وغیرہ کا ایک ہی
-۴

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَلِدُ قَالَ أَسَلْتُ رَبِّي الْعَالَمِينَ ۝ وَوَضَىٰ بِهَا آيَاتِهِمْ بَيْنَهُ
رہے نبی وہ بت یاکر کہ جب آپ پر ایمان سے اس کے پڑنے کے لئے کہا کہ سلام لا۔ تو اس نے کہا کہ میں جہاں کے پڑھا کر لینے سلام لیا۔ اس کی وصیت اس پر
بِعَفْوِ رَبِّهِمْ إِنْ اللَّهُ اصْحَفَ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں اللہ نے تمہارے لئے دین منتخب کیا ہے تو تم مسلمان ہی مرنا

كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا
اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تمہارا تم میرے بعد کس کو پوجو گے تو انہوں نے
نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ إِلَهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْحَقُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا وَمَنْ خَلَفَ مِنْكُمْ
کہا کہ ہم تیرے بعد وہ پوجتے ہیں باپ دادل اور اس کے بعد وہ پوجتے ہیں ایک ہی کو پوجتے ہیں اور اس کے فرماں پر رہیں

۱۱۸۔ سلام سے قریش کی نصرت

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ تُوْحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
اس نے تمہارے لئے دین جاری کیا ہے جس کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی ہم نے تیری طرف سے کی اور جس کی ہم نے
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الشُّرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُهُ
ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی یہ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو شریکوں کو کہہ دینا اور جو جس کی طرف تمہیں بلاتا

۱۱۹۔ سلام سے قریش کی نصرت

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
اور ان کو بوجہ اس کے اور کچھ حکم نہیں دیا کہ ایک طرف کے ہو کر مخالف نہ رہیں اور اس کی فرماں پر رہیں کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں اور یہی سیدھا دین ہے

۱۲۰۔ سلام سے قریش کی نصرت

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

پہلے تمہیں اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس کمال دلیلیں آئی ہیں اور تمہارے لئے تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے

۱۲۱۔ سلام سے قریش کی نصرت

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالسَّيْلِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
کیا ان کا نظارہ ہے کہ ان کے پاس آجوں کے ساتھ ہی خدا اللہ فرماتے آجوں ہوں اور معاملے ہو جائے اور سب کا
وَاللَّهُ نَزَّجَمُ الْأُمُورِ ۝
اللہ ہی کی طرف لڑنا ہے ہائیں کے

۱۱۹۔ غیبی سلام کہیں کریں

۱۱۴ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

اور رب نے نبی اکرمؐ سے کہ حق آگیا اور باطل پاش پاش ہو گیا ہے شک باطل پاش پاش ہونے والا ہی تھا
۱۱۵ قُلْ مَنْ يَكْلُو كَثْرًا بِالْبَيْتِ وَالْتِمَارِ مِنَ الْحَجَرِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ۝

رب نے نبی اکرمؐ سے کہ رات اور دن میں تم لوگوں سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ (کوئی نہیں) بلکہ وہ اپنے پُروردگار کی یاد سے منحرف ہو چکے ہیں
۱۱۶ أَمْ لَهُمُ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ

کیا ان کے ایسے سبوت ہیں جو ہمارے سوا ان کو بچا سکیں وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھی
۱۱۷ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ لَآءٍ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ

بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا میں برونہ کیا۔ یہاں تک کہ ان پر عسریں طویل ہو گئیں۔ تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم
نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُوَ الْغَالِبُونَ ۝

زمین (کفر) کو اس کی چاروں طرف سے گھسانے چلے آتے ہیں تو کیا وہ غالب آئیں گے
۱۱۸ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَفْقَهُ الْإِنْتِخَابَ لَأَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ ۝ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيَنَّ الْبَاطِلُ

وہ اپنے نبی اکرمؐ سے کہ میرا پروردگار سبھی باتوں کا جاننے والا حق کو پہچان رہا ہے کہ وہ دے کہ حق آگیا اور آئندہ باطل زائد کرے گا
وَمَا يُعِيدُ ۝

اور نہ لوٹ کر آئے گا
۱۱۹ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ

اس کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتے ہیں اور نیک کاموں کو وہ اپنی طرف اٹھا لیتا ہے اور جو لوگ بُری بُری جو بُریں سوچتے رہتے ہیں
شَدِيدٌ ۝ وَمَكْرُؤُكُم مَّا بُيِّنُوهٗ

ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ان لوگوں کا فریب تباہ ہوگا
۱۲۰ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَأَنتَ اللَّهُ مُنِيرٌ ۝ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ

کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (دین اسلام) کو اپنے منوں سے دھپوک مار کر بجھا دیں لہذا اپنے زور کو پورا کرنے والا ہے وہ (خدا)
الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے اگر مشرکوں کو برا معلوم ہو
بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ان جس نے اپنا رخ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکو کار ہے اس کے لئے اس کے پُروردگار کے اس کا اجر ہے اور نہ ان پر کچھ خوف ہی ہو نہ سوچیں ہی ہو
مَلَأَ لَيْبِكُمْ أَزْهَابًا ۝ هُوَ سَمِيْعٌ مُّسْتَجِيبٌ ۝

اسلام تمہارے باپ ابوبکر کا دین ہے اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے
۱۲۱ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً زُوشِحْنَا لَهُ عُقْبًا ۝

مسلمانزادہ کو ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے امانت سے چھانگنے والا کون ہے اور ہم صرف اسی کو پوجتے ہیں

۱۲۰۔ مسلمان نیکو کار بخوف و غم میں

۱۲۱۔ مسلمان نام ابوبکرؓ نے رکھا ہے

۱۲۲۔ مسلمان اللہ کے رنگ

میں رنگے ہوئے ہیں

۱۲۵ ۱۲۵ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

پس جو تجھے حکم دیا جاتا ہے تو اسے پورا کر اور مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر

۱۲۶ ۱۲۶ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اپنے پروردگار کے رستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلا

۱۲۷ ۱۲۷ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

ہی رہتا ہو۔ بیشک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے، جو اُس کی راہ سے ہیرا ہوا ہے اور وہی ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں

۱۲۸ ۱۲۸ وَلَا يَنفَعُكَ فِي الْأَمْرِ إِذْ دُعِيَ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝

سو وہ اس بارے میں تجھ سے جھگڑنا نہ کریں اور تو اُن کو اپنے پروردگار کی طرف بلا ہے شک تو بید سے رستے پر ہے

۱۲۹ ۱۲۹ وَإِذْ دُعِيَ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اور اپنے پروردگار کی طرف بلا اور مشرکوں میں مت جا

۱۳۰ ۱۳۰ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ

پس تو اسی کے لئے بلا اور اس پر قائم رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چل

۱۳۱ ۱۳۱ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

اور جو لوگ ڈرتے ہیں ان پر کافروں کے تعلق کوئی مواخذہ نہیں لیکن اُن کا فرض (نصیحت کرنا ہے شائد وہ ڈریں اور اُن

۱۳۲ ۱۳۲ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِدْبَارُهُمْ لِعِبَادٍ أُخْرَىٰ ۝ وَغَرَّتْ لَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ رَبَّهُمْ أَنَّ يُسَلُّ

پہنیں اُن کو چھوڑ دیں گے اپنا دین کسی اور نسل یا نسل کے لئے ہے اور دنیا کی زندگی نے اُن کو دھوکا دے رکھا ہے اور تو اس قرآن

نَفْسٍ يٰمَّا كَسَبَتْ ۝

سے نصیحت کر کہیں کوئی بان لپٹے کی وجہ سے ہمتلانے نصیحت نہ ہو جائے

۱۳۳ ۱۳۳ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَتَخَفُ وَعِيدٍ ۝

پس قرآن سے اس کو بھلا جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہے

۱۳۴ ۱۳۴ وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور نصیحت کر بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے

۱۳۵ ۱۳۵ فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا جُنُونٍ ۝

پس تو نصیحت کر تو اپنے پروردگار کے فضل سے یہ جنوں کو ذرا بے قرار ہے اور نہ دیوانہ

۱۳۶ ۱۳۶ فَذَكَرَ إِنَّ نَفْعَ الذِّكْرِ ۝ سَيَذَكَّرُكَ مَنْ يَخْتَارُ ۝

پس تو نصیحت کر اگر نصیحت نفع دے جو ڈرتا ہے وہ نصیحت کو چارے گا

۱۳۷ ۱۳۷ فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ ۝

پس تو نصیحت کر تو تو نصیحت ہی کرنے والا ہے

۲۔ لوگوں کو سمجھانے کا حکم

۱۰۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

۱۔ اپنی پہلی جگہ کے بعد کسی کی گمراہی سے ضرر نہیں۔

۱۰۶ وَأَنْذِرْ لِكُلِّ قَوْمٍ نَسِيَةَ آيَاتِهِمْ إِذْ هَبُوا شَاءُوا وَلَا يَخَفُ

۲۔ لوگوں کو عذاب سے ڈرانے کے لئے

۱۰۷ وَإِنْ تَرَىٰ عِنْدَ قَوْمٍ صِلًا أَفْوَاجًا وَلَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَمَانًا عَلَىٰ

۱۰۸ لِقَائِهِمْ فَسَبِّحْ لَهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ كَارِبِينَ

لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عَنْدَهُمْ

وہ کہ ان کے لئے راستی کا قدم (بندرت) ہے

۱۰۹ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ

اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جس دن ان پر عذاب آئے گا

۱۱۰ يَنْزِلُ السَّلْبُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ اتِّدَارَ آلَاءِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

۱۱۱ أَنَا فَاتَّقُونِ

سو کوئی عبود نہیں ہے تو مجھ سے ڈرو

۱۱۲ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

اور ان کو حسرت کے دن سے ڈرا جب رہبر بات کا فیصلہ کیا جائے گا

۱۱۳ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا

۱۱۴ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَىٰ الْحَنَاجِرِ كَظَمِينَ

اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرا جب ہل راسے خوف کے اہلکے قریب ہوں گے۔ غم سے بھرے ہونے

۱۱۵ إِنْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آجائے

۱۱۶ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ

اے ٹھہرتا مارنے والے اٹھ اور ڈرا

اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم

۱۱۷ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور ہم نے جو رسول بھیجے وہی بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے

۱۔ رسول ہیں فرض سے بھیجے
۲۔ لوگوں کی اطاعت کی

۱۴

۲۔ رسولوں کے آنے سے
اہل بکلی نزلتی ہے

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
اور ہر ایک امت کے لئے رسول ہوتا ہے پھر جب ان کا رسول آجاتا تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ایک رسول نہ بھیج دیں

۱۵

۳۔ رسولوں کے جھٹلاتے
والوں کو خدا وکیل دیتا ہے

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یا انہیں ہم درجہ بدرجہ ڈگری میں آجھنپیں گے ایسی طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہوگی اور میں انہیں مدد
کندنی متین

دونوں جگہ سیرا اور سیرا ہے

۱۶

۴۔ رسولوں کے جھٹلاتے
والوں کے اعمال اکا اکا ہیں

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزِنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا
اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ ان کے عمل اکارت گئے انہیں صرف اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو
يَعْمَلُونَ

وہ دوتیاں کیا کرتے تھے

۱۷

۵۔ رسولوں کے جھٹلنے
والے دوزخی ہیں

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غرور کیا وہی دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ اسی دوزخ میں رہیں گے
مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

سو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس نے اللہ پر مہوٹ بنا لیا اس کی آیتوں کو جھٹلایا ایسی وہ ہیں جنہیں (تعمیر کے) لکھے ہوئے

الکتاب لکھی آئی ہے۔ آجائے تم رسولنا آیتوں کو نہ تم قالوا این ما کنتم تدعون من دون الله
سے ان کا ہمد پہنچا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے جیسے رزق تھے، انہیں دنات دینے آئیں گے تو پھر یہ کہہ کر کہاں پر نہیں
قالوا اضلوا ناعدا وشهدوا علی انفسهم انهم كانوا کفرین۔ قال ادخلوا فی آہم

تم اس کے سوا اپکار کرتے تھے وہ جواب دیں گے کہ ہم سے کہہئے تو اور وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے خدا ان کا

کذخلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت ائہ لعنت انتم کلکم
کہم جنوں اور انسانوں کی ان جہنم میں داخل ہو جاؤ گے پلے ہو گئے ہیں جب اس میں کوئی امت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھ والی
اذا اذارکوا فیہا جہمہا قالت اخریہم لا ولنحمررتنا هولاء اضلونا فلزم علی باضعف

پرست سے کہ یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں لے لیں گے تو ان کی پھیل جہت پہلی کے پاس میں کہے گی کہ ہاں رب یہی میں جنوں
من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ وقالت اولکم الاخریہم فاما کلا

ہیں گراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا وہ عذاب کہ خدا ان کا ہر ایک کو دہرا ہے لیکن تم معلوم نہیں اور ان کی پہلی جہت پہلی جہت سے کہے گی
لکم علمنا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ ان الذین کذبوا

تہیں ہم کہہ چکے تھے کہ تم عذاب کا مزہ چکھو اور اس کا جو تم کو کیا کرتے تھے

بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَقْبِلُوا رُوحَهُمْ وَأَلْزَمُوا لَهُمْ رِجَالَهُمْ فَكُلٌّ مِنْهُمْ خَالٍ مِنْكُمْ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْمِزَهُمْ
 اور ان کے قبول کرنے سے غور کیا ان کے بے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور تا وقتیکہ اونٹ سونے کے ان کے
 الْجَمَلُ فِي سِمِ الْخِيَابِ وَكَذَلِكَ جِئْنَا لَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ بِأَمْوَالِهِمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 میں سے زنگل بائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے اور گنہگاروں کو ہم اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لئے دوزخ سے فرس
 قَوْفِهِمْ غَوَّاهِينَ وَكَذَلِكَ جِئْنَا لَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ بِأَمْوَالِهِمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

ہے اور اسی کا) ان کے اور ہاؤر حسنا ہے اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
 کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں یعنی قوم نوح اور عادا و ثمود کی اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے
 لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا إِلَيْهَا قُلُوبَهُمْ فِي أَقْوَامِهِمْ وَقَالُوا
 انہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ان کے بڑوں کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے ان کے سونہوں کو اپنے ہاتھوں سے

إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا آدُرُّهُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ
 بنا کر با اور کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں اور بیشک ہم اس دنیا کی طرف تو جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو وہی شک
 فِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطْرَقَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ يَذْعُوكُمْ لِتُخَيَّرُوا مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخَّرَكُمْ
 میں ہیں ان کے بڑوں نے کہا کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے اور تمہیں اپنی طرف اس سے بلاتا ہے تاکہ تمہارا

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِينَا دُورًا
 تمہارا بخش ہے اور ایک ٹھہری ہوئی سیالک رہیں اہمیت دہانوں نے کہا کہ تم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہو تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کو کون جو بڑوں اور تم
 يَعْبُدُ آبَاءَنَا وَآبَاءُ تَوْابِعُنَا سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن سَخَنَ الْإِبْرٰهِيْمُ
 نہیں مانے باپ اور اپنے بچے پہلے آئے ہیں تو تم ہمارے پاس کوئی کھلی سند لاؤ ان کے بڑوں نے ان سے کہا کہ ہم بھی تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں

وَلٰكِنِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کرے اور ہماری طاقت میں نہیں کہ بغیر اللہ کے حکم کے ہم تمہارے پاس کوئی سند لائیں
 وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا
 اور جو سونوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حال ایک ہماری ہمہاں ہمیں

وَلِلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا آذَيْنَا وَمَا نُنَاقِلُ اللَّهُ فَلَْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ
 دکھایا اور جو ایذا تمہیں پہنچے ہو اس پر ہم ضرور سبر کریں گے اور بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے
 كَفَرُوا بِالرُّسُلِ هُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
 اپنے بڑوں سے کہا کہ ہم ضرور تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تم ضرور ہلکے مذہب میں جاؤ گے تب ان کے بڑوں کو گارنے ان کی طرف

لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَسَوْفَ نُنَبِّئُكُمْ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ مِنْ خِطَابِ الْمُقَاتِلِينَ
 دہی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلک کر کے دیں گے اور ان کے دہلاک کرنے کے بعد ضرور تمہیں اسی ملک میں بسائیں گے۔ (دفعہ ۱) اس کے لئے جو میرے

۱۳

وَخَافَ وَعَبِدَ ۝ وَاسْتَفْكَرُوا خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

انکے مڑنے پر نہ سے ڈرا اور یہے ڈرے ڈرا اور انہوں نے نہ سے بچنے کی اور ہر ایک کس دشمن کا سیلاب اس کے اگے نہ بچے اور
یستغفر من قاتل صدید ۝ یجزعہ ولا یغادر ۝ یسبغہ ۝ ویا تیبہ الموت من کل مکان ۝

وہ پڑا یا باجیک ہر سیلاب نے ہر گھونٹ گھونٹتے گا اور حق سے نہ آرا کیا گیا اور ہر طرف سے موت گھیبے ہوئے ہوگی اور وہ
کھو بیعتت ومن وراہہ عذاب علیک ۝

میتے کا نہیں اور اس کے اگے رانیچہ جنت مذاب ہوگا

۲۸
۲۰ اذ اذی الیسا ان العذاب علی من کذب وتولی ۝

بے شک ہماری طرف سے وہی کی گئی ہے کہ مذاب اس پر ہوگا جس نے (دین حق کو چھوڑا یا اللہ اور اس سے) ہونہ موڑا

۱۲
۳۸ کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالاوتاد ۝ و شمود و قوم لوط و اصحاب

ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون والے فرعون نے جھٹلایا اور شمود اور لوط کی قوم اور بن داؤد نے

لثیكہ اولیک الاحزاب ۝ ان کل الاکذب الرسل حق عقاب ۝

یہی رکھتے ہیں کی (جہاتیں ہیں) سب ہی نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب حق ثابت ہو گیا

۳۸
۲ فاما یا تینکم مینی ہدی فمن لہم ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ۝

پہرا کرتا ہے اس میری طرف سے ہدایت ہے تو جو میری ہدایت پر چلا ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے

۳۵
۴ یسفی ادمر اما یا تینکم رسول و منکم یقتضون علیکم ایقی قمن اتقی واصلم ولا توف

اے ادم اور آدم! اگر تمنا ہے اس نہیں ہے سے رسول نہیں جو تم پر میری آیتیں پڑھیں تو روان کو سن کر اور ڈرا اور اصلاح پر آ گیا ان
علیہم ولا یحزنون ۝

پر نہ کہہ خوف ہی ہے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے

۳۰
۳ قل ان کنتم تحبون اللہ فاطبعونی یحکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ۝

کہو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا رحیم ہے

۳۱
۳ کل اطیعوا اللہ والرسول ۝

اسے (نبی) کہنے سے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو

۱۳۱
۳ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحون ۝

اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

۵۹
۳ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم

مسائل اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے مالک ہیں ان کی بھی

فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فلا یخوفک خیر ۝

میں جبکہ پڑو تمہیں کے فیصلے اور اللہ اور رسول کی طرف نہ آو اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور تمہارے حق میں بہتر ہے

۶۔ رسولوں کا اتباع کرنا
قیامت کو بخوف و غم ہونے

۷۔ اللہ سے محبت کرنے والوں
کو اتباع رسول کا حکم
۸۔ اللہ اور اس کے رسول محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کا حکم

۴۳ ۴۴ ۴۵
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ قُلِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

بے شک اللہ تم سے خبردار ہے۔ کہنے کے لئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم نے پیروی نہ کی تو تمہارا
اللہ تم سے خبردار ہے اور تم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے ہیں۔
الْمُؤْمِنِينَ ۝

۴۶
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

۴۷
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ
ذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرٍ ۝

۴۸
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

۴۹
إِسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّ كَمَا تَجِيبُونَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ بَلَدٍ يَدْعُونَ

۵۰
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ

۵۱
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

۵۲
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا يَرْجُوكُمُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ ۚ

۵۳
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ فَفَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا

۵۴
وَمَنْ هُوَ أَهْلُهَا ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝ وَإِذَا

۵۵
وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان کے لئے بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث بنتا ہے۔

۱۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہدایت اور ہٹا بھاری اچھے

Marfat.com

لَا تِينَكُمْ مِنْ كُنَا جَرَّ عَظِيمًا ۝ ۲۸ وَلَهْدَ يَنْوَهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

ہم ان کو اپنے ان سے ضرور بڑا بھاری ثواب دیتے اور ضرور انہیں یہی راہ پر لگا دیتے

۳۰ - رسول کی اطاعت بعینہ

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ

جو کوئی رسول کی اطاعت کرتے گا اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی

خدا کی اطاعت ہے

۳۱ - اللہ اور رسول کا حکم رو

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

اور کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو اپنے کام کے بارے میں

عورت اختیار نہیں ہے

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝

اختیار ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔

۳۲ - اللہ اور رسول کے تابعدار

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيُتَّقِ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریگا اور اللہ سے ڈریگا اور پرہیزگاری اختیار کریگا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں

اپنی مراد کو پہنچیں گے

۳۳ - اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریگا اس نے بے شک بڑی کامیابی حاصل کی

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریگا اس نے بے شک بڑی کامیابی حاصل کی

۳۴ - قیامت کو اللہ اور رسول کے تابعدار

ہوں گے۔

شہداء اور صالحین کے ساتھ

ہوں گے۔

۳۵ - اللہ اور رسول کے تابعدار

۳۶ - اللہ اور رسول کے مخالف

۳۷ - اللہ اور رسول کے مخالف

۳۸ - اللہ اور رسول کے مخالف

۳۹ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۰ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۱ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۲ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۳ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۴ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۵ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۶ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۷ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۸ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۹ - اللہ اور رسول کے مخالف

۵۰ - اللہ اور رسول کے مخالف

۳۵ - قیامت کو اللہ اور رسول کے تابعدار

۳۶ - اللہ اور رسول کے مخالف

۳۷ - اللہ اور رسول کے مخالف

۳۸ - اللہ اور رسول کے مخالف

۳۹ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۰ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۱ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۲ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۳ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۴ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۵ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۶ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۷ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۸ - اللہ اور رسول کے مخالف

۴۹ - اللہ اور رسول کے مخالف

۵۰ - اللہ اور رسول کے مخالف

۵۱ - اللہ اور رسول کے مخالف

۵۲ - اللہ اور رسول کے مخالف

۵۳ - اللہ اور رسول کے مخالف

۵۴ - اللہ اور رسول کے مخالف

۵۵ - اللہ اور رسول کے مخالف

۱۰۱/۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ○

مسلمانوں! اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مسلمان ہو کر مر دو

۱۲۲/۳ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ○

ہاں اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو

۱/۳ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا وَبَثَّرَ مِنْهَا

لوگ! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کئی

رجالہ کثیر اور نساء اور اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والأرحام إن اللہ کان علیکم رقیباً

تو اور عورتوں کو پیلا یا اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو اور رشتوں کو جو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

اور ذریعہ وہ لوگ کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑیں تو ان کے بارہ میں انہیں خوف ہو تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں

قَوْلًا سَدِيدًا ○

اور دائی بات کہیں

۱۳۱/۴ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا لِكُتُبٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَلَئِنِ اتَّقُوا اللَّهَ

اور ہم نے ان لوگوں کو جن کو قرآن پہلے کتاب دی تھی اور تم کو تاکید کی کہ تم اللہ سے ڈرو

۲/۵ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے

۳/۵ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْا هُمْ رَاخِشُونَ

آج کافر تمہارے دین کی طرف سے باہوس ہو گئے تو تم ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو

۴/۵ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے

۶/۵ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

اور اللہ سے ڈرو جبکہ اللہ جانتا ہے ہر سینوں میں وہی ہے

۸/۵ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے

۱۱/۵ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

اور اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں

۲۵/۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ

مسلمانوں! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم نفع پاؤ

تَفْلِحُونَ ○

تم نفلح پاؤ۔

۵۴ ○ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَا وَلَا تَشْرَوْا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا ○

تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تنگوری قیمت پر نہ بیجو۔

۵۵ ○ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو

۵۶ ○ ۱۱ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو

۵۷ ○ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحِدًا ○

اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو

۵۸ ○ ۱۱ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کئے جاؤ گے

۵۹ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

سو اپنے عقلمند! اللہ سے ڈرو تاکہ تم نفلح پاؤ

۶۰ ○ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا لِلَّهِ الَّذِينَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

اور اللہ سے ڈرو اور سنو اور اللہ بدکار لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۶۱ ○ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

رعیلی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو

۶۲ ○ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

اور یہ کہ تم نماز کو قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔

۱۵۶ ○ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

اور یہ کتاب ہے اس کو ہم نے اتارا ہے۔ برکت والی ہے تو اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

۶۳ ○ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۱۱۹ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ○

مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو رہو

۶۴ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزَنُوا فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَرَثِيذٌ ○

پس اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے ہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی شائستہ آدمی نہیں ہے

۶۵
۱۵ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُكْفِرُوا بِهِ

اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو

۶۶
۱۶ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو

۵۱
۱۶ فَيَأْتِي فَاذْهَبُونَ

پس غامس نہیں سے ڈرو

۱
۲۲ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو بے شک قیامت کا رعبنا بڑی چیز ہے

۵۲
۲۳ وَأَنَارُكُمْ فَاتَّقُونِ

اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو

۱۳۲
۲۴ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آمَدَكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ

اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اس چیز کے ساتھ مدد دی جو تم جانتے ہو

۱۸۴
۲۴ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ

اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی خلقت کو پیدا کیا

۱۶
۲۹ فَلَا بُرْهَانَ لَكُمْ أَن تَعْلَمُونَ

اور (تمہیں) اور تمہیں کو بیکریب اس نے ہوتی تو تمہیں کما لاسک جہالت کو اور اس سے مدد یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو

۳۱
۳۰ مَنِيبِينَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اس کی طرف جمع ہو کر اور اس سے ڈرو اور نماز پڑھو اور مشرکوں میں نہ ہو

۳۲
۳۱ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمَ مَا لَا يَجْنِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاهِلٌ

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئیگا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام

عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا

آنے والا ہے

۱
۳۳ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

اے نبی! اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مان بے شک اللہ جانتے والا حکمت والا ہے

۵۵
۳۳ وَالتَّقِيْنَ لِلّٰهِ

اور اللہ سے ڈرو

۶۰
۳۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

سامانوں! اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو

۳۹ قُلْ يَعْبَادُ الدِّينِ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ

(اے نبی) میری طرف سے آگے بڑھ کر اے میرے بند: جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو

۴۰ ذٰلِكَ يَخِيفُ اللّٰهَ بِهٖ عِبَادًا وَّيَعْبَادُ فَاَتَقُوْنَ

یہ عذاب اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تو اے میرے بند: مجھ سے ڈرو

۴۱ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

سلمانو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتے والا جاننے والا ہے

۴۲ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

۴۳ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

اللہ سے ڈرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے

۴۴ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفٰلَيْنِ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ

سلمانو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لائے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دہرا حصہ دے اور تمہارے لئے

لُوٰدًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

نور پیدا کرے جس کی روشنی میں تم چلو اور تمہیں بخش دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۴۵ لَّا يٰعْلَمُ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَا يَفْقِدُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاِنَّ الْفَضْلَ لَبِيْدٌ

تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل سے کسی چیز پر تباہ نہیں ہیں اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ

اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنۢ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

میں ہے جسے پاتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

۴۶ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَلَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

سلمانو! اللہ سے ڈرو اور پانچے کہ ہر ایک جان اس شے پر نظر رکھے جو اس نے کل کے لئے آگے بھیجی ہے اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ

سے ڈرو بے شک اللہ ان باتوں سے خبر دے گا جو تم کرتے ہو

۴۷ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوْا وَاَطِيعُوْا

پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو اور حکم سناؤ اور اطاعت کرو

۴۸ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ

اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرو

۴۹ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَاۤ اُولٰٓئِہٖ ۗ اَلْاٰلِہٖٓ سَلٰمٌ ۗ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْبَيِّنٰتِ ذِكْرًا

پس اے عقلمندو! اللہ سے ڈرو وہ عقائد جو ایمان لائے ہیں اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے

۱۲۸ ۱۶	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ	
۱۹ ۲۵	بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکو کامیں وَاللَّهُ وَرَى الْمُتَّقِينَ	۹۔ خدا متقیوں کا دوست ہے
۴۵ ۳	اور اللہ متقیوں کا دوست ہے بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ	۱۰۔ خدا متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔
۶ ۹	بے شک اللہ محبت متقیوں سے رکھتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ	
۵۵ ۱۹	بے شک اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقُلُوبُهُمْ جس دن ہم متقیوں کو رحمن کی طرف بنا کر اکٹھا کریں گے	۱۱۔ قیامت کو متقیوں کے سمان ہوں گے۔
۱۳۳ ۲۹	إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ	۱۲۔ اللہ کے ان سے زیادہ عزت پسند کی جو سب سے زیادہ متقی ہیں
۴۷ ۳	بے شک اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ متقی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى	۱۳۔ خدا سے ڈرنے والوں کا نیک انجام۔
۳۲ ۶	اور آخرت اس کے لئے جو ڈرا بہتر ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ	
۱۲۸ ۷	اور دنیا کی زندگی تو نہ کھیل اور دل بہلاؤ ہے اور بے شک آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے جو ڈرتے ہیں بہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ	
۱۶۹ ۷	اور نیک انجام متقیوں کا ہے وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ	
۲۹ ۱۱	اور آخرت کا گھر ان کے لئے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ	
۱۰۹ ۱۳	بے شک نیک انجام متقیوں کا ہے وَلِذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَتَّقُوا وَمَن اتَّقَىٰ فَقَدْ أَتَىٰ الْبِرَّ وَقَدْ حَقَّقَ الْوَعْدَ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْهُ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ لَا يَمُوتُ	
۱۳۲ ۳۰	اور بے شک آخرت کا گھر ان کے لئے جو ڈرتے ہیں بہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ	
۵۳ ۲۸	اور نیک انجام تقویٰ کا ہے ثَلَاثُ الدَّارِ الْآخِرَةِ يُجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ وہ آخرت کا گھر ہے ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد	

لِلْمُتَّقِينَ ۝

متقیوں کا ہے

۳۵ ۝ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

اور آخرت تیرے پروردگار کے ان متقیوں کے لئے ہے

۳۶ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَثَقُّوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

سلمان! اگر تم اللہ سے ڈرو گے

تو وہ تمہارے لئے نفع کے ذریعے حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے

۳۷ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

سلمان! اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو

۳۸ ۝ يُصَلِّمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو بڑی بڑی شہادتوں سے نوازے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے

۳۹ ۝ إِنَّمَا تُذْرَمِينَ مِمَّنْ آتَمَّ الَّذِينَ كَرُّ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝

بلکہ نبی (تو تمہیں اس کو ڈرا سکتا ہے جو نسبت کے پیچھے لگا اور بغیر دیکھے جہنم سے ڈرا تو اسے مغفرت اور عزت کے اجر کی بشارت دے

۴۰ ۝ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

اور جو کسی بات لایا اور پس نے اس کو سچ بانا تو وہی لوگ متقی ہیں

۴۱ ۝ لَهُمْ تَأْيِيدٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

ان کے لئے جو وہ ہاں ان کے پروردگار کے ان سے موجود ہے یہی نیکو کاروں کی جزا ہے

۴۲ ۝ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

تاکہ اللہ ان سے وہ بُرے کام جو انہوں نے کئے ہیں دور کر دے اور ان کو ان کے اچھے کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں اجر دے

۴۳ ۝ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا

۴۴ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا اجر ہے

۴۵ ۝ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

خدا ان سے خوش ہوا اور وہ خدا سے خوش ہوئے یہ لاجرا اس کے لئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرا

۴۶ ۝ أَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لِرَبِّكَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۝ ۴۷ ۝ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ وَ

اس کتاب میں کہہ شک نہیں ہدایت ہے متقیوں کے لئے جہنم دیکھے ایمان لاتے ہیں اور

۱۴۔ متقیوں کیلئے گناہوں

کا کفار اور مغفرت اور بڑا

بخاری اجر ہے۔

۱۵۔ ڈرنے والوں کے

خدا تعالیٰ رضامند ہے

۱۶۔ متقیوں کے صفات

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمَارِسُ قَوْمٌ يَنْفَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ بُوؤُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ

نماز کو تادم رکھتے ہیں اور تمہارے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تیری طرف
وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَا آخِرَهُ هُمْ بِمُؤْتِنُونَ ۝

تماری گئی اور اس پر جو تمہارے سے پہلے تماری گئی اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں
۲۴۹ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقَاتِ وَصَدَقَ بِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کو سچ بنا کر ایسے ہی لوگ سچی ہیں
۲۵۰ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝

اور جو اللہ سے ڈریگا اللہ اس کے لئے راہ نکال دیگا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیگا جہاں سے اُس کو گمان بھی نہ ہوگا
۲۵۱ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

اور جو اللہ سے ڈریگا اور اللہ اُس کے کام میں آسانی پیدا کر دیگا
۲۵۲ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

اور جو ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن اُن (کافروں) کے اوپر ہونگے
۲۵۳ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ مِنْ ذَلِكَ ۝ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ بَشِيرٌ مِمَّنْ تَحْتَهَا الْوُجُوهُ

(اسے نبی) کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں؟ اُن لوگوں کے لئے جو ڈرے اُن کے پُروردگار کے اُن ایسے باغ ہیں جن کے
خَلْدَانٍ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ يُصِيرُ الْعِبَادَ ۝

درختوں کے نیچے نہیں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کی طرف سے رضامندی ہے اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے
۲۵۴ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

وہ (ڈرے والے) جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لئے ہیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا
۲۵۵ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

وہ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبردار اور خرچ کرنے والے اور صبح کے وقتوں میں سمان مانگنے والے
۲۵۶ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمْ جَنَّاتٌ جَزَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَلَ مِنْ

لیکن جو اپنے پُروردگار سے ڈرے اُن کے لئے باغ ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہیں جاری ہیں وہ ہمیشہ نہیں میں رہنے والے ہیں۔ یہ
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۝

اسکے پاس سے ہماری ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لئے بہتر ہے
۲۵۷ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ ادْخُلُوا فِيهَا بِسَلَامٍ آمِينَ ۝

بے شک سچی باغوں اور چشموں میں ہیں رکھا جائیگا اُن میں ان سے سلامتی کے ساتھ داخل ہو
۲۵۸ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۝ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

اور اُن لوگوں کو جو ڈرے اور سچ بولے انہوں نے کہا خیر جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی اُن کے لئے کیا ہے

۱۷- اللہ سے ڈرنے والوں کو بے گمان روزی
۱۸- سونے والوں کے کام میں خدا آسانی کریگا
۱۹- سچاقت کو سچی کفار پر غالب ہونگے
۲۰- سونے والوں کیلئے نہروں والی جنتیں اور طرح طرح کے آرام و آسائش۔

حَسَنَةٌ وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور بے شک متقیوں کا گھر اچھا ہے

۳۱ جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا الْجَحِيمُ مِنَ النَّارِ لَا تَصْرِفُ فِيهَا مَا بَيْنَ أُيُونٍ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ

ہمیشہ بشت کے باغ جن میں وہ داخل ہوتے ان کے درختوں کے نیچے نہیں جاری ہیں ان کے نئے ان باغوں میں وہ ہر گز اور وہاں کے۔ اور متقیوں
اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَاَدْخُلُوا

گواہی ہی ہزار بتا ہے جن کو زنتے ایسی حالت میں مارتے ہیں کہ وہ پاک ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو منت میں داخل
لِجَنَّةٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ہو بدل اس کا جو تم کرتے تھے

۱۵ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۝

رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (مذاب) بہتر ہے یا ہمیشہ کا بشت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے

۹ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

اور بشت متقیوں کے قریب کر دیا جانے کا

۴۹ هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنَ عَائِدٍ ۝ جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا الْجَحِيمُ مِنَ النَّارِ لَا تَصْرِفُ فِيهَا مَا بَيْنَ أُيُونٍ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ

یہ زینت ہے اس بے شک متقیوں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ان میں وہ
فِيهَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بِغَاكُهُ كَثِيرٌ وَشَرَابٌ ۝ وَعِنْدَهُمْ قُصُورٌ الْظَّرْفِ أَوْرَابٌ ۝

خیر لگانے بیٹھے ہوتے ان میں وہ بہت سے برے اور پینے کی چیزیں ملتی ہوتے اور ان کے پاس ہی نیچی آنکھیں رکھنے والی بہرہ ور ہیں
۵۳ هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنَ نِقَادٍ ۝

یہ ہے جس کا تم سے قیامت کے دن کے لئے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک یہ ہمارا رزق ہے جس کے لئے سنتم ہونا نہیں ہے

۳۹ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَوْ هُمْ غُرْفًا مِّنْ قَوْمٍ مَا غُرِفَتْ مَبْنِيَّةٌ تُجْعَلُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ان کے بالا فلانے میں ان بالا فلانوں کے اوپر اور بالا فلانے بنائے ہوئے ہیں ان کو نیچے نہیں جاری کیا
وَعَدَا اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۝

اور وعدہ کیا ہوا ہے اور وعدہ خالی نہیں کرتا

۳۶ وَسَيُقْبِلُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُرَّادًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَهَبُوا نَسُوا حَتَّىٰ هُمْ فِيهَا وَهَبُوا ۝ قَالَ لَهُمْ

اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے گردہ گردہ بشت کی طرف ان کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اُس میں آئیں گے اور اُن کے دروازے
خَرَّتْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا

تم پر سلام ہو تم خوش حال ہوئے ہیں اس میں داخل ہو ہمیشہ کے لئے اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لئے جو ہمیں ہم

وَعَدَا وَأَوْزِنْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۝ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝
اپنا وعدہ سہا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث کیا کہ ہم بشت میں سے جہاں چاہتے ہیں جگہ لیتے ہیں اس میں ہل کر نیا لوگ کا اجر اچھا ہے

۳۴ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

۳۵ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

۳۶ وَيَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بیشک اس کا جنت ہی

۳۷ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَأَهُمْ رَبُّهُم بِمَا فَعَلَ آلَهُمْ ۖ فَوَعَدَ رَبُّهُم أَن يُنزلُوا عَلَيْنَا سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۖ فَاتَّخَذُوا أَهْلَ آبَادٍ مُّبِينًا ۖ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِئْتًا ۖ فَتَلَاوَمَتِ آلُ ثَمُودَ عَلَىٰ عُرُوقِهِمْ حَتَّىٰ نَسُوا آلَهمُ الْآبَاءَ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْحُلُمَةَ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ ۝

۳۸ وَوَقَّعْنَا لَهُمُ الْكُفْرَ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۝

۳۹ وَوَقَّعْنَا لَهُمُ الْكُفْرَ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۝

اور انہوں کو کفر سے بچانے کا

۴۰ فَالْمُؤْمِنُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَقْبَلُوا الْإِسْلَامَ ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ ۝

۴۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِينَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَّقِينَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِينَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَّقِينَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِينَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَّقِينَ ۖ

۴۲ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِينَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَّقِينَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِينَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَّقِينَ ۖ

۴۳ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِينَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَّقِينَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِينَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَّقِينَ ۖ

دین کو جھٹلانا

۴۴ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

۴۵ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝

میں نہیں ہے؟

۴۶ فَسَنُ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ أَوْ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى

۴۷ لِّلْكَافِرِينَ ۝

میں نہیں ہے؟

۲۱۔ ڈرنے والوں کے
بے درختیوں۔

۲۲۔ متقیوں کو دوزخ
سے نجات۔

۲۳۔ قیامت کو متقی
بے خوف و غم ہوں گے

۱۔ سچی بات کو جھٹلانیوں
سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔

۲۱	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ	۲۵۔ خدا کی آیتوں کو جھٹلانا سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں
۲۲	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ	
۹۵	وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ	۲۶۔ خدا کی آیتوں کو جھٹلانے کی مانند
۳۹	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَبُكْرُوا فِي الظُّلُمَاتِ	۲۷۔ خدا کی آیتیں جھٹلانے پرے اور گونگے ہیں
۲۹	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَتَّعْنَاهُمُ الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ	۲۸۔ خدا کی آیتیں جھٹلانے والوں کو عذاب
۵۷	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ	
۱۶	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفَارَّوْا بِالْآخِرَةِ فَاُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْتَصِرُونَ	
۳۹	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ	۲۹۔ خدا کی آیتیں جھٹلانے والوں کو آگ
۲۶	وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لَئِنَّا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ	
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گے کہیں گے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹائے جائیں اور اپنے پروردگار	
۳۶	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ	
۱۰۳	تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ	
بِهَاتِكِ بُرُونٌ	ان کے چہروں کو آگ جھلس رہی اور اس میں تیوری جڑھانے ہوئے کیا بیزی آتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھیں	
۱۲	فَأَنْذَرْنَاكُمْ نَارًا تَلْقَوْنَ ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۚ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ	
پس تم ان کو جھٹلاتے تھے پس میں نے تم کو آگ سے ڈرا دیا جو تمہیں مارتی ہے۔ اس میں وہی بد نصیب داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موٹا		

۳۰۔ خدا کی آیتیں جھٹلانے والے دوزخی ہیں۔

۱۰ ۱۰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں

۲۰ ۲۰ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ

جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ماننے سے غرور کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے

الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ بُجِّرُوا فِي الْبَحْرِ مِثْلَ طَرَفِ الْمِثْقَالِ ۚ لَهُمْ فِيهَا مِنْ جَحِيمِ

اور وہ بہشت میں داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ اونٹ سرنی کے نلکے میں سے نکل جائے اور ہم گنہگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے

مِهَادٍ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عُورَاتٌ ۚ وَكَذَٰلِكَ بُجِّرُوا فِي الظُّلُمِ ۚ

ہیں۔ ان کے لئے دوزخ سے عیورنات ہے اور ان کے اوپر آسمان کے اگاف ہیں اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں

۸۳ ۸۳ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جہات ان لوگوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں پھر انہیں کچھ بولنے

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَقَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِصُوا بِهَا عِلْمًا ۚ أَمَّا ذَٰلِكُمْ فَتَعْمَلُونَ

یہاں تک کہ یہاں حاضر ہو جائیں گے اور انہیں پتہ نہ چلے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور علم سے تم نے ان پر غلطی نہیں کیا یا تم کیا کرتے تھے

۸۵ ۸۵ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَعَاظَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يُنْطِقُونَ

اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات پوری ہو جائے گی سو وہ بول نہ سکیں گے

۲۵ ۲۵ هَٰذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۚ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ مذکر کریں

۱۸۲ ۱۸۲ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو درجہ بدرجہ گراہی میں گھسیں گے اس راہ سے کہ انہیں معلوم نہیں

۱۸۳ ۱۸۳ وَأَقْبَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتَّيْنٌ

اور میں ان کو مہارت دوں گا بے شک میرا دُور مضبوط ہے

۶۴ ۶۴ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ هَٰذَا الشَّكِيهَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

پس مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے ہم ان کو درجہ بدرجہ گراہی میں گھسیں گے اس راہ سے کہ انہیں معلوم نہیں

۱۷۵ ۱۷۵ وَأَنْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ

اور تو ان پر اس شخص کی خبر پڑے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے باہر ہو گیا پس شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گراہوں میں

الْغَوِينَ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان ہی سے اس کا درجہ بلند کرتے لیکن وہ زمین کی طرف جمکا اور اپنی خواہش پر چلا

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ

تو اس کی مثال کے جیسی ہے اگر تو اس پر بوجھ رکھے تو زبان باہر نکال دے اور اگر اس کو چھوڑ دے تو بس ہان پھال دے مثال ہے

۳۱۔ خدا کی آیتیں جھٹلانے والے نہ قیامت کو کچھ بول سکیں گے اور نہ انہیں غدار کرنے کی اجازت ملے گی

۳۲۔ خدا کی آیتیں جھٹلانے والوں کو خدا ڈھیل دیتا ہے

۳۳۔ خدا کی آیتیں جھٹلانے والوں کی بڑی مثال جیسے ہانپتا کتا۔

الذین کذبوا بآياتنا فأقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴿۵۷﴾ ساء مثلاً القوم

ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو تو قصہ پڑھے جاتا کہ وہ سوچیں

الذین کذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ﴿۵۸﴾

لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔

يَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾

بڑی بے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

الَّذِينَ كَذَبُوا آيَاتِ اللَّهِ وَأَنفُسَهُمْ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ ﴿۶۰﴾

کیا تو نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کیا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں سے لٹا دے جاتے ہیں۔ جنہوں نے کتاب

بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾ إِذْ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ

اور ان احکام کو جھٹلایا جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا سو وہ عنقریب معلوم کریں گے۔ جب طوق ان کی گردنوں میں ہو گئے اور

يُسْعَبُونَ ﴿۶۲﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿۶۳﴾

زنجیریں بھی گرم پانی میں گھیسے جائیں گے۔ پھر آگ میں جھونک دئے جائیں گے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ﴿۶۴﴾ لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿۶۵﴾ فَمَا تَلَوْتُمْ

پھر اے جھٹلانے والے گمراہو تم ضرور سینہ شدہ کے درخت سے (خوراک) کھانے والے ہو سو اسی

مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۶۶﴾ فَتَنَارُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿۶۷﴾ فَتَنَارُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ ﴿۶۸﴾

سے بیٹ بھرنے والے ہو پھر اس پر گرم پانی پینے والے ہو سوتوں سے اونٹوں کی طرح پینے والے ہو

﴿۶۹﴾ هَذَا نَزَلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۷۰﴾

یہ انصاف کے دن ان کی ہوتی ہے

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْفِرِينَ الضَّالِّينَ ﴿۷۱﴾ فَذُلٌّ مِنَ هَيْمٍ ﴿۷۲﴾ وَتَصْلِيَةٌ يَجْمَعُونَ ﴿۷۳﴾

اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی (گرم پانی سے ہوائی ہے اور دوزخ میں اُلٹ پڑ

﴿۷۴﴾ إِنَّ هَذَا لَوَاقِعٌ لِّالْبَاقِينَ ﴿۷۵﴾

بے شک یہی یقینی حق ہے۔

قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿۷۶﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿۷۷﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ إِلَى

سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو اپنی جگہ اس میں کھیلتے ہیں جس دن وہ دوزخ کی

نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴿۷۸﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْفِرُونَ ﴿۷۹﴾ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا

آگ کی طرف دھکے دینے جا چکے ہو وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کیا یہ جادو ہے یا تم

تُبْصِرُونَ ﴿۸۰﴾ وَأَصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَاءَ عَلَيْكُمْ أَمَّا جَزْوَانٌ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾

دیکھتے نہیں اس میں داخل ہو پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو تمہارے لئے برابر ہے تم کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۳۴- قرآن اور رسولوں کی
مکذیب کرنیوالوں کیلئے آگ
گرم پانی۔ طوق۔ زنجیر اور
سینہ کھانا

۳۵- احکام قرآن کے جھٹلانے
والوں کیلئے دہل، نار، جہنم
لگے میں اگلا کھانا، عذاب الیم
تین شاخوں والا تکلیف دہ تاج

۱۱ وَذُرِّيَّةٍ وَمُكَدِّبِينَ أُولَى النِّعْمَةِ وَمَقْتُلِهِمْ قَلِيلًا ۝۱۱۱ إِنَّ لَدَيْنَا لَكُلَّ شَيْءٍ حِجَابًا

اور بچے اور جھٹلانے والوں اہل نیت کو چھوڑ۔ اور ان کو تنویری سی صلت دے بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ہر رنگ

۱۲ وَكُلَّ مَا ذَاغُصَّةٍ وَعَدَا أَبَا الْيَمَاءِ ۝

اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور درز ناک مذاب

۱۵ ۱۹ ۲۲ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی اس رنگ ایک طرف چلو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے

۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

تین شاخوں والے سایہ کی طرف چلو نہ ٹھنڈا سایہ ہی ہے اور نہ گرمی ہی سے نفع دیتا ہے۔ بیک

۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

وہ آگ مملوں کی مانند چنگاریاں جھینکتی ہے گریاؤ چنگاریاں زرد اونٹ میں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی

۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

یہ دن بے نیصیے کا ہے جس میں تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے اگر تمہارے پاس کوئی داؤبے ترجمہ پر جلاؤ

۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کھاؤ اور تمہارا سا فائدہ اٹھاؤ بے شک تم گنہگار ہو خرابی ہے

۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اس دن جھٹلانے والوں کی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے خرابی ہے اس دن

لِلْمُكَدِّبِينَ ۝۵۱ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

جھٹلانے والوں کی سو وہ اس نصیحت کے بعد اور کونسی بات پر ایمان لائیں گے

۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں

۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور قیامت کی طاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت گئے ان کو کسی کا بدلہ دیا جائیگا جو وہ کیا کرتے تھے

۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

بے شک وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب اپنا تک ان پر قیامت آگئی تو کہنے لگے ہائے ہائے

فَأَفْرَطْنَا فِيهَا وَهْمًا يُخْلَعُونَ أَوْ زَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءَهُ مَا يُزْمَرُونَ ۝

سرت اس نہ جو ہم نے قیامت کے بائیں میں کوتاہی کی اور وہ اپنی پیٹوں پہاڑے رگنا ہوں کہ اوجہ اٹھائے ہوتے ہوئے سن لو ہر ایسی خودہ اٹھائے

۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

بے شک وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے لئے کو جھٹلایا اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں

۱۰۰۔ خدا کی آیتوں اور قیامت

کے منکرین کے اعمال باطل ہیں

۱۰۱۔ قیامت کو جھٹلانیوں کے

گھاٹے میں ہیں۔

۳۸۔ منکرین قیامت کے

۱۱

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا مِنْ كَذِبِ السَّاعَةِ سَعِيرًا ۝

بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے اُس کے لئے جس نے قیامت کو جھٹلایا دوزخ تیار کیا ہے

لئے دوزخ۔

۳۹۔ منکرین قیامت کے

۱۱

وَيَلُؤْ يَوْمَئِذٍ الْبِغْضَاءُ لِلْمُنْكَرِ بَيْنَهُمْ ۝ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِوَعْدِ اللَّهِ ۝

نہراں ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جوار نفاق کے دن کو جھٹلانے میں

لئے دہل۔

۴۰۔ منکرین دوزخ کے لئے

۱۱

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَارُ كِلِيمًا آتَادًا وَأَنْ يُخْرَجُوا مِنْهَا الْعِيدُ وَأَقِيمُوا قِيلَ

لیکن جنہوں نے نافرمانی کی اُن کا ٹھکانا آگ ہے جب کہیں بھی وہ یہ جاہیں گے کہ اس سے نکلیں اسی میں پھر لوٹا دیئے جائیں گے

وہی دوزخ۔

لَهُمْ ذُرُوعًا وَنَارُ كِلِيمًا آتَادًا وَأَنْ يُخْرَجُوا مِنْهَا الْعِيدُ وَأَقِيمُوا قِيلَ

اور اُن سے کہا جائیگا کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝

اور ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝

یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے

شُرک

۱۔ شرک کی ممانعت

۲۲

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

سو تم اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ حال آنکہ تم جانتے ہو

۲۲

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

اور اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو

۲۲

قُلْ إِنَّمَا أُفْرِتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ إِلَهًا أَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّهِ عَابِدِينَ

کہہ دے کہ مجھے ملکہ دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں میں اسی کی طرف بلا تا ہوں اور اسی کی طرف نہ لوٹتا ہوں

۱۱

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

سو جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے

۲۲

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا

اور وہ وقت یاد کر جب ہم نے ابراہیم کے لئے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا

۲۲

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حُنْفُلَاءٌ لِلَّهِ عَمِيرَةٌ مُشْرِكِينَ ۝

سو تم بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچو اللہ کی طرف جھکتے ہوئے اس کے ساتھ شریک تیار کرنے والے

۱۰

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اور تم مشرکوں میں ہرگز نہ ہو

۲۸ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مَا لَا هُوَ تَدْعُ

اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

۲۹ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ

اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع پہنچائے اور نہ تجھے کد نقصان پہنچائے اگر تو نے یہ کیا تو اس وقت بیشک تو ظالموں میں سے ہوگا۔

۳۰ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مِنْ مَوْمَاتٍ مَحْدُودَةٍ

اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکار کر تو طاقت کیا ہو ہے مددگار بیشمار ہو جائے

۳۱ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا

اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ لگا کر تو طاقت کیا ہو اور اندھ ہو کر دوزخ میں ڈالا جائے

۳۲ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں نہ ہو

۳۳ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَشْرِكُوْا بِاللّٰهِ

یہاں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا

۳۴ وَالرَّجْزَ فَاجِحًا

اور شرک کی انجامت سے اکابر

۳۵ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِشُرْكَائِكَ بِنِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلٰىٰى مَّرْجِعِكُمْ فَاَنْبِئْتُمْ بِمَا

اور اگر ماں باپ تجھ سے یہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کا کہنا ان میری ہی

کنتم تعملون

مرفق تھا مار جوع ہے۔ پھر اس کی تمہیں خبر دو گا۔ جو تم کیا کرتے تھے

۳۶ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِنِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِمْ مَا فِي الدُّنْيَا

اور اگر ماں باپ تجھ سے یہ کوشش کریں تو اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو تو ان کا کہنا ان اور دنیا میں ان کے

مَعْرُوفًا

ساتھ پندیدہ طور پر

دیکھو کتاب التمثیلات

۳۳۔ قباحت شرک کی ایک

تمثیل۔

۳۷ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے

۳۸ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

بے شک یہ نہیں بخشتیگا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دینگا

۳۵۔ شرک کی بخشش نہیں

۱۱۱ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝**

پہلے اللہ نہیں بخشنے گا۔ کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا اور جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرانے وہ بے شک بڑے دور سے کی گمراہی میں جا پڑا۔

۶۔ شریک کی سمیت پر کوئی دلیل نہیں ہے

۱۱۲ **سَمِعُوا قَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْوَسْوَءِ الْوَسْوَءِ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَتَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا آبَاءَ سِنَادٍ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَخْتَرْتُمْ جَوْهَرًا**

ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا غائب چکھا (یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھا تھا کہ وہ کیا تھا اسے پہنا

۱۱۳ **لِنَادُوا أَنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَلَنْ أَنْتُمْ إِلَّا خَيْرُ صَوْنٍ ۝ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ كُنْتُمْ مِمَّنْ جَعَلْتُمْ مَلَائِكَةً كَالْوُجُوهِ تَمُرُّنَ كَمَا نَظَرْتُمْ مَرْتَمِلِينَ ۚ وَتَلْتَمِسُونَ**

کہاں ہے جسے تم ہلکے نے کھا لو تم تو مرنے لگان پر چلتے ہو اور تم مرنے مقلید ہو۔ دو تلتے ہو۔ (یعنی) کہہ دے کہ کمال محبت اللہ ہی کی ہے اور اگر وہ جانتا تو تم سب کو بدایت پر کر دیتا کہہ دے کہ اپنے گمراہوں کو لادو جو یہ گمراہی دیں کہ اس نے یہ حرام کیا پھر اگر وہ

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴ **حَرَمَ هَذَا ۚ فَإِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا**

گمراہی بھی دیں تو تو ان کے ساتھ گمراہی نہ دے اور ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چل جنہوں نے ہماری آیتیں

۱۱۵ **وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرَوْنَهَا كَلُوفٍ مُبْدُوعَةٍ ۚ وَهُمْ لَا يُعَدُّونَ**

کو جھٹلایا اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ (دوسروں کو) اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں

۱۱۶ **مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنزِلَ اللَّهُ بِهَا**

اور تم اس کے سوا صرف ناموں کو پوجتے ہو۔ جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند

۱۱۷ **مِنْ سُلْطَانٍ ۚ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِمْ أَنْبَاءُ رُسُلِهِمْ لِيُحْذِرُوا إِلَى اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِم مَّكْرُومٌ ۚ وَإِلَّا فَذُكَّرُوا فَكُنْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ وَإِلَّا فَذُكَّرُوا فَكُنْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ**

تو آدھی نہیں

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

مشرکوں نے خدا کی تدبیر کی

۳۳

و شرک سہیں با دینیں کر کے

۳۴

۱۰۰ شرک جن کی عبارت سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں

۳۹

۱۰۰۰ شرک ہزار برس کی زندگی چاہتے ہیں

۹۶

۱۲ شرک تا پاک ہیں

۲۸

۱۳ شرکوں کے لیے ہتھیار کی مانند
۱۴ شرک پر ہوس کی تشیل جیسے
۱۵ شرک اپنی کہتی اور موشیوں
میں سے ایک حصہ اللہ کیلئے
متروک کرتے اور ایک حصہ جنوں
کے لیے۔

۱۱۳

۱۳۷

۳۳ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاكُمْ مَالَهُمْ يَذُكُ مِنْ عِلْمِ قِرَانِ هُمْ لَا يَخْرُصُونَ

اللہ انہوں نے کہا کہ اگر رحمن چاہتا تو ہم انہیں نہ پوجتے انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ وہ نری انگلیں دوڑاتے ہیں انہوں نے اسکی ویسی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ زبردست غالب ہے۔

۳۴ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ

اور انہوں نے اسکی ویسی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے حالانکہ تمام زمین اس کی سٹی میں ہے اور آسمان اس کے پیچھے ہے۔

۳۵ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ

شُرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی شہادت دیتے ہوئے اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں

۳۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ كَلِمَاتٍ

اور جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سجدہ پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں محض اس لئے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہیں قریب اللہ یخاکم بینہم عرفی ماہم فیہ یختلفون

کریں بے شک اللہ ان کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرے گا

۹۶ وَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَئِذٍ يَسْتَفْهِمُونَ وَأَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْعَذَابِ

اور جنہوں نے شرک کیا ان میں ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس کی عمر دیا جائے اور یہ بات کو اس کو راستی (ان) نے

۲۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْمُحَرَّمِ وَعْدَ غَيْرِهِمْ هَذَا

مسلمانو! شرک تو ناپاک ہیں تو وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب نہ جانے پائیں

۱۱۳ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِكُمْ

اور اگر تم محتاجی سے ڈرتے ہو۔ تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا غنی کر دے گا

۱۳۷ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِثْلَ دِينِ الْحَرِيِّ وَالْآلِ الْغَالِمِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَحْمَتِهِ هَذَا لِلشُّرَكَائِنَا

اور انہوں نے اللہ کے لئے اس کی پیدا کی ہوئی کیفیت اور موشیوں میں سے ایک حصہ متروک کیا اور اپنے خیال میں کہا کہ یہ اللہ کے لئے ہے

۱۱۳ فَمَا كَانَ لِلشُّرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ فَمَا كَانَ لِلشُّرَكَائِهِمْ فَسَاءَ

اور یہ ہمارے لئے ہے شرکوں کے لئے جو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اور جو اللہ کے لئے ہے وہ ان کے شرکوں کو پہنچاتا ہے۔

مَا يَحْكُمُونَ ۝ ۱۳۸ وَكَذَلِكَ ذُنُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الشِّرْكِ كَانَتْ قَتْلَ الْوَالِدِ فِيهِمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ

بت بڑے پونپیلو کہتے ہیں اور اسی طرح بہت سے شرکوں کی تلوں میں ان کے ٹھہرنے ہونے شرکوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا جہاں کہ

لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ ۱۳۹

وہاں یا تاکہ وہ ان کو پال کر میں اسان پر ان کا وہی مشتبہ کریں اور اگر اسے ہا بتا تو وہ کام نہ کرتے تو بے نی انان کا ان کے انزیر میں

ظہور ہا وانعام لا یدکر و ان اسواللہ علیہا الفراء علیہ سببہم عاکا نوا یفترون ۝ ۱۴۰

پا پانے میں کن کی پیرا پر ساری اسلانا اسلہ ہے اور کہہ چاہے میں جن پر نفع کدنت اسلہ ہم نہیں پیرا پر نفع کدنت میں اسلہ میں انرا کی

ان یکن میتة فہم فیہ شرکا ۝ ۱۴۱ وَصِفْتُمْ وَاِنَّہٗ حَکِیْمٌ عَلِیْمٌ ۝ ۱۴۲

اگر وہ جب مردہ ہو کہ وہ سب اس میں شریک ہیں اسلہ انہیں ان کی بن باتوں کی سزا دیگا بے شک وہ حکمت والا جانتے رہے بے شک

خَیْرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا اَوْ اَوْلَادِہُمْ سَفْہًا یَغْیْرِ عَلِیْمٌ وَحَرَمُوْا مَا دَنَرَ قَہْرُ اللّٰہِ اَفْرِءَا ۝ ۱۴۳

وہ لوگ گمانے میں ہے جنہوں نے نمانا سے بغیر علم اپنے اولاد کو قتل کیا اور اسلہ پر بتان بائہ کر اس روزی کو حرام کیا جو اسلہ نہیں

عَلِی اللّٰہِ قَدْ ضَلُّوا وَاَمَّا کَا لَوْ مُہْتَدِیْنَ ۝ ۱۴۴

وہی بنے شک وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے مانے نہیں ہیں

وَجَعَلُوْنَ لِمَا کَا یَعْلَمُوْنَ نَصِیْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰہُمْ قَالِی اللّٰہُ لَتَشْلُنَّ عَمَّا کَانَتْ تَفْتَرُوْنَ ۝ ۱۴۵

اور ان (بتوں) کے لئے نہیں وہ جانتے تک نہیں رکھوں میں اسلہ انہیں میں ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم انہیں ہی غنایم تم کو اسلہ انرا کی بات چاہا

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۶- شرکوں کے اعمال کا ارتکاب

۱۷- شرکوں پر اللہ کا غضب

اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کے وہ عمل اکارت جانتے جو وہ کیا کرتے تھے

اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کے وہ عمل اکارت جانتے جو وہ کیا کرتے تھے

۱۸۱ الذین لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم كفرون

جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے ہی منکر ہیں

۱۸۲ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افترى إثماً عظيماً

اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے اس نے بے شک بڑا بھتان بانٹا

۱۸۳ وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْإِلَهِ إِنَّا لَأَنَّا لَا وَنَ لَا يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝ لَعَنَهُ اللَّهُ

اور وہ اس کے سوا جنس عورتوں ہی کو پکارتے ہیں اور وہ معنی شیطان سرکش ہی کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی

۱۸۴ أَيْشُرُّكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا

کیا وہ ان (بتوں) کو شریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کئے جاتے ہیں اور نہ ان کی ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود

۱۸۵ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يُتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارا کمانہ مانیں تمہارے لئے برابر ہے کہ تم ان کو

۱۸۶ ادعوا لهم أم أنتم صامتون ۝ إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ

بلاؤ یا تم خاموش رہو بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا بلاتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے

۱۸۷ أمثالكم فادعواهم فليستجيبوا لكم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَمْ نَجْعَلِ

ہیں تو تم انہیں بلاؤ اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے

۱۸۸ بَهَاءَ أَمْ لَهُمْ آيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ

وہ پلٹے ہیں۔ یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ

۱۸۹ بَهَاءَ قُلْ ادْعُوا الشُّرَكَاءَ كَمَا كُنْتُمْ كِيدُونَ فَلَا تُنظَرُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

سنتے ہیں۔ یا بنی اکہ دے کہ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ پھر مجھ پر اپنا ہر ایک داؤ پٹاؤ اور مجھے مہلت دو واد جنہیں تم اس کے

۱۹۰ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ

سوا پکارتے ہو۔ وہ نہ تمہاری ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی جانوں ہی کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو

۱۹۱ لَا يَسْمَعُونَ دُونَ اللَّهِ وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

نہیں نہیں اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ دیکھتے نہیں

۱۹۲ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ رَبُّنَا وَإِنَّا بِعَدْوِئِهِ

اور وہ اللہ کے سوا اس کو پوجتے ہیں۔ جو نہ انہیں نقصان ہی پہنچا سکے اور نہ انہیں نفع ہی پہنچا سکے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں

عِنْدَ اللَّهِ قُلْ اتَّبِعُونِ اللَّهَ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى

ہمارے سفارشی ہیں (اے بنی اکہ دے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا ہے اور نہ زمین میں وہ

۱۹۳ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

تو پاک ہے اور ان کے شریک سے بالاتر ہے

۱۸۱۔ اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع

۱۸۲

۱۸۳۔ اللہ کے شریک ٹھہرانے سے منع

۱۸۴

۱۸۴۔ اللہ کے شریک ٹھہرانے سے منع

۱۳ ۱۳ لَه دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ

اسی کو پکارا حق ہے اور جو لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتے (ان کی مثال) اس شخص کی طرح ہے)

كَفْتَبِهِ إِلَى الْمَاءِ لِمَبْلُغَةِ فَأَا وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِمْ

یسے کہ شخص اپنے دونوں ہاتھ اپنی کی طرف پھیلائے ہوتے ہر تار کو لے کر منہ میں بیچ جانے والا کہہ کر کہی اس تک پہنچے والا نہیں ہے

۱۴ ۱۳ قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ مَنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ نَنْفَعَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْعَى

(رسول نبی) کہہ دے کیا تم نے اس کے سوا اسکا رستہ نہیں ہے۔ جو نہ اپنی جانوں کے نفع ہی پر قادر ہیں اور نہ نقصان ہی پر لگے ہیں)

الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَةَ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي لظلمت و النور أم جعلوا لله شركاء خلقوا

کہہ دے کیا اندھا اور بینا برابر ہے یا اندھیریاں اور نور برابر ہے یا انہوں نے اس کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جن

كَلْفِهِمْ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

نے اس کی پیدائش بیسی پیدائش کی ہے پھر پیدائش ان پر شبہ ہو گئی ہے کہہ دے کہ اس ہی پر شبہ کا پیدا کرنے والا اور وہ ہی پکارا حق ہے

۱۶ ۱۶ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

اور نہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کئے جاتے ہیں

۱۷ ۱۶ أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

مردہ ہیں بے جان اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے

۱۸ ۱۶ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رُفْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا

اور وہ اللہ کے سوا اس کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین سے کسی چیز کے روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتا اور اس کی طاقت

يَسْتَطِيعُونَ ۱۷ ۱۶ فَلَا تَضُرُّوهُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

نہیں جانتے تو اللہ کے لئے کہاوتیں بیان نہ کرو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

۱۹ ۱۶ قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمُوا مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۱۷ ۱۶ أُولَئِكَ

(رسول نبی) کہہ دے کہ ان کو بلاؤ جن کے تم اللہ کے سوا مدعی ہو رہے تو تم سے تکلیف ہٹا سکتے ہیں اور نہ ڈال سکتے ہیں وہ تو اپنے

الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ

ہر دور و گار کی طرف خود اپنا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اُس سے زیادہ قریب ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں

عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَدِّثًا

اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بیشک تیرے ہر دور و گار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے

۲۰ ۱۶ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ ضَرًّا

اور انہوں نے اس کے سوا دوسرے سبوتا پکارتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے اور آپ پیدا کئے جاتے ہیں اور وہ اپنی جانوں کے نہ نفع پر

وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْرِكُونَ

تو وہ نہیں اللہ سے نقصان پر اور نہ موت پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی پر اور کھرا کرنے پر

۴۳
۲۲ یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا

کوئی ایک مثال بیان کی گئی ہے اُسے سونچو شک نہیں کہ وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک کبھی تک بھی پیدا نہیں کر سکتے
ذُبَابًا وَلَا جُمُعَةً وَاللَّهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ وَكَذَلِكَ مِنْهُ ضَعْفُ الطَّالِبِ
اگر وہ سب اس کے لئے جمع ہو جائیں اور اگر کسی کوئی چیز ان سے چین لے جائے تو اس چیز کو اس جیڑا نہیں سکتے۔ عابدوں کو جو

وَالْمَطْلُوبِ

(اور ان کو جو وہ ہیں)

۵۵
۲۵ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَاهِرًا

اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نفع ہی پہنچائے اور نہ انہیں نقصان ہی پہنچائے اور کافر اپنے اپنے پروردگار کی مخالفت پر باوجود

۲۲
۲۳ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ

دے نبی اکہ دے کہ تم انہیں پکارتو جن کے تم اللہ کے سوا مدعی ہو وہ تو ایک ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں پر اور نہ زمین میں اور نہ ان

وَاللَّهُ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَاهِرٍ

کا ان دونوں میں شریک ہے اور نہ ان کا کوئی پشت پناہ ہے

۲۷
۲۴ قُلِ ارْوِنِي الَّذِينَ اتَّخَفْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

دے نبی اکہ دے کہ مجھے اپنے وہ شریک تو دکھلاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ ملا رکھا ہے (اس کا شریک) اگر نہیں بلکہ وہ تو اللہ غالب حکیم ہے

۲۲
۲۵ قَالِيَوْمَ لَا يَمْرَأُكُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

سواج کوئی تم میں سے نہ ایک دوسرے کے نفع پر اختیار رکھتا اور نہ نقصان پر اور ہم ان سے جنہوں نے ظلم کیا ہے کہیں گے کہ اس آگ

النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْفِرُونَ

کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے

۱۲
۳۵ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک ریشے کے بھی مالک نہیں ہیں

۱۳
۳۵ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يُسْمِعُوا مَا اسْتَجَبْتُمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ

اگر تم انہیں پکارتو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہ دیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک

بِشْرِكِكُمْ وَلَا يَنْبِتُ لَكَ مِثْلُ خَيْرٍ

کا انکار کریں گے اور خبردار (خدا کی طرح تمہیں کوئی بھی خبر نہیں دے گا

۲۰
۳۵ قُلِ إِيَّاكُمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَنْ يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يُسْمِعُوا مَا اسْتَجَبْتُمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ

دے نبی اکہ دے کہ بھلا تم نے اپنے ان شریکوں کو بھی دیکھا جن کے تم اللہ کے سوا مدعی ہو مجھے دکھلاؤ تو انہوں نے کونسی

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

زمین پیدا کی یا ان کا آسمانوں میں کچھ حصہ ہے

۲۲
۳۲
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ أَلَمْ يَشْعُرُوا أَنَّهُمْ مِنَ الدِّينِ مَالِكٌ يَوْمَ يَدْعُ إِلَهُهُ

کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے وہ دین مقرر کیا ہے جس کی اس نے اجازت نہیں دی

۲۳
۳۳
أَتَأْتُونَ آلِهَةَ إِيحَادٍ ۚ إِنَّ يَوْمَ تَدْعُوا رَبَّكُمْ سَبْحًا ۚ أَتَأْتُونَ آلِهَةَ إِيحَادٍ ۚ إِنَّ يَوْمَ تَدْعُوا رَبَّكُمْ سَبْحًا ۚ أَتَأْتُونَ آلِهَةَ إِيحَادٍ ۚ

کیا ان کے سوا ایسے معبود اختیار کروں کہ اگر زمین بھرے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ان کی سفارش ہو کہ وہ اپنے رب سے توجہ نہ دے

۲۴
۳۴
إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

کہہ شک نہیں کہ ایسی صورت میں تو میں کھل گرا ہی میں ہوں

۲۵
۳۵
وَلَتَأْتِيَ آلِهَةَ إِيحَادٍ ۚ إِنَّ يَوْمَ تَدْعُوا رَبَّكُمْ سَبْحًا ۚ أَتَأْتُونَ آلِهَةَ إِيحَادٍ ۚ إِنَّ يَوْمَ تَدْعُوا رَبَّكُمْ سَبْحًا ۚ أَتَأْتُونَ آلِهَةَ إِيحَادٍ ۚ

اور انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود پکڑے ہیں کہ شاید وہ ان کی مدد کریں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لئے

لَهُمْ جُنْدٌ أَهْوَأُ ۚ وَوَالَّذِينَ هُمْ يُدْعُونَ

ایک لشکر ہے جو ماثر کیا جائے گا

۲۶
۳۶
أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَن يَأْتِيَ آلِهَةَ إِيحَادٍ ۚ إِنَّ يَوْمَ تَدْعُوا رَبَّكُمْ سَبْحًا ۚ أَتَأْتُونَ آلِهَةَ إِيحَادٍ ۚ

کیا انہوں نے اس کے سوا اور سفارش پکڑے ہیں (اسے نبی) کہہ دے اگرچہ وہ کسی بات کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں

۲۷
۳۷
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

اور اللہ حق حق حکم کرتا ہے اور وہ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کچھ حکم نہیں کرتے کہہ شک نہیں کہ اللہ جو ہے وہی سنتے والا

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

دیکھنے والا ہے

۲۸
۳۸
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور نہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر ان جس نے شہید شہید گدی دی اور وہ اس بات کو جانتے ہیں

۲۹
۳۹
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ

اے نبی کہہ دے بھلا تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے کونسی زمین پیدا کی یا ان کا

۳۰
۴۰
فِي السَّمَوَاتِ أَيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ ۚ مَن عَمِلَ إِذْ فَتِنُوا رَبَّهُمْ جُرْتَابًا

آسمانوں میں کچھ سامع ہے اگر تمہیں ہے تو اس (قرآن) سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی عملی سند میرے پاس لاؤ

۳۱
۴۱
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ

اور وہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتے جو اس کو روز قیامت تک جواب نہیں دیتے اور وہ

عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ

ان کی پکار سے میں بے خبر ہیں

۳۲
۴۲
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْ تَدْعُوا مِن دُونِكُمْ لَكُمْ فَرَقٌ

میں ان ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شریک کیا اور حکم دیں گے کہ اپنی جگہ قائم رہو تم اور تمہارے شریک بھی

۲۱- قیامت کو مشرکوں کے معبود ان سے بیزار ہوں گے

بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُ هُمْ فَانْتَبِهُوا يَا نَاعِبِدُونَ ۝ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا

پھر ہم ان کے درمیان بھٹ ڈال دیں گے اور انکے ٹھکانے ہوتے شریک کہیں گے کہ تم میں نہیں پڑتے تو سوہانے اور تمہارے درمیان اللہ کافی
وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادَ رَبِّكُمْ لَعَفْلِينَ ۝ هُنَالِكَ تَبْلَأُونَ نَفْسَ قَاتِلْتُمْ

گواہ ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے اس وقت ہر شخص ان عملوں کو جو اس نے اگے پیچھے ہیں جانے

وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

لیکا اور وہ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو انفرادہ کیا کرتے تھے ان سے ہٹا رہے گا

وَلَا أَرَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبُّنَا هُوَ اللَّهُ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ

اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے ٹھکانے ہوتے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اسے ہم نے پروردگار یہ ہمارے ٹھکانے ہوتے شریک ہیں

مِنْ دُونِكَ قَالُوا لِلَّهِ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

جس پر ہم تیرے سوا پکڑا کرتے تھے تو وہ ان کی طرف یہ بات ڈالیں گے کہ بے شک تم بھوٹے ہو

وَأَخَذْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيُكُونَ لِلصَّالِحِينَ ۝ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِنَا

اور انہوں نے اللہ کے سوا اور دوسرے معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے مددگار ہوں ہرگز نہیں وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدْدًا ۝

اور ان کے دشمن ہو جائیں گے

۶۲/۲۸ دیکھو قیامت کو مشرکوں سے ان کے (عدو - ۲۵)

شرک اور جاہل انبیاء کی نسبت سوال

۶۲/۳۵ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشُرَكَائِهِمْ

اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے منکر ہو جائیں گے

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۝

اور بعض بعض سے پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے وہ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس دہنی طرف سے آیا کرتے تھے

۶۲/۳۷ قَالُوا بَلْ لَمْ يَكُونُوا مَعَكُمْ مِينًا ۝ وَمَا كَانُوا لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ

وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہمارا تم پر کچھ دباؤ نہیں تھا

قَوْمًا طٰغِينَ ۝

لوگ تھے

۶۲/۳۶ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِينَ ۝

اور جب (قیامت کو) لوگ جمع کئے جائیں گے تو وہ دوسرے ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے

۶۲/۳۷ وَيَوْمَ يُحْشَرُ هُمْ جَمِيعًا لَقَدْ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ أَهْلُ كَلْبٍ إِنَّا كُنَّا نُوَاعِبِدُكُمْ ۝

اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر زشتوں سے پوچھ لے گا کیا یہ لوگ تمہیں پوجا کرتے تھے

قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَاوَابِعْبُدُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَهُمْ
 وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے وہ نہیں ہیں بلکہ یہ تو جنوں کو پہا کرتے تھے جن میں سے اکثر نہیں
 ہر وہ مؤمنون ۵

یہ ایمان رکھتے تھے

۱۸
 ۲۵ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اَنْتُمْ اَضَلُّتُمْ عِبَادِيْ

اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اسکے سوا پوجتے تھے انہیں جمع کرے گا پھر کہے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا وہ
 ہوا کہ انہیں امر ہے ضلوا السبيل ۱۹ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغُ لَنَا اَنْ نَّبْعُدَ
 آپ ہی راہ سے ہٹ گئے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا اور دوسرے کو پوجا

مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءٍ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوْا اللّٰهَ كَمَا نُوْا اٰبَاؤَنَا
 پڑتے لیکن تو نے انہیں ادا ان کے باپ دادوں کو برداشت کیا یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور وہ پاک ہوئے اور ان کو
 فَفَدَكْنٰ بُوْكُمْ يٰ مَعْشَرٌ لّٰمُوْنَ فَمَا تَسْتَطِيعُوْنَ صِرَافًا وَّلَا نَصْرًا
 سو جو تم کہتے ہو اس میں انہوں نے تمہیں جھٹلایا تم نہ رخصت ہو سکتے ہو اور نہ مدد ہی کر سکتے ہو

۲۲
 ۲۶ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِّلَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ الشِّرْكَاءُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 اور جس دن ہم ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے تم نے شرک کیا ہے تم نے شرک کیا ہے تم نے شرک کیا ہے

۲۳- قیامت کو مشرک اپنے
 سببوں سے بیز ہوئے
 اپنے شرک کا انکار کریں گے

۲۳
 ۲۷ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ مَّهْلًا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ
 پھر ان کا ضد بجز اس کے اور کچھ نہ ہو گا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے

۲۶
 ۲۸ وَالْقَوْلُ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ مِيْدٰنِ السَّلٰمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ
 اور وہ اس دن اللہ کی طرف صلح رکھیں گے اور جو افتراء کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا

۲۷
 ۲۹ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شِرْكَائِهِمْ شُفَعَاؤٌ وَّكَانُوْا يَشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ كُفْرًا
 اور ان کا ان کے دشمنوں کے لئے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہیں ہو گا اور وہ اپنے شرکوں کی عبادت کا انکار کریں گے

۲۸
 ۳۰ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اِيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝۳۰ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا اضِلُّوْا عَنَّا بَلْ لَمْ تَكُنْ
 پھر ان سے کہا جائیگا کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے کھڑے گئے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو
 نَدَعُوْا مِنْ قَبْلِ شَيْءٍ اَكْذٰبُكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ۝۳۱

ہی نہیں پکارا کرتے تھے یوں اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے
 ۳۱
 ۳۲ وَيَوْمَ يَنَادُهُمْ اِيْنَ شُرَكَاءِيْ قَالُوْا اَذٰنُكَ مَا مَنَّا مِنْ شَيْءٍ ۝۳۲ وَضَلَّ عَنْهُمْ قَا
 اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تجھے خبر دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی دعاغ نہیں اور جنہیں وہ پہلے
 كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلِ وَاظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ حٰجِبٍ
 پکارا کرتے تھے وہ ان سے کھڑے بائیں گے اور وہ یقین کریں گے کہ ان کے لئے کوئی بھانگنے کی جگہ نہیں ہے

۳۰ ۳۱
ہم قیامت کو شرکوں کا انتر
سب باتا رہے گا

هُنَالِكَ تَبْلُو أَكْلُ نَفْسٍ لَمْ أَسْلَفَتْ وَرَدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ
اس وقت ہر ایک شمس باغ لے گا جو اس نے آگے پہلے ہے اور وہ اپنے سے ایک اسکی طرف ٹولتے بائیں گے اور جو انتر وہ کیا کرتے تھے
كَانُوا يُفْتَرُونَ ۝ ۳۰ اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ

۳۱ ۳۲
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا اَنْ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ
اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے پھر ہم کہیں گے کہ اپنی سند لاؤ اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لئے ہے
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ ۳۱ دیکھو قیامت کے دن شرک اپنے مجبوروں سے بیزار ہونگے اور اپنے شرک کا انکار کرینگے

۳۲ ۳۳
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ۳۲ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ
اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر (چھپکا کر میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے جن لوگوں پر عذاب کی
عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هُوَ الَّذِي اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا
بات ثابت ہو گئی ہے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پڑوس گاریسی وہ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے ہم تیری طرف
كَانُوا اِلَّا اِنَّا نَعْبُدُوْنَ ۝ ۳۱ وَقِيلَ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
ان سے بیزار ہو کر تمہیں یہ نہیں لپتے تھے اور کہا ہائے کیا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ وہ انہیں بلائیں گے تو وہ ان کو جواب نہیں دیتے
رَاوُ الْعَذَابَ لَوْ اَنْتُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ۝ ۳۲ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اٰجَبْتُمْ
اور وہ عذاب کو دیکھیں گے کاش وہ ہدایت پر ہوتے اور جس دن انہیں پکارے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب
الْمُرْسَلِيْنَ ۝ ۳۱ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ ۝

۳۳ ۳۴
۲۵ قیامت کو شرکوں سے ان کے
شرک اور جاہل انبیاء کی نسبت

۳۴ ۳۵
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ۳۴
اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے جن لوگوں پر عذاب کی
عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هُوَ الَّذِي اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا
بات ثابت ہو گئی ہے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پڑوس گاریسی وہ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے ہم تیری طرف
كَانُوا اِلَّا اِنَّا نَعْبُدُوْنَ ۝ ۳۱ وَقِيلَ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
ان سے بیزار ہو کر تمہیں یہ نہیں لپتے تھے اور کہا ہائے کیا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ وہ انہیں بلائیں گے تو وہ ان کو جواب نہیں دیتے
رَاوُ الْعَذَابَ لَوْ اَنْتُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ۝ ۳۲ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اٰجَبْتُمْ
اور وہ عذاب کو دیکھیں گے کاش وہ ہدایت پر ہوتے اور جس دن انہیں پکارے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب

۳۵ ۳۶
الْمُرْسَلِيْنَ ۝ ۳۴ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ ۝
سوائے ان دن ان سے کچھ جواب نہیں پڑے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝
اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے

۳۶ ۳۷
اِحْسِرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجُهُمْ وَاَمَّا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝ ۳۶ مِنْ دُوْرِ اللّٰهِ فَاَهْلُوْهُمْ
جنوں نے ظلم کیا ہے انہیں اور ان کی بیویوں کو اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے جمع کر دو
اِنَّ صِرَاطَ الْحَقِّ بِيْمٍ ۝ ۳۶ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مُّسْتَوْسُوْنَ ۝ ۳۶ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُوْنَ ۝
دکھلاؤ اور انہیں گمراہ رکھو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک سرے کی حد نہیں کرتے

۳۷ ۳۸
۲۲ ۲۳
بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ۝ ۳۷ وَاَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ۝ ۳۷ قَالَوْا
بلکہ آج وہ بھی گردن کئے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک ایک کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے کہیں گے کہ تم زمین بیکانے
اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَ نَاعِنَ الْيَمِيْنَ ۝ ۳۷ قَالَوْا بَلْ لَمْ نَكُنْ نُوْمِدُ مِنَ الْيَمِيْنَ ۝ ۳۷ وَمَا كَانْ
کہنے اپہاری ذمہی طرف سے جانے پاس آتے تھے وہ جواب دیں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کچھ

۳۸ ۳۹
۲۴ ۲۵
اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَ نَاعِنَ الْيَمِيْنَ ۝ ۳۸ قَالَوْا بَلْ لَمْ نَكُنْ نُوْمِدُ مِنَ الْيَمِيْنَ ۝ ۳۸ وَمَا كَانْ
کہنے اپہاری ذمہی طرف سے جانے پاس آتے تھے وہ جواب دیں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کچھ

۳۱۔ شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہر مہلکرتے

۳۸ وَبَيْنَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ كَبُرَتْ

اور انہیں زمانے جنوں نے کہا کہ اللہ کے اولاد ہے اس کے تعلق نہ انہیں کچھ علم ہے اسے ان کے ابا دلوں میں کونسا

كَلِمَةً خَاسِرًا مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ لِيَقُولُوا لَا كُنَّا بِهَا

بڑی بات ہے جو ان کے منوں سے نکلتی ہے۔ وہ اکل بھرتا برتے ہیں

۳۹ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يُصِدِّقُونَ ۝ وَقَالُوا آءِ الرَّهْمَانُ خَيْرٌ مِّنْ

اور جب ابن مریم کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو اس کے ذکر سے ذرا ہی تیری قوم کھٹکتا پڑتی ہے اسکتے ہیں کہ بھلا ہمارے سب سے

هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِذْ جَدَلْنَا دَبْلُ هُمْ قَوْمٌ خَاسِمُونَ ۝ وَإِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

ہیں اور وہ اس کو توجہ سے سزا بھگتنے کے لئے پیش کرتے ہیں بلکہ وہ جھگڑا لڑتے ہیں وہ تو ہیں ایک بندہ جس پر ہم نے نعام کیا اور

وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ فُلُكًا فِي الْآرَافِ

اس کو بنی اسرائیل کے لئے ایک نمونہ لگتے لگتے بنا دیا اور اگر ہم چاہیں تو ہم میں سے نشتے نکال لیں جو زمین میں چلیں پھریں

يَخْتَلِفُونَ ۝

۳۲۔ شرکوں کو دوزخ

۱۶۶ وَاهُمْ يُخَارِجُونَ مِنَ النَّارِ ۝

اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں

۱۷ أُولَئِكَ جَبَّتْ أَعْيُنُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

وہی ہیں جن کے اعمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں

۱۸ وَيَكْفُرُوا مَشْرُكٍ مَّصِيبٍ ۝ وَتُحْمَلُهُمْ فِيهَا حِمْلًا ۝ (عدو - ۳۸)

۱۹ إِنَّكَ مِنَ الشُّرَكَاءِ بِاللَّهِ فَقَدْ هَرََمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَدَّ النَّارُ

بے شک جو تمہیں اللہ کے ساتھ شریک کر لیا اللہ نے اس پر بہشت حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانا آگ ہے

۲۰ وَاعْتَدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

اور اس نے ان کے لئے دوزخ تیار کیا ہے اور وہ بڑی جگہ ہے

۲۱ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ

نبی کو اور ان کو جو ایمان لائے مناسب نہیں ہے کہ وہ شرکوں کی بخشش کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ اس کے بعد کہ ان

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

پہلے ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں

۲۲ أَلَمْ نَقْرَأِ الْبَنِينَ إِذْ كَفَرُوا وَحَلَّلُوا قَوْمَهُمْ ذُرِّيَّةَ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا

بلکہ بنی اکابر نے ان کی طرف سے نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور انہیں قوم کھٹکتا پڑتی ہے اور انہیں دوزخ میں جس میں

وَيَسِّرَ الْفَرَارَ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ إِذًا الْبِضْلُ وَأَعْنُ سَبِيلَهُ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن

دو دنیاں ہونے اور وہ بڑی قرار کا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرانے تاکر لوگوں کو اس کی راہ سے ہٹا دیں (اللہ ہی) کہ وہ کہ تم ناز

مَصِيرًا كَمَا إِلَى الْغَارِ

اٹھاوے ٹک تمہارا جمع آگ کی طرف ہے

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ السَّبِيحَةَ الْكُذِبَ إِنَّ لَهُمُ الْحَسَنَى لَأَجْرَمَانَ ۝

اور اللہ کے لئے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے آپ ہی

لَهُمُ النَّارُ وَانْتَهَى مَقَرُّ طُونَ ۝

ہو کہ ان کے لئے آگ ہے اور وہ حد سے باہر نکلے ہوئے ہیں

۲۲۲ ۲۲۳ دیکھو قیامت کو مشرکوں سے ان کے شرک اور اجابت انبیاء کی نسبت سوال۔ عدد۔ ۲۵

۲۲۴ ۲۲۵ دیکھو قیامت کو مشرکوں سے ان کے شرک اور اجابت انبیاء کی بابت سوال۔ عدد۔ ۲۵

۲۲۶ دیکھو مشرکوں کو عذاب۔ (عدد۔ ۳۳)

وَمِنَ الَّذِينَ أَنشَرُوا كُوفًا يَوْمَ أُحُدٍ لَوْ يُعْتَرُ الْفَسَادُ وَمَا هُوَ بِمَنْزِلِ حَرْجٍ مِنْ

اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ہر ایک یہی پاتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس کی عمر دیا جائے اور یہ بات کہ وہ دینی عمر

الْعَذَابِ أَنْ يُعْتَرَطَ

دیا جائے اس کو عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

مہربان ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ كُلُّنَ السُّوءِ

اور اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو شرک مردوں اور شرک عورتوں کو جو اللہ کی نسبت بدگمانی رکھتے ہیں عذاب سے انہیں بڑی گزرتی

عَلَيْهِمْ ذَا بَرَّةِ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَصِيرًا ۝

ہے اور اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ تیار کیا ہے اور وہ بڑی جگہ ہے

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا قَهْرًا ۝

تم مرن گمان پر چلتے ہو اور صرف انکیس ددواتے ہو

وَمَا يَتَّبِعُ الْكَاذِبُ دَعْوَانَ اللَّهِ شَرًّا إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ

اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس طریق پر چلتے ہیں وہ تو صرف گمان پر چلتے ہیں اور صرف انکیس

۲۲۲: شرکوں کو عذاب

۳۳۴: مشرک محض انکل ہو چلتے ہیں۔

الْأَيْخِرُ صَوْنٌ ۝

دور ہوتے ہیں

۲۳ ۝ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاكُمْ مِمَّا لَهُمْ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور انہوں نے کہا کہ اگر زمین ہا ہا ہا تمہیں نہیں نہ پوجتے انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے وہ تو زمین انہیں دور ہوتے ہیں۔

۲۴ ۝ إِنَّ يَتَشَبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْهُدَىٰ

۲۵ ۝ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

دور ہوتے ہیں

۲۶ ۝ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۝ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ

۲۷ ۝ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

۲۸ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۲۹ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۰ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۱ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۲ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۳ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۴ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۵ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۶ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۷ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۸ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۹ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۴۰ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۴۱ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۴۲ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۴۳ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۴۴ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۴۵ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۴۶ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۴۷ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

۳۳ ۝ ۳۴ ۝ ۳۵ ۝ ۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

سو تم فائدہ اٹھاؤ غنقریب ہی تم معلوم کر لو گے

۳۶ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم

پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو نالس اس کی اطاعت کرتے ہوئے پکارتے ہیں پھر وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لاتا ہے
۳۷ ليشركون ليشركوا ربهم واما انتم فاعرفوا فسوف تعلمون

تو ہی دم نہ شکر کرنے لگتے ہیں۔ تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں سورہ غنقریب جان لیں گے
۳۸ واذا امس الناس ضرر دعوا ربهم منيما اليه ثرا اذا اذاهم فقهه رحمه اذا

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے
۳۹ فشرى منكم بربهم ليشركون ليشركوا ربهم واما انتم فاعرفوا فسوف تعلمون

تو ہی دم ان میں سے ایک فریق اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں لاتا تو تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے سو تم فائدہ اٹھاؤ
۴۰ واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر

اور جب سائبانوں کی طرح ان پر موج مار کر چھا جاتی ہے تو وہ اللہ ہی کو نالس اس کی اطاعت کرتے ہوئے پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف
۴۱ فبينهم مقتصد وما يحسد بايتنا الا كل ختار كفروا

بچاتا ہے تو کوئی ان میں میاں نہ رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف وہی کرتا ہے جو بد خدا شکر ہے
۴۲ واذا امس الانسان ضرر دعوا ربهم منيما اليه ثم اذا خوله نعمة مناه نسي ما كان

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارتا ہے پھر جب وہ اس کی طرف سے نعمت عطا فرماتا ہے
۴۳ يدعوا اليه من قبل وجعل لله انذارا ليضل عن سبيله قل تمتع بكمفرك

تو جسے وہ پہلے پکارا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لئے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے گمراہ کرے بلکہ نبی اکہم دے
۴۴ قليلا وانك من اصحاب النار

کراپنے کفر کے ساتھ تم لوگ سنا فائدہ اٹھائے بے شک تو روزِ نحی ہے
۴۵ فلما راوا ابا سنا قالوا امنا بالله وحده وكفرا نايما كتابا مشركين

پھر جب انہوں نے ہمارے مذاہب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم صرف اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے ان کا ہم انکار کرتے ہیں
۴۶ كذب على المشركين ما تدعواهم اليه

مشرکوں کو وہ (دین) مانگا رہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے

کفر

۴۷ فاذا كروا في انكركم واشكروا الى ولا تكفروا

تو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو

۳۹- مشرکوں کو دین اسلام ناگوار گزرتا ہے۔

۱- کفر نہ کرو۔

۱۱۰ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ

اور تم کفر کرنے کے حال انکو تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی باقی ہیں اور تم میں اس کا رسول ہے اور جس نے اللہ کو منسوب و پکڑا ہے شہید
هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

یہی راہ پر لکا یا گیا

۱۱۱ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفِّرُ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْحُرُوجَ مِنْهُ الْكَبِيرَ عِنْدَ اللَّهِ

اور جس کی راہ سے روکا اللہ اس کو نہ مانتا اور اوبہ والی مسجد سے روکا اور اس کے بننے والوں کو اس میں سے نکالنا اس کے نزدیک بڑا کانا ہے

۱۱۲ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَلَيْسَتْ بِهَا مِنْهَا فَادْفَعُوا

اور اللہ تم پر کتاب میں اتنا چکاپ ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کی منہسی ازرائی جا رہی ہے تو تم ان کے پاس سے پیٹھ جو بے

مَعَهُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُحَرِّفِينَ

تک کہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اور تم بھی ان ہی کی مانند بڑبانگے

۱۱۳ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

اور خدا اپنے بندوں کے لئے کفر سے راضی نہیں ہے

۱۱۴ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشُرَ قُلُوبَهُمْ ۚ وَكَرِهُوا أَنْ يُذَوَّبَ عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ وَقَدْ أَمَرَهُمْ اللَّهُ بِهَا لِيُذَوَّبَ

کیا ایسا نہ ہو کہ ان کے لئے وہ آیت نہیں یا اگر ان کی یاد سے ان کے دل تھرا جائیں اور اس سے جو خدا کی طرف سے اترا ہے اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو

أَوْ تَوَالِّبَهُمْ قُلُوبَهُمْ ۚ فَكَرِهُوا أَنْ يُذَوَّبَ عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ وَقَدْ أَمَرَهُمْ اللَّهُ بِهَا لِيُذَوَّبَ

ہم کو پہلے کتابہ تورات اسی گئی ہے ان پر ایک ایسی بات کہہ گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں بہ کار ہیں

موالات باقار

۱۱۵ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرَانَ أَبَدًا ۚ مَنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ

مومن دشمنوں کو ہمیشہ کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو یہ کام کرے گا

مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا

کہ تم ان سے اپنا بھاؤ کرو

۱۱۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لِلطَّغْيَانِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءَ ۚ وَذُومُوا مَا عَزَمْتُ

مسلمانو اپنے غیروں کو اپنا ہمبند نہ بناؤ وہ تمہارے اندر نساؤ ڈالنے میں کسی نہیں کرتے تمہاری تمہیں پہنچے ہیں عداوت ان کے سر نہوں کے

قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَحِيفُنَّ ۚ أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي قُلُوبِهِمْ أَكْبْرًا ۚ فَذُومُوا لِكُلِّ أَكْرَهٍ

اللہوں سے ظاہر ہے اور جہان کے دلوں میں بھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اگر تم سمجھتے ہو تو ہم نے تم پر نشانیاں کھیل دیں

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ۱۱۵ هَٰذَا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَا يَحِبُّوا لَكُمْ وَلَا يَحِبُّونَكُمْ وَلَا يَكْتُمُونَ

سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تمام کتابوں پر لایا

۲۔ کفر خدا کے ان بڑا کانا ہے

۳۔ کفر کے وقت کافروں کے

پاس نہ پیٹھو

۴۔ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا

۵۔ اہل کتاب کی طرف سے سخت

دل دھاس نہیں ہونا چاہئے

۱۔ کافروں سے دوستی کرنے

کی ممانعت۔

كَلِمَةً وَاِذَا الْقَوْمُ قَالَوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلٰیكُمْ اَلَا نَأْوِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوْا

رکت ہو اور جب تم سے لے میں ترک تے میں کہ ہم ہی ایمان لائے میں اور جب نفوت میں ہوتے میں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں
يَغِيظُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ ۝۱۹۹ اِنْ تَسْكُرُوْا حَسَنَةً لِّسُوْۤاۡتِهِمْ زَوْاٰنٌ
کہ جسے کہہ کر اپنے غصے میں سر ہوا بے شک اللہ باتا ہے جو کہ سینوں میں پھاپا ہوا ہے۔ اگر تم کو کوئی باپالی پہنچتی ہے تو اس سے ان کو رنج ہوتے ہے
نُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يُّفْرَحُوْا بِهَا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَاتَّقُوْا اَلَا يَصْرُكُوْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْۤاۡطِرًاۙ اِنَّ اللّٰهَ
اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوں اور اگر تم نہ سبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر تم کو کہ نقصان نہیں پہنچا یہ گاہے شک خدا
وَمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

ان کے عملوں کو گھیرت ہوئے ہے

۱۹۹ وَاِذَا تَوَكَّفَرُوْۤا كَمَا كَفَرُوْۤا فَاتَّكُوْنُوْنَ سُوْۤاۡءًاۙ فَاَلَا تَتَّخِذُوْنَ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُّهٰمَآ جُرُوْۤا

وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافروں تم ہی کافر ہو جاؤ کہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں تو تم ان کو جب تک وہ ہجرت خدا کی راہ میں نہ کریں
فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْۤا فَاِخْذُوْهُمۡ وَاَقْتُلُوْهُمۡ حَيْثُ وُجِدُوْۤا صُوْۤاۡتِهِمْ وَاَلَا تَتَّخِذُوْنَ
دوست نہ بناؤ پھر اگر وہ مومن ہو جائیں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ تسل کرو اور ان کو اپنا دوست نہ

مِنْهُمْ وَاِلٰیآءٍ وَّلَا نَصِيْرًا ۝

بناؤ اور نہ مددگار

۲۰۰ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا لَا تَتَّخِذُوْۤا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ

یہاں ان کے کہہ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ
تَجْعَلُوْۤا اللّٰهَ عَلٰیكُمْ سُلْطٰنًا مَّرِيْنًا ۝
اور خدا کی کھلی محبت قائم کرو

۲۰۱ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا لَا تَتَّخِذُوْۤا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَى اَوْلِيَآءَ ۙ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَّزُوْۤرٌ

مسلمانو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ
يَتَوَلَّوْۤا مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْكُمْ مَّرٰنَۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم ہی

۲۰۲ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا لَا تَتَّخِذُوْۤا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا دِيْنَهُمْ وَاٰدِيْنُكُمْ هُرُۙ وَاَوْلِيَآءَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰتٰنَا دِيْنَهُمْ وَاَوْلِيَآءَ

مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہمیں بنا رکھا ہے وہ ان میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی
مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفٰرَۙ اَوْلِيَآءَ ۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۲۰۲ وَاِذَا نَادٰۤى تَتُوْلٰۤى
اور اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرو اور جب تم نماز کی طرف بلائے ہو

الصَّلٰوةِ اِخْتَدُوْۤا وَاٰدِيْنُكُمْ هُرُۙ وَاَوْلِيَآءَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰتٰنَا دِيْنَهُمْ وَاَوْلِيَآءَ ۙ اَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝

تو وہ اس کو ہمیں بنا لیتے ہیں یہ اس نے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے

Marfat.com

۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ

سلامت! اپنے باپوں اور بھائیوں کو اگر وہ ایمان سے کفر کو چاہیں اور تمہیں درست نہ بناؤ

۱۰ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكُمْ فَكُفْرًا وَإِن كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ

اور جو تمہیں سے ان کو دوست بننے کا تو ایسی ہی بگ ٹالم ہیں کہ تم نے اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے

۱۱ وَلَا إِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالٌ بِأَقْرَبٍ مِّنْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

بیویاں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے شہزادے اور مال جو تم نے کمانے میں اور تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو

۱۲ وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَ يَا أَحِبُّوا إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ فَبَرِّئُوا حَتَّىٰ

اور جو تم کو پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیار سے ہیں۔ تو انتظار کرو کہ یہیں تک خدا اپنا

۱۳ يَا أَيُّهَا اللَّهُ يَا كَرِيمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ

علم ہنے اللہ بیکار لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۱۴ لَا يَتَّخِذُوا مَالَهُمْ مِّمَّنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا

ترکس قوم کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں ان لوگوں سے دوستی رکھنا۔ پائیگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں

۱۵ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ فِي قُلُوبِ بَرِّهِمْ إِلَّا يُمَانًا

خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے بھندے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان لکھ رکھا ہے

۱۶ وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ مَا نَزَّلْنَا بِقَوْلِهِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذِكْرًا فَذَكَّرْتُمْ بِهِ

اللہ اپنی ریح (قرآن) سنان کی تائید کے لیے اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے نریں جانی ہیں۔ پس ان کو یاد دلاؤ

۱۷ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

خدا ان سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہوئے یہی اللہ کی جماعت ہے خیر دار ہو بیشک اللہ ہی کی جماعت نجات پانے والی ہے

۱۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ

سلامت! میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام ڈالتے ہو اسانہوں نے اس حق کو نہ مانا جتنا کہ

۱۹ كُفَرُوا وَإِنَّمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ بِحُجَّتِ الرِّسَالِ وَإِن كُفَرْتُمْ إِن تَقُولُوا إِنَّا لَا نُرِيدُ أَنْ

پاس آیا ہے رسول کو اور تم کو گمراہوں سے نکال دے ہیں اسی بنا پر کہ تم اپنے بڑے بڑے اور اللہ پر ایمان رکھو اگر تم

۲۰ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْكَدِ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ

میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا پانے کے لئے مجھ سے تم ان کی طرف خفیہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں

۲۱ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

مانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ میں نے تمہیں سے یہ کام کیا وہ بیشک بھڑے رستے سے بھٹ گیا اگر وہ تم کو

۲۲ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطَرُّوا إِلَيْكُمْ أَلَيْسَ بِهِم بِالْمُنَادِيينَ وَوَالَّذِينَ

پائیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ اور چاہتے ہیں۔ کہ کاش تم بھی

Marfat.com

تَكْفُرُونَ ۝

کافر ہو جاؤ

۳۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ

مسلمانو! ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر خدا کا غصہ ہوا وہ آخرت سے ویسے ہی ناہید ہیں جس طرح کفار قبروں والوں کے لئے۔
الْكَفَّارِينَ اصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

ہرے (سے) ناہید ہیں

۳۸ لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدّٰنِ لَمْ يُعٰنِتُوْكُمْ فِى الدّٰنِ وَلَمْ يُجِرْ جُوعَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اِنْ تَبَرُّوْهُمْ

۲- دوستی اور سلوک صرف ان ہی کافروں کے ساتھ ناہائز ہے جو مسلمانوں کے دینی امور میں طبع ہوں۔ جو دینی امور میں طبع نہیں ان سے دوستی سلوک کرنے میں کوئی کمی مضائقہ نہیں۔

وَتَقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يَبْغِثُ الْمَقْسُوْطِيْنَ ۝ ۹ اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدّٰنِ

نیک ملک کہ خدا ان سے سفاقت کرے اور کچھ شکایتیں کہ خدا انسان کرنے والوں کو دوست رکھتا۔ خدا تم کو صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے روکتا ہے۔
فَا تَتَوَلَّوْكُمْ فِى الدّٰنِ وَاٰخِرُ جُوعَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَاٰخِرُ مَا عَلٰى اٰخِرِ اٰجَلِكُمْ اِنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ

جو تم سے تمہارے دین پر لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکلنے پر ایک دوسرے کی مدد کی اور جو ان سے دوستی رکھے گا۔ تو
يَتَوَلَّوْهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

ایسے ہی لوگ ظالم ہیں

فَلَا تَكُوْنُوْنَ كَظٰلِمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

ہیں تو کافروں کا مددگار نہ ہو

۳۹ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاَحْكُمْ

اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری جو ان کتابوں کی جو اس کے پہلے میں تصدیق کرتی ہے اور ان کی عاقبت ہے تو تو ان کے
بَيْنَهُمْ يَمَّا اَنْزَلْنَا اللّٰهَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَفِيْهَا نَبَا

درمیان ان کے مطابق فیصلہ کر جو خدا نے اتارا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر اس حق سے خوف ہو کر جو تیرے پاس آیا ہی ہے
وَاِنْ اَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَمَّا اَنْزَلْنَا اللّٰهَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاَحَدٌ لَّهُمْ اَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ

انہ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چل اور ان سے ڈر کہ تجھے بعض ان باتوں سے جو اللہ نے
وَاَنْزَلْنَا اللّٰهَ اِلَيْكَ

تیری طرف اتاری ہیں رہنا کرتے ہیں نہ ڈال دیں۔

۴۰ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الدّٰنِ كَذٰلِكَ بُوَايٰٓنٰنَا وَالدّٰنِ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرْتَابُوْنَ يَعْدُوْنَ

اصان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چل جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے پروردگار کا شریک کرتے ہیں
وَلَا تَطْعَمُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرًا قُرْطًا ۝

اور اس کی اطاعت کر جس کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اپنی خواہشوں کے پیچھے چل گیا اور اس کا کام مدد سے بڑھا ہوا ہے

ہر ایک قوم کے لئے شریعت اور سیرت ہے۔

۵۲
۲۵
فَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَجَاهِدُوهُمْ بِمَا جَاهَدُوا الْكُفْرَانَ

تو کافروں کا کمانڈاں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے کوشش کے ساتھ لا

۳۱
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

اے نبی! اللہ سے ڈرنا اور کافروں اور منافقوں کا کمانڈاں

۳۲
وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَكُفُوا بِاللهِ وَكَيْلًا

اور کافروں اور منافقوں کا کمانڈاں اور ان کی ایثار ساری کو چھوڑو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کا فی کار سناؤ

۱۵
۳۳
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ

اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو

۱۶
۳۴
لَقَدْ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

پھر ہم نے تجھے دین کے ایک طریق پر کر دیا ہے تو تو اس پر چلو اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے

۱۹
۳۵
إِنَّكُمْ لَن تَخُونُوا عِنْدَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فَمَلُّوا

بے شک وہ اللہ کے ان سے کچھ کام نہیں آئیں گے اور بے شک ظالم ایک ایک دوست ہیں اور اللہ

۱۷
۳۶
وَالَّذِينَ آمَنُوا

متقین کا دوست ہے

۱۸
۳۷
فَلَا تُطِيعُوا الْمُكذِبِينَ وَذُؤُا الْوَالِدِ هُنَّ قِيْدُ مَرْهُونُونَ وَلَا تُطِيعُوا كَلِمَةً تَكْفُرًا

تو تو جھٹلانے والوں کا کمانڈاں وہ ہاتھ ہیں کہ تو ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے پڑیں اور ہر ایک سے کھانڈو لے ڈیل کا کمانڈاں

۱۱
۳۸
هَتَمًا زَمْزَاءَ يَنْبِغُونَ مَنَاءَ الْخَيْرِ مُعْتَدًا لِّئِيهِمْ عَمَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ذَرِيْعَةٌ

انمازے کرنے والے چھانڈو کا نیکی سے روکنے والے سے بڑھنے والے گنہگار کا اکڑنا اس کے بعد بد اسل کا

۱۲
۳۹
إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذِ اتَّعَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

اس نے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگھے لوگوں کی کہانیاں ہیں

۱۳
۴۰
سَنَسِيْبُهُ عَلَىٰ الْخُرُوطِ

ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے

۲۵
۴۱
وَلَا تُطِيعُوا مِنْهُمْ إِشْرًا وَكُفْرًا

اور تو ان میں سے کسی گنہگار یا گنہگارے کا کمانڈاں

۱۹
۴۲
كَلَّا لَا تُطِيعُهُ وَاسْبُجُدْ وَاقْتَرِبْ

ہرگز نہیں تو اس کی اطاعت نہ کر اور سجدہ کر اور قربت حاصل کر

۹۹
۴۳
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا آفْرِيْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَدْعُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا

مسلمانو! اگر تم ان لوگوں میں سے بن کر کتاب دی گئی ہے کہ کسی فریق کا بھی کمانڈاں گے تو وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لٹا

۵ کافروں کی اطاعت کرنا ہے

کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے

۱۳۲ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِبَعُوا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَايْرُدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ

۱۳۳ وَإِن تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ لَهُمْ
اور اگر تو اکثر کی ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہیں اطاعت کرے گا تو وہ تجھے اس کے رستے سے ہٹا دینگے وہ تو صرف گمان کی پرہیز
الَّا يَخْرُصُونَ ○

کہتے ہیں اور وہ محض نہیں دوڑاتے ہیں

۱۳۴ وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذِكْرُ رَبِّهِ إِنَّا تَبَسَّلَ
اور ان لوگوں کی جو جو دینوں نے دین کو ہنسی کیل بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دعو کا سہارہ بنا لیا اور انہیں قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت
نَفْسٍ يٰهَا كَسَبَتْ ○

۶۔ کافروں کو ان کے مان
چھوڑ دینا چاہیے۔

کہیں کوئی جان اپنے کے کی رحمت میں نہ پڑ جائے۔

۱۳۵ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدِرَهُ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ
اور انہوں نے اسکی یہی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر ہوتی ہے جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا تو کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے آئی

الَّذِي جَاءَ بِهِ سُوْرٰى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ لِيَجْزُوْنَهَا قُرْآنًا طَيِّبًا تَبَدُّوا مِنْهَا وَنَحْوُهَا كَثِيْرًا
جسے سوئی لائے تھے کہ لوگوں کے لئے نور اور ہدایت ہے تم اس کے پاس سے پاس کرتے ہو کچھ اس کو ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو

۱۳۶ وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلْ اللَّهُ فَخَرَّ سُرُّهُمُ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ○

اور اسی کے ذریعے تم کو وہ کچھ سکھایا گیا جو تم جانتے تھے اور نہ باپ اور تمہارے تو کہہ لے کہ اللہ ہی نے تمہاری پھر ان کی بگو اس میں ان کو تھوڑے سے کھیلنے ہیں
وَكذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطٰنِ الْاِنْسِ الْاِجْرِيْنَ يُوحِيْ بِبَعْضِهِمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ
اور اسی طرح ہم نے شیطان جنوں کی ہر نبی کا دشمن بنایا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دعو کے کی طبع باتوں کی رہی کرتے ہیں

۱۳۷ الْقَوْلِ غَرُوْرًا وَّلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے تو تو ان کو ان کے بہتان کے ساتھ چھوڑ دے

۱۳۸ وَكَذٰلِكَ زَكَّيْنَا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَسْمَاءَ الْمُشْرِكِيْنَ قُلْ اُوْلٰٓئِكَ اَسْمَاءُ اٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ
اور اسی طرح اکثر مشرکوں کی نظر میں ان کے شرکوں کی انکی اولاد کا نقل بچھڑا دیا گیا تاکہ انکو ہٹا کر ان کے لئے دین کو ان پر مشتبہ کریں اور اگر اللہ چاہتا تو

۱۳۹ فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

وہ یہ کام نہ کرتے تو تو ان کو ان کے بہتان میں چھوڑے رکھ۔

۱۴۰ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ وَاٰلِهٰٓمِهِمْ
اور اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو تم ان کے ناموں کے ناموں میں تیرے جلتے ہیں انکو اسکا بدلہ دیا جائیگا جو وہ کرتے ہیں

۱۴۱ ذَرْهُمْ يٰۤاَكُوْلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِمِ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

ان کو چھوڑ کہ کھائیں اور نفع اٹھائیں اور امیدیں کر غفلت میں ڈالے رکھے وہ عقرب معلوم کریں گے

۵۴
۲۳ قَدْ رَهْمُ فِي عَشْرِ يَوْمٍ حَتَّى جِئِنِ ۝

پھر ان کو ایک وقت تک ان کی نفلت میں رہنے دے

۱۴۵
۳۴ قَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى جِئِنِ ۝

پس ایک وقت تک ان سے نہ پھیرے رکھو

۱۴۸
۳۴ وَقُولَ عَنْهُمْ حَتَّى جِئِنِ ۝

اور ایک وقت تک ان سے نہ سڑے رکھو

۵۴
۳۳ قَدْ رَهْمُ يَخْوَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝

اور ان کو چھوڑ کر جہاں کریں اور کیسلیں یہاں تک کہ اپنے اُس دن سے بائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے

۵۴
۳۳ وَقِيلَ لَهُ رَبِّ ان هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يَتُوبُونَ ۝ فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَوْتُ قَسَمًا

اور رسول کے اس کہنے کی قسم کھائے کہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے تو تو ان سے دُکھ کر اور کہہ کہ سلام وہ شریف

يَعْلَمُونَ ۝

ہاں میں کے

۱۲
۳۵ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ آيَاتِ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

مومنوں سے کہہ دے کہ ان لوگوں کو معاف کریں جو اس کے دُور (اور دُور) کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کئے کا بدلہ دے

۵۴
۵۱ قَتُولَ عَنْهُمْ فَمَا آتَيْتُمْ بِمَلُومٍ ۝

تو ان سے نہ پھیرے بے توجہ پر کچھ ملامت نہیں ہے

۲۵
۵۲ قَدْ رَهْمُ حَتَّى يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ۝

تو ان کو چھوڑ یہاں تک کہ وہ اپنے اُس دن سے بائیں جس میں بے ہوش کئے جائیں گے

۵۴
۵۳ قَتُولَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَى شَيْءٍ يَكْفُرُ ۝

تو تو ان سے نہ پھیریں روز جانے والا ایک ناما اُس شے کی طرف بلانے کا

۲۸
۶۸ قَدْ رَفِيَ وَمَنْ يَكْتَابُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ اور اس کو چھوڑ جس بات کو بھلا ہے ہم ان کو ایسی طرح پر کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی ہمارے دیتے ہیں

۲۱
۶۹ قَدْ رَهْمُ يَخْوَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝ (دیکھو ۳۳)

ان کو چھوڑ کر جہاں کریں اور کیسلیں یہاں تک کہ وہ اپنے اُس دن سے بائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے

۳۷
۷۰ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولَى النَّعْمَةِ

اور جو وہ کہتے ہیں اُس پر مہر کر اور خوبصورتی کے ساتھ ان کو چھوڑے رکھو ایسے اور اہل نہمت کے بھٹنے والوں کو چھوڑو

وَمَهْلِكُهُمْ قَلِيلًا ۝

اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے۔

۱۱ ۱۳ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ۱۳ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۱۴ وَبَنِينَ شُرُودًا ۱۵

پسرتیجے اور اس کو جسے میں نے تنہا پیدا کیا اور اس کو بہت سا مال دیا اور بیٹے ویسے جو سر جوڑ میں
۱۵ وَمَهْدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا ۱۶ ثُمَّ يَطْعَمُهُ أَنْ أَزِيدَ ۱۷ كَلَّا إِنَّكَ كَانِ لَا يَتَنَا عَلِيمًا ۱۸

۱۶ فَمَهْلِكُ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلَهُمْ رُوْدًا ۱۷
اور اس کے لئے ہر ایک سا ان بیٹیاں پورے طبع کرتا ہے کہیں اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ ہماری آیتوں کا نشان تھا

۱۹ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۱۹ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۲۰ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۲۱

کہ دے اے کافرو! میں اسے نہیں پوجتا جسے تم پوجتے ہو اور تم اس خدا کو پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا ہوں
۲۱ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ۲۲ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۲۳ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۲۴

اور میں اس کو پوجنے والا ہوں جسے تم پوجتے ہو اور تم اس خدا کو پوجنے والے ہو جسے میں پوجتا ہوں تمہارا دین اور میرا دین

ارتداد

۲۴ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كٰفِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جائے تو وہ جس جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت
۲۵ وَالْاٰخِرَةُ ۲۵ (۵) دیکھو مرتد آخرت میں زباں کلاہیں

۲۶ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا وَاَشْرٰٓذُوْا اَدُوْا كَفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيُبْغِضْ لَهُمْ

۲۶ کچھ شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے پھر کفر ہی میں بڑھتے گئے
۲۷ وَلَا لِيُهْدِيَ لَهُمْ سَبِيْلًا ۲۸

۲۸ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبْعَدُوْا اِيْمَانِيْنَمْ شَرَّ اَدُوْا كَفْرًا لَّمْ تَقْبَلْ تَوْبَتَهُمْ ۲۹ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضّٰلُّوْنَ ۳۰

۲۹ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر ہی میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی گمراہ
۳۰ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۳۱

۳۱ اور وہی لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے
۳۲ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ زَوْهًا ۳۲ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۳۳

۳۳ اور جو شخص بھی ایمان کا انکار کرے گا اس کے اعمال اکارت بائیں گے اور آخرت میں وہ گھٹانا اٹھانے والوں میں ہوگا

۱- مرتدوں کے عمل اچان ہیں

۲- مرتدوں کی منگرت نہیں

۳- کفر بڑھانے والے مرتدوں کی توبہ قبول نہیں

۴- مرتد ہمیشہ دوزخ میں ہیں

۵- مرتد آخرت میں پان کا ہیں



عبادت

۲۱	یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبکم لعلکم تتقون ○	۱۔ ایک خدا کی عبادت کا حکم
۲۲	واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئاً	
۲۳	فَاعْبُدُوهُ	اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو
۲۴	فَاعْبُدُوهُ	پس اس کی عبادت کرو
۲۵	ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً	اپنے پروردگار کو گرا گرا کر اور دل ہی دل میں پکارو
۲۶	ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ	یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار پس تم اس کی عبادت کرو
۲۷	فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ	پس تو اسی کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو
۲۸	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ○ ۲۹ واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين ○	پس تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی ہوا کی زبان کو راجعہ کرنے والوں میں ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرنے تک تجھ کو یقین نہ آئے
۳۰	وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّغُورَ	اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو
۳۱	وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الْإِلَٰهَ	اور تمہیں پروردگار نے یہ حکم کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو
۳۲	فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○	بے شک اللہ ہی میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے سو تم اس کی پوجی سیدھا راستہ ہے
۳۳	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُوهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَاتِهِ	اور (تم) آسمان اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے پس تو اسی کو پوج اور اسی کی عبادت پر چھارو
۳۴	فَاعْبُدْنِي	پس تو میری ہی عبادت کرو
۳۵	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ○	اور جس نبی ہم نے تم سے پہلے بھیجا وہی ہمیں ہی وحی پہنچاتا ہے کہ میرے سوا کوئی سجدہ نہیں تو تم میری ہی عبادت کرو

۹۲/۳۱ اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً زَبَّ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝

بد شک یہ تمہاری جماعت بنام اور وہ ایک ہی جماعت میں ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو
۹۳/۳۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

سلمانوں! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم
تفلحون ۝

فلاح پاؤ

۹۴/۳۳ اِسْمَاءُ اُوتِرَتْ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ زَوَامِرَاتُ اَنْ

مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے (پروردگار کی جس نے اسے حرمت دی ہے عبادت کروں اور ہر چیز اسی کی
اَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرماں برداروں میں رہوں

۹۵/۳۴ اَعْبُدُوا وَاللَّهِ

اللہ کی عبادت کرو

۱۶/۳۵ وَاَعْبُدُوهُ

اور اسی کی عبادت کرو

۹۶/۳۶ يَعْجِدِي الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ اَرْضِي وَاِسْعَةً فَاِيَايَ فَاعْبُدُونِ ۝

اے میرے مسلمان بندو! کچھ شک نہیں کہ میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو

۹۷/۳۷ وَاِنْ اَعْبُدُونِي فَاَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو یہ ہی سیدھا راستہ ہے

۹۸/۳۸ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ وَاللّٰهُ الدِّينَ الْمُخْلِصَ

پس تو اللہ کو فانی اسی کی اطاعت کرتا ہوا پوج
من لو کہ خالص اطاعت اللہ کے لئے ہے

۹۹/۳۹ قُلْ اِنِّي اُوتِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

کہنے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کو فانی اسی کی اطاعت کرتے ہوئے پوجوں

۱۰۰/۴۰ قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ط

کہنے کہ میں اللہ کو فانی اسی کی اطاعت کرتا ہوا پوجتا ہوں

۱۰۱/۴۱ بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں ہو

۱۰۲/۴۲ فَاذْعُبُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

پس تم اللہ کو فانی اسی کی اطاعت کرتے ہوئے پکارو اگر یہ کافر براہیں

۶۵ ۱۰ ہُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم اس کو فاس اس کی اعانت کرتے ہوئے پکارو سب تو یقیناً اللہ کے لئے جو سب سے بڑا ہے

۶۴ ۱۱ فَاعْبُدُوهُ ۝

پس اس کی عبادت کرو

۶۵ ۱۲ فَاسْجُدْ وَابْتَغِ اللَّهَ وَالْعِبَادَةَ ۝

پس السجود کی سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو

۶۶ ۱۳ أَيْنَ اعْبُدُ وَاللَّهُ ۝

ہاں وہ کہہ کر تم اس کی عبادت کرو

۶۷ ۱۴ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَكُمْ مِنْ جَوْعَةٍ ۝

پس ان کو پائے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا

۶۸ ۱۵ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أُتِمِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ

اے نبی! کہہ دے کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان کو پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہہ دے کہ میں تمہاری خواہشوں

إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ ۝

پر نہیں چلتا بے شک میں ان کے پیچھے ہوں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں نہ رہوں گا

۶۹ ۱۶ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۝ إِنَّكُمْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝

یہ کہہ دے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں

۷۰ ۱۷ أَمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتَهُ ذَٰلِكَ الَّذِي يُقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اس نے تم کو دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے

۷۱ ۱۸ أَلَمْ نَعْهَدْ الْبِكْرُوبَيْنِ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

۷۲ ۱۹ قُلْ أَقْعُدِ اللَّهُ تَأْمُرُ فِي أَعْبَادِهَا الْجَاهِلُونَ ۝

اے نبی! کہہ دے کہ اے جاہلوں! کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں

۷۳ ۲۰ لَا جُرْمَ إِنَّهَا تَدْعُونَ بِنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ۝

فرد ہے کہ جس چیز کی عبادت کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو پکارنا دنیا میں صحیح ہے اور نہ آخرت میں

۷۴ ۲۱ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ۝

کہہ دے کہ مجھے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان کو پوجوں جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو جبکہ میرے پروردگار کی طرف

وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

میں میرے پاس اس بات کی کھلی دلیل بھی آئی ہے کہ میں جہاں کے پروردگار کا فرمان بردار ہوں

۲- میری اس عبادت کی نسبت

۳۴ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ

۳۴ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم اسی کو پوجتے ہو

۳۵ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَإِن لَّكُمْ مِنهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

۳۵ اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھول کر ڈرانے والا ہوں

۳۶ وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

۳۶ اور یہ کہ مسجد اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکار

۳۷ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا

۳۷ کسی بشر کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور دانائی اور نبوت دے پھر وہ بشر لوگوں سے کہے کہ اللہ کو پھوڑ کر میرے بندے بنو لیکن

۳۸ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

۳۸ وہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ اس لئے کہ تم کتاب لوگوں کو پڑھاتے ہو اور اس لئے کہ تم خود پڑھتے ہو

۳۹ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذَ وَالْمَلَكُوتَ وَالنَّبِئِينَ أَرْبَابًا أَيَا مَرُّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ

۳۹ اور وہ تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناو کیا وہ تمہیں اس کے بعد کہ تم

۴۰ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

۴۰ مسلمان ہو کر حکم دے گا

۴۱ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

۴۱ بے شک جو فرشتے آسمانوں پر ہیں وہ اس کی عبادت سے غرور نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اس کی عبادت سے غرور کرتے

۴۲ دَلَاهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا

۴۲ اور اس کے لئے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے غرور کرتے

۴۳ يُسَبِّحُونََهُ نَوًّا ۝ يُسَبِّحُونَ النُّجُومَ وَالنَّجْمَ وَالنَّجْمَ وَالنَّجْمَ ۝

۴۳ ہیں اور نہ تھکتے ہیں رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور ستی نہیں کرتے

۴۴ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ دَبَلْ عِبَادًا مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ

۴۴ اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے اولاد اختیار کی ہے تو وہ تو پاک ہے بلکہ وہ معزز بنیاد ہے بات کرنے میں ان سے سبقت نہیں

۴۵ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يُعْمَلُونَ

۴۵ کرتے اور وہ اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں

۴۶ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

۴۶ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار

۴۷ سَيَذَلُّونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

۴۷ دوزخ میں داخل ہوں گے

۳- کسی نبی کا حق نہیں کہ وہ اپنی یا فرشتوں کی عبادت کا حکم دے۔

۴- خدا کے پاس والے کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے

۵- خدا کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے


۵۶ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ فَرْقًا وَمَا

خلقت کی پیدائش سے
میں کو صرف عبادت کے لئے ہے

اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے روزی پابستوں اور نہ یہ

أُرِيدُ أَنْ يَتَّعِبُونِ ۝

پابستوں کروں مجھے کھانا کھلائیں



کتاب العبادات

اصلاوة نماز

انبیائے سابقین کو نماز پڑھنے کا حکم
تمام نبی نماز پڑھا کرتے تھے

۳۸ فنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

۱۔ ذکر یا علیہ السلام

پس فرشتوں نے اس کو پکارا اور وہ رجبہ کی (محراب میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا
۳۹ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَخِيهِ $\times \times \times$ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَكَبِّرِ التَّوْحِيدَ

۲۔ سوری ہارون علیہ السلام

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ نماز کو قائم رکھو اور توحید کو بشارت دے

۴۰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

۳۔ شعیب علیہ السلام

میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے سستی، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھو

۴۱ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَبْغُوا آبَاؤُنَا

۴۔ ابراہیم علیہ السلام

انہوں نے کہا اے شعیب کیا تجھے تیری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم ان (معبودوں) کو چھوڑ دیں جن کو باپ دادا پوجتے تھے آتے ہیں

۴۲ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعِزِّنَا

۵۔ ابراہیم علیہ السلام

اور وہ وقت یاد کر جب ہم نے قاعہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع امن کی جگہ بنایا اور تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ اور ہم نے

۴۳ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

ابراہیم اور اسماعیل سے ہمدیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور مجاہدوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو

۴۴ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَلْتُ مِن دَرِيْعَتِي بَوَادِعَ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ تَبَايَعْنَا الصَّلَاةَ

اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی ادا کو ترسے حرمت والے گھر کے پاس اس خیل میں بسایا جس میں کھیتی نہیں ہے پھر پروردگار نے اسے ہرگز نہ مانا پھر

۴۵ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّ رَبَّنَا غَفُورٌ ذُو الرَّحْمَةِ

اے ہمارے پروردگار مجھے نماز پڑھنے کا رکھ اور میری اولاد میں سے بھی اور میری دعا قبول فرما اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے

۴۶ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

۱۔ باب اور توحیدوں کو جس دن حساب قائم ہو بخش دینا

لَبِنِ اَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَاتَيْتُمُ التَّرَاكُوهَ وَامْتَمْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُوهُم

اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دینے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو نافرمان نہ ہو
اللہ قَرَضًا حَسَنًا لَا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخْلَكُمْ جَنَّتِ بَيْتِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْفُسُ

دیتے رہے تو میں ضرور تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں
الَّذِينَ اِنْ مَكَتُّهُمْ فِيْ اَرْضٍ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاسْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَفِيْ نَهْوِ

یہ وہ ہیں کہ اگر ہم ملک میں ان کے پاؤں جمادیں تو وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برے
عَنِ الْمُنْكَرِ
کاموں سے روکیں

۱۲۔ صحابہ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے۔

نماز اسلام

وَتِيَابِكَ فَطَهَّرُوهُ

اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو

۱۔ طہارت جامہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ

مسلمانو! جب تم نماز کی (ادائیگی کی) طرف کھڑے ہو، تو اپنے منہ اور اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھویا کرو اور اپنے سر پر
اَسْحَبُوا رُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

پر مسح کریا کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھویا کرو

۲۔ وضو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا

مسلمانو! جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم اس کو سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو اور نہ ناپاک

الْأَعَابِرُ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ

کی حالت میں جاؤ مگر رتہ پلٹے ہوئے (مسجد سے گزر جاؤ تو وضو نہ نہیں) یہاں تک کہ تم غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر یا کوئی

أَوْ لِمَسَمِهِ النَّسَاءُ فَلَمْ يَجِدْ أَوْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

تمہیں سے جانے ضرور سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا تھک کر دپس اپنے سر نہوں اور

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوفًا غَفُورًا

اپنے ہاتھوں پر سچ کر لو، بیشک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ

اور اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تمہیں سے کوئی جانے ضرور سے آیا ہو یا تم نے عورتوں

لِمَسَمِهِ النَّسَاءُ فَلَمْ يَجِدْ أَوْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

کو چھوا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا تھک کر دپس اس سے اپنے سر نہوں اور ہاتھوں پر سچ کر لو

۳۔ غسل و تیمم

۲۱
۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

اور نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو خوب پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تا کہ تم شکر کرو

۴۳ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو

۴۵ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے

۱۱۰ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَرَّبُ مَوْلَا تَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحَدُّثُهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اپنے لئے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے بے شک
اللَّهُ يَهْدِيكُمْ إِلَى صَبِيرٍ

اللہ ہر تم کو ہدایت کرتے ہو اور صبر کی کتاب

۱۵۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

مسلمانو! نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے

۴۶ وَأَنْ أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

اور یہ کہ نماز کو قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو اور اسی کی طرف تم اکٹھے کئے جاؤ گے

۳۱ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِمَّنْ

میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ زکوٰۃ قائم رکھیں اور اس مال میں سے خرچ کرتے رہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِمْ وَلَا خِلاَءَ

پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی

۹۸ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

ہاں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو

۱۳۲ وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْتَلِكْ رِشْقًا غَنًّا تَزُرُّكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم ہے اور اس کا بوجھ اٹھا ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھ کو روزی دیتے ہیں اور انہیں نیک سیرگی
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا خَيْرًا لَكُمْ تَقْلِحُونَ

مسلمانو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تا کہ تم فلاح پاؤ

۴۸ فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا خَيْرًا لَكُمْ تَقْلِحُونَ

تو نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو منسوب پجارتے رہو وہ تمہارا آقا ہے سو کیا ہی رحمت آقا اور کیا ہی حمد و ثنا

۴- نماز کا حکم

۵۶ **وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** ○

اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کا تاکر تم پر رحم کیا جائے

۵۷ **أَقْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَلَمِ الصَّلَاةُ** ○ **فَأَقْرُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا** ○ ○ ○

اس کتاب کو پڑھا جو تیری طرف وحی کی گئی ہے اور نماز کو قائم رکھ تو ایک خدا کا، جو کراہتا نہ دین پر قائم رکھ

۵۸ **مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ** ○ **مِنَ الَّذِينَ**

ان کی طرف رجوع ہوتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں (داخل) نہ ہو

الَّذِينَ قُرُوءًا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ○

ان لوگوں میں (دھل) نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو ٹھیکے ٹھیکے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے ہر گروہ اپنے ہی خیالات سے خوش ہے۔

۵۹ **وَاقِمَنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطَعَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**

اور اسے سنبھریں گی میں نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو

۶۰ **ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤَظِكُمْ صِدْقًا فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا نَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ**

کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے خیرات کیا کرو پس جب تم نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ تم پر ہریان ہو گیا

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ○ **خَيْرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ** ○

تو نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تمہارے عملوں سے خیر ہے

۶۱ **وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرُءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا**

اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو خوش دلی سے قرض دو

۶۲ **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا** ○

بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے

۶۳ **وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ ظُرْفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي**

اور دن کی دوڑوں طرف نماز کو قائم رکھ اور رات کے ٹھنڈے میں بھی بے شک نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ یاد کرنے والوں

لِلَّذِينَ كَفَرُوا ○

کے لئے (میری) یاد ہے

۶۴ **اقِيمُوا الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا**

سورج ٹھلے وقت نماز کو قائم رکھ رات کی تاریکی کے چھا جانے تک اور فجر کی قرأت بس بے شک فجر کی قرأت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں

۶۵ **فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ**

تو جو کہتے ہیں اس پر صبر کر اور سورج کے طلوع اور اس کے غروب پہلے اور رات کے حصوں میں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی

اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

پاکی بیان کر اور دن کی طرفوں میں بھی پاکی بیان کر تاکہ تو راضی ہو جائے

۵ نماز بقیہ اوقات

۳۰ فَبِئْسَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ○

ترانہ کی پاکی بیان کر رہا ہے تم صبح کرنا اور شام کرنا اور صبح کرنا اور شام کرنا

۳۱ وَاللَّهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ○

اور اسی کے لئے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور عصر کے وقت ہمیں پاکی بیان کرنا اور صبح کرنا اور شام کرنا

۳۲ وَسُبْحَانَ مُحَمَّدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ○

اور سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرنا

۳۳ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ ○

اور رات میں بھی اس کی پاکی بیان کرنا اور سجدے نماز کے بعد بھی

۳۴ وَسُبْحَانَ مُحَمَّدٍ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ○ ۳۵ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ ○

اور اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرنا اور رات میں بھی اس کی پاکی بیان کرنا اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی

۳۶ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَجِيلًا ○

اور صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام لے

۳۷ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِعِينَ ○

تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز کے اڑھائی کی نماز (یعنی عصر) کی اور اللہ کے لئے خاموش کھڑے رہنا

۳۸ وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ○ ۳۹ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْتَدُونَ ○

اور ہر ایک مسجد کے پاس اپنے سرہنوں کو پیدھا رکھو اور نماز کے اڑھائی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو پوجو جیسا تم لوگوں کو پیدا کیا ہے

۴۰ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ○

اس نے ایک فریق کو راہ راست پر لگا دیا اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی

۴۱ يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اٰثَرَ الْبَرِّيِّ وَالْاَرْضَ وَالْجِبَالَ ○ ۴۲ اِنَّكَ وَالَّذِينَ ظَلَمْتَ مِنْ اٰدَمَ عِندَ الْجَنَّةِ كَانِئِينَ ○

اے نبی آدم ہر مسجد نماز کے وقت اپنی زینت اپنے ساتھ رکھو اور کھانا اور پیر اور نفوس خردی ذکر بیکہ نفسوں فرجوں کو پڑھیں

۴۳ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْكَبِ ○ ۴۴ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

کہہ دو کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور ستھری روزیوں کو کہہ دو کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنے

۴۵ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ○ ۴۶ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

لئے ہے جو ایمان لائے ہیں قیامت کے دن فالس ان ہی کے لئے ہیں ہم ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں اور نشانیاں بیان کرتے ہیں

۴۷ يٰۤاٰيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَاٰزٍ ○

مسلمانو! جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ

۴۸ وَلَا يَجْهَرَنَّ بِصَلٰوةِكَ وَلَا يَخَافُتْ بِهَا وَاَبْتِغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

اور تو اپنی نماز بہت اونچی آواز سے نہ پڑھ اور نہ اس کو بہت ہلکی آواز سے پڑھ اور اس کے درمیان راستہ ڈھونڈنے

۶۔ در بیان نماز کی پابندی

۷۔ نماز میں

۸۔ نماز زینت کے ساتھ

۹۔ زینت کو کس نے حرام کیا

۱۰۔ نماز نشہ کی حالت میں

منع ہے۔

۱۱۔ قرآن نماز کو وسط آواز

میں۔

۱۳- عابتین کو تھوڑی
وقت

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ تَرَضِيٌّ آخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ
فدائے معلوم کریا کہ تم میں رضی ہو گئے اور دوسرے اللہ کے فضل روزی کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہو گئے اور کچھ لوگ
آخِرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلِينَ قَاتِلِينَ وَمَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
اللہ کی راہ جہاد کر رہے ہو گئے تو اس میں سے جس قدر تمہیں آسان معلوم ہو پڑھو اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو
وَاقْرَأُوا لِلَّهِ قَرْنًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا إِلَّا أَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
اور اللہ کو قرآن مندد اور جو نیکی تم اپنے نفسوں کے لئے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے وہ بہتر اور بڑا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

ثواب ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
۹
۱۳- نماز جمعہ۔

الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
مسلمانو! جمعہ کے دن جب نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لئے دوڑو
السَّلَامَةَ فِي الْبَيْعِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
چھوڑو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آلِهَكُمْ تَقْلِحُونَ ۝
اور اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ

۱۴- نماز خوف و سفر۔

اور اللہ کے لئے نماز سفر میں (خاموش کھڑے رہو

فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا وَلَا أَوْكَبًا نَاءً فَلَا أَوْمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلِمْتُمْ قَالِمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝
۲۳۸
۱۵- نماز خوف زیادہ پڑھو

پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار چلتے چلتے یا سوار کی حالت میں (نماز پڑھو) پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو اس طرح
وَلَا إِحْرَابَ بَعَثُوا فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا خِفْتُمْ أَنْ
اور جب تم ملک میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کرو (یعنی چار رکعت کی بجائے دو) اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر
تَقْتُلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے

۱۶- نماز خوف میں جماعت

وَأَذَاكُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
اور اے نبی جب تو ان کے درمیان ہو اور وہ نماز پڑھانے لگے تو ان میں سے ایک فریق تیرے ساتھ (نماز میں) کھڑا ہو جائے

أَسْلَحَتْهُمْ فَذَاذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وِرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا
اور وہ اپنی ہتھیار اپنے ساتھ کھڑے ہیں پھر جب وہ سجدہ (ایک رکعت پوری) کر چکیں تو تمہارے پیچھے بیٹ جائیں اور دوسرا فریق جس نے نماز
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا وَاحِدًا وَاحِدًا وَأَسْلَحَتْهُمْ وَذَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ
نہیں پڑھی آجائے اور وہ تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنا چاؤ اور اپنی ہتھیار اپنے ساتھ لے لیں کافر چاہتے ہیں کہ

۱۷- نماز خوف میں ہتھیار ساتھ

۱۸- نماز خوف میں ہتھیار ساتھ

۱۹- نماز خوف میں ہتھیار ساتھ

یاد کرو کہ جب نماز میں سے کچھ کم کرو تو اللہ کو اس طرح پڑھو

۱۹۔ حالت مذ میں ہوتا
اتار رکھو مگر اپنا چاؤ اپنے
ساتھ رکھو۔

عَنْ اسَلِحْتِكُمْ وَاَمْتَعْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى
کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ڈرائی کے اسباب غافل ہو جاؤ پھر وہ تم پر ایک قسمی ٹوٹ پڑیں اور تم پر گناہ نہیں اگر تمہیں ہوش
مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ تَضَعُوْا اسَلِحَتِكُمْ وَخُدُوْا وَاحِدًا رُّكُوعًا اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ
کی تکلیف ہو یا تم پر یا تم پر ہو کہ تم اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ اپنے ساتھ رکھو بے شک اللہ نے کافروں
عَدَابًا مَّهِينًا ۝

کے لئے ذلت کا مذاب تیار کیا ہے

۲۰۔ نماز خوف کے بعد کھڑے
بیٹھے بیٹھے جیسی حالت
ہو اللہ کو یاد کرو۔

فَاِذَا اقْبَضْتُمُ الصَّلٰوةَ فَادْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قَعُودًا وَّ اَوْ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ لِمَا كُنْتُمْ
پھر جب تم نماز ادا کر چکے تو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی گردنوں پر دینے جیسی حالت میں اللہ کو یاد کرو پھر جب تم ایمنان کی حالت میں
الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا ۝

ہو جاؤ تو نماز کو تمام رکھو بے شک نماز مسلمانوں پر بقیہ اوقات فرض ہے

۲۱۔ نماز تہجد

لَا يَكْفِيْهَا الْمَرْءُ قَلِيلًا ۝ ۳۳ ۚ فَمِمَّنْ يَلْتَمِسُ اَلْاَقْلِيَالَ ۝ ۳۴ ۚ تِصْفَةٌ اَوْ اَنْقُصَ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ ۳۵ ۚ

اسے کپیسے میں لپیٹنے والے سات کو نماز کے لئے اقل نماز سمجھنا اور اسی رات نماز پڑھو یا سمجھو اس سے کم دے
اَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۚ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا ۝ ۳۶ ۚ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَلَاثًا ۝ ۳۷ ۚ اِنْ تَاَشَاءْ
یا اس پر کچھ زیادہ کر اور قرآن کا پڑھنا واضح طور پر پڑھو بے شک ہم تجھ پر بھاری بات ڈالیں گے بے شک رات کا
الْيَلِّ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ وَاَوْفُوا قِيْلًا ۝ ۳۸ ۚ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيْلًا ۝ ۳۹ ۚ وَاذْكُرْ اَسْمَ
قیام نفس کے مال کرنے کے لئے زیادہ سخت اور قول کو بہت سیدھا کرنے والا ہے بیشک تیرے لئے دن میں بڑا بیشکل ہے اور اپنے پروردگار
رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ الْبَيْتَ تَبْتِيْلًا ۝

کا نام یاد کرو اور ہر طرف متوجہ ہو کر سب سے ملجھو ہو جا

۲۲۔ تہجد میں جہد ہو سکے
اسی قدر قرأت قرآن کافی
ہے۔

۳۳ ۚ وَمِنَ الْيَلِّ فَاسْتَجِدْ لَهٗ وَاسْتَجِبْ لِمَا طَوِيْلًا ۝

اور رات میں اس کو سجدہ کر اور رات میں بہت دیر تک اس کی پاکی بیان کر
اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثِي الْيَلِّ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ
بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات کے قریب اور اسی رات اور تہائی رات اٹھتا ہے اور ایک جماعت ان میں سے
مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُعَدُّ الْيَلِّ وَالنَّهَارَ عِلْمًا اَنَّ لَنْ نَّخْصُوْهُ فِتَابًا عَلَيْكُمْ فَاَقْرءُوا مَا
بھی جو تیرے ساتھ میں آتی ہے اور اللہ رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے اس نے جان لیا کہ تم اس کو نہ بنا سکیے پس وہ تم پر ہرگز
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۝

ہذا تو جتنا قرآن سے آسان ہو پڑھ لیا کرو

۲۳۔ تہجد اور مسلمانوں کو سخت
نمازوں کو یاد کرو اور ان کا حکم تھا

۳۴ ۚ اَلْعُرْشٰى اِلَى الَّذِيْنَ قَبِلْ لِهَمِّكُمْ كَقَوْلِ الْاَيْدِيْكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا اللّٰهَ كَوْنًا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
وہ نبی ایسا کرنے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جن کو کہا گیا کہ ابھی اپنے ہاتھ رکھو اور نماز کو تمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے ہو پھر جب ان پر جہاد فرض

الْقِتَالِ إِذَا قَرَأْتُمْ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا إِنَّا لَنَرَاهُمْ

کیا کیا تو اسی دم ان میں سے ایک ذریعہ لوگوں سے ایسا ڈرنے کا جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا اور
كَتَمَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۗ لَوْلَا آخِرُ تَنَائُلِي أَجَلَ قَرِيبٍ ۗ

انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا تو نے ہم کو ایک قریب مدت تک اور بہت ہمت کیوں نہیں دی
وَيَصِدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ

اور شیطان چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا وَأَقْلَبْنَا مَذَلِكُمْ بِأَنفُسِهِمْ فَوَمَدُوا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

اور جب تم نماز کے لئے بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کو کھیل اور ہنسی اڑاتے ہیں کیوں کہ یہ بے عقل ہیں
وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۗ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَلِيلًا قَلِيلًا وَهُمْ يَرْجُونَ رَحْمَةً مِّنَ رَبِّهِمْ

اور بیشک نماز بھاری ہے مگر ان فرود تنی کرنے والوں پر نہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ
رَاحِمُونَ ۗ

وہ اسی کی طرف جانے والے ہیں
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَلِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۗ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ

بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور لقیامت کو وہ ان کو دھوکا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کو اٹھتے ہیں تو سست اٹھتے
يُرَاءُونَ وَالنَّاسُ لَا يَذُنُّونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ

ہیں لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

بے شک نماز بے حیائیوں اور گناہ سے روک دیتی ہے
لَيْسَ الذِّمَّانُ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الذِّمَّانَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے مومنہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو
الْآخِرِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ ۗ وَاتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لایا اور اس نے مال کو باوجود اس کی محبت کے دیا اللہ کی محبت میں ارشتہ داروں اور یتیموں اور
وَالسَّالِكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ ۗ

عناجوں اور مسافروں اور منگتوں کو اور گروہوں کے چھڑانے میں دیا اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتا رہا۔
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

تمہارا دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز کو قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں
وَهُمْ رَاكِعُونَ ۗ

اور وہ رکوع کرتے ہیں

۳۴- شیطان اللہ کی یاد

اور نماز سے روکنا چاہتا ہے

۲۵- اہل کتاب کی ہنسی

اڑاتے ہیں۔

۳۶- نماز خدا سے ڈرنے

والوں کے سوا سب پر

بھاری ہے۔

۳۷- ہستی کا علی اور یاکاری

سے نماز پڑھنا منافقوں کا

کام ہے۔

۳۸- نماز گناہوں سے روکتی ہے

۳۹- نماز سبھلہ نیکی کے ہے

۴۰- مسلمانوں کے فرق صرف

وہی مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے

ہیں۔

۳۱- نمازیوں سے زیادت نہیں۔

۵۹ فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوة فخلوا سبیلکھم

پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہیں ان کی راہ چھوڑ دو

۳۲- سونوں کی جنت نما پر حساب۔

۱۱۹ فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوة فاحوا تکفیرا للذین

پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں

۶۱ والمؤمنون والمومنات بعضهم اولیاء لبعضهم بالمعروف والنہی عن المنکر

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بعض بعض کے دوست ہیں وہ ایسی بات کا حکم دیتے ہیں اور بُری بات سے روکتے ہیں

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِمَا نَزَّلْنَا لَهُ مِنَ السُّورَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

اور نماز کو قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بے شک

اللہ عزیز حکیم

اللہ غالب ہے حکمت والا

۳۳- نمازیوں کے لئے دار آخرت۔

۱۱۳ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ واقاموا الصلوة وانتقلوا من دار الدنیا

اور وہ جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات پانے کے لئے صبر کیا اور نماز کو قائم رکھا اور اس دار میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے پوشیدہ

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور نظائر طور پر خرچ کیا اور وہ نیک کے ساتھ ہی کو رہنے کرتے ہیں انہیں کے لئے آخرت کا گھر ہے

۳۴- نمازیوں کے لئے بہشت

۹۶ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ ۝۹۶ اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝۹۶

اور وہ جو اپنی نمازوں پر حفاظت رکھتے ہیں وہی وارث ہیں جو بہشت کے وارث

الْفِرَادُوسُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ہوئے وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں

۳۵

۶۱۴ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دھیمے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہے۔

۶۱۵ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ لِرَبِّهِمْ سُبْحٰنًا وَقِيَامًا ۝۶۱۵ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

اور جو اپنے پروردگار کیلئے اپنے گھروں میں سجدے اور تمام میں رات گزارتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کے

عَذَابَ جَهَنَّمَ ۝۶۱۵ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۶۱۵

عذاب کو ہٹا بے شک اس کا عذاب چھلنے والا ہے بے شک وہ بُری قرار گاہ اور بُری قیام گاہ ہے

۶۱۶ وَالَّذِينَ يَقُولُوا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ قٰمِعِنَا لِمُنْتَقِنٍ اِقَامًا

اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بی بیوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹنڈک عطا فرما اور ہم کو

۶۱۷ اُولَئِكَ يَجْزِيكَ الْعَرْشُ وَمَا صَبَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا سِجِّينًا ۝۶۱۷ خٰلِدِينَ

یہ لوگ ہیں جن کو ان کے مہر کے بلے رشتہ میں ابلا جائے گا یعنی ان میں ان پر دماغے حیات اور سلام ٹالا جائیگا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے

فِيهَا حَسَنَاتٌ مِّنْ قَبْلِهِ أَوْ مَقَامًا ۝

وہ دن میں ہمیشہ رہنے والے ہونگے وہاں ہی قرارگاہ اور اچھی قیام گاہ ہے۔ - جس چیز سے پہلے وہاں سے جہنم لے کر لیا گیا ہے۔

۱۳۴ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُكْرِهُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَلْبَسُوا ثِيَابًا كَالثِيَابِ الْمَكِينَةِ ۝

ہاں ہی آیتوں پر تو میں وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ جب سے میں گڑبڑ سے میں اور اپنے سر

۱۳۵ تَجَانُّوهُ يُفِيحُونَ فِيهَا بِرَبِّهِمْ وَأَلْبَسُوا ثِيَابًا كَالثِيَابِ الْمَكِينَةِ ۝

ان کے پہلو خواہجہ ہوں سے دور رہتے ہیں اپنے پسند و گناہ کو ڈر کر اور دلچ سے بچاتے ہیں اور جو پہننے ان کو دیا ہے اس میں سے فوج کرتے ہیں

۱۳۶ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لئے انکسوں کی ٹھنڈک سے کیا چیز چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اس کے عوض جو وہ کرتے تھے

۱۳۷ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی اور نذر کرنا کرنا اور ان کا کام ان کے درمیان شورہ سے ہوتا رہا اور وہ اس میں برابر ہونے لگے اور جو دیا گیا اس میں

۱۳۸ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ آتَاهُم مِّن تَحْتِهَا نَهْرٌ مَّائِدَاتٌ مِّن ذَهَبٍ لَهُمْ فِيهَا خَمْرٌ وَسُورَةٌ مِّنْ تَحْتِهَا نَهْرٌ مِّنْ لُّؤْلُؤٍ مُّكْتَمٍ لُّبَّاقٍ يُخَالِطُهُمْ فِيهَا نَافِثَاتٌ لَّيْلًا مِّنْ سَبْطِ الْجَبَلِ الْأَعْيُنِ عَلَىٰ أَرْدَائٍ عَالِيَةٍ ۝ فِيهَا خَيْرٌ مِّمَّا يَحْسَبُونَ ۝

بے شک متقی بہن اور جنہوں میں ہیں اس نعمت کے جو ان کے پروردگار نے ان کو دی ہے بیشک وہ اس سے پہلے (دنیا میں) نیکو کار تھے

۱۳۹ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۝ وَإِلَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَسْتَفْهِرُونَ ۝

رات کے کتر صد میں سوتے تھے اور وہ صبح کے وقتوں میں معافی اچھتے ہیں

۱۴۰ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَأْوَمُونَ ۝

نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی رکھتے ہیں

۱۴۱ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝

اور جو لوگ اپنی نمازوں پر حافط رکھتے ہیں وہی باغوں میں عزت کئے جائیں گے

۱۴۲ آیت سے ۱۴۱ تک بھی دیکھو بیان صبر۔

۱۴۳ وَالَّذِينَ يَسْتَكُونُونَ بِالْكُتُبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُهُمْ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ ۝

اور جو کتاب کو مضبوطی سے پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز کو قائم رکھا تو ہم ان کے کام کرنے والوں کا اجر مانع نہیں کرتے۔

۱۴۴ الْقُرْآنُ ۝ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ وَ

یکتب ہے اس میں شک نہیں ہے پابیت ہے متقیوں کے لئے جنہیں دیکھے ایمان لاتے ہیں اور

۱۴۵ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ خ X X ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۝

نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اس دال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے فوج کرتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں

۱۴۶ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتْلُونَ ۝

اور یہی تلاخ پلنے والے ہیں۔

۱۳۴ - نماز کا اجر مانع نہیں ہے

۱۳۵ - نمازیوں کے لئے فلاخ آخر

۲۳ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ۱۳۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِعُونَ ۝ ۱۳۲ وَالَّذِينَ هُمْ

بیکہ سمنوں نے نفل پائی جہاں نمازیں فرمائی کرتے ہیں اور وہ جو اپنی

عَلَى صَلَاتِهِمْ يَخَافُونَ ۝ ۱۳۳ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ ۱۳۴ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْغُرُودَ وَسُ

نمازوں کی حفاظت رکھتے ہیں وہی اعلیٰ وارث ہیں جو بہشت کے وارث ہوں گے

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں

۳۱ الْقُرْ ۝ ۱۳۵ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ ۱۳۶ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۝ ۱۳۷ الَّذِينَ يُقِيمُونَ

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں نیکو کاروں کے لئے ہدایت و رحمت جو نماز قائم

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ ۱۳۸ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن

رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں وہی اپنے پروردگار کی طرف سے

مَرَارَتِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

ہدایت پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں

۳۲ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ ۱۳۹ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

بے شک اس نے نفل پائی جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام پھر نماز پڑھی

۳۳ إِنَّمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّهِ مِن آثَرِهِمْ إِذْ أَذْكَرَ تَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِالْآخِرَةِ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ

اللہ کی سجدوں کو ترس دہی شمس آباد کرتا ہے جو اللہ اور ربابت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دینا اور وہ

يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتا تو امید ہے تو ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہوں

۳۴ وَ ۱۴۰ ۝ ۱۴۱ ۝ ۱۴۲ آیات بھی دیکھو بیان نمازیوں کو فلاح آخرت۔

۳۵ طَسَّ فَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ ۱۴۳ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۴۴ الَّذِينَ

یہ قرآن اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں مومنوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے جو

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں

۳۶ وَبُشْرَىٰ الْمُحْسِنِينَ ۝ ۱۴۵ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصُّورِ بْنِ عَلِيٍّ مَا أَصَابَهُمْ وَوَدَّ

انسان فرمائی کہنے والوں کو بشارت دے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نیکو عملوں میں میر کرنے والوں کو جو نہیں سنتی ہیں

الْمُتَّقِينَ الصَّلَاةَ وَرِمَارًا مِّنْ قَلْبِهِمْ يَتَعَفَّوْنَ ۝

اور نماز کے قائم رکھنے والوں کو اور ان کو جو اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔

۳۶۔ نمازیوں کو ہدایت۔

۳۷۔ نمازیوں کو بشارت۔

۳۷ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما

ایسے مرد کہ انہیں اللہ کی یاد سے اور نماز کے قیام رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت نفل کرتی ہے اور نہ بیع وہ اس دن سے ڈرتے ہیں
تثقل قلبه في القلب والابصار ۳۸ ليجزيهم الله احسن مما عملوا ويزيدهم من فضله
جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ انسان کو ان کا اچھے عملوں کا بدلہ اور اپنے نفل سے ان کو اور زیادہ

۳۹ ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون

بیشک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں اور انہوں نے نماز کو قیام رکھا اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے سچا کر اور دلانی طور پر خرچ کیا وہ ایسی
تجارة لن يبوروا ۴۰ ليوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله ۴۱ الله غفور شكور
تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گمان نہیں ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے پورے اجر سے اور اپنے نفل سے ان کو اور زیادہ ملے بیشک بخشنے والا قادر ہے
آیت ۳۷ ۳۸ بھی دیکھو بیان نمازیوں کو ہدایت۔

۳۸ نمازی خوف و غم میں۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور نماز کو قیام رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کے لئے ان کا اجر ان کے ہمدردگار کے
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
موجود ہے اور نہ ان پر خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے

۳۹ نمازیوں کو اجر عظیم۔ لكن الراغبون في علمهم لم ينالوا رتبته وهم الاصلون في العلم والذين آمنوا و عملوا الصالحات وآتوا الزكاة والذين آمنوا و عملوا الصالحات

لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں کچھ ہیں اور میں اس پر ایمان لاتے ہیں جو میری طرف اتار گیا ہے اور جو جگہ سے پہلے
قبلك والمؤمنين الصلوة والمؤمنون بالذات واليوم الآخر
اتار گیا ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین رکھتے ہیں
اولئك سنوربتهم اجر عظيم
وہی میں جن کو ہم مقرب ہی بڑا ثواب دیں گے۔

۴۰ نمازی اور نیک نمازیوں میں۔ امن هو قانت اثناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه كل هل يستوي

دعوات اللہ کے ساتھ ہمتی یا دشمنی جو اللہ کے دُعاؤں میں سجدہ میں پڑا اور کھڑا عبادت کرتا ہے آخرت کے ڈرنا ہے اور پروردگار کی رحمت کا امید ہے کہ وہ کیا وہ لوگ
الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب
برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے بات یہ ہے کہ نصیحت تو بس عقل مند ہی پہنچاتے ہیں

۴۱ بے نمازیوں کے لیے دوزخ۔ ما سلككم في سقر ۴۲ قالوا انك من المصلين ۴۳ ولعنتك نطعم المسكين ۴۴

دہ چھایا جاتا ہے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں نہ تھے اور مسکین رکھنا نہیں دیتے تھے
۴۵ وكنا نخوض مع الخائضين ۴۶ وكنا نكذب بيوم الدين ۴۷ حتى أتانا اليقين
اور ہم اس کرنے والوں کے ساتھ بہاؤں کی بات کرتے تھے اور انصاف کے ان کو جھوٹ جانتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آگئی

۳۶۔ بے نازوں کا اللہ کے ساتھ مان کرنا جانا

۳۶ اِلٰی نَبِيْكَ يَوْمَئِذٍ وَالْمَسَاقِۗتُ ۝ فَلَا صَدَقَۃَ وَلَا صَلٰۗةَ ۝ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰۗى ۝

میں اپنے پروردگار کی طرف چھٹا ہوا کرتے نہ کام اللہ کی قسموں کی نہ تھی یہی بلا کا جھٹکا یا اور نہ سزا

۳۷۔ جنت اعدیہ سے ناز چھ والوں کے لئے نزل

۳۷ قَوْلِۙ لِلْمُصَلِّیۡنَ ۝ الَّذِیۡنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوۡنَ ۝ الَّذِیۡنَ هُمْ یُرَآءُوۡنَ

سوزا ہی ہے ان نازوں کے لئے جو اپنی ناز سے غافل ہیں (اور وقت میں پڑھتے ہیں) جو لوگوں کو دکھاتے ہیں

۳۸ وَكَمُنَعُوۡنَ الْمَاعُوۡنَ ۝

اور برتنے کی ہیز مائی نہیں مینے

ناز جنازہ

۳۸۔ منافق اور کافر کے جنازہ پر ناز نہ پڑھی جائے

۳۸ وَلَا تُصَلِّ عَلٰۗی اٰحَدٍ مِّنْهُمۡ مَّا تَاۡتٰۤی اَوْلَادَکَ وَلَا تَقُمْ عَلٰۗی قَبْرِہٖ ۝ اِنَّہُمْ کَفَرُوۡا بِاللّٰہِ وَرَسُوۡلِہٖ ۝

اور ان (منافقوں) میں کسی پر جو مر جائے نہ کہیں ناز نہ اور نہ لانا کہنے میں کی قبر پر نہ کہیں انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا

۳۹ وَهُمْ قٰسِیُوۡنَ ۝

اور وہ بہ کردار ہے

استعاذہ

۳۹۔ شیطان سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم۔

۳۹ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰہِ

پس تر اللہ کی پناہ مانگ

۴۰ وَ مَا یَنْزِعُکَ مِنَ الشَّیْطٰنِ لَنْزِعٍ ۝ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰہِ ۝ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

اور اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں گمراہی پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ۔ بیشک وہی سنتے والا جانتے والا ہے

۴۱ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلٰکِ ۝ ۱۰۱ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ ۱۰۲ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ ۱۰۳ ۝

ترکہ میں پناہ میں تو مجھ سے پروردگار کی برہنہ کی جی سے جس نے پیدا کی اور جی سے انہی سے کی جب وہ چھا جائے

۴۲ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۝ ۱۰۴ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

اور جی سے مورتوں کی جو کہوں میں پھر تک ہیں اور جی سے ماسد کی جب وہ حسد کرے

۴۳ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ ۱۰۵ ۝ مَلِکِ النَّاسِ ۝ ۱۰۶ ۝ اِلٰہِ النَّاسِ ۝ ۱۰۷ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخٰسِیۡنِ ۝

ترکہ میں پناہ میں انہوں سے پروردگار کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے عبود کی جی سے جب تک شیطان کے

۴۴ الْخٰسِیۡنِ ۝ ۱۰۸ ۝ الَّذِیۡ یُوسِّوۡسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۝ ۱۰۹ ۝ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ ۝

دوسے کی جو لوگوں کے دلوں میں دوسرا ڈالتا ہے۔ جنوں اور آدمیوں میں سے

استغفار

۱۰۹۔ استغفار کا حکم۔

۱۰۹ اِسْتَغْفِرُ اللّٰہَ

اور اللہ سے معافی مانگو

تکبیر

۱۸۵
۲ وَلِتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور تاکم کرتے ہو اور اللہ کی بڑائی کرو اس نے تم کو ہدایت کی اور تاکم شکر کرو

۱۱۱
۱۴ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا ذُرِّيَّتَهُمْ إِهْدًا اسْمَاءَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ سَمَاءٌ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلَ الْغَيْثِ وَلَا يَكْفُرُونَ ۝

اور انہوں نے اپنی اولاد کو اسم اللہ ہی کے لئے جو جس نے ذوالادھی اور نہ بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہو اللہ نے غزنی اور کئی کئی بار

وَكثْرَةَ تَكْبِيرًا ۝

اور اس کی بڑائی کر

۲۲۶
۲۲ لَنْ يَبْنَىٰ اللَّهُ لَكُمْ مَسَاجِدَ وَلَا مَوَاطِنَ يَبْنَىٰهَا الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ الْعَلِيمَ ۝

اللہ نہ ان (مذہبوں) کے گھر بنائے گا اور نہ ان کے گھر بنائے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے گھر بنائے گا

اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَتَشْرِيبًا لِلْحَسَنِينَ ۝

تاکم اللہ کی بڑائی کرو اس بنا پر کہ تم کو ہدایت کی اور اللہ ہی ان کے گھر بنائے گا

۲۲۷
۲۳ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ ۝

اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر

تسبیح

۲۵
۲۵ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر

۲۲۲
۲۲ وَسَبِّحْهُ بَكْرَةً وَأَحْسَبُ اللَّيْلِ

اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کر

۲۵۵
۲۵ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

اور صبح اور شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر

۲۲۸
۲۸ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝

اور جب تورات کر کے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر

۲۲۸
۲۸ لَتُؤْتُوا بِالنَّاسِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْبَادِهِ وَتُؤْتُوا بِالنَّاسِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْبَادِهِ ۝

دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کر

۲۲۹
۲۹ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝

اور صبح کے نکلنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر

۵۴۰ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ ۝

اور رات کی بعض گھڑیوں میں اس کی پاکی بیان کر اور نماز کے بعد بھی
 ۵۴۱ وَأَصْبَحَ يُحَكِّمُ رَيْكَ فَلَئِنَّ بَاعَيْنَا وَسَيَحْمِلُ بِحَمْلِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ ۵۴۲ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
 اور اپنے ہندو دکھار کے حکم کا اتنا کہہ کہہ شک نہیں کہ تو ہمارے آگے جو اور جبرائیل کے لئے تو اپنے پروردگار کا تربیت کشاں کی پاکی بیان کر اور رات کے بعض گھڑیوں میں
 ۵۴۳ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ ۝

اس کی پاکی بیان کر اور ستاروں کے چمک جانے کے بعد بھی
 ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

تو تو اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی پاکی بیان کر
 ۵۴۷ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْبُحْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝

اور رات کی بعض گھڑیوں میں اس کو سجدہ کر اور رات کو پورے ایک اس کی پاکی بیان کر تاں
 ۵۴۸ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ ۵۴۹ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ۝ ۵۵۰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ ۵۵۱ وَالَّذِي
 اپنے اعلیٰ پروردگار کے نام کی پاکی بیان کر جس نے پہا کیا پھر درست کیا اور جس نے اندازہ کیا پھر درستہ دکھلایا اور جس نے
 ۵۵۲ أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ ۵۵۳ جَعَلَ غَدَاءَهُ آحْوَى ۝

تازہ نکاس نکالی پھر اس کو سیاہ چورا کر دیا
 ۵۵۴ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

پس تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر اور اس سے معافی مانگ

تحمید

۵۵۵ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۝ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ ۝

دل بنی کر دے کہ سب تعریف اللہ کے لئے اور اس کے بندوں پر چھوڑ اس نے تعجب کیا ہر سلام ہے بھلا اللہ بہتر ہے باوٹے جسے وہ اس کے ساتھ شریک کرتا ہے
 ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ دیکھو بیان شیخ۔

ذکر

۵۶۱ وَلِذِكْرِ اللَّهِ الْكِبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

۱۴۱- اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے

۵۶۲ فَلَا تُكْفِرُوا بِيَ وَأَنْتُمْ لَا تَكْفُرُونَ ۝

۱۴۲- ہم نہ کفر کرنے کا حکم۔

۵۶۳ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ ۝
 ۵۶۴ وَإِذْ كُنَّا لَكَ آيَاتٍ إِذْ أَنْسَيْتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لِقُرْبٍ مِّنْ هَذَا بَشَرًا ۝

اور جب تو بھول جلتے تو اپنے پروردگار کو یاد کر اور کہہ میں نے کبیرا یہ دکھا رہے ہیں سے بھی زیادہ راہ کی بات جلا دے

۶۴۔ خدا کو کثرت سے یاد کرو۔

۳۵۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَسْمَعُونَ نَجْوَىٰ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ يَدْعُونَ إِلَىٰ الْفِتْنَةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ○

مسلمانو! جب تم دیکھو کہ کچھ لوگوں کی بات کے مقابلے ہو رہے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم نفع پاؤ

۳۳۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا** ○

مسلمانو! اللہ کو کثرت سے یاد کرو

۳۲۔ **وَإِذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ○

اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم نفع پاؤ

۳۱۔ **وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ رَبِّكَ وَتَسَبَّلَ لِلَّذِينَ نَبَّهُوا** ○

اور اپنے پروردگار کا نام ہے کہ اللہ اس کی طرف سے تلمیح دے کر ان پر

۲۵۔ **وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ رَبِّكَ بِكُرْهٍ وَأَخِيلاً** ○

اور اپنے پروردگار کا نام ہے کہ سچ دشنام اس کو یاد کرو

۱۹۸۔ **فَإِذَا أَقْبَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا لَهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ**

۶۴۔ اللہ کو مشاعرہ حرام سے یاد کرو۔

یاد کرو۔

بیرب تم عرفات سے روڑا لے کر مشاعرہ حرام کے پاس یاد کرو اور جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے اس کو یاد کرو اور جس

مِن قَبْلِهِ لِيُنْذِرَ الضَّالِّينَ ○

سے تم گمراہوں کو

۲۲۔ **فَإِذَا أَقْبَضْتُم مِّنَّا سِدْكُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ○

۶۴۔ حج سے نکلنے کے

بعد اللہ کو اپنے باپ دہریوں

کی طرح یاد کرو اس سے بھی یاد کرو

یاد کرو۔

پر جب تم اپنے باپ دہریوں کے ساتھ ہو کر اپنے باپ دہریوں کی طرح یاد کرو یا اس سے بھی یاد کرو یا اگر تم لوگوں میں سے کوئی بی بی ہو گئی

۲۱۔ **رَبَّنَا إِنِّي أُلِيْتُ الذَّنْبَ وَإِنِّي لَذَنِيءٌ مِنَ الْمُنْذَرِينَ فَادْعُ لِي إِلَىٰ رَبِّي وَأَعِزَّنِي إِلَىٰ رَبِّي وَأَعِزَّنِي إِلَىٰ رَبِّي وَأَعِزَّنِي إِلَىٰ رَبِّي** ○

اے اللہ! میں نے گناہ کیا ہے اور آفت میں اس کا حصہ نہیں ہے اور کوئی آن میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ تم کو یاد کرو یا اس سے بھی یاد کرو

۲۰۔ **حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَبْلَ عَدْنِ أَبِي اسْتَارٍ ○ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ رَبِّكَ وَتَسَبَّلَ لِلَّذِينَ نَبَّهُوا**

بہتر اور آفت میں بھی جہان اور ہم کو آگ کے مذہب سے بچا یہی تمہیں جن کے لئے ان کی گناہوں سے نصرت اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ رَبِّكَ وَتَسَبَّلَ لِلَّذِينَ نَبَّهُوا

بلکہ حساب لینے والا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو

۶۴۔ اس میں اللہ کو یاد کرو۔

۲۰۔ **وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ رَبِّكَ وَتَسَبَّلَ لِلَّذِينَ نَبَّهُوا**

۵۰۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم

سچ دشنام آہستہ سے یاد کرو۔

اور اپنے دل میں اپنے پروردگار کو یاد کرو اور اپنے

۲۰۔ **تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ○**

غافلوں میں نہ ہو

۱۶
۵۴ **الْمَرِيانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَغْشَى قُلُوبَهُمْ لِيذْكُرُوا اللَّهَ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ**

کیا ان کے لئے جو ایمان لائے ہیں وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل گمراہ ہو جائیں اور ان کی مانند نہ ہوں کہ
أُولَئِكَ كَتَبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ○

پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز مرگئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں بدکار ہیں

۱۲
۳ **وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ**

۵۱۔ اللہ کی نعمت یاد کرو

اور اللہ کی نعمت جو تم پر ہے یاد کرو

۱۲۴
۱۳ **قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ آيَاتِهِ مَنْ أَرَادَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ**

کہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہے اور جو ایمان لائے اور اللہ کی یاد ان کے
بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ○

دل سے پاتے ہیں۔

۵۲۔ اللہ کی یاد سے دل
تسلی پاتے ہیں۔

۳۴
۳۳ **رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا ۚ وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةَ ۚ يَخَافُونَ**

مرد ہیں ان کو اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے تجارت غافل کرتی ہے اور نہ بیع
يَوْمًا تَتَّقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ○

ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔

۵۳۔ تجارت اور بیع اللہ کی
یاد اور دیگر عبادات سے مانع
نہیں ہے

۲۲
۲۱ **قَوْلٍ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○**

سو ان کے لئے وہی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں

۳۶
۳۵ **وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَرِحَ لَهُ قَرِينٌ ○**

اور جو کوئی رحمن کی یاد سے غافل ہو گا ہم اس پر شیطان مقرر کر دیں گے پس وہی اس کا ساتھی ہو

۱۹
۱۸ **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○**

اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے سو اللہ نے ان کی جانوں کی تدبیر سے بھلا دیا وہی لوگ بدکار ہیں

۵
۶ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ**

اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے اور جو یہ کرے گا تو وہی لوگ
مسلماؤ! کہیں تمہارے مال

ہم الخسروں ○

گناہاں اٹھانے والے ہیں۔

۱۴
۱۳ **وَمَنْ يَعْزُضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○**

اور جو اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

۵۴۔ اللہ کی یاد سے جن کے
دل سخت ہیں ان کو وہی

۵۵۔ اللہ کی یاد سے غافل
پر شیطان کا تسلط۔

۵۶۔ اللہ کو بھولنے والے
بدکار ہیں۔

۵۷۔ اللہ کی یاد سے غافل
میں ہیں۔

۵۸۔ اللہ کی یاد سے روگردانی
کرنے میں عذاب۔

توبہ

۱۔ توبہ کرنے کا حکم۔

۳۱ **وَإِنْ أَسْتَغْفِرْ مِنْكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ لَأَنْتُمْ كَانْتُمْ**

اور یہ کہ اپنے پروردگار سے سنانے یا گنہگاروں کی طرف توبہ کرو تا کہ وہ تم کو اپنا ناکام و ایک وقت معزت تک دے اور ہر بڑائی دے کہ
ذی فضل فضلہ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

اس کی بڑائی دے اور اگر توبہ نہ کرو گرائی کرو تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈرانا ہوں

۳۲ **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَلْحَمْدُ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ**

اور مسلمانو! تم سب اللہ کی طرف رجوع ہو تاکہ تم نجات پاؤ

۳۳ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا**

مسلمانو! اللہ کی طرف توبہ کرو خاص توبہ

۲۔ توبہ کے ساتھ عمل صالح
شروط ہے۔

۳۴ **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ**

مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح برآئے اور بیان کر دیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں

۳۵ **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**

مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح برآئے توبہ سے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۳۶ **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ**

مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح برآئے اور اللہ کو مضبوط چھڑا اور اپنا دین خالص اللہ کے لئے توبہ توبہ ہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں

۳۷ **وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا**

اور اللہ مومنوں کو مقرب بڑا ثواب دے گا

۳۔ خدا توبہ قبول فرماتا ہے

۳۸ **وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا أَنْ ذُنُوبُهُمْ أَمَّا اللَّهُ فَعَلُوا الصَّالِحَاتِ سِرًّا وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعًا**

اور جنہوں نے برے کام کئے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بیشک تیرا پروردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے

۳۹ **أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَاقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ**

کیا انہوں نے یہ معلوم نہیں کیا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور خیرات منظور فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ جو ہے وہی

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے

۴۰ **إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا**

مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو یہی ہیں جن جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا

۴۱ **وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا**

اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کئے تو وہ بیشک اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے

۴۰
۲۵
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ
اور جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کئے وہی ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکوں سے بدل دے گا اور اللہ
غَفُورًا رَحِيمًا

۳- توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو
سے بدل جاتے ہیں بشرطیکہ
مل صالح ساتھ ہو

بخنے والا امر بان ہے

۴۱
۲۶
الَّذِينَ يَخْلَوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ
جو فرشتے (عرش کو اٹھاتے ہیں اور جہ اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے پروردگار کی تعریف سادہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سزا بیان کرتے ہیں اور لوگوں
آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
کے لئے جو ایمان لائے ہیں دعا مغفرت کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیر لیا ہے سو تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور سبیل
عَذَابِ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
پلے اور انہیں جنت کے لذت بخشے جگہ اور اسے ہر پروردگار ان کو پیش قدمی کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی داخل کر
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۲۶ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَأْوِمَنَّ
ان کے باپوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں بہن ہوں جس کے غیبی نکتہ والا پروردگار ان کو بیویوں سے بچا اور جس کو تو نے اس میں بدیوں سے بچا
فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

۵- توبہ کرنے والوں کے لئے فرشتے
مغفرت کی دعا کرتے ہیں

اس پر تو نے بیشک رحم کیا اور یہی بڑی کامیابی ہے

۲۲۲
۲۷
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَّكِفِينَ ۝

۶- توبہ کرنے والوں کو اللہ محبت
کرتا ہے۔

بیشک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے

۱۴
۲۸
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ
اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں پھر جلد ہی ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

۷- توبہ صرف مجھوں چوک کے
گناہ سے ہوتی ہے۔

اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے

۵۴
۲۹
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا بَنِي آدَمَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ
اور (اسے نبی) جب میرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو تو ان سے کہ کہ تم پر سلامتی ہے تمہارے پروردگار نے اپنے اور رحمت
اللَّهُ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سَوْءٍ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحُوا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

شمالی ہے کہ میں نے تم میں سے براہ نادانی کوئی برا کام کیا ہے اس کے بعد توبہ کر لی اور برا گیا تو بے شک وہ بخنے والا امر بان ہے

۱۱۹
۱۶
ثُمَّ لَنْ رَيْكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
پھر بیشک تیرا پروردگار ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نادانی سے گناہ کیا ہے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح پرائے بے شک تیرا پروردگار
بَعْدَهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اس کے بعد بخنے والا امر بان ہے

۱۸ سوت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔
 وَيَسْتِ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ
 اور ان کے لئے توبہ نہیں ہے جو بدیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ بیان میں سے کسی کے پاس موت آجودہ ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کی

وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَهُمْ كَفَّارًا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور ان کے لئے جو جو کفری کی حالت میں برہمائی ہی توبہ میں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے

۲۴ ۹- مجرم اگر کبڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں توبہ جرم سے پاک
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُ وَعَلَيْهِمْ مَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

نہ جو لوگ اس سے پہلے ہی توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۲۹ ۱۰- چوری سے توبہ۔
 فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح برپا کر لیا تو بیشک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۶۴ ۱۱- توبہ شکر سے۔
 فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغُفِرَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝

لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کئے تو اسے توبہ کی سبب سے وہ لوگ غلط بننے والے ہیں

۲۵ ۳۲ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عباده و یغفر عن السیئات و یعلم ما تفعلون ۝
 اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور غلطیوں سے معاف کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو

۱۱ ۱۲- توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں
 وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

۸۹ ۱۳- مرتدوں کی توبہ قبول نہیں دیکھو ارتداد (مرد-۳)

رجوع الی اللہ

۵۱ ۱- اللہ کی طرف ورتو۔
 فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَفِّرُ عَنْهُ ذُنُوبَكُمْ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

پس اللہ کی طرف بھاگو بیشک میں تمہیں اس کی طرف سے کھول کر ڈرانے والا ہوں

۹ ۴۳ فاذکرا اسم ربک و تبئلا الیہ تبئلا ۝

اور اپنے پروردگار کا نام یاد کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو کر سب غنہ ہو

۹۳ ۵۱ و الی ربک فازعب ۝

اور اپنے پروردگار کی طرف ماضی ہو

اعمال موجب مغفرت و فلاح آخرت

۵۴ ۳۳ ان الذین ہم من خشية ربهم مشفقون ۝ والذین هم بالآیات ربهم یؤمنون ۝
 بیشک وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے خوف سے رزقے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں

والذین هم یؤمنون ما آتوا و قلوبهم رجلة انهم الی
 اور وہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل اس ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے

خوف خدا۔ ایمان بنیک کام۔ صبر عبادت۔ پاکبازی

رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۝ اُولَٰئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝

پودہ تیار کی طرف ہٹنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کے حصول میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان کے لئے آگے بڑھ جاتے ہیں

۲۴ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِيْنَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ

بجس مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور صلح کرنے والے اور صلح کرنے والی عورتیں اور سچے مرد

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِيْنَ وَالْخَشِيعَاتِ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

اور سچی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور نیک خیرات کرنے والے اور نیک خیرات کرنے والی عورتیں

وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فِرْوَجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ

اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شکرگاہوں کو محفوظ رکھنے والے مرد اور محفوظ رکھنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔

۲۶ وَالَّذِيْنَ يَصَّدَّقُوْنَ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ ۝ اِنَّ

اور جو لوگ ایمان سے دن کی نصیحتی کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں

عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرَ مَأْمُوْرِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ لَفَرُوْهُمْ حَفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰى اٰزْوٰجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ

تیر پروردگار کا عذاب نہ ہونے کی چیز نہیں ہے اور جو لوگ اپنی شکرگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنے بیویوں پر یا ان بچوں کے مالک ان کے اہل گھر

اَيْمٰنُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمِنْ اٰتٰتِيْ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

ہیں سو یہ لوگ لامت کے قابل نہیں ہیں اور جس نے اس کے سوا چاہا تو وہی ہیں جو حد سے گزر جائے والے ہیں

۱۰ وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰفِيْرٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوٰصَوْا

عصر ہے عصر کی جبکہ انسان ٹھکانے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مکتے اور ایک مکتے

بِالْحَقِّۙ وَتَوٰصَوْا بِالصَّٰبِرِيْنَ ۝

توحق کی وصیت کرنے سے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے

زکوٰۃ

انبیائے سابقین اور اہم سابقہ کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا

۴۳ (دیکھو بیان نماز- کتاب الصلوٰۃ)

۵۵ (دیکھو بیان نماز- کتاب الصلوٰۃ)

۱۹ قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ خُذِ الْعَسْنَ الْكِنْبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِيْ مُبْرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۝ وَ

دینی علیہ السلام کہا کہ میں نے اسے بچے کی طرح بنایا اور مجھے برکت والا بنا دیا جہاں کہیں بھی میں رہوں اور

۱- انبیائے سابقین کو زکوٰۃ کا حکم

۲- اسماعیل علیہ السلام

۳- عیسیٰ علیہ السلام

وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا

$\frac{۱۲}{۵}$ (دیکھو بیان نماز۔ کتاب الصلوٰۃ)

۳۔ بنی اسرائیل سے نازلہ زکوٰۃ کا حکم

$\frac{۵}{۹۸}$ (دیکھو بیان نماز۔ کتاب الصلوٰۃ)

۵۔ اہل کتاب

$\frac{۲۱}{۲۲}$ (دیکھو بیان نماز۔ کتاب الصلوٰۃ)

۶۔ کتاب رسول شکیفہ دیتے تھے

$\frac{۸۳}{۲}$ $\frac{۱۱۰}{۲}$ $\frac{۷۸}{۲۲}$ $\frac{۵۶}{۲۳}$ $\frac{۱۳}{۵۸}$ $\frac{۲۰}{۴۳}$ وَأَتَىٰ الزَّكَاةَ - اور زکوٰۃ دیا کرو۔

۷۔ زکوٰۃ دینے کا حکم۔

$\frac{۲۲}{۳۳}$ وَإِتَيْنَ الزَّكَاةَ -

(پہنہ کی بیسیوں) زکوٰۃ دو

$\frac{۱۵۶}{۷}$ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْتَهُمُ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا

۸۔ زکوٰۃ دینے والوں پر خدا کی رحمت

اور میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے تو میں ان کو ان لوگوں کے لئے لکھوں گا جو خدا سے ڈرے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو پہلے ہی میری آیتوں کو

بُيِّنُوا

ایمان رکھتے ہیں

$\frac{۷۷}{۳}$ دیکھو بیان نماز

۹۔ مہذبہ میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم

$\frac{۱۸}{۹}$ $\frac{۱}{۲۷}$ $\frac{۲}{۲۷}$ $\frac{۲}{۳۱}$ $\frac{۳}{۳۱}$ $\frac{۲}{۳۱}$ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

۱۰۔ زکوٰۃ دینے کا حکم

$\frac{۱۷۷}{۲}$ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

۱۱۔ زکوٰۃ دینا بخیر کے ہے۔

$\frac{۵۵}{۵}$ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

۱۲۔ مسلمانوں کے لیے اور جو زکوٰۃ دیتے

$\frac{۷۱}{۹}$ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

۱۳۔ مسلمانوں کی صفت زکوٰۃ دینا

$\frac{۱۱}{۹}$ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

۱۴۔ زکوٰۃ دینا اور اس کی نواز دینا

$\frac{۶}{۳۱}$ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

۱۵۔ زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کی صفت ہے۔

اور خرابی ہے مشرکوں کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی مشرک ہیں

$\frac{۱۲}{۹}$ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ

۱۶۔ زکوٰۃ خدا لیتا ہے۔

الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهِ عَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهِ عَمُونَ ۝

کیا انہوں نے یہ علم نہیں کیا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور خیرات لیتا ہے اور یہ اللہ ہی توبہ

الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهِ عَمُونَ ۝

قبول کرنے والا ہے

$\frac{۳۹}{۳۳}$ وَمَا تَنْتَهُمُ مِنَ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝

۱۷۔ زکوٰۃ دینے والوں کا مال بچھڑتا ہے۔

اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی ذات حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ (اپنے مال کو) دھنسا کرنے والے ہیں

$\frac{۱}{۳۳}$ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهِ عَمُونَ

۱۸۔ زکوٰۃ دینے والوں کو فلاح آخرت۔

بیشک مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور جو یہودہ بات سے منہ

مُعْرَضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝

پہرے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں

۱/۳۱ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

۱۰/۳۳ ۝ وَالَّذِينَ يَرْتُونَ الْفُرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

یہی لوگ وارث ہیں جو بہشت کے وارث ہوں گے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

۳۷/۳۴ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

۱۱/۳۸ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

۱۲/۳۹ (دیکھو کتاب الصلوٰۃ)

خُدَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطْفِرُ عَنْهُمْ وَتُرْزِقُهُمْ بِمَا وَصَلْنَا عَلَيْهَا وَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

ان کے مالوں میں سے خیرات لے کر وہ ان کو پاک و صاف کرے اور ان کے لئے دعا کر کر تیری دعا ان کے لئے تسلی کا باعث ہے

يَسْأَلُونَكَ وَأَذَىٰ يَفِيقُونَ ۚ قُلْ مَا أَتَقَدَّرُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَ

تجہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بیخ کرے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو ان باپ کے لئے اور رشتہ داروں کے لئے اولاد میں اور

السَّكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

سکینوں اور مسافروں کے لئے

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں ملک میں چل پھرنے کیے سوال سے بچنے کی وجہ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا

سے انجان انہیں مال دار خیال کرتے ہیں تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لیتا ہے وہ جہف کر لوگوں سے نہیں مانگتے

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

خیرات تو بس فقیروں کا حق ہے اور سکینوں کا اور ان کا جو اس کے وصول کرنے والے ہیں اور ان کا جن کے دل پرچائے گئے ہیں اور گزروں

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

چھڑانے میں خرچ کی جائے اور جن پر قرض ہو اللہ کی راہ میں دہلاؤ اور مسافروں کا حق ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارا ہر اور اللہ علم و حکمت والا ہے

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ وَنَسَنُكْتُبُ مَا قَالُوا وَ

اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں تو جو انہوں نے کہا ہم اس کو لکھ لیتے ہیں

قَتَلَهُمُ اللَّهُ لَأَنبِيَاءَ بغيرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ

ان کے نہیں کو نافرمانی کرنے کو بھی اور ہم کہیں گے کہ میں کا عذاب چکھو جو اس کے عوض ہے جو تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہے

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلِينَ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ الرِّقَابَ وَالصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذْ هُمْ

اور ان میں سے بعض تجہ پر خیرات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں اگر انہیں دے دیا جائے تو راضی ہو جائے ہیں ان سے انہیں نہیں یا جانا تو زور

۲۰۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لئے بہشت۔

۱۱۔ اللہ نے دینے میں اس سے زیادہ عطا کیا

۱۲۔ اللہ نے دینے والوں کو اجر عظیم۔

۲۳۔ زکوٰۃ دینے والے بخیر فرمائیں

۲۴۔ زکوٰۃ دینے والوں کو کئی

آنحضرت م کو وہ مادیات کا حکم

۲۵۔ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے۔

۲۶۔ زکوٰۃ پر کفار کا اعتراض۔

۲۷۔ زکوٰۃ کے لئے میں نفاقوں کا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا

۱۹
۵۱ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور تنگ دستوں کا حق ہے

۲۵
۵۲ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

مانگنے والے اور تنگ دست کا ان کے مالوں میں حق ہے

۱۹۵
۵۳ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو

۵۴ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

اور اس (مال) میں سے خرچ کرو جس میں اُس نے تم کو جانشین کیا ہے

۵۵
۵۵ وَمَالِكُمْ أَلا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَن

اور تمہارا کیا ضرر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اس ہی کے لئے ہے تم میں وہ جس نے خرچ نہ کیا ہے

أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ لِقَائِهِ وَقَاتَلَهُ أَوْلِيَاكَ أَكْبَرُ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَ

خرچ کیا اور ذرا خدا میں لڑا برابر نہیں ہو سکتا بلکہ ایسے لوگ جسے میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے خرچ کیا ہے

قَاتَلُوا أَوْلَادَهُمْ وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ

کیا اور لڑے اور بھلائی کا وعدہ تو اللہ نے ہر ایک کیا ہے

۱۶
۶۳ وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّنَفْسِكُمْ

اور خرچ کرو تمہارے لئے بہتر ہوگا

۲۵۵
۶۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافَ

سہارا! جو مال، ہم نے تم کو دیا ہے اُس میں سے اس سے پہلے ہی خرچ کرو کہ وہ دن آسجود ہو جس میں نہ بیع ہوگی اور نہ ہوتی

وَلَا شَفَاعَةَ

اور نہ شفاعت

۱۰
۶۵ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ

اور جو ہم نے تم کو دیا ہے اُس میں سے اس سے پہلے ہی خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آسجود ہو پھر وہ کہے کہ لے لے میرے لیے اور دیکھا اور نہ

أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ

موت تک ملت کہوں نہیں دی کہ میں خیرات کرنا اور نیک بختوں میں ہوتا

۲۱۹
۶۶ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لَعَلِّي

اور انہی لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کہ دے کہ حاجت سے زائد ہو۔

۲۶۴
۶۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبْعَاتِكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

سہارا! ان پاک چیزوں میں جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہے خرچ کرو اور ناکارہ

۸۔ مذکورہ راہ میں خرچ کرنا

۹۔ خرچ کرنا قیامت سے پہلے

۱۰۔ خرچ کرنا موت سے پہلے

۱۱۔ خرچ کرنا حاجت سے نامہ

۱۲۔ اللہ سے مانگنا اور ناکارہ نہیں

از نفسیہ

تَيَمُّوا الصَّخِيْبَةَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيْنِ يَهْدِي الْإِنْسَانَ تَغْضُوْفِيْهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

بیترا کا ارادہ نہ کر کے اس میں سے خرچ کر دیا جائے گا کہ تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو گے کہ تم اس میں چشم پوشی کرو اور جان لو کہ اللہ عَنِّي وَحَمِيْدٌ ۝

اللہ کے ہر وہ ہے قابل تریف

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۲۴ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰةَ

یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں بابت ہے تقیوں کے لیے جو ان دیکھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں

وَيَمَارُتُوْنَ قَنَاطِرَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۲۵ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّن رَّبِّكَ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

اور جو ہم نے ان کو رہنمائی کی ہے وہی ہے پروردگار کی طرف سے جابجابت پر ہیں اور وہی آخرت میں نفع پانے والے ہیں

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا حَبَبَۤنَا ۝۲۶

تم ہرگز ناپائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے محبت رکھتے ہو

وَيَشْرِي الْغَيْبَاتِ ۝۲۷ الَّذِيْنَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصُّبْحٰنِ عَلٰی مَا صَابَهُمْ

اور انہی لوگوں کو خبر ہو کہ کثرت سے ذکر جب اللہ یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نیز ان غیبوں پر صبر کرنے والوں کو جو

وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ وَيَمَارُتُوْنَ قَنَاطِرَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۲۸

ہیں اور ان کو جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ

اور جو مال تم خرچ کر دو تمہاری ذات کے نفع کے لیے ہے اور تمہیں ان میں سے تمہیں اللہ کی خاطر خرچ کرنا اور جو مال تم خرچ کر دے تمہیں

يُوْفِّى الْيُكْرَ وَاَنْتُمْ لَا تظَلُمُوْنَ ۝۲۹

ثواب پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوْفِّى الْيُكْرَ وَاَنْتُمْ لَا تظَلُمُوْنَ ۝۳۰

اور جو شے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اس کا ثواب تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا مِنْ اٰجُرِّكُمْ ۝۳۱

سو جو تمہیں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اس نے خرچ کرنے کے لیے نہ اسان جانتے ہیں اور نہ ادا دیتے ہیں ان کے لئے ان پر ہر

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۳۲

کے ان کا ثواب موجود ہے اور نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غم میں ہیں

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالْغَيْبِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ وَلَا خَوْفٌ

جو لوگ رات میں اور دن میں چھپ کر اور علانیہ طور پر (راہ خدا میں) اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کے ثواب ان پروردگار کے ان پر موجود ہے اور نہ

۱۳- راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے

جہالت بہیمہ

۱۴- محبوب چیز کو خرچ کرنے کے لیے

نیک مال نہیں ہو سکتی

۱۵- خرچ کرنے والوں کو ثواب

۱۶- خرچ کرنے والوں کو پورا اجر

سے گا

۱۷- خرچ کرنے والوں کو اجر کیسے

۱۸- راہ خدا میں خرچ کرنے

والے بے خوف و غم ہیں

۱۹- چھپ کر اور علانیہ طور پر خرچ کرنے کے لیے

بے خوف و غم ہیں

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْرَجُونَ ○

خوف ہے اور نہ وہ نکلیں ہوں گے

۲۶۱ ۳ دیکھو کتاب التمثیلات

۲۶۲ ۳ دیکھو کتاب التمثیلات

۲۶۵ ۳ دیکھو کتاب التمثیلات

۲۶۶ ۳ دیکھو کتاب التمثیلات

۲۶۷ ۳ دیکھو کتاب التمثیلات

۲۶۸ ۳ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

اور اللہ کو قرض حسنہ دو

۲۶۹ ۳ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو اس کے لئے دگنا کر دے

۱۱ ۵۷ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو اس کے لئے دگنا کر دے اور اس کے لئے عزت کا اجر ہے

۱۸ ۵۷ إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُضِدِّقِينَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعِفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ○

یشک صدقہ دینے والے مرد اور سہ تہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ان کو دگنا دیا جائیگا اور ان کے لئے عزت کا اجر ہے

۱۹ ۶۱ إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اس کو تمہارے لئے دگنا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا

۱۲ ۵ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ لِيهِمُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ

اور اہل بیت اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار کئے اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو مدد دی اور اللہ کو قرض

قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ بَاطِنًا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

حسنہ دیا تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں

روزہ

۱۸۳ ۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

مسلمانو! تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے انگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ

۱۸۴ ۳ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

چند روز ہیں گنتی کے

۲۰۔ خدائی خرچ دانگنہ جیسا

۲۱۔ خدائی خرچ گردا کو بچر جیسا

۲۲۔ خدائی خرچ دانے مثل باغ کے

۲۳۔ خدائی خرچ مثل خزانہ دو باغ کے

۲۴۔ دنیا کا خرچ مثل ہوائی خرچ

۲۵۔ خدا کو قرض دو

۲۶۔ خدا اپنے قرض دینے والوں

کو دو گنا دے گا

۲۶۔ خدا کو قرض دینے میں

مناہوں کا کفارہ اور دخول

جنت

۱۔ روزہ ہی طرح فرض ہے جس طرح

پہلی امتوں پر فرض تھا۔

۲۔ روزہ گنتی کے چند روز ہیں

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

۳- مریض اور سفر کو دوسرے ایام میں روزہ رکھ لینا چاہیے

۱۸۵/۳
۱۸۵/۳
۱۸۵/۳

اور جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے
یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعِزَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۳- مریض اور سفر کو روزہ کی تاخیر کی کیوں مصلحت دہی تھی

۱۸۴/۳
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

۵- جن ہندو رکھنا مشکل ہو ایک محتاج کو کھانا دیں

۱۸۴/۳
فَمَنْ تَصَوَّرَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۶- روزہ رکھنا بے حال بتوڑے

۸۵/۳
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ

۷- سینہ کا سینہ رمضان کا جو

۱۸۵/۳
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

۸- جہاں رمضان پائے وہ روزہ رکھے

۱۸۴/۳
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الضَّمِيرِ مِنَ الرِّفْقِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لَكُمْ رِجَالٌ وَلَئِنْ تَدْرَأْنَ عَنْهُنَّ لِجُنُوحِكُنَّ لِصَافِيَا نَافْسِكُمْ فَامْنُوا بِنِزَاتِكُنَّ ۗ لَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَيْرُ الْمُنْكَاحِ ۗ

۹- نیندوں کی راتوں میں روزوں کے پاس جانا اور کھانا چھیناج صاف نیک و درست ہو

۱۸۴/۳
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ ۗ

۱۸۴/۳
ثُمَّ آتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ ۗ

۱۰- صاف نیک و راست سے رات نیک دنوں پر آ کر

۱۸۴/۳
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ ۗ

۱۸۴/۳
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ ۗ

۱۱- اختلاف میں غور توں کے پاس نہ جاؤ

۱۸۴/۳
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ ۗ

يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

اللہ لوگوں کے لئے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔

لیلۃ

۱۱۴۰ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ۝ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝

بیشک ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اُنماہم میں ڈرانے والے

۱۱۴۱ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

بیشک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اُنماہم

۱۱۴۲ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

اس (سبک) رات میں ہر ایک فیصلہ و حکم کا لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے ہم نے اس کو اپنے ماں سے وحی بھیج کر اُنماہم میں پہنچا دیا ہے اور اس میں یہ فیصلے

۱۱۴۳ رَبِّكَ مَلَأَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ

کھڑے رحمت بنا کر بیشک ہی سننے والا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے پروردگار کی طرف سے

۱۱۴۴ مُتَّقِينَ ۝

اگر تم یقین کرنے والے ہو

۱۱۴۵ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

اپنے ان سے وحی بھیج کر بیشک ہم (پیغام) بھیجنے والے ہیں

۱۱۴۶ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا يُأْذِنُ رَبُّهُمْ مِنْ كُلِّ امْرٍ ۝

اس میں فرشتے اور جبریل ہر ایک حکم لے کر تیرے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں

۱۱۴۷ سَلَامٌ قَدْ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

سلامتی (کی رات) ہے وہ فجر کے طلوع تک ہے

۱۱۴۸ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

اور تو کیا جانے لیلۃ القدر سے کیا چیز لیلۃ القدر ہزار ہیلوں سے بہتر ہے

حج

۱۱۴۹ وَاذْبُوْا نَا اِلَّا بِرُحْمٍ مَّكَانَ الْبَيْتِ اِنَّ لَا تُشْرِكُ لِيْ شَيْئًا وَاَطْرَافِ بَيْتِيْ لِلظَّالِمِيْنَ وَا

اور (وہ) دقت یاد کر جیسا کہ تم نے ابراہیم کے لئے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ یہ سب سب سے بڑا اور نہایت گھر کو طواف کرنے والوں اور

۱۱۵۰ الْقَائِمِيْنَ وَالشُّكْرُ الشُّكْرُ ۝ وَاذْنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّلْ رِّجَالًا وَّعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ

کھڑے رہنے والوں اور رکوعی سجدہ کرنے والوں کے لئے ہاں کہ اور لوگوں میں حج کے لئے پکارو وہ یہاں اور ہر ایک بی ادب سے

۱۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا

۲۔ لیلۃ القدر میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔

۳۔ لیلۃ القدر میں خدا کے حکم سے ملائے اور جبریل زمین پر اترتے ہیں

۴۔ لیلۃ القدر صبح تک امن کا ہے

۵۔ لیلۃ القدر ہزار ہیلوں سے بہتر ہے۔

۱۱۔ ابراہیم کو حکم کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

ہر ایک راہ دور سے بنی آ رہی ہوں گی موجود ہوں گے۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

اور اللہ کے لئے لوگوں پر ہر ذمہ کو حج (رض) ہے جو اس تک راہ ملے کہ اس کی طاقت رکھتا ہو

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَيْدِي الْوَحَاةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْرِ

ان نبی (ص) تو سے نئے یا نڈوں کا بابت پوچھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے امرع کے لئے وقت ہیں

الْحَجْرِ الْأَيْدِي الْوَحَاةِ مَوَاقِيتُ

حج کے مقدرہ نیسے ہیں

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ

پھر میں نے ان میں سے ایسا حکم کیا کہ حج لازم کرنا تو حج میں دھرموں سے مخالفت ہر اور نہ بد ملکی اور نہ جھگڑا اور جو نیکی کرے

يَعْلَمَهُ اللَّهُ

اللہ اس کو جانتا ہے

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّوْقَىٰ وَاتَّقُوا لِلَّهِ الْآلِبَابَ

اور حج میں (توڑنا ساتھ لے کر) تیرا توشہ (سبیل سے) ایسا ہے اور اسے قلند و ایچ سے ڈرو

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُكَلِّفُ الْفَيْسُ وَالصَّيْدُ أَنْتُمْ حَرْمٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِخَلْقِكُمْ

رستہ ہر اس کے لئے نہیں پوپائے سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سائے بائیں کے نلال کئے گئے جبکہ تم اس وقت تک کہ حال جانے نہ ہو

مَا يُرِيدُ

اور اس میں ہر وہ شے جو جانتا ہے حکم دیتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ

اور تم پر شکل کا شکار حرام کیا گیا ہے

دُمْتُمْ حُرْمًا

تم انعام میں ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَ كَرَاهًا فَجَزَاءُ مِثْلِهِ

جس کا تم انعام میں ہو اور جو تم میں سے اس کو قتل کرے جان کر تو اس کا عوض ایسی ہی

قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ يَخْتَصِمَهَا ذُو الْعَدْلِ مِنْكُمْ هَدًى يَأْتِيهِمُ الْكُفْرَةُ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

جو باہر ہو اس سے قتل کیا ہو تم میں سے وہ دوسرے آدمی اس کا فیصلہ کریں وہ جو باہر قربانی ہو کہ بیخیز دانی۔ یا کفارہ ہر تمہارے کھانا دینے

أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيًّا مَا لَيْدٌ وَقِي وَبِالْأَهْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْ سَلْفٍ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ

باہن کی باہر اس کی برابر دوسرے تاکہ وہ شخص اپنے لئے کی سزا دیکھے جو پہلے ہر جگہ ہر مذمے وہ معاف کیا اور جو کوئی دوسری دفعہ کرے گا تو اللہ

۲۔ مقدرہ اور حج فرض ہے

۳۔ حج کا صاب پانچ ہے۔

۴۔ حج کے نیسے مقدرہ ہیں۔

۵۔ حج میں سے ایسا حکم کیا کہ حج لازم کرنا تو حج میں دھرموں سے مخالفت ہر اور نہ بد ملکی اور نہ جھگڑا اور جو نیکی کرے

۶۔ حج میں توڑنا ساتھ لے کر

۷۔ انعام میں ہر وہ شے جو جانتا ہے حکم دیتا ہے

۸۔ شکار کا کفارہ

مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

اس سے بدلے گا اور اللہ غالب ہے بدلنے والا

۹۴- دیا کا شکار مٹا ہے۔

أَجَلٌ لِّكَرْصِيدِ الْبَعْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لِّكَرْ وِلِّسْتِيَارَةِ ۝ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ إِذَا دُمْتُمْ
تمارے لئے دریا کا شکار اور اس کا کھانا مٹا گیا تاکہ تم سے لے اور قافلوں کے لئے فائدہ ہو اور تم پر جب تک تم احرام میں ہو بیان
حَرْمًا ۝ وَانْفِقُوا لِلَّهِ الَّذِي إِلَىٰ يَدَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

کاشکار حرام کیا گیا اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم قیامت کو اکٹھے کئے جاؤ گے

۱۹۶- ۱۰- نا حرم کے بعد حج اور عمرہ پورا

وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۝

اور اللہ کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو

۱۱- صفائے کاپٹوف۔

۱۵۸- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ
پھر جو کوئی کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں (پہاڑیوں میں) صفا اور مردہ کاپٹوف کرے اور جو کوئی
شَاكِرٌ عَلَيْهِ ۝

اپنی خوشی سے شکر کرے تو اللہ قبول کرنے والا جاننے والا ہے

۱۹۸- فَاذْأَنْفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ
پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو شکر ادا کرو اور اس کو یاد کرو اور اس کو یاد کرو جیسا اس نے تم کو ہدایت کی ہے

كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝

اگر وہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں تھے

۱۹۹- تَوَافِقُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ ۝

پھر تم وہاں سے بوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۱۹۶- فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

پھر اگر تم (حج سے) روکے جاؤ تو تم پر قربانی سے جو آسان ہو

۱۹۶- وَلَا تَحْقِرُوا رءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۝

اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اپنے سر نہ منڈواؤ

۱۹۶- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا فَأُدْخِلْهُ يَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ فِي الْكَلْبَةِ ۝

پھر جو تم میں سے رہیں ہو یا اس کے سر کو تکلیف ہو تو اس پر ذبیحہ روزے یا صدقہ یا قربانی

۱۹۶- فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

پھر جب تمہیں امن ہو جائے تو جس نے حج کے ساتھ عمرہ لاکر فائدہ اٹھایا ہے اس پر آسان سے قربانی ہے

۱۹۶- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ ۝

پھر جو نہ پائے اس پر تین روزے حج میں ہیں اور سات جب تم وہاں سے لوٹو یہ پورے دس روزے

۱۹۴ ذلک لمن لم یکن اهلہ حاضر المسجد الحرام والتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب

یعلم انکے لیے ہے جس کے گھر والے سبھی احرام (نہی کئے) میں نہیں ہیں اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے

۱۹۸ لیس علیکم جناح ان تبغوا فضلا من ربکم

تم پر اس میں کہہ دیا کہ تم اپنے پروردگار کا فضل (رزق) تلاش کرو

۲۰۰ یا ایہا الذین امنوا لا تعلقوا بشہر الحرام ولا الہدی ولا القلاب

سلا لا! اللہ کی نشانیں کو ملال نہ کرو اور نہ ماہ حرام کو اور نہ قربانی کے جانوروں کو اور نہ ان کو جن کے گھروں

ولا اقمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربکم ورضوا نأدا

میں بار میں اور نہ غار کعبہ کے زیارت کرنے والوں کو جو اپنے پروردگار کا فضل (رزق) اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں

۲۰۲ واذا حلتمہ فاصطادوا ولا یجزم منکم شنان قوم ان صدواکم عن المسجد الحرام ان تعبدوا

اور جب تم ملاں ہو جاؤ تو شکار کرو اور تمہیں لوگوں کی عداوت اس بنا پر کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا اس جرم میں تمہیں سزا دے کر تمہیں

۲۰۰ فاذا قضیتہم فمنا سکر فادکروا للہ کذکرکم اباؤکم او اشداد ذکرادھین العالی من

پھر جب تم اپنے ارکان (ع) اور تمہیں تو اللہ کو ذبح (میں) یاد کرو جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو تاکہ تمہیں لوگوں میں کئی ہے

۲۰۱ یقول ربنا آتینا فی الدنیا وقالہ فی الآخِرۃ من حلاقی ۰ ۲۰۱ ومنہم من یقول ربنا

جو کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ان میں کئی ہے جو کہتا ہے کہ اے

۲۰۲ اتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخِرۃ و حسنة و قنا عذاب النار ۰ ۲۰۲ اولیک ہم نصیب

ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا دے اور ان میں کئی ہے جو کہتا ہے کہ اے

۲۰۳ فہما کسبوا للہ والہ سیر نع الحساب

ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے

۲۰۳ واذکروا للہ فی ایام معدودت فسن تجعل فی یومئذ فلا اثم علیہ ومن نالکم

اور تمہیں کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو اور تمہیں نے تمہیں کی کوئی گناہ نہیں ہے اس کے سہم جو اللہ سے ڈرا

۲۰۴ لیشم ہذا منافعہم وینکروا اسم اللہ فی ایام معلومت علی ما درکم من ہنم

تاکہ اپنے نالوں کے لئے حاضر ہوں اور جانے بولنے والوں میں لاشہ کو یاد کریں اس (ذبح) پر جو اللہ نے ان کو ہنسی

۲۰۵ الانعاف فکوا منہا واطعموا البائس الفقیر ۰ ۲۰۵ ثم لیقضوا نقتہم ولیوفوا باندکم

پھر پانوں کی قسم سے دیا ہے تو تم اس میں سے کھاؤ اور بھوکے فقیر کو کھلاؤ پھر اپنے بدن کا میل کیں لیکن اللہ اور چاہے کہ اپنی

۲۰۶ ولیطوفوا بالبیات العتیق ۰

نزدوں کو پورا کریں اور پرانے گھر و کعبہ کا طواف کریں

۱۹- کے والوں پر نسیح

۲۰- بی میں نجاست کرنے میں

من نہیں

۲۱- شکرہ اکلہ مسترام کرو۔

۲۲- حرام کھانے کے بعد شکر

ملاں ہے۔

۲۳- حج سے فایہ بیکر مذکو

اپنے باپوں کی طہ یا ذکر

۲۴- حج کے بعد بارھویں

کوئی کے سے رخصت ہونے

میں کوئی گناہ نہیں ہر دن

شیرنے ہیں۔

۲۵- کعبہ کے طواف اور

قربانی کا حکم

۲۶ قرآنی کے حکام اور اس کے معارف۔

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

یہ حکم ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لئے چاہئے
عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ حُنْفَاءُ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ

سو انہی کے جو تم پر پڑے جائیں گے نلال کئے گئے تو تم تو ان کی پیروی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو اللہ کو ایک جاننے والے کے

بِذِهِ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ شَرًّا مِّنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ

ساتھ شریک نہ کرنے والے ہو کر جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑے اس کو پرنے سے ایک جگہ سے یا ہوا اس کو کسی دور کے مکان میں

سَجِّتٍ ۚ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

پہنچتی ہے یہ تو حکم ہے اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کی پرہیزگاری سے ہے تمہارے لئے ان مرتبہ

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ لِعَتِيقٍ ۚ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسِكًا لِّدَعْوَاهُمْ

میں ایک معرہ وقت تک نفع میں پھر ان کے حلال ہونے کے بعد پھر انہیں گھر لے کر آئے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ

اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَيْهَاتٍ الْأَنْعَامِ فَأَلْهَمُوا اللَّهَ وَاحِدًا فَلَهُ أَسْمَاءُ وَبَشِّرِ

وہ اللہ کو ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں اور جگہ کرتے وقت یا دیکھیں سو تمہارا عبود ایک ہی ہے جو ہر جگہ سے اسی کے وسیع ہوا اولیٰ نبی ان

الْمُحْسِنِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ

عاجزی کر دیا اور ان کی بشارت دے۔ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو جو انہیں نہیں

وَالْمُعِينِينَ الصَّلَاةَ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ

اور نماز قائم کرنے والوں کو اور ان کو جو مال سے دینے والے ہیں اس سے خرچ کرتے ہیں

وَالْبُدَانَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا خَيْرًا ۚ فَذُكِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتٍ

اور ہم نے تمہارے لئے قربانی کے اونٹوں کو اللہ کی نشانیوں میں ٹھہرایا ہے تمہارے لئے ان میں بہتری ہے تو تم ان پر جبکہ وہ مس میں کھڑے ہیں

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُمْ فَلَاحِقَ فِيهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

اللہ کا نام ہو جس جب ان کے پہلو زمین پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور درویش سے سوال اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ اسی طرح ہم نے انکو تمہارا وسیع

تَشْكُرُونَ ۚ

کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاحْتَرِمْ ۚ

ہیں تو اپنے پروردگار کیلئے نماز پڑھو اور قرآنی کر

لَنْ يَبَالِ اللَّهُ حُومًا وَلَا دَرًا وَلَا هَا وَلَا لَكِن يَبَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ مَّكَانَ لِك سَخَّرَهَا لَكُمْ

اللہ کو ان کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے لیکن اس کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے اسی طرح ہم نے ان کو تمہارا وسیع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بشارت

۲۷- قرآنی کے جانور مذکورہ کے بارے میں کی نشانی میں

۲۸- خدا کو قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ پرہیزگاری پہنچتی ہے۔

کعبہ

۱۲۴ $\frac{۱۲۴}{۲}$ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

۱- ابراہیم و اسماعیل کا خانہ کعبہ تیسرا کرنا۔

اور ایسا کہ جب ابراہیم کو نبیوں کی بنیادیں ملتی تھیں اور ان کے ساتھ اسماعیل میں رکھتے تھے کہ اسے ہلکے پروردگار ہمارے رب کے قریب لایا جائے وہی

۲- ابراہیم اور اسماعیل سے کعبہ پاک صاف رکھنے کا عہد

۱۲۵ $\frac{۱۲۵}{۲}$ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ أَمْنًا وَإِخْتِافًا وَإِذْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مَوْصَلًا وَوَعَدْنَا

اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لئے مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور ان کو حکم دیا کہ تمام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم

اور اسماعیل سے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور زائعوں اور مکہ اور سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک رکھو

۱۲۶ $\frac{۱۲۶}{۲}$ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ

اور جب ہم نے ابراہیم کے لئے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور کہا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کر لو اور لوگوں اور عبادت کرنے والوں

۳- کعبہ کو اپنے باشندوں کیلئے لہذا سیر کی جگہ بنا۔

۱۲۷ $\frac{۱۲۷}{۲}$ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس کے لئے کہ میں کا شرف بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اشرار اور قیامت پر ایمان نہ لے

۳- کعبہ کو اپنے باشندوں کیلئے لہذا سیر کی جگہ بنا۔

۱۲۸ $\frac{۱۲۸}{۱۳}$ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

پھنوس سے روزی دے فرمایا اور جو کفر کرے گا اس کو بھی میں عورتوں اور فائدہ دے گا پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف بڑھا دے اور وہ بڑی جگہ

۳- کعبہ کو اپنے باشندوں کیلئے لہذا سیر کی جگہ بنا۔

۱۲۹ $\frac{۱۲۹}{۱۳}$ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شرف دے کہ میں اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کر دے کہ ہم بتوں کو سجدہ کریں

۳- کعبہ کو اپنے باشندوں کیلئے لہذا سیر کی جگہ بنا۔

۱۳۰ $\frac{۱۳۰}{۱۳}$ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِعَ مَدْيَنَ وَارْتَمَيْتُ بِهَا حَبًّا وَارْتَمَيْتُ بِهَا حَبًّا وَارْتَمَيْتُ بِهَا حَبًّا وَارْتَمَيْتُ بِهَا حَبًّا

اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی بعض اولاد کو بے حکمتی دے لیا ہے ان میں تیرے رحمت دہنے گھر کے پاس بسایا ہے اے ہمارے پروردگار

۳- کعبہ کو اپنے باشندوں کیلئے لہذا سیر کی جگہ بنا۔

۳- کعبہ کو اپنے باشندوں کیلئے لہذا سیر کی جگہ بنا۔

۳- کعبہ کو اپنے باشندوں کیلئے لہذا سیر کی جگہ بنا۔

۳- کعبہ کو اپنے باشندوں کیلئے لہذا سیر کی جگہ بنا۔

بِعَمَاءِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۝ ۱۲۸ ۲۸ بھی دیکھو۔

اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔

۹۷ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْقَلْبَةَ الْحَرَامَ

اللہ نے کعبہ کو جو بیت کا گھر لوگوں کے گھر کے اٹھام کیلئے بنایا اور ماہِ طرم اور ترمال کے جانوروں کو اور ان جانوروں کو جس کے گلوں میں بٹے پڑنے نہیں

۲۸ وَقَالُوا لَآ اِنْ تَشَاءِ الْهَدْيِ مَعَكَ تَحْتَظِفُ مِنْ اَرْضِنَا ۙ اَوْ لَوْ يُمْكِنُ لَهُمْ حَرَمًا مِّنْ اَمْتٍ لَّجَبْرًا

اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تیرے ساتھ ہو کر ہایت پر نہیں تو ہم اپنے ملک ایک لے جائیں کیا ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی جو اس کی جگہ ہی ہر طرف

۲۹ ثَمَّ اَتَتْ كُلَّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۲۹ بھی دیکھو۔

کے پہل اس کی طرف کہنے چلے آتے ہیں جو ہامی طرف سے روزی ہے لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں

۳۰ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

یہ تک صفا اور مروہ (پہاڑیاں) اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

۱۲۹ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكْفُرْ اِنَّ مِنَ الْمُكْفِرِينَ ۝ ۱۲۹

دیکھو کابلہ ہونا تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہی ہے تو تک کہنے والوں میں نہ ہو۔ اور ہر ایک کے لئے ایک مسئلہ ہے وہ اسی کی طرف منکر نہ کرنا اور تو تم

۱۲۹ خَيْرَاتٍ ۙ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۙ وَ اِنَّ لِحَقِّ

نیکوں کی طرف ہو۔ اور اسے نبی اجماع تو نکلے اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیرے اور بے شک

۱۳۰ مِنْ رَبِّكَ ۙ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ ۱۳۰

دیکھو تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہی اور اللہ اس سے غافل نہیں ہو جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں تو جائے اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیرے

۱۳۱ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ شَطْرًا ۙ ۝ ۱۳۱ بھی دیکھو

اور جہاں تم ہو اس کی طرف اپنے منہ پھیرو

۱۳۲ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اٰتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اِنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۙ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ ۱۳۲

اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایسے پروردگار کی طرف سے حق ہی اور اللہ اس سے غافل نہیں ہو جو وہ کرتے ہیں۔

۱۳۲ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اٰتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰیةٍ مَا تَبِعُوْا قَبْلَتَكَ ۙ وَمَا اَنْتَ بِتٰبِعٍ قَبْلَتِهِمْ ۙ وَمَا

اور اگر تو ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر ایک نشانی لائے تو وہ بھی تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور تو بھی ان کے قبلہ کی پیروی کریں گے

۱۳۲ بَعْضُهُمْ يَتَّبِعُ قَبْلَةَ بَعْضٍ ۙ وَلَئِنْ اَتَيْتَ اَهْرَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ

نہیں ہو اور وہ ایک دوسرے قبلہ کی پیروی کریں گے اور اگر تو نے ان کے بعد بھی کہ تیرے پاس علم آچکا ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بیک اس

۱۳۲ اِذَا لِيْنَ الظَّالِمِيْنَ ۙ لِيُكْتَبَ لِيْهِمْ الْكِتٰبُ يَعْرِفُوْنَ ۙ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ ۙ وَ اِنَّ

وقت تو ظالموں میں ہوگا جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک

۱۳۲ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ ۙ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

ان میں سے ایک فرقہ فریق والے حق کو چھپاتے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔

۵۔ کعبہ لوگوں کے لئے بڑی گامز ہے۔

۶۔ کعبہ کی طرف ہر قسم کے بیٹوں کا گھبراہٹ۔

۷۔ صفا اور مروہ خدا کی نشانی ہیں۔

۸۔ کعبہ کا قبلہ ہونا برحق ہے۔

۹۔ کعبہ کے قبلہ ہونے کی حقیقت اہل کتاب بھی جانتے ہیں۔

۱۰۔ کعبہ کو قبلہ بنانے پر ان لوگوں کا شبہ اور اس کا جواب

۱۳۲/۲ سَيَقُولُ الشُّرَكَاءُ مِنَ النَّاسِ نَأْمُرُ بِالْقِيَامِ وَاللَّهُ شَرُّهُمُ الْبَاطِلِ كَانُوا عَلَيْهِمْ يَأْمُرُ اللَّهُ الشَّرِيقَ وَ

بے وقوف لوگ ایسے گئے کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے کس تیز نے پھیر دیا اسے (جی) کہتے کہ شرق اور المغرب جہاں سے اللہ نے ان کو صراطِ مستقیم پر لایا اور ان کو جہانِ اُممہ و وسطا مغرباً اندھی بنا دیا ہے وہ بے جا ہے یہ بت چاہتے ہیں

اور مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو بہتر سمت بنایا لَتَكُونُوا شُرَكَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي

تہ تا کہ تم (قباحت کو) لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو اور ہم نے وہ قبلہ میں بہتر سمت بنایا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتٍ لِّنَعْلَمَ مَنْ تَضَلَّ الرَّسُولَ مِنِّي يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ

اس نے تم پر ایسا کیا کہ ہم اس کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اس شخص سے نہ نہ کریں جو اپنی ایڑیوں پہ نہ کھڑکی لڑن، لوٹ جائے

۱۱۔ کعبہ کا قبلہ ہونا ہدایت اور ان کے سوا سب پر ناگوار ہے۔

۱۳۳/۲ قَدْ زُرِّيْتُمْ فِي هَٰذَا مِن دُونِ اللَّهِ أَنْ يَنْصِبُوا مِثْلَ الْقِبْلَةِ الَّتِي لَكُمْ فَكُلٌّ مِّنَ الْكَاذِبِينَ

بے شک تم میرے منہ کا آسمان کی طرف پڑنا دیکھتے ہیں تو تم تم کو رو قبلہ بننے دیتے ہیں جس سے تو خوش ہے تو تو پناہ مسجد الحرام کی طرف اِحکام و حجت ما کنتم قولا و جوهکم شطراة ۱۳۹/۲ ۱۴۰/۲ بھی دیکھو۔ کعبہ قبلہ ہونا حق ہے۔

۱۲۔ نمازیں کعبہ کی طرف منورہ کرنے کا حکم۔

۱۳۔ کعبہ کی طرف منہ کرنا اصل نیکی نہیں ہے۔

۱۳۵/۲ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ كَايْمًا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ فِي سَمَائِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور شرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہے یہیں بہتر سمت نہ کرے میں اس کی ذات (موجود ہے) جیسا کہ وہ سمان واد جلنے والا ہے۔

۱۴۔ کعبے کا حج لوگوں پر فرض ہے اور اللہ کے لئے لوگوں پر کعبے کا حج فرض ہے اور جو اس کی طرف رستہ پلنے کی حالت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ جہان دانوں

۱۴۴/۲ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو

۱۴۔ کعبے کا حج لوگوں پر فرض ہے اور اللہ کے لئے لوگوں پر کعبے کا حج فرض ہے اور جو اس کی طرف رستہ پلنے کی حالت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ جہان دانوں

۱۴۶/۲ عَنِ الْعَالَمِينَ

احکام المساجد

۱۴۷/۲ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ سَبِيحًا لِلَّهِ أَنْ يَدُكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور انکی اجائزگی کو کوشش کی۔

۱۔ مسجد کے روکنے اور انکے خراب کرنے والے بڑے ظالم ہیں۔

۲۔ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

۱۱۲

۳- مسجدوں کو دیران کزیرالو کی دنیا اور آخرت میں سزا۔
۴- مسجدیں آباد کرنا مشرکوں کا کام نہیں صرف مسلمانوں کا کام ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ

۱۱۶

شجرکوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اشک مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اعمال انہیں اور فی النار ہم خلدون ۱۱۶ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

عمل امارت کے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کی مسجدوں کو تو بس وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا
وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

اور نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی اور وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرا تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہوں
۱۱۹ اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام لمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد

کیا تم نے حاجیوں کے پانی پینے اور مسجد الحرام کے آباد کرنے کو اس کے ثواب کی برابر کر دیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

کی راہ میں لڑا وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

۱۱۹

۵- مسجد الحرام میں مشرکوں کو نہ گھسنے دو۔

سداؤ مشرک تو ناپاک ہیں تو وہ اپنے اس سان کے بعد مسجد الحرام کے پاس نہ جائیں
وَأَنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

اور اگر تم محتاجی سے ڈرو تو عنقریب ہی اللہ تم کو اپنے فضل سے مال دار کر دے گا اگر اس لے چاہے تک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے
إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ۝

۱۲۲

۶- مسجد الحرام کے متولی صرف متقی ہیں۔

اس کے متولی تو بس متقی ہی ہیں
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً

۱۲۵

۷- مسجد الحرام میں الحاد کرنے والوں کو عذاب الیم۔

بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ دونوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور نیز مسجد الحرام سے جس کو ہم نے سب لوگوں کیلئے بقیم
بِالْعَاقِبَةِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرُدَّ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمُ تَذْقَهُ مِنْ عَذَابِ الْبُحَيْرِ ۝

ہو یا پرہیزی برابر ٹھہرایا ہے اور جو اس میں ظلم سے کج روی چاہے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے
وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۝

۱۹۱

۸- مسجد الحرام میں لڑنا منع ہے۔

اور ان سے مسجد الحرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں نہ لڑیں
وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ لَهُ ۝

۳۴

۹- مسجد الحرام سے روکنے والوں کے لئے عذاب۔

اور ان کا کیا عذاب ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے حالانکہ وہ دونوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی ہی نہیں ہیں۔
فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا مِنْكُمْ وَإِن تُخْرَجُوا مِنْهَا فَمَا يَأْتِيكُمْ فِيهَا بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝

۳۶

۱۰- مذاکا نذر مسجدوں میں صبح و شام خدا کی یاد کرنے سے منع ہے۔

ایسے گروں میں جن کے بارہ میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے ان میں صبح و شام اسکی پاکی بیان کیے ہیں

۲۶
۲۳
رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا

وہ لوگ کہ انیس اللہ کی یاد اور زکوٰۃ دینے سے تجارت فائل کرتی ہے اور بیس

تَقَلُّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی

ہجرت

۲۷
۲۴
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۱۔ مہاجرین پر اللہ کی رحمت کی تہہ ساف۔ اس کے لیے جنت عزت کی رندی۔ بڑا نیک خدا کی رضامندی۔

۲۸
۲۵
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي عَيْنِ

سوم لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تائے گئے اور قتل کئے گئے میں ضرور ان سے

سَيَاتِرِهِمْ وَلَا دُخِلَتْ لَهُمْ جَنَّةٌ بَيْتًا مِنْ قَوْمِهِمْ أَلَا تَهْتَبُونَ عَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ

ان کے گناہ دور کر دوں گا امان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے درختوں کے انچھوٹے ہیں یہ بدلے اللہ کی طرف سے اور اللہ

حَسَنُ الثَّوَابِ

کے پاس اچھا بدلہ ہے

۲۹
۲۶
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرَفُوا أُولَٰئِكَ هُمُ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے رسول کو جگہ دی اور اللہ کی پیروی کی

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے

۳۰
۲۷
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا

عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت اور خوشنودی کی بشارت دے گا اور ایسے

لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُقِيمَةٌ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

باغوں کی دبی میں ان کیلئے قائم نعت ہوگی وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے بے شک اللہ کے پاس بڑا عظیم

۳۱
۲۸
ثَمْرًا رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ يُضَاعِلُ

پھر ایک تیز اور دھماکارا ان لوگوں کیلئے جنہوں نے اس کے بعد کہ وہ مصیبت میں ڈالے گئے ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا تو بے شک تیرا پروردگار اس کے

لَعْفُوْدٌ رَّحِيْمٌ

بہ نختے والا ہرمان ہے

۵۸
۲۲ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ

اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا لڑ گئے اللہ ان کو ضرور اچھی روزی دے گا اور بے شک

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لِيَدْخُلْتَهُمُ الْبَرِّيَّةُ لِيَرْضَوْهُنَّ وَتَرْضَيْنَهُنَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ رَّحِيمٌ

اللہ ہی بہتر روزی دینے والا ہے وہ ضرور ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو گئے اور بیگ اللہ جاننے والا ہر بار ہے

وَمَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ط وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ

اور جو اس کی راہ میں ہجرت کر گیا وہ زمین میں بہت سی جگہ اور دست پائے گا اور جو اللہ اور رسول کی طرف

مُهاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکلے پھر راہ میں اس کو موت آجائے اس کا ثواب اللہ کے نئے ہو چکا اور اللہ بخشنے والا ہر مان ہے

۶۱
۱۶ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ

اور جنہوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھے ٹھکانے لگائیں گے اور آخرت کا ثواب بہت بڑا

الْكَبِيرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَكَلَّمُونَ ۝

بے گروہ جانیں (یعنی جنہوں نے میر کیا اور اپنے پھروں کو کار پر بھروسہ کرتے ہیں)

۹۷
۴ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا لِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي

بے شک جن کو فرشتوں نے ایسی حالت میں مانا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ان سے پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم

الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَسْعَةً فَتُهاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَ

زمین میں کزد رہتے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سو ہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہوا

سَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لِيَسْتَضْعَفُوا

وہ بڑی جاگہ ہے گروہ کزد مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی جیل نہیں کر سکتے

جِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ قَالُوا لَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا

تو یہ وہ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا اور راہ نہیں پا سکتے

غَفُورًا

بخشنے والا ہے

جہاد

۲۱۴
۲ كِتَابٌ لَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن

تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور تمہیں ہے کہ تم ایک چیز کو نا پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور تمہیں ہو کہ تم

۱- جہاد کی فرضیت۔

اللَّهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۵۸ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

جائے یا غلب آئے تو تم اس کو ردا (بجاری) ثواب دیں گے اور تمہیں کیا بڑا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں

اللَّهُ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی حمایت میں جو کہ رہے ہیں کہ اسے ہمارے پورے گارہم کو

مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۝۵۹ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝۶۰ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ

اس جہتی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی حمایتی پیدا کر اور ہمارے لئے اپنی طرف سے

لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝۶۱ الَّذِينَ آمَنُوا يَفْقَهُوا تِلْكَ الْآيَاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْقَهُوا تِلْكَ فِي

کوئی مددگار پیدا کر جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ

سَبِيلِ لَطَاعَتٍ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

میں لڑتے ہیں پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُفَّ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ

پس اللہ کی راہ میں لڑو تم کو صرف تیری جان ہی کی تکلیف دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ابھار امید ہے کہ اللہ کافروں کی لٹائی

بِأَسْوَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسَاؤِهِمْ تَنَكُّيًّا ۝

بند کر دے اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت بھگت ہے عذاب دینے میں

الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَسْرَافٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝۶۲

وہ لوگ جن سے تو نے عہد کیا ہے پھر وہ ہر دفعہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں

فَمَا تَتَّقُونَ فِي الْحَرْبِ فَمَثَلٌ بِهِنَّ مَثَلٌ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَالَهُمْ يَكْفُرُونَ ۝

پس اگر تو ان کو ردا لئی میں پائے تو ان کو مار ان لوگوں کو متفرق کر دے جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

بِرَأْيِكَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا ہے

فَسَيُجِزُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ فَخْرٌ الْكَافِرِينَ ۝

سورائے مشرکوں، ملک میں چار مہینے تک رامن سے اپھرد اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنا نہیں ہو اور اللہ کافروں کو فخر کرنے والا ہے

۝۶۳ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کی طرف اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے

وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ

بیزار ہے پس اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم ردا دینی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو

وَبَشِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَدَانِ ابِّ الْيَوْمِ ۝۶۴ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَرًّا

اور جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک غلب کی بات ہے مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے تم سے عہد نبھانے میں

۵۸۔ کافروں کی خوف و ڈر کرنے کو لٹانا

۵۹۔ عہد شکن اور دغا باز لوگوں سے لڑنے کا حکم

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

لَمْ يَنْقُصُوا كُفْرًا شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَتْهُمُ الْبُيُوتُ عَمْدًا إِلَىٰ مَدِينَتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

کچھ کی نہیں اور تمہارے منہ بے میں کسی کی مدد نہیں کی ان سے ان کی مدت تک ان کا مدد پروردگار بے شک اللہ

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ فَإِذَا نَسَخْنَا الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

پہنچا کرو ان کو دوست رکھو یہ سب جہت کے لئے تم پر ہوا میں تو شرکوں کو جہاں پاؤ تلو کر دو

وَحَدِّدْهُمْ وَأَحْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

اور ان کو پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کے لئے ہر ایک گت کی جگہ میں ٹھہرا کر دو تو بہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں

فَقَاتِلُوا سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَشِيدٌ جَزِيمٌ ۗ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجْرَهُ حَتَّىٰ

تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر شرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے یہاں تک

يَسْمَعَنَّ كَلِمًا مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ أَلْبِنَهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ

کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کے اس کی جگہ پناہ دے یہ سب کلمہ دہیے لوگ میں جانتے نہیں افسوس کے نزدیک اللہ اس کے کھل

عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ

کے نزدیک شرکوں کے لئے مدد نہ کر سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس عہد کیا تھا تو جب تک وہ تم سے اپنے

فَأَسْتَقِيمُوا الصُّلْحَ وَإِن لَّمْ يَكُنُوا مُتَّقِينَ ۗ كَيْفَ لَوْ أَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يُقَاتِلُوكُمْ

مہینہ ہیں تم ان کی تائید نہ کر سکتے اور یہ سب کلمہ دہیے لوگ میں جانتے نہیں افسوس کے نزدیک اللہ اس کے کھل

إِلَّا زَكَاةً مَّا ظَلَمْتُمْ أَوْ دَمًا مَّكِينًا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

یہاں سے کمالا کریں اور نہ مدد نہ کو نہ نہ کسی ہاں سے خوش کرتے ہیں اور ایک دن قبول نہیں کرتے اور اکثر ان میں بدکاریں۔ انہوں نے اللہ

يَأْتِي اللَّهُ تَمَنَّا قَلِيلًا فِصْدًا عَن سَبِيلِهِ إِن تَحْسَبُوهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ لَا يُقَاتِلُوكُمْ

کی آیتوں کے بدلے تم ہی قیمت بول لی پھر انہوں کی اس کی راہ سے روکا۔ بیک وہ کام چاہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں کسی مسلمان کے حق

فِي مَنٍّ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا ذَنبًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۗ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

میں نہ سے کمالا رکھتے ہیں اور نہ مدد نہ کو نہ نہ کسی ہاں سے خوش کرتے ہیں اور ایک دن قبول نہیں کرتے اور اکثر ان میں بدکاریں۔ انہوں نے اللہ

الزَّكَاةَ فَارْحَمُوا كُفْرًا فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ وَلَٰن نَّكْفُرُ بِآيْمَانِهِمْ

تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور ہم ان لوگوں کے لئے جو جاؤ ہیں منقل نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے عہد کرنے کے

مِن بَعْدِ عَهْدٍ هُمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا الْيَمَّةَ الْكُفْرًا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِمْ لَعَلَّهُمْ

بعد اپنی قسموں کو توڑ دہیں اور تمہارے دین میں من کریں تو ان کے پیروؤں کو تلو کر دو بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں شاید کہ وہ

يَنْتَهُونَ ۗ إِلَّا تَقَاتِلُوا قَوْمًا نَّكَفُوا بِآيْمَانِهِمْ وَهُمُوا بِآخِرِ النَّاسِ وَالْهُمُومُ مَوْكُفٌ

باز رہیں کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دہیں اور رسول کے تعالے کا قصد کیا اور انہیں نے تم سے

أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ الْحَقَّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مَعًا مَبِينِينَ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ مَعَكُمْ

پہلے (تمہارے لئے) کی ابتدا کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو سو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو ان سے لڑو اللہ تمہارے

اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخَيِّرْهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مِّنْهُمْ ۝ ۱۸۹ ۝ وَيَذْهَبْ

ہاتھوں ان کو مزادے گا اور ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر تم کو فتح دے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا اور ان کے غیظ قلوب پر تم ویتوب اللہ علی من یشاء و اللہ علیہم حکیم ۱۸۹ ۝ امر حسیبتم ان تترکوا دلوں کے غصے کو دیر کر دے گا اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم ولتبا علم اللہ الذین جاهدوا منکم ولم یکنوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ہاں ہی پھر دینی جانگے حالہ کا ایسی اشد نے ان لوگوں کو تمیز نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور سوائے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین ولینجاة واللہ خیر بما تعملون ۝

۱۸۸ ۝ ان عدۃ الشہر عند اللہ اثنا عشر شہراً فی کتب اللہ یوم خلق السموات والارض منہا

بیک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اشد کی کتاب میں جس دن اُس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بارہ مہینے قرار پائے ہیں ان میں اربعۃ حرم ذلک الدین القیم ۱۸۸ ۝ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کما کانوا جارمینہ حرم کے ہیں یہ صحیح دین ہے تو تم ان (مہینوں) میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور سب مشرکوں سے لڑو جیسا کما یقاتلونکم کافۃ ۱۸۸ ۝ واعلموا ان اللہ مع المتقین ۱۸۸ ۝

۱۸۷ ۝ یسئلک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بآیۃ اللہ والحدود اللہ اکرہ منہ اکرہ عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل سے روکا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یرذوکم عن دینکم ان استطاعوا

۱۸۶ ۝ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعدوا دین اللہ لا یحب المعتدین ۱۸۶ ۝

۱۸۵ ۝ وقاتلواہم حیث تقفتموہم و اخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل

۱۸۴ ۝ کذلک جزاء الکفرین ۱۸۴ ۝ فان التہوا فان اللہ غفور رحیم ۱۸۴ ۝ وقاتلواہم حتی

۱۸۳ ۝ اور ان سے سجد الحرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے اس میں نہ لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو کذلک جزاء الکفرین ۱۸۳ ۝ فان التہوا فان اللہ غفور رحیم ۱۸۳ ۝ وقاتلواہم حتی

۷۔ حرمت کے مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ مگر فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے

۸۔ جو تم سے لڑیں تم ان سے لڑو خود ابتداء نہ کرو۔

۹۔ لڑائی میں برابری ملحوظ رکھو اور جب تک فتنہ فرو نہ ہو برابر لڑتے رہو۔

یہ کافروں کی سزا ہے اور اگر وہ باہر میں توبہ کر لیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور ان سے لڑتے

لَا تَكُونُ فِتْنَةً وَيَكُفِّرُ اللَّهُ عَنْكُمْ أَسْفَاكُكُمْ وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۴﴾

ربو بیان تک کرتے باقی نہ ہے اور دین اللہ کے لئے ہر جگہ ہر گز وہ راہی سے ابانہ میں کوئی یا دتی ہوئے ظالموں کے کسی نہیں ہے۔ حرمت
الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فبین اعتدی علیکم فاعتدوا علیکم عیلاً
کالسیہ حرمت کے لینے کے بدلے ہے اور سب حرمت والی چیزیں ہینے کا بدلہ سو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اس قدر زیادتی کرو
فَاعْتَدِی عَلَیْكُمْ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَالْعِلْمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۵﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ

جسنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہرگز گاروں کے ساتھ ہے اور اللہ کی راہ میں خرچہ
اللہ وَلَا تَلْقُوا بِأیدیْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۶﴾

کر دو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکو کاری کرو بیک اللہ نیکو کاروں کو دوست رکھنا ہے

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُفِّرُ اللَّهُ عَنْكُمْ أَسْفَاكُكُمْ وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۷﴾

اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لئے ہو جائے ہر گز وہ راہی سے ابانہ میں تو بیک اللہ ان ظالموں کو جو
بصیرٌ ﴿۱۹۸﴾ وَإِنْ تَرَوْهَا فَقَاتِلُوا فَاكْفِرُوا عَنْ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْقُدْرَةُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۹﴾

کرتے ہیں دیکھو اب۔ اور اگر وہ منڈوں تو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے وہ اچھا دوست ہے اور اچھا مددگار

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حذرکم فانفروا ثباتاً أو انفروا جميعاً ﴿۲۰۰﴾

مسلمانو! اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لے رہو ہر راہ خدا میں سے دستے کوچ کرو یا سب ایک ساتھ کوچ کرو
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَاتِلْتُمُ الْكُفْرَانَ فَانفِرُوا كَثِيفًا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانفِرُوا ﴿۲۰۱﴾

مسلمانو! جب تم جماعت کفار کے مقابل ہو تو جے رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم مسلح پاؤ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْتُمْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَاللَّهُ يَنْصُرْكُمْ أَفَدَامَكُمْ ﴿۲۰۲﴾

مسلمانو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے گا
فَلَا تَهْزُوا أَوْ تَكْفُرُوا إِلَى السَّلَاحِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمْ أَعمالكم ﴿۲۰۳﴾

ہیں پورے نہ ہو اور مسلح کی فرت نہ بناؤ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے علوں کو ہرگز کم نہیں کریگا۔
إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَنَهْوٌ وَإِنْ تَوَيْمُوا وَتَتَّقُوا لَوْ تَكْرَهُمْ وَلَا يَسْتَلِكُمْ أَمْوَالكم ﴿۲۰۴﴾

دنیا کی زندگی تو بس زراکیل اور دل بھلا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور ڈرو تو وہ تمہیں تمہارے اجر دیکھ اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔

لَسْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا يُغْنِيكُمْ عَنْهَا قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يَجْلُ فَاِنَّمَا يَجْلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴿۲۰۵﴾

اور اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے پھر تم سے بانٹ کرے تو تم جمل کرو اور وہ جمل کرے کیسے جاہل کرے۔ لوگو! آلاہ جو تم وہ لوگ ہو کہ اس لئے

لَسْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا يُغْنِيكُمْ عَنْهَا قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يَجْلُ فَاِنَّمَا يَجْلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴿۲۰۵﴾

ہے ہاتھ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو سو کوئی تم میں جمل کرنا ہے اور جو جمل کرنا ہے وہ اپنی جان سے نہیں کرتا ہے
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا

اور اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہے اور اگر تم روگردانی کرو تو وہ تمہارے بدلے دوسرے لوگ لاسو جو کرنا پھر وہ لوگ

۱۰۔ لڑائی میں اپنا ہتھیار اپنے ساتھ

رکھو

۱۱۔ جہاد میں بہت قدم رہو۔

۱۲۔ جہاد میں خرچہ کرنے کا حکم

امثالکم

تساری مانند نہ ہوں گے

۱۳۔ لڑائی سے مت بھاگو۔ ۱۵/۸ یٰٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ الْقَيْٰمِ الْمُذٰبِ كَفَرُوْا وَ اَزْحٰفًا فَلَئُوْا لَوْ تُوْهُمُ الْاَدْبَارُ

جب تم گھمان لڑائی میں کافروں کے مقابل ہو تو ان کو پیچ نہ دو

۱۴۔ لڑائی سے بھاگنے والوں پر عذاب کی عتاب۔ ۱۶/۸ وَ مَنْ يُّؤْتِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرًا اِلَّا سَخِنَ فَاَلْقَيْنٰلِ اَوْ مُتَحَبِّزًا اِلٰى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

اور جو کوئی اس روزان کو اپنی پیچ دینگے سوئے اس کے جو لڑائی کے لئے ملنے والا ہو یا پناہ ڈھونڈنے والا ہو اپنی جہالت کی طرف وہ اللہ

مِنْ اَللّٰهِ وَ مَا وَاوَدَهٗ جُحْمًا وَّ وِبِئْسَ الْمَوْصِيْرُ

کے غضب کی طرف لٹنا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بڑی جگہ ہے

۱۵۔ لڑائی سے بھاگنے والوں کو عذاب۔ ۱۶/۸ وَاِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ

اور اگر تم مدگردانی کر دے گے جیسا کہ تم نے پہلے مدگردانی کی تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور جو مدگردانی کرے اس کو وہ

عَذَابًا اَلِيْمًا

دردناک عذاب دینگا

۱۶۔ لڑائی کا سامان تیار رکھو۔ ۱۷/۸ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْْلِ تَرْهَبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ

اور جہاں تک تم سے ہو سکے ان کے لئے قوت تیار رکھو اور گھوڑوں کو سرد پر باندھے رکھو اس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو

عَدُوْكُمْ وَ الْاٰخِرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَاَنْتُمْ تَقُوْنَ مِنْ شَيْءٍ فِى

ڈراتے رہو گے اور ان کے سوا دوسرے لوگوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ ہی انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو چیزیں تم فرج کرتے

سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوْفِّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تظْلُمُوْنَ

وہ تمہیں اجر کی صورت میں پوری دی جائے گی اور تم نہ ظلم نہیں کیا جائے گا

۱۷۔ کافروں کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو تو تم کو مہیا نہ فَاَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سُوْءِ اِيْمَانِ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ الْخٰٓفِيْنَ

اور تجھے کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو تو برابر ہی کی حالت میں ان کی طرف ان کے ہمدرد کو پھینک دو جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں رکھتا

وَلَا يُحِبُّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَسْبَقُوْا اِلَيْهِمْ لَا يُحْزَنُ

اور کافر یا گمان ہرگز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں وہ نہیں، عاجز نہیں کر سکیں گے۔

۱۸۔ مجاہد و غیر مجاہد برابر نہیں۔ ۱۸/۹ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرِ اُولٰٓئِ الضَّرَرِ وَ الْجٰهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

سوئے معذوروں کے جنگ سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اپنی جان و مال سے راہ خدا میں لڑنے والے برابر نہیں ہیں

يَا مَوَالِيْهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْجٰهِدِيْنَ يَا مَوَالِيْهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلٰى الْقَاعِدِيْنَ

اللہ نے اپنی جان و مال سے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں فضیلت دی

دَرَجَةً وَّ وَاَعَدَّ اللّٰهُ الْحَسَنَ وَ اَفْضَلَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

اور نیکی کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر عظیم اجر عظیم دی ہے

۹۸ ۴ درجبت منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ۝

یعنی اپنی طرف سے درجوں اور مغفرت اور رحمت میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۱۱۶ ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله و

۱۹۔ رسول کے ساتھ ہرگز نہ

۱۱۷ لا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك يا اثم لا يصيبهم ضارا ولا نصيب ولا محصاة

۱۱۸ في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا

۱۱۹ ولا ينفقون نفقة

۱۲۰ ولا يقطعوا اديا الا كذب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا

۱۲۱ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم

۱۲۲ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تجمركم من عذاب اليم ۝

۱۲۳ توفون بالله

۱۲۴ درجبت منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ۝

۱۲۵ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة بحسبى من تحبها الا نفرا ومسكين طيبه في جنه

۱۲۶ ذلك الفوز العظيم ۝ واخرى فتبوا نقاد نصر من الله وفتح قريبا و

۱۲۷ اور ایک اور چیز دے گا جسے تم چاہتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی تم کو

۲۰۔ خدا کی راہ میں مزید لوگوں کو ہدایت

۲۱۔ وہ خدا میں لڑنے والوں کو عذاب الیم سے نجات دے گا

۲۲۔ ماہ خدا میں لڑنے والوں کی مغفرت

۲۱

۲۱

بَشِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۴۷

۲۳- راہ خدا میں لڑنے والوں کے لیے بہشت اور ان کے لیے اجر عظیم

۴۸

۹۵

۱۵۱

۲۱

۱۵۴

۱۶۸

۱۶۹

۹۱

۱۲۱ (دیکھو راہ خدا میں لڑنے والوں کی مغفرت - حد ۲۲)

وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَرَفًا لَّهُمْ ۝

اور بہشت میں اہل کرے گا جبکہ اس نے ان سے بیان کر دیا ہے
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

پس ہا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچتے ہیں
فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

پھر قتل کیا جائے یا غلب آئے اس کو ہم منقریب ہی بڑا ثواب دیں گے
وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے
وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَكُمْ غُفْرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ ۚ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا بخود مر گئے تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ ۝

بیک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف میں کھڑے ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ لوگ ایک شیشہ گھملائی ہوئی دیوار ہیں
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحيَاءٌ ۚ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں خبر نہیں
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْسَلُونَ ۝

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں تو مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ ہیں روزی پہنچائے جاتے ہیں
فَرِحِينَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۚ

اس میں گمن ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے خوش ہیں جو ان کے پیچھے والوں میں سے ابھی ان سے
الْآخِوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ۱۶۵ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نہیں ملے کہ نہ ان پر خوف ہی ہے اور نہ وہ غمگین ہی ہونگے اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہیں اور اس بات سے کہ اللہ
لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا
لَيْسَ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْبًا إِذْ انصَبُوا

کمزوروں پر حرج نہیں اور نہ مریضوں پر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کے لئے مال نہیں پاتے جب وہ
لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ۹۲ وَلَا عَلَى الَّذِينَ

اللہ اور اس کے رسول کی غیر خواہی کریں۔ نیکو کاروں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور نہ ان پر کہ

إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَحَدٌ مَّا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

جب وہ تیرے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہ تو انکو سوار کرے، اور کہے تو کہتا ہے کہ میں وہ سوار نہیں بناؤں گا، اس پر تم کو ہرگز دوں موت، وہیں ہرگز نہیں
حزننا الا بجد واما ينفقون ○ **إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ**

اور انکی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ہرگز نہیں سوار کرو، اور چیز نہیں لے سکتے، غریبوں کو سوار نہیں بناؤں گا، انہیں ہرگز نہیں سوار کرو، وہ جہل کی اجازت مانگتے ہیں اور وہ
رضوا بان يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَضَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ قُلُوبَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

ہیں اور مردہ اس بات سے خوش ہو کر بھیجے رہنے والوں کے ساتھ میں اور اشارے ان کے دلوں پر کر دی ہے سو وہ جانتے ہیں

وَالْقَوَائِمُ لَا يُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ○ **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ**

۲۸ - جہاد کی فصلیں

اور اس نکتے سے ٹھنڈ جو خاص انہیں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم سے ظلم کیا ہے اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب

الْعِقَابِ

والا ہے

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ○ **۳۹** **إِذْ نَالُوا لَدُنِ اللَّهِ**

جیسا اللہ ہی اللہ کی مددوں کو، ان لوگوں سے دفع کرنا رہتا ہے جو ایمان لائے ہیں، جیسا اللہ کسی غیبت کرنے والے کو نہیں کرتا، جیسا اللہ کسی گمراہ کو نہیں

يُقْتَلُونَ بِأَلْسِنِهِمْ ظَلَمُوا ○ **وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ○ ۴۰** **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ**

کی جہاد پر انکو اس بنا پر نہ امانت کی اجازت دینی کہ ان پر کیا گیا ہے اور جیسا اللہ کسی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان کو جو ناحق اپنے گمروں سے

دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ عَمَلٍ ○ **إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ○ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ**

نکالت گئے مرن اس تصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ اللہ کا اللہ ہے اور اگر اللہ کا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع

لَهُمْ مَتَّ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَاتٌ ○ **وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ○ وَلِيُنْصَرِفَنَّ**

کرنا نہ ہوتا تو ضرور درویشوں کے غلوت خانے اور گریبے اور بیویوں کے عبادت خانے اور مسجدیں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائے جاتے

اللَّهُ مَنِ يَنْصُرُهُ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے جیسا اللہ قوت والا ہے غائب

لَا أَرَاكَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ○ **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ**

۲۹ - میں نے زبردستی نہیں

دین میں زبردستی نہیں ہے ہدایت گمراہی سے سزا دہر کی ہے سو جو تہوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ○ **لَا انْفِصَاءَ لَهَا ○ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○**

اس نے مضبوطی سے کو پکڑ لیا جس کے لئے ٹوٹنا نہیں ہے اور اللہ سننے والا جانتے والا ہے

فَاعْبُدُوا ○ **وَأَمَّا شَتْمٌ ○ **مَنْ دُونَهُ****

تم اس کے سوا جس کی جاہر عبادت کرو

لَكَفَرُوا ○ **دِينًا ○**

تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین

۳۰۔ اگر کافر نہ لڑیں تو ان سے
شہادت نہیں۔

۹۱

سَيَجِدُونَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّامْنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ كَمَا رَدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكَبُوْا

مسلمانوں تم کو اور لوگوں کو باؤں کے جوہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں امن میں رہنا جیسا بھی وہ فتنہ گیزی دلائی کہہ رہے
فِيهَا قَوْمٌ لَّمْ يَخْزَلُوْكُمْ وَيَلْفَنُوْا اِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوْا اَلْبِدِيَّةَ مِنْكُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
ہئے جگہ میں اس میں اونہ سے گرنے جلتے ہیں اگر وہ لڑائی میں تم سے صلح کو پیغام نہ لڑیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان
تَقِفُوْهُمْ وَاُولٰٓئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مَّبِيْنًا ۝

کو کہ لو اور جہاں پاؤں کو تکیں کرو اور یہی لوگ میں جن پر ہم نے تم کو لڑائی کی اگلی سند دی ہے

۹۲

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِخْذُوْهُمْ وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وُجِدْتُمْ وَاَمِنْهُمْ فَلْيَاوُلِ اَنْصَارِهِمْ

پہر اگر وہ نہ مٹیں تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤں کو تکیں کرو اور نہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار
۝ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَى قَوْمِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ

گمراہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان حد ہے یا وہ تمہارے پاس ایسی صورت سے آئیں کہ ان کے دل اس
اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُّقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ وَاَوْشَاءَ اللّٰهُ لَسُلْطٰنًا عَلَيْهِمْ فَلْيَقْتُلُوْكُمْ ۝ فَاِنْ
بات سے تنگ ہو کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا پھر وہ ضرور تم سے لڑتے سوا کہ وہ
اَعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُّقَاتِلُوْكُمْ وَالْقَوٰ اِلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام لڑیں تو اللہ نے تم کو ان پر الزام کی راہ نہیں دی

۹۳

وَاِنْ جَحَرُوا اِلَيْكُمْ فَاجْرِمُوْهُمْ اَوْ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی اس کی طرف جھک اور اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک وہی سننے والا جانتے والا ہے اور اگر وہ تجھے
اَنْ يُّخَدِعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ وَاَلَّذِيْنَ اٰتٰنَا مِنْ نِعْمَتِهِ وَاَلَّذِيْنَ اٰتٰنَا مِنْ نِعْمَتِهِ
دھوکا دینا چاہیں گے تو بے شک تجھے اللہ کافی ہے وہ وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد اور مومنوں سے نوازا دی اور ان کے
بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
دلوں میں محبت ڈالی اگر تو وہ سب کچھ بھی خرچ کر ڈالتا جو زمین میں ہے تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتا لیکن اللہ نے ان میں محبت
بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ڈالی بے شک وہی غالب ہے حکمت والا اسے نبی تجھے اللہ اور مسلمان جو تیرے پیرو ہیں کافی ہیں

۹۴

فَاِذْ اَقِيَمْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَخَذْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْعُقٰتَ ۝

پھر جب تم کافروں کے مقابل ہو تو گردنوں کا مارنا ہے جہاں تک جب تم خوب مار دھاڑ کر چکو تو ان کی قید کو مضبوط کرو
فَاِمَّا مَتَابَعِدُوْا فَاِذَا حَتّٰى تَضَعُ الْحَرْبُ اُذُنَ رَهٰٓءَاۗذِكَ ۝ وَلَوْ اَشَاءَ اللّٰهُ لَاتَّصَّرَ
پھر اس کے بعد یا احسان رکھ کر چھوڑ دیا ہے اور یا ذی بے کر۔ یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رنجیے رکھ دے یا حکم پر اور اگر اللہ چاہے تو ان سے بڑ
مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوْا اَبْعَضَكُمْ بِبَعْضٍ ۝ وَالَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّخَلِّىَ اَعْمٰلَهُمْ
لیے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑے گئے وہ ان کے اعمال اکارت نہیں کریگا

۳۲۔ اسیران جنگ کو احسان
کر کے یا ذریعہ لیکر چھوڑ دو۔

سَأَلْتَنكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

۱/۸ - ۳۳ - مال نسبت اللہ و رسول کے

وگرتو سے قیمتوں کی بابت پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ اور رسول کے لئے ہیں

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي لَقِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسُّكُونِ

۲/۸ - ۳۴ - مال نسبت کے متن

اور جان لو کہ جو شے تم لوگوں میں دشمنوں سے لڑو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور اورشتہ داروں کے لئے اور یتیموں اور بنوں اور مسکینوں کے لئے اگر تم اللہ پر اور اس (رحمی) پر ایمان لائے جو جوہم نے فیصلہ کے دن اپنے بندے پر اتاری جس دن مسلمانوں کو

الْجَمْعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کا رسول کی اور جانیں آپس میں بڑی ہیں اور اللہ ہر شے پر قادر ہے

وَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُ فَمَا آوَجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَرِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ

۳/۸ - ۳۵ - مال فتنے کی تعریف

اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول کے ہاتھ لگا کر اتاری ہے اس پر نہ گھوڑے نہ اونٹ

لیکن اللہ جس پر

يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جاتا ہے اپنے رسولوں کو غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے

مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِلَّذِي لَقِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

۴/۸ - ۳۶ - فتنے کے معنی

جو کچھ اللہ نے بتیوں والوں سے اپنے رسول کے ہاتھ لگا کر اتاری ہے اللہ کے لئے ہے اور رسول اور رسول کے ارشتہ داروں یتیموں اور

السَّكِينِ وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ

مسکینوں اور مسکینوں کے لئے یہ حکم اس لئے ہے تاکہ تم میں سے دو گنتوں کے درمیان والہ نہ رہے اور جو کچھ رسول

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

تیس سے وہ لے لو اور جس چیز سے تمیں روکے اس سے روک جاؤ اور اللہ سے ڈرو یہ تک اللہ سخت عذاب والا ہے

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ

وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ

وَالْأِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا

جنوں نے ان (مہاجرین) سے پہلے دار ہجرت اور ایمان میں جو گلی جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس سے

أُوتُوا وَيُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ لَنَضَّوْنَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

فلجان نہیں دے جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے اور اپنے اور ہمدردوں کو تنگ کرتے ہیں اگرچہ خود ماجتد ہوں اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے ہوا گیا

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

وایسے ہی لوگ فلاح پالنے والے ہیں اور دینداران کے لئے ہے جو ان کے بعد آئے گئے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اور ہمارے

اور دینداران کے لئے ہے جو ان کے بعد آئے گئے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اور ہمارے

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُوا نَابًا وَلَا يَمَانًا وَلَا يَتَعَلَّ فِي قُلُوبِنَا غَلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

ان جہانوں کو جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے ہیں
رَبَّنَا إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ

اے ہمارے پروردگار بیشک تو ہی بڑا شفیق مہربان ہے

نکاح

وَلَنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْسُطُوا فِي لِبَائِكُمْ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرًا وَثَلَاثَ فَرَسَاتٍ

اور اگر تم کو اپنے آپ پر کھینچ لیا جائے یا سے میں انعام پتہ نام نہ رہ سکو گے تو لاؤں عورتوں میں جس سے تمہیں کچھ معلوم ہیں نکاح کرو۔ دو دو اور تین تین اور چار چار

فَلَنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ فِي الْأَنْعَامِ ط

پھر اگر تم یہ اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے تو ایک ہی (نکاح کرو) یا جو (لوٹو یا ان سے) ہاتھ باندھ لیا اس کے زیادہ قریب ہو کہ تم ظلم نہ کرو

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْلِ لَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ

اور اپنی بیوہ عورتوں کا نکاح کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے ایک بختوں کا اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

فضل سے اللہ کرے گا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے

مُحْصِنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ ط

جیکہ تم پاک دہنی مال کر لو گے ہونے سستی بھاڑنے والے۔ جب کہ وہ پاک اپنی مال کر نیوالی ہوں جسے بھاڑنے والی

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ قَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور جو تم میں سے اس بات کا مقدور نہ رکھتا ہو کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کر کے

مَنْ فَتَيْتَكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ وَبَعْضٌ فَايُكُونُ بَأْذَانِكُمْ

سے تمہارے ہاتھ کا مال ہیں ان سے نکاح کرو اور اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ تم ایک دوسرے کی خبر ہو

أَهْلِيهِنَّ وَالْوَهْنِ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ الْخِلَافَةِ

سے ان سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کے گھر ان کو دو جیکہ وہ قید میں آئیں ہوں جسے بھاڑ نیوالی ہوں اور دلچسپ طور پر یا بارہ کر نیوالی

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

یہ اجازت اس کیلئے ہے جو تم میں سے زنا کا خوف کرے اور یہ بات کہ تم صبر کرو تمہاری حق میں بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اور مسلمان پاک دامن عورتیں اور ان میں سے پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے نکاح کے لئے رو ہیں،

وَلَيْسَ تَعْفَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ زَكَحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط

اور وہ لوگ بچے نہیں جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مال دار کر دے

۱۔ ہر نکاح کی اجازت۔

۲۔ اگر کئی عورتوں میں نساہت

ہر نیکے کا اندیشہ ہو کہ ظلم نہ کرے

۳۔ بیوہ عورتوں کی نیکیت کو

غلاموں کا نکاح کر دے۔

۴۔ نکاح حاصل ہونے کیلئے ہر

۵۔ اگر لڑکا اور عورتوں کا فرج اٹھانے

کی حالت نہ ہو اور نہ زنا کا اندیشہ

ہو تو ایمان دار لونڈی کے ساتھ

لے کے آنکا اجازت سے نکاح کر لو

۶۔ کتابیہ عورت کے نکاح درست ہے

۷۔ عیسائے نکاح کا مقدور نہیں

ہے۔

۲۴ وَأَجَلَ لَكُمْ قَاوِرًا ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ط

۱۴۔ مفسدہ باہ کے سوا کس عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ (ب) ہر مقررہ اور اگر نیکیا مکمل

اور تمہارے لئے حلال کی گئیں جو ان کے سوا میں کہ تم ان کو اپنے مالوں کے بدلے تلاش کرو جب کہ تم قیدیں رہنے والے نہ متقی جھانٹنے والے

۲۴ وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدُقًا فِيمَنْ فَخَلَهُ ط

اور عورتوں کو ان کے مردوں پر یہ تمہارا علیہ ہے

۲۴ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ط فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے تلاش کرو جبکہ تم قیدیں رہنے والے ہو نہ متقی جھانٹنے والے پھر ان میں جس سے تم نے نفع اٹھایا تو ان کو ان کے

۲۵ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ط وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ط

مردوں پر یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے اور دستور کے مطابق ان کو ان کے مردوں پر جبکہ وہ قیدیں آنے والی ہوں نہ متقی جھانٹنے والی اور

لَا مَخِذَاتٍ أَخَذَ إِنْ

نہ مجھے مرد پر یا راند کرنے والی

۵ إِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مَخِذَاتٍ أَخَذَ إِنْ

جب کہ تم ان کو ان کے مردوں اور تم قیدیں رہنے والے ہو نہ متقی جھانٹنے والے اور نہ مجھے طور پر یا راند کرنے والے

۱۰ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ط

اور تم پر گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جب کہ تم ان کو ان کے مردوں

۱۲ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ لِلَّهِ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا لَيْتَكُمْ فِي الْكِتَابِ لَيْسَ

اور لوگ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہہ دے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں اجازت دیتا ہے اور جو تم پر کتاب میں

النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

پڑھا جاتا ہے ان نسیم لڑکیوں کے بارے میں ہے جن کو تم وہ دہرا نہیں دیتے جو ان کے لئے لکھا گیا ہے اور تم رافع ہو کہ ان سے نکاح کرو اور اگر وہ بچوں

مِنَ الْوِلْدَانِ وَإِنْ تَقَوْمُوا لِّلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

کے بارے میں ہے اور یہ حکم ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اور جو نیکی تم کرو گے تو بے شک اللہ

بِهِ عَلَيْهِمَا ط

اس کو جانتا ہے

۲۴ فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ط

پھر اگر وہ (عورتیں) اپنی خوش دلی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو کھاؤ اور جھجکا پیتا

۲۴ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِدْالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَ لِهِنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے ڈھیروں مال دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو

۲۴ مِنْهُ شِبَاءًا آتَاخُذُونَكَ بِهَتَانَا وَآلِشَاءٍ مَبِينًا ط وَكَيْفَ تَأْخُذُونَكَ وَقَدْ أَفْضَىٰ

کیا تم اس کو چھوڑنا الزام ٹھاکر اور کھلا گناہ کر کے لینا چاہتے ہو اور تم اس کو کس طرح لیتے ہو حالانکہ تم آپس میں

۱۶۔ اگر عورتیں اپنی خوشی سے ہر چھوڑ دیں تو جانتے ہے۔ ۱۷۔ اگر ہمت کو طلاق دینے کا اللہ جو تو اس سے ہر یا جو کچھ ہے چکے ہو واپس لینا جائز نہیں۔

بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

ایک دوسرے سے بے حجاب ہو چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے پکا عہدے لگی ہیں

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيْعَةً مِنْ بَعْدِ الْفَرَايِضَةِ طَرِيقَ اللَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

اور تم پر گناہ نہیں اس میں جس پر تم ٹھہرے بیچے ایمان و رضامند ہو جاؤ بے شک اللہ جانتے دلا حکمت والا ہے

۱۸۔ ہر قسم کے عہدے نہ ہونے کی ضمانت دے کر کسی عہدے کی

طلاق

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا كَلِمَةٌ مَعْرُوفَةٌ أَوْ كَلِمَةٌ تَجِبُ بِهَا حُسْنُ

طلاق دس بار ہیں پھر ان کے بعد خوبی کے ساتھ روک رکھنا ہے یا خوبی کے ساتھ چھوڑ دینا

۱۔ طلاق اہل صرف دوسریں۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا

پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کو نکاح نہیں بنا سکتی کہ اس کے سوا دوسرے خاوند سے نکاح کرے پھر اگر اس کو دوسری خاوند

۲۔ نہیں طلاق اولیٰ صورت بنیوی عاقد کے نکاح میں نہیں سکتی

أَنْ يَكْرَاهِي أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا

نے، طلاق دینی تو ان پر گناہ نہیں کہ وہ دوسروں پر نکاح کی حرکت کرے مگر جائیں کہ اللہ کے حکام کو ٹھکرانے کے لیے یا اللہ کے حکام کو ٹھکرانے کے لیے

۳۔ طلاق اولیٰ صورتوں کو فریق کے ساتھ روک رکھنا خوبی کے ساتھ چھوڑ دینا نہیں ضروری ہے بے نہ روک۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَكُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ وَمَعْرُوفٌ أَوْ سِرٌّ حَوْهْنٌ وَمَعْرُوفٌ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی نصیحت کی ایسا دیکھتی جائیں تو انہیں خوبی کے ساتھ رکھ کر رکھنا خوبی کے ساتھ

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَفْسِنَّ وَأَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ وَلَا تَفْعَلُوا

پھر ڈرو اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ زیادتی نہ ہو اور جو کوئی یہ کرے اس نظرانی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی

آیت اللہ ہنر واد واذکرو انعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتب والحکمة

آیتوں کو ٹھکانا بناؤ اور خدا کی نعمت جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کتاب اور حکمت تم پر اتاری گئی ہے

۴۔ طلاق اولیٰ صورتوں کو نکاح سے نہ روک

بِعِظْمِ اللَّهِ وَالْقَوْلُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ رَجُلٌ شَيْءٌ عَلِيمٌ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ

اس کے ساتھ تم کو اللہ نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے پھر جب وہ اپنی نصیحت کو سنی جائیں تو

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

انہیں خوبی کے ساتھ روک رکھنا یا خوبی کے ساتھ علیحدہ کر دو

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَكُنَّ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ زَوَاجِحًا وَإِذَا كُنَّ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی نصیحت کو سنی جائیں تو ان سے روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح

بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ

کلیں جب وہ خوش اسلوبی سے آپس میں رضامند ہو جائیں۔ اس کے ساتھ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا

أَنَّكُمْ لَكُمْ وَأَطَّهَرُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

ہے یہ بات تم سے زیادہ تمہاری اور پاکیزگی کا باعث ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

۲۲۶ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

۵۔ عورتوں کو طلاق دینے سے پہلے طلاق دینی گناہ نہیں

۲۲۸ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ۚ

۶۔ مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کے زیادہ مقدار ان کے خاوند ہیں

۲۲۹ وَالْمَعْرُوفُ مِنَ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

۱۔ اس بارے میں ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حق دار ہیں اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں اور عورتوں کا حق اسی کے مانند ہے جو ان بہ مردوں کا ہے خوبی کے ساتھ اور مردوں کو ان پر بڑائی ہے اور اللہ غالب ہے حکمت والا

۷۔ طلاق دینی ہو تو زمانہ عدت یعنی پاکی کے دنوں میں دو۔

۲۳۰ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ بِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

۲۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دنوں میں پاکی کے دنوں میں دو اور عدت کو گنتے رہو

۸۔ طلاق والی عورتوں کو اپنی عدت کے مطابق خرچ دو۔

۲۳۱ وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا رَزَقْنَهُنَّ رِزْقًا مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ كَمَا رَزَقْنَاهُنَّ فِي النِّكَاحِ ۚ

۳۔ اور طلاق والیوں کے لئے خوبی کے ساتھ خرچ دینا ہے یہ تمہاریوں پر حق ہے

۹۔ بغیر ماہ لگانے طلاق دینے کی صورت میں آدھا ماہ ہے

۲۳۲ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَاذْكُرْنَ مَا رَزَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ

۴۔ اور اگر تم ان کو اس سے پہلے ہی طلاق دیدو کہ تم نے ان کو ماہ لگایا ہو اور تم ان کا ماہ مقرر کر چکے ہو تو جو تم نے مقرر کیا اس کے

۱۰۔ بغیر ماہ لگانے طلاق دینے کی صورت میں مطلقہ کو خرچ بھی دینا چاہیے۔

۲۳۳ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَاذْكُرْنَ مَا رَزَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ

۵۔ اور اگر تم ان کو اس سے پہلے ہی طلاق دیدو کہ تم نے ان کو ماہ لگایا ہو اور تم ان کا ماہ مقرر کر چکے ہو تو جو تم نے مقرر کیا اس کے

خلع

۲۳۹ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ مَا فِيمَا أَتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ ۚ

۱۔ زوجهین کی رضامندی سے خلع میں گناہ نہیں۔ اور تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ جو تم ان عورتوں کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو مگر یہ کہ وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کے احکام کو نہیں چاہیں اور اگر تم اس سے ڈرتے ہو تو ان کو دے دو اور اگر تم اس سے ڈرتے ہو تو ان کو دے دو اور اگر تم اس سے ڈرتے ہو تو ان کو دے دو

۱۱۔ زوجهین کی رضامندی سے خلع میں گناہ نہیں۔

مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

اپنے فرض دے یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھا اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے وہ ظالم ہیں۔

عدت

۲۲۸ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۝

اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین مہینے یا چار ماہ تک رکھ کر سے ارادہ کریں۔

۲۲۹ وَإِلَىٰ يَوْمِ مَنِّ الْمَحِيضِ مَرْثَاةٍ يُكْتَمُ أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۝ ذَٰلِكَ مَرْثَاةٌ

اور تمہاری عورتوں میں سے جو مہینے سے نما آید ہوں اگر تم کو تک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے یہ اللہ کا حکم

أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ سَنَّهُ سُمِّيَانَهُ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

یہ جو تمہاری طرف اتارا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کو بڑا ثواب دے گا

۲۳۰ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۝

اور جو تم میں سے مہربان اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے دس دن تک رکھ کر سے ارادہ کریں

بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

مہینے پوری کر دو اپنی بیواں کو پہنچ جائیں تو جو وہ اپنے لئے خوبی کے ساتھ کریں تم پر اس میں گناہ نہیں

۲۳۱ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ

اور جو تم میں سے مہربان اور بیویاں چھوڑیں ان پر اپنی بیویوں کے لئے وصیت کرنا ہے کہ سال بھر تک ان کو فائدہ دین گھر سے نہ نکالیں

۱ ۝ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۝

اور عدت کے دن گنتے رہو

۱ ۝ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ يَفَاحِشَةً مُّبِينَةً ۝ وَذَٰلِكَ حُدُودُ اللَّهِ

اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ نکل سکیں مگر یہ کہ کھلی بے حیائی کریں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی بات پیکار دے

۲۳۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا انْكِحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ طَلِيقَاتٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

مسلمانو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر اس سے پہلے ہی کہ تم ان کو چھوؤ ان کو طلاق دے دو

عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ عِدَّةٌ تَعْتَدُونَ لَهَا فَمَتَّحُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرًّا حَامِيًّا ۝

ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس کو شمار کر لو پھر ان کو فائدہ دو اور انہیں خوبی کے ساتھ چھوؤ

۱ ۝ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَسَّكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَنْصَرُوا مَوْلَاهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۝ وَإِنْ كُنَّ

ان کو رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنے مقدر کے مطابق اور ان کو ایذا دے کہ ان پر تنگی کرو اور اگر وہ

۱۔ طلاق ملنے عورتوں کی عدت

تین مہینے یا چار ماہ ہیں۔

۲۔ جن کو حیض نہیں آتا ان کی

عدت تین ماہ

۳۔ عدت کی چار مہینے

دس دن روز۔

۴۔ مرنے والوں کی اپنی بیویوں کی

بھر کی عدت کی وصیت کرنا چاہیے

۵۔ عدت کے دنوں کو گنتے رہو

۶۔ عدت شہر کے گھر گزارے شوہر

بہتر ہے کہ بیوی اسے نہ نکالے

۷۔ بیوی اللہ لگانے طلاق دینے

کی صورت میں عدت نہیں

۸۔ عدت دال کو نکالنے سے پہلے

بننے تک مکان کے ساتھ نفع بھی ہو

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

۲۲۸) وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
صل دالی ہیں تو ان پر خرچہ کرو یہاں تک کہ بچہ جن میں

۲۲۵) وَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللهُ
اور ان کے لئے مدال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہو اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں

۲۲۶) أَتُكْفَرُ سِتْرًا كَرِهْتُمْ لَهَا مَدَّتْ أَمْ تَكْتُمُونَ كُنَّ تَكْتُمِينَ كَذِبًا كَرِهْتُمْ لَهَا مَدَّتْ أَمْ تَكْتُمُونَ
اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم زایم مدت (بچوں سے کٹائی گئی) کا ذکر کر دیا اپنے دلوں میں چھپاؤ

۲۲۷) وَلَا تَعْرُضُوا مَعْقِدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْتِغِيَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
ہے کہ تم ان کا ذکر تکرار نہ کرو کیونکہ بوشیدہ طور پر ان سے قول نہ کرو مگر یہ کہ تم پسندیدہ بات کہو

اور نکاح کی گره لگانے کا ارادہ نہ کرو جب تک کہ میاں اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے

رجعت

۲۲۵) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى
پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو انہیں پسندیدہ طور پر بردہ کے رکھو یا انہیں پسندیدہ طور پر چھوڑ دو اور اپنے لوگوں میں دو شہید

عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤْخِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
گواہ کرو اور اللہ کے لئے درست شہادت دو یہ ہے جس کے ساتھ ان کو نہ سمیت کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں

ایلا

۲۲۶) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لئے چار مہینے کا انتظار کرتا ہے

۲۲۷) فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ عَفِيفٌ رَحِيمٌ
پھر اگر وہ رجوع کریں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۲۲۸) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے

لعان

۲۲۹) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
اور جو لوگ اپنی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں سوائے ان کی اپنی ذات کے تو ان میں سے ایک کی گواہی

۹۔ مدت دالی کو مکرر چھپانا
مدال نہیں۔

۱۰۔ مدت میں مگنی کا کیا کر نہیں
گناہ نہیں۔

۱۱۔ مدت میں نکاح نہ کرو۔

۱۔ رجعت یا تفریق پر شہید
گواہ کر لینے چاہئیں۔

۱۔ ایلا میں چار مہینے کا مدت

۲۔ پھر رجوع

۳۔ یا طلاق

۱۔ لعان، عورتوں پر الزام
لگانا۔

شَهِدَاتٍ يَا اللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْحَاقِمَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ

بے شک وہی قسم کے ساتھ چار بزرگ بے شک وہ سچوں میں ہے اور پانچویں بار یہ کہ اس پر اللہ کا لعنت ہے

كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْرُدَ أَرْبَعُ شَهِدَاتٍ يَا اللَّهُ

وہ جھوٹوں میں ہو اور اس عورت سے یہ بات سزا کو مال دیتی ہے کہ وہ چار بار گواہی دے خدا کی قسم کے ساتھ

إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْحَاقِمَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

کہ بیک اور جھوٹوں میں ہے اور پانچویں دنویک کہ اس پر یعنی جو ہم اللہ کا غضب نازل ہوا اگر وہ سچوں میں ہے

۝ وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ مہربان مکت والا ہے تو کیا کچھ ہو جاتا

ظہار

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَلِيًّا وَتُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ

اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کئے اور تمہاری ان عورتوں کو جن کو تم مان کر بیٹھے ہو

أَمْهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ

تمہاری ماں نہیں بنایا اور تمہارے لئے پاکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا یہ تمہارے منہ کی کہن ہے اور اللہ حق کہتا ہے

وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝

اور وہ ماہ راست دکھاتا ہے

۱- بیوی کو ماں کہہ دینے سے
حقیقی ماں نہیں بن جاتی

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَلِمَاتِهِمْ

اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے غامد کے بارے میں تم سے جھگڑاتی اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی باتیں

رَأَى اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

سناتا ہے بیک اور اللہ سنتے والا دیکھنے والا ہے

۲- بیوی کو ماں کہنا گناہ ہے
لیکن وہ اس کہنے سے حقیقی
ماں نہیں بن جاتی حقیقی ماں
صرف وہی ہے جس سے پیدا ہوا

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أَمَّهُتُمْ إِلَّا إِلَيْنَا وَإِلَيْكُمْ وَلَدَانِكُمْ

جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہیں ان کی ماں صرف وہی ہے جنہوں نے ان کو جنابا اور کہہ

لَيَقُولَنَّ لَوْ أَرَأَيْتُمْ أَتَيْنَا الْقَوْلَ وَنُزِرْنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝

بیک نہیں کہ وہ ایک اس قول بات اور جھوٹ کہتے ہیں اور بے شک اللہ سمان کرنے والا بخشنے والا ہے

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ تَحْتِ يَدَيْكُمْ لَمَّا قَالُوا افْتَحِرْ يَرْقَبَةٌ مِنْ قِبَلِ رَبِّنَا

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے ہیں پھر انہوں نے کہا ہے اس سے لڑنا ہوتا ہے میں تو اس پر ایک گردن کا آزاد کرنا ہے اس سے

ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ایسے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ جو تم کہتے ہو جانتا ہے

۳- بیوی کو ماں کہنے پر ایک غلام
آزاد کہہ دینا ہی مقدرت نہ ہو تو
لڑنا تمہارے ساتھ روزے رکھو اس کی
بھی طاقت نہ ہو تو ساتھ سکیں تو

کمان کھڑے یہ سب کچھ عورت کو ہاتھ لگانے سے پیشتر ہو

۵۰ فَمَنْ لَمْ يُجِدْ فِصِيًّا مَشْرُومًا مَتَابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّمَ شَادَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامًا
پھر جو نہ پائے تو دوسرے کے لگا کر دوسرے میں اس سے پہلے اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو
سِتْنِينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِيُتَمَوَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ساتھ ہی جو کو کمانا دینا ہے یہ اس کے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے

رضاع

۱۔ پوری ست رضاع (شیر خورگی) دوسری میں

۱۳۳ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ وَ

۱۳۳ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا
اور باپ پر ان دو دہانے والیوں کا نفقہ اور پوشاک ہے عہدگی کے ساتھ کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی

۲۔ رضاع (شیر خورگی) کے باپ پر رضو کا نفقہ اور کسوت لازم ہے
۳۔ بچے کے دودھ پلانے میں اسکی ماں کو ضرورت دیا جائے

۱۳۳ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلًا مَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ وَعَلَى الْوَالِدِ صِفْلٌ ذَلِكَ
نہاں کو اس کے بچے کے سبب سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب سے اور وارث پر بھی اسی کی مانند ہے

۴۔ رضاعتی سے بچے کی ماں سے دودھ پھیرا جانا نہیں۔

۱۳۳ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
پھر اگر ماں باپ آپس کی رضاعتی اور مشورہ سے دوسری سے چھینے ہی (دودھ چھوڑنا یا پانی تو ان پر کچھ گناہ نہیں

۵۔ دودھ پلانے میں بچے کی ماں کو اجرت دینا۔

۱۳۳ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ قَالًا مَعْرُوفًا
اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو رواہ سے (دودھ پلواؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں جب تم وہ جو تم نے پھیرا یا ہے عہدگی کے ساتھ دے دو

۶۔

۶۵ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدَّنَّ أَجْرَهُنَّ وَإِنْ أَبَيْنَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْكُمْ
پھر اگر وہ تمہارے گنے سے دودھ پلائیں تو ان کی ادھی کی اجرت دو اور عہدگی کے ساتھ آپس میں موافقت رکھو اور اگر تم مفاہتہ کر گئے تو اسکے

لَهُ أَخْوَى

یعنی سے دوسری عورت دودھ پلا دے گی

۶۔ دودھ پلانے میں بچے کی ماں کو مشورہ کے مطابق نفقہ دینا چاہیے۔

۶۵ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِمَّنْ سَعَتِهِمْ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِيهِ
چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے اور وہ جس پر روزی تنگ کی گئی ہے جس قدر اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

فرق کرے اللہ کسی جان کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے عسرتی کے بعد فرحتی کر دیتا

معاشرت النساء

۱۔ مرد عورتوں کے سروکار سے۔

۳۴ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ مَوْلَاهُمْ
مرد عورتوں کے قیام کرنے والے ہیں اس لئے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو ایک پر برتری دی ہے اور نیز ان کے لئے مردوں نے اپنے مال خرچ کئے

فَالصَّلَاتُ قُنُوتٌ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

پس نیک نیت مومنین نماز اور بار میں خداوند اول کی نیت میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ حفاظت کرنے والی ہیں

۲۲۳ وَاللَّيْلِ تَخَافُونَ نَشْوَاهُنَّ فَوْضَلَهُنَّ وَاجْهَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

اور میں مورتوں کی نافرمانی مانتیں انہیں اور ان کو بھانڈا اور اپنے بستروں سے ان کو ٹیٹھہ کر دو اور ان کو ارد

۲۲۴ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ أَنْتُمْ كَانْتُمْ عَلَيْهِمْ خَيْرًا

پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں (اور ان پر) اور ان کی راہ دکھائیں نہ کرو بے شک اللہ انہیں شان والا بڑا ہے

۲۲۵ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا

اور اگر تم ان کے درمیان افتخار سے ڈرو تو ایک نیک مرد کے خاندان سے اور ایک نیک عورت کے خاندان سے متور کر دو اگر وہ دونوں نیک

يُؤْتِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ أَنْتُمْ كَانْتُمْ عَلَيْهِمْ خَيْرًا

مستحق ہو جائیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا ایک اللہ جاننے والا خبر دے گا

۱۲۸ فَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے لڑائی یا رد گردانے کا اندیشہ کرے تو ان دونوں (میاں بیویوں) پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں

۱۲۹ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْرَ وَإِنْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَكُمْ شِكْرٌ

اور آپس میں صلح کر لیں اور صلح ہی بہتر ہے اور جانیں نہیں پر ماحول کی کمی ہیں اور اگر تم یقین کر دو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اس سے خیر

تَعْمَلُونَ خَيْرًا

ہے جو کرتے ہو

۱۲۵ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْلُغُوا كِلَيْهِمَا فَتُذَرُوا

اور تم مورتوں کے درمیان بیکرا امتیاز نہیں کر سکو گے اگرچہ تمہیں چاہے اور میں ہوں تم پر سے ایک ہی طرف کو نہ جھک جاؤ کہ تم ان کو اور

۱۲۶ كَالْمَعْلُوقَةِ دُونَ أَنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

میں لہ ہوا چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کر دو اور اللہ سے ڈرو تو بیک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے

اللَّهُ كَلَّا مَنْ سَعَتْهُ وَكَانَ اللَّهُ وَإِسْعًا حَكِيمًا

سے جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی شائستگی سے ہر ایک کو دیکھ دے گا ہے پر داکر دیکھا اور اللہ رحمت والا ہے

۲۲۳ نِسَاءً وَكُلَّ حَرْثٍ تَكْمُرًا فَإِن تَوَاحَرْتُمْ أَنْتُمْ مَوْلَاكُمْ وَاقْتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

شادی مورتوں کی شادی کہتی ہیں تو تمہاری کہتی ہیں جس طرح چاہو اور اور اپنی جانوں کیلئے اعمال سالو کے بیجا اور اللہ سے ڈرو اور جان

أَنْتُمْ مَلْفُوهٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور اللہ نبی مومنین کو بشارت دے

۲۲۲ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحْضِرِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ مَا أَغْرَضْتُمُ وَالنِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ

اور لوگ تمہارے حین کی بابت پوچھتے ہیں تو کہہ دو وہ ناپاک ہے تو حین کے دنوں میں مورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ

۱۔ سنا فرمان مورتوں کو نصیحت

اور تنبیہ کرو۔

۲۔ مبین عورتوں پر ہجوم کی

راہ نہ ڈھونڈو۔

۳۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق

نہ ہو تو ان کے رشتہ داروں

میں صلح کرادیں۔

۴۔ میاں بیوی میں صلح ہی

بہتر ہے۔

۵۔ خاوندوں کو باطل ایک

طرف جھکنا نہیں چاہیے۔

۶۔ تمہاری بیویاں تمہاری

کہتی ہیں۔

۸۔ حین کیا ہے؟

حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

جب تک وہ پاک نہ ہوئیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بی شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○

بھتا ہے اور پاک لوگوں کو دوست رکھتا ہے

۱۸۹
هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ د

دو عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو

۱۹
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُونَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

انہاں کے ساتھ پسندیدہ طور پر رہو پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید کہ تم ایک شے سے نفرت کرو اور اللہ اس میں بہت سی خوبی

خَيْرًا كَثِيرًا ○

پیدا کر دے

۶۵
وَكَلَّ تَصَابِرًا وَهِنَّ لِيُخْبِتْنَ عَلَيْهِنَّ ط

اور ان کو مقررہ پہنچاؤ کہ تم ان کو تنگ کر دے

پرہیز

۲۴
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيوتَ غَيْرِ بِيوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

مسلمانو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت نہ مانگو اور سلام کرو ان کے

۲۵
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى

دبے والوں پر یہ تمہارے حق میں بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑو پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو تا وقتیکہ تم کو اجازت نہ دی جائے ان میں

يُؤْذَنَ لَكُمْ ○ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فارجِعُوا أَرْجِعُوا أَرْجِعُوا لَكُمْ ○ وَاللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

داخل نہ ہو اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ تمہاری کابالت ہے اور اللہ جو تم کرتے ہو جانتا ہے

۲۶
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بِيوتَ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ○ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا

تم پر کچھ گنہ نہیں کہ تم ان گھروں میں جن میں کوئی نہیں رہتا اور ان میں تمہارا اسباب ہے بغیر عجبے داخل ہو جاؤ اور اللہ جانتا ہے جو

مُبْدُونَ ○ وَمَا تَكْمُلُونَ ○

تم نکال کر دے ہو اور جو تم چھپاتے ہو

۲۷
قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضَبُوا مِنِّ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَسْرَارَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لِمَعْرَافَةِ اللَّهِ

مومنوں سے کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے بی شک

۲۸
خَيْرٌ لِّمَا يَصْنَعُونَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنِّ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

اللہ خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت

۹- عورتیں مردوں کا اور مرد عورتوں کا لباس

۱۰- عورتوں سے نیک برتاؤ

۱۱- عورتوں کو کسی قسم کی ایذا

۱۲- کس کے گھر میں نہ چھو اجازت

مانگے داخل ہونا جائز نہیں

۱۳- مکان غیر مسکونہ میں ضرورت

کی وجہ سے داخل ہونا جائز ہے

۱۴- مرد اور عورتیں نیچے آنکھیں

کھلے چھتے کے سوا اپنی زینت

نکال کر رکھیں کن کن کے سامنے

اپنی زینت کا اظہار جائز ہے؟

فَرَوْحَهُنَّ وَ مَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوهَرِهِنَّ

کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہے اس اپنی اور عنیاں اپنے گریباؤں پر ڈالے زمین

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ

اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاندانوں پر یا اپنے باپوں پر یا اپنے خاندانوں کے باپوں پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے

أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

خاندانوں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بیٹیوں پر یا اپنی عورتوں پر یا ان رشتہ داری

أَيَّمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَرْجٌ مِّنْ

غلاموں پر جو ان کے ہاتھ کامل ہیں یا ساتھ رہنے والے مردوں پر جن عورتوں کی حاجت نہیں یا ان لڑکوں پر جو ابھی تک عورتوں کی شرمگاہ پر

عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ

سداقت نہیں اور زمین پر اپنے پاؤں نہ ماریں تاکہ اپنی جو زینت وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو جائے اور مسلمانوں کو

اللَّهِ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ایک ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ تم نجات پاؤ

۳۳ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

اور (اے نبی کی بیویو!) اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اپنے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ ظاہر کرنی نہ چھو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ

مسلمانو! تمہاری باندھی غلام اور وہ جو مد بظنوت کو نہیں پہنچے تین وقت اندرانے کی تم سے اجازت

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ

تین بار کریں فجر کی نماز سے پہلے اور جب تم دو پہر کو اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشا کی

صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ وَأَنْتُمْ

نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں ان وقتوں کے بعد تم پر گناہ ہے اور نہ ان پر کہ وہ تم پر آنے والے

عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ہیں تم میں سے بعض بعض پر یوں اللہ تم سے نشانیاں بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

۵۹ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ

اور جب تم میں سے لڑکے مد بظنوت کو پہنچ جائیں تو وہ اجازت لیں جیسا کہ وہ اجازت لیتے تھے جو ان سے پہلے تھے یوں

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اللہ تم سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

۶۵ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرُجُونَ بِنَاكَ حَافِلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

اور بڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار رکھیں

۳۔ ازواج نبی کو گھسوں ہے

کا حکم

۵۔ باندھی غلاموں کی اجازت

کو صبح اور شام اور دو پہر کی وقت

اپنے مالکوں کے گھروں میں بیٹھی

اجازت داخل ہونا ہاں نہیں

باقی وقتوں میں اجازت کی

ضرورت نہیں۔

۶۔ بالغوں کو کسی وقت بھی گھر

میں با اجازت داخل ہونا نہیں

چاہیے۔

۷۔ بڑھی عورتوں کو لباس کی

کم تا کم مگر سنگ رنجا کرنا ہرگز

غَيْرِ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ فَهِنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

بشریکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں اور اگر وہ اس سے بھی تو ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَبْظِرِينَ

۵۳
۳۳

کیس بھی درست نہیں۔

۹۔ عورتوں سے کوئی چیز مانگنی
ہو تو پہلے کی لوث سے مانگ لے

سلمانو: نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو گریہ کرتے ہو جاہزات دی جائے کھانے کی طرف کھینے کا انتظار نہ
إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْذِنِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ

کرتے ہوئے کہیں جب نہیں ہلایا جائے تو داخل ہو پھر جب تم کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ
ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِثُّ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِثُّ مِنَ الْحَقِّ ۖ وَإِذَا سَأَلَ لَكُمْ

بات نبی کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرماتا ہے اور اللہ حق کے اظہار سے نہیں شرماتا اور جب تم پیغمبر کی بیویوں
مَتَاعًا فَسَلُّوا مِنْ ذُرَاهِرِ حَجَابٍ ذَلِكُمْ أَظْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ

سے کچھ اسباب مانگو تو ان سے پردے کے نیچے سے مانگو یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک کرنے والی ہے اور تمہارا
أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَلَا أَنْ تَنْكُحُوا زَوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ

حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو بے شک یہ بات اللہ کے
اللَّهُ عَظِيمًا ۝

نزدیک بڑا بڑا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

۵۹
۳۳

۹۔ عورتوں کو سر پر چادر ڈال دینی

اسے نبی اپنی بیبیوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکانے رہیں
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ساتھی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا بَنَاتِهِنَّ

۵۵
۳۳

۱۰۔ جن لوگوں سے پردہ نہیں ہے

ان پر گناہ نہیں ہے ان کے باپوں میں اور نہ ان کے بیٹوں میں اور نہ ان کے بھائیوں میں اور نہ ان کے بہنوں میں اور نہ ان کے
إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

بھائیوں میں اور نہ ان کی عورتوں میں اور نہ ان کے نوذبی غلاموں میں اگر ان سے پردہ نہ کریں اور لے عورتوں اللہ سے ڈرو بیشک
شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

اللہ ہر شے پر موجود ہے

وصیت

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا لِمَنْ وَصَّيْتُمْ بِهِ

۱۶۰
۴

۱۰۔ وصیت حال چھوڑنے والوں

تم پر فرض کیا گیا ہے جب کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آجوز ہو اگر وہ مال چھوڑے وہی وصیت کرنا

فرض ہے۔

۲۔ وصیت والدین و اقربا کیلئے

۳۔ وصیت متقیوں پر کیا جاتی ہے

۴۔ وصیت بننے والے گنہگار ہیں

۵۔ وصیت ناموں کی جہاں گئے ہیں گناہ نہیں

۶۔ مرنے والوں کو اپنی جہادوں کی ایک سال کی وصیت کرنی چاہئے

۷۔ سفر میں وصیت پر گواہ کرنے چاہئیں۔

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

ہاں! آپ اور رشتہ داروں کے لئے پسندیدہ طور پر

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

متقیوں پر لازم ہے

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

پھر جو کوئی اس کو بدل دے اس کے بعد اس نے اس کو بدلے تو اس کا گناہ انہیں پر ہے جو اس کو بدلنے پر بیگناہ تھے اور اللہ جاننے والا ہے

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْجِبٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پھر جو وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم یا گناہ سے ڈرا اور اس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے شک اللہ بخشنے والا ہے

رَحِيمٌ

والدین پر

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُم مِّن دُونِ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْصِيَةٌ إِذْ ذُكِرْتُم مَّتَاعًا لِّى الْحَوْلِ

اور جو تم سے رہیں اور بیویاں چھوڑیں وہ اپنی بیویوں کے لئے وصیت کر جائیں

غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْتُمْ فَلَاحْتِسَابٍ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِّن مَّعْرُوفٍ إِلَى اللَّهِ

بغیر اخراج سے (گناہ) پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم کو اس بات میں کچھ گناہ نہیں جو وہ پسندیدہ طور پر اپنے لئے کریں اور اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

غالب ہے حکمت والا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَائِدٍ وَأَعْدِلْ

سند زبانتار سے درمیان گواہی کا تعاب جب تم میں سے کسی کے پاس موت آجود جو وصیت کے وقت دو مستبر آدمی ہوں جو

مِنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

تم میں سے ہوں یا دوسرے: دو تمہارے فیروں میں سے اگر تم سفر میں ہو اور تم کو موت کی مصیبت آجائے تم ان دونوں گواہوں

تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتُمْ أَنْ تَشْتَرُوا بِهِنَّ ثَمَنًا وَإِنْ لَمْ تَكُنَّ

کو نواز و غصرا کے بعد دو گواہوں کے ساتھ میں ہو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ تم اس قسم کے بدلے کچھ قیمت بول نہیں سکتے اگرچہ وہ جس

ذَوَاتِي وَلَا تَكُنَّ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنْ أَذَانِ الْإِيمَانِ

کے نفع کیلئے ہم گواہی دیتے ہیں، رشتہ دار ہی ہوا اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں بیگناہ اس صورت میں گناہ ہوں گے

فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرِينَ يَقُولُ مِمَّا مَنِ الَّذِينَ اسْتَشْعَرْتُمْ

پھر اگر یہ معاملہ ہو کہ وہ جھوٹ بول کر ان کے وجہ ہوں تو دوسرے دو آدمی ان کی جگہ ان میں سے کھڑے ہوں جن پر پہلوں نے جھوٹ

أَلَا وَلَئِنْ قُيُسِمُنَّ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا نَعْتَدُ بِئِنَّآ إِذْ أَرْمَنَ

بول کر قیامت کیا ہے ہیں وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ مستبر ہے ہم نے زیادتی نہیں کی بیگناہ اس وقت

الظَّالِمِينَ ۝

ظالموں میں سے ہوں گے

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وُجُوْهِهَا وَيَخَافُوْا اَنْ تَرَدَّ اِيْمَانُ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ

یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ صحیح صحیح گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد روکی جائیں گی
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَسْمَعُوا وَاَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

اور اللہ سے ڈرو اور اس کا حکم سنو اور اللہ بہ کار لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

میراث

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

مردوں کا اس زوال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں اور عورتوں کا بھی، اس زوال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار
وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝

چھوڑیں مال چھوڑا ہوا بہت اس میں ٹھہرایا ہوا حصہ ہے

وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰنِ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ فَاٰزِرُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا

اور جب (ترکی) تقسیم کے وقت رشتہ دار (جن کا حصہ مقرر نہیں ہے) اور یتیم اور مسکین آجود ہوں تو دلچسپ طور پر ان کو اس میں سے کچھ دو
لَهُمْ قَوْلٌ مَّعْرُوْفًا ۝

اور ان سے منقول بات کہو

وَيُنْعَشِ الَّذِيْنَ لَو تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا

اور ایسے لوگ ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے گزردار (ولا چھوڑیں تو ان کو اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو ان کو چاہئے کہ اللہ سے
قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

ڈریں اور راہ کی بات کہیں

يُؤْتِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْ كَرِهْتُمْ لِتُذَكَّرُوْا اَلَا نَشِيْرٌ

اللہ تم کو تماری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے

فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِّمَّا تَرَكَ

پہر اگر لڑکیاں ہی ہوں (دو یا دو سے زیادہ تو ان کے لئے اس کا مال دو تہائی ہے جو وہ چھوڑے

وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝

اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے لئے آدھا مال ہے

وَلَا يُوْرِيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدْرُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَاٰلٌ

اور وصیت کے ماں باپ کے لئے ان دونوں میں سے ہر ایک کیلئے چھ حصہ ہے اس مال میں سے جو وہ چھوڑے اگر اس کے اولاد ہے

۱۔ والدین اور اقربا کے ترک میں
مرد اور عورت دونوں کا حصہ

۲۔ تقسیم ترکہ پر اگر غیر حقدار یتیم
مسکین اور اقربا آجود ہوں
تو ان میں بھی کچھ دو

۳۔ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دو چند

۴۔ دو لڑکیوں سے زیادہ ہونے
ان کا حصہ دو تہائی۔

۵۔ ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا آدھا

۶۔ اولاد نہ ہونے یا باپ میں پہر لڑکیاں
چھ حصہ۔

عَيْرُ مَضَارٍ، وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

۱۶- وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جاتے

۱۷- اللہ کے گرمناک ہیں اس کا آدھا ہے اگر وہ دین تو دونوں کا دین تھائی۔ اور اگر بھائی بہنیں دونوں میں تو مرد کا حصہ عورت سے دگنا۔

بغیر اس کے کہ وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ جاننے والا اور بار بار ہے
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرٌ وَأَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُولَ الْأَخْتِ
لوگ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کسی کو کلالہ کے بارہ میں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے
فَلَهَا نِصْفٌ وَأَمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَكُلٌّ فَإِنَّ كَانَتْ أُمَّتَيْنِ فَلَهَا النِّصْفَانِ
ایک بہن ہو تو اس میں سے اس کا نصف ہے جو وہ چھوڑے اور وہ بھی اس میں کا وارث ہے اگر اس کے اولاد نہیں ہے پھر اگر وہ نہیں ہے
بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ
تو ان دونوں کیلئے اس مال کا دوا تائی ہے جو وہ چھوڑے اور اگر وہ وارث جماعت ہو مرد اور عورتیں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اللہ تعالیٰ

إِنْ تَصَلَّوْا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

لئے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ بِمَا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ

اور ہم نے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑے ہر ایک کے وارث ٹھہرا دیئے ہیں اور جن سے تم نے رجائی چائے گا امداد کی ہے

نَصِيْبِهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

ان کو زندگی میں ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر شے پر حاضر ہے

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْكُمْ تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ

اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور تمہاری بیویوں کو جن کو تم ہاں کہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا

أَمْهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ

مخانتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور تمہارے منہ ہونے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا یہ صرف تمہارے منہ کی بات ہے اور اللہ

يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبْنَائِهِمْ هُمْ أَسْطُ عِنْدَ اللَّهِ

ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو یہ اللہ کے نزدیک

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُولَٰئِكَ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

انسان کی بات ہے اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے آزاد کئے ہوئے ہیں اور اس میں تم

فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

پر کوئی گناہ نہیں جو تم غلطی سے کہہ چکے ہو لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دل قصد کریں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

قرض و رهن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

جب تم ایک دوسرے سے عہد کر لو تو اس کو لکھ لیا کرو اور چاہئے کہ تمہارے درمیان

۱۸- ہر ایک معاملے کو لکھنا اور سچا کرنا۔

۱۹- میراث صرف اقربا کے لئے ہے جو

۲۰- منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا۔

كَاتِبٌ يَّالْعَدْلُ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلَْيَكْتُبْ وَيُعْمَلْ لَدَيْهِ عَلَيْهِ

کھنے والا انصاف سے لکھے اور کھنے والا جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے کھنے سے انکار نہ کرے پس چاہے کہ وہ کھنے اور مضمون وہ
اتحق وليتق الله ربه ولا يخش منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او
جائے جس کے ذمے قرض ہے اور اپنے بند و گناہ سے ڈرے اور اس قرض میں سے کھنے میں کچھ کم نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے
ضعیفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهادتكم

قرض ہے کم قتل یا زور ہے یا وہ صحیح مضمون رکھو انیس لگا تو اس کا سر پرست انصاف سے کھوانے اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ کریں
من رجالاتكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء ان

کے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں ان میں سے جن کو تم گواہوں میں سے پس نہ کرو گواہ
تفضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى ولا ياب الشهدا او اذا ما دعوا ولا تسمعا

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اسطع عند الله واوفوا للشهادة وادنى

۲- سفر میں ہیں

۲۸۳

سور

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

۱- سورہ بقرہ نیاست کہ شیطان کے
چبوتے ہوئے شخص کی طرح
مجبور ہو اس آٹھیں کے

۲- سورہ کہ اشرف نے حرام کیا ہے

۳۔ ممانت سے پہلے کا سود	۲۴۵ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ سو جس کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ اس سے باز رہا تو اس کے واسطے رحمت اور جو سچ بولے اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے
۴۔ عرصے کے بعد جو سود لیا ہے وہ دوزخی	۲۴۵ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جس نے پھر سود کیا تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے
۵۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔	۲۴۶ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُضَاعِفُ الصَّدَقَاتِ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور خیرات کی برکتوں کو زیادہ کرتا ہے
۶۔ باقی سود چھوڑ دو۔	۲۴۹ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں زیادتی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک برکت نہیں
۷۔ سود خواروں کی اللہ اور رسول سے لڑائی۔	۲۴۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور اگر تم ایماندار ہو تو جو سود لوگوں کے ذمے باقی رہا ہے اس کو چھوڑ دو
۸۔ لوگ نے بڑا گناہ سود نہ کھاؤ۔	۲۴۹ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتُظْلَمُوا پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تمہیں اطلاع دی جاتی ہے اور تم تو بے پروا رہو گے اور تمہارے مال میں نہ تم کو ظلم ہوگا ۲۵۰ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّكَ کسی ظلم کردار نہ ہو تو ظلم کیا جائے اور اگر عسر و محنت ہے تو اس کو فراخی تک ملت دینا ہے اور یہ بات تم خیرات کے طور پر چھوڑ دو تمہارے ۲۵۱ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف سے لڑنے جاؤ گے پھر ہر جان کو اس کی کمانی کا پورا عرصہ
۹۔ کتب حق	۲۵۱ كُتِبَتْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ ذُرِّيَّتُهُمْ بِمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ دیا جائیگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا
۱۰۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے نجات دلا دے گا۔	۲۵۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَعْضًا مِّنْ بَعْضٍ مَّزْهَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مسلمانو! وہ لوگ جو گناہ سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم نجات پاؤ
۱۱۔ حکم خدا چھپانے والوں پر فضیلتی پھسکار۔	۱۵۹ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس بات کو جو ہم نے روشن دلیلوں اور ہدایت کی قسم سے آوری ہے اس کے بعد کہ ہم اس کتاب میں لوگوں کے
۱۲۔ خدا کا حکم چھپانے والوں کو دوزخ کا عذاب۔	۱۶۴ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ تھے بیان کر کے ہیں ان پر اللہ ہی لعنت کرے اور تمام لعنت کرنے والے ہی لعنت کرتے ہیں
۱۳۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے نجات دلا دے گا۔	۱۶۴ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسَدُّونَ بِهِ سُبُلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب کی قسم سے اتارا ہے اور اس کے عوض تھوڑی قیمت مول لیتے ہیں وہ اپنے پیسوں میں

کتمان حق

فِي بَطْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

سوائے آگ کے اور کچھ نہیں کہتے اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کو بڑھائے گا۔ ﴿۱۴۵﴾ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابُ يَأْتِيهِمْ فَمَا أَصْبَرَهُمْ

وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مولیٰ اور مغفرت کے بدلے عذاب مولیٰ یا
سورہ اہل پر کیسے کہے

عَلَى النَّارِ ﴿۱۴۶﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَكَانَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ

سابقہ ہیں یہ اس لئے کہ اللہ نے یہی کتاب اِکرامی اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بڑے دور کے
اختلاف میں ہیں

شہادت

﴿۱۴۵﴾ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

اور اللہ کے لئے درست گواہی دو

۱۔ یہی گواہی دینے کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

سدا نوا اللہ کے لئے گواہ بن کر انصاف کے ساتھ گھڑے ہو جاؤ اگر یہ وہ گواہی خود تمہارے اپنے ہی غلات ہو یا ماں باپ اور
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا نَدَّ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
رشتہ داروں کے اگر کوئی مال دار یا محتاج ہے تو ان دونوں سے اللہ زیادہ حق دار ہے سو تم انصاف کے مقابلے میں خواہش کی
وَلَنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۴۷﴾

پہنچی نہ کرو اور اگر تہذیبی زبان سے گواہی دو گے یا دگر دانی کر گئے تو اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ

انصاف کے ساتھ گواہ بن کر اللہ کے لئے اٹھ کر گھڑے ہو اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس بات پر آمادہ

أَلَّا تَعْدِلُوا

نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو

﴿۱۴۸﴾ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا

اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو اس کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے

۲۔ گواہی نہ چھپاؤ جو چھپائے نہ
گنہگار

﴿۱۴۹﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس نے اس گواہی کو چھپایا جو اللہ کی طرف سے اس پر واجب تھی

۳۔ گواہی چھپانے والے سے بڑھ کر
ظالم کون؟

﴿۱۵۰﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الشُّرُوكَ

اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔

۴۔ یہی گواہی دینے والے جھوٹی گواہی
دینے والوں کی طرح۔

۳۳ وَالَّذِينَ هُمْ يَشْفَعُ لَهُمْ قَائِمُونَ ۝

اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں

قصاص و دیت

۱۷۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۝

۱- قصاص میں قتل مرتوں پر زرخیز

۱۷۹ الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۝

۲- قصاص میں مساوات

۱۷۸ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۝

۳- قصاص معاف ہو تو دیت

۱۷۸ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۝

دغین باالانیم -

۱۷۸ فَمِنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۴- یہ آسانی نہ کی رحمت ہے۔

۱۷۸ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۵- دیت قبول کرنے کے بعد

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

تعدی کرنے والے کو عذاب الیم

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۶- قصاص میں لوگوں کی زندگی

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۷-

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۸- غلطی سے قتل ہو تو دیت اور

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

مسلمان غلام آزاد کرنا۔

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۷۹ وَإِن كَانَ لَمُؤْمِنٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

بِالْأَذْنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَاجْرُوحَ قِصَاصٍ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ

ہے کان اور دانت کے ہرے دانت اور سب زخم اور لے کا ہرے پر جس نے اس کو معات کر دیا تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے
تَحْرِيقَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

اور جس نے اس کے مطابق نیلے نہ کیا جو اللہ نے آما ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں

۲۳/۱۰ ۱۰۔ منقول کے ادباً قصاص
۲۳/۱۰

اور جو شخص ہر سے مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے اس کو ہلکے کر دے قتل میں زیادتی ذکرے اس کی مدد کا کافی ہوگی ہے

لینے میں زیادتی نہ کریں۔۔

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ يُغْفِرْ عَلَيْهِ لِيُنصِرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ رَحِيمٌ ○

تو ہم ہر چکا اور میں نے وہی ہی عقیبت ہنہائی کہ جس نے اس کو ہنہائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جیسا کہ اللہ عفو کرنے والا ہے

الکبائر

گناہ کبیرہ و قتل

۱۵۱/۱۰ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ○

۱۔ قتل کی ممانعت

اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو

۱۵۲/۱۰ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ○

اور جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے ناحق قتل نہ کرو

۲۳/۱۰ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ○ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

اور جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے ناحق قتل نہ کرو اور جو کوئی ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے سو اس کو چاہئے کہ قتل

سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ○

میں ایسی ہر لینے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے

۱۵۳/۱۰ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كَفَرٍ مِنْ إِمْلَاقٍ بَخْنٍ نَزَعْتُمْ مِنْهُمْ وَأَيُّهَا هُمْ ○

۲۔ قتل اولاد کی ممانعت

اور مناجی کے خون سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تم کو یہی روزی دیتے ہیں اور ان کو یہی

۲۴/۱۰ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ بَخْنٍ نَزَعْتُمْ مِنْهُمْ وَإِيَّاكُمْ ○

اور اپنی اولاد کو مناجی کے خون سے قتل نہ کرو ہم ان کو یہی روزی دیتے ہیں اور ان کو یہی

کبیراً ○

گناہ ہے

ل۳۴ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

۳۴۔ وہ لوگ گھمٹے میں پڑ گئے جنہوں نے نابھی سے بیہ علم کے اپنی اولاد کو قتل کیا
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۚ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۚ

اور وہ وقت یاد کر جب اس لڑکی سے جو زندہ ذن کی گئی پوچھا جائیگا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی

۹۳ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا جَنًّا أَوْ أَجْنَبًا فَإِذَا جُهِدَ فِيهَا وَأُغْضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ عَدُوِّهَا
اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا اور اس کی لعنت
وَإِعْدَلُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

اور اللہ نے اس کے لئے بڑا بھاری عذاب تیار کیا ہے

۶۸ ۶۹
۲۵ ۲۵ دیکھو بیانِ زنا۔

دیکھو بیانِ قصاص و دیت

زنا

۳۲ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بڑی راہ

۶۳ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دھیمے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام
۶۸ x x x وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور اس جان کو جس کا اللہ نے احترام کیا ہے ناحق
إِلَٰهًا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ ۶۹ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ لگے گا اور اس سے لے گا
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝

دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں ذلیل پڑا رہے گا

۱۴ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ

۱۴۔ جب تیرے پاس مسلمان عورتیں اس لئے آئیں کہ وہ تجھ سے اس بات پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِنَّ

کریں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان کی بات جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان اٹھا کر
وَلَا يَعْصِبْنَ فِي مَعْرُوفٍ قُبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْنَ لَهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

کریں نہیں گئی اور اچھی بات میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے اور اللہ سے ان کیسے مغفرت مانگ بیٹھا اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۳۔ اولاد کے قاتل ٹوٹے ہیں۔
۴۔ قیامت کو دوزخ کی بیعت
باز پرس
۵۔ قتل عمدی سزا ہمیشہ دوزخ
اور خدا کا غضب اور لعنت اور
بڑا عذاب
۶۔ سزا کو دوزخ اور عذاب۔
۷۔ قتل کی دنیوی سزائیں

۱۔ زنا کی ممانعت۔
۲۔ خدا کے بندے وہ ہیں جو زنا
نہیں کرتے اور زنا کا روک
قیامت کو دوزخ اور عذاب میں لگا
۳۔ بیعت صواب کو ظور قتل سے زنا
اور دیگر گناہوں کے ترک پر
بیعت لینے کا حکم۔

دیکھو بیان حدود

۳۔ زنا کی ذمہ داری سزا۔

حُلْد

حَدِّ زِنَا

۱۷۰ **وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْرِبُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدَا**

اور تیسری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیالی کے کام پاتی ہیں تو ان پر اپنے درمیان سے چار گواہ کرو پس اگر وہ شہادت دیں تو ان
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَكَّفَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

مردوں کو گھروں میں بند کر دیکھو یا ان تک کہ ان کو موت آجائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راہ نکال دے

۱۷۱ **وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّكُمْ فَادْرُؤْهُمَا فَاِنْ نَبَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوهُنَّ مَا دَانَ اللَّهُ كَانَ**

اور جو وہ شخص تم مردوں میں سے یہ کام لائیں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ پھر اگر وہ بددلوں تو یہ کہیں اور درست ہو جائیں تو ان سے درگزر کر دیکھ
تَوَابًا حَسِيمًا

اشد توبہ قبول کرنے والا سزا ہے

۱۷۲ **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُفْرِيهِمَا**

زنا کا عورت اور زنا کار مردان میں سے ہر ایک کے سو سو کوڑے لگاؤ اور اشد کے دین کے مقابلے میں

رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَلَيْهَا طَائِفَةٌ

تو کہ ان پر شفقت نہ آئے اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت گواہوں کو رائیہ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

جماعت موجود ہونی چاہئے

۱۷۳ **الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْأَزْوَاجَ أَوْ مَشْرُكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ**

زانی سوائے زانیہ یا مشرک کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زانیہ سے سوائے زانی یا مشرک کے اور کوئی نکاح نہیں کرتا اور حرموں

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

یہ تو یہ حرام کیا گیا ہے

۱۷۴ **فَإِذَا الْخُصِمَاتُ قُنَّ فَافْحِشْنَ عَلَيْهِنَّ يَصِفُ مَا عَلَى الْخُصِمَاتِ مِنَ الْعَنَابِ**

پھر جب وہ دو ٹوٹیاں نکاح میں آجائیں اگر بے گواہی کریں تو ان پر اس سے آدمی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لئے ہے

لُوطٌ مَّا رُكِبَتْ

۱۷۵ **إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُخَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ**

ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پیلانے کے لئے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں یہی ہے کہ وہ قتل

۱۔ عین میں جو جہش کی ترکیب ہو تو گواہی کے بند نہیں ہوتے ہم تک گھروں میں بند رکھو

۲۔ اگر مرد ایسا کرے تو انہیں سزا

۳۔ زنا کی سزا شہادت ہے

۴۔ زانیہ کا نکاح زانی یا مشرک ہی کے ساتھ ہو

۵۔ دو ٹوٹوں کو نکاح کی سزا بیبیوں سے آدمی

۶۔ عمارتیں کی سزا

يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُفَوَّضُوا مِنْ أَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ

کردیے جائیں یا سولہ دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں اٹکے سیدھے کاٹ دیے جائیں اور بنا ہاتھ اور بایاں پانوں یا اس مک سے نکال
خِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

دیے جائیں یہ ذلت ان کے لئے دنیا کی زندگی میں ہے اور آخرت میں ان کیلئے بڑا عذاب ہے
۲۷۰-۲۔ محاربتیں توبہ کر کے توبہ نہ کرنا
إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
مگر جو اس سے پہلے ہی کہ تم ان پر تباہی پاتا تو توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے

چوری کی سزا

۲۷۵ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا كَالَّذِينَ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ

اور چور مرد اور چور عورت تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ لو بدلہ اس کا جو انہوں نے کیا ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہے

حَكِيمٌ

حکمت والا

۲۷۹ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح پرا گیا تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

حدِ زنا

۱۹-۲۳ إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تُشَاعِرَ الْفَاحِشَةَ فِي الدِّينِ أَمْنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ فِي الدُّنْيَا

جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی نسبت بے حیائی کی بات شہور ہو جو ایمان لائے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور آخرت میں بھی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

۲۳-۲۴ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ

بے شک جو لوگ ایمان دار بے شہرہ عورتوں کو تہمت کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان

عَذَابٌ عَظِيمٌ

کے لئے بڑا عذاب ہے

۲۵-۲۶ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا ظَالِمًا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا أُولَئِكَ

اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے دغا کیا ہو یا زیادہ اپنی جانتے ہیں انہوں نے بیشک بتان اور

إِنَّهُمْ قَاتِلُونَ

کھلے ناکہ کا بوجھ اٹھایا

۱۔ چور کے ہاتھ کاٹو۔

۲۔ توبہ سے سزا معاف۔

۱۔ مومنوں کو بدنام کرنے کا عذاب

۲۔ بے شہرہ عورتوں کو تہمت لگانے والوں پر عذاب اور عذاب عظیم

۳۔ تہمت لگانا کھلے ناکہ کا بوجھ اٹھانا ہے

۳۔ جاگداس مردوں پر پتلی لگانے کی سزا تھی کرڑے اور دم قبیل شہادت

۲۴ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

اور جو لوگ پاک دامن مردوں کو تہمت لگائیں پھر اس میں چار گواہ نہ آئیں تو تہمت کے اتنی کرڑے لگاؤ
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہی بدکار ہیں

۵۔ بہتان لگانے کی سزا تہمت کے بعد معاف ہے

۲۴ كَذَلِكَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

مگر جنہوں نے اس کے بعد تہمت کر لی اور اصلاح پرائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

ماپ تول

۱۔ پورا ماپ ہے اور تولے کا نم

۱۵۳ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

اور انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا رکھو

۱۵۵ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

سو ماپ اور تول کو پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو

۸۴ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ بِالْكَفَالِ فِي ذُرَىٰ عِلِّيِّينَ

اور ہم نے ان کی طرف ان کے بھائی شیب کو بھیجا اس نے کہا کہ بھائیو! اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی ہیرو نہیں اور یہاں ادا
الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرْكُمُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَحْتَضَرُونَ ۝

ترازیوں کی نہ کرو میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں اور میں تم پر عذاب لانے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں اور
يَقُومُوا أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا

بھائیو! ماپ اور ترازو تو انصاف کے ساتھ پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

میں فساد پھیلاتے نہ پھرو

۲۔ صحیح ترازو سے تولو۔

۲۵ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ دَرَنًا بِالْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

اور جب تم ناپو کر پورا ناپو اور سیدھی ترازو سے تولو یہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے

۱۸۱ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝

پورا پورا رکھو اور کم دینے والوں میں نہ ہو

۱۸۲ دَرَنًا بِالْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ

اور سیدھی ترازو سے تولو

۱۸۳ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو

۵۵ ○ لَا تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ ○ ۹ ○ وَأَقِيمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسِرُوا الْمِيزَانَ ○

فرض یہ ہے کہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور تول انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور ترازو میں کمی نہ کرو

۶۵ ○ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ○

ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں دیکر بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں

۸۳ ○ وَيَلُوكَ الْمُطْفِقِينَ ○ ۳۶ ○ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ○ ۳۷ ○ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ

۳ حکم اپنے اور تولنے والوں کی
ویل

خزانی ہے کہ تولنے والوں کی جب وہ لوگوں سے اپنے لئے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر

أَوْ كَوَّنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ○ ۳۸ ○ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ○ ۳۹ ○ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ○

یا توں کر دیں تو کم کر دیں کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لئے

۳۷ ○ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

جس دن لوگ جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے

شراب خواری و قمار بازی

۲۱۹ ○ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَرِشْوَةٌ كَبِيرَةٌ ○

راے پیچیدہ ہوگے تجھ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ سے بھی ہیں اور ان

تَفْجِهًا ○

کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے

۹ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَدْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

سلاوا! اس کے سوا کچھ نہیں کہ شراب اور جو اور بت اور استخارے کے پانسے ناپاک شیطانی کام

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ○ ۱۰ ○ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ

ہیں تو تم ان سے بچتے ہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں تمہیں پہنسا

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصِدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

کہ تمہارے درمیان عداوت اور نفرت ڈالے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم

أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ○

رکھنے والے ہو؟

دوسرے گناہ

۱۵۲ ○ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ○

۱۵۲ - فواحش سے بچنے کا حکم۔

اور بے حیائی کے کاموں کے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو ان میں چھپے ہیں پاس بھی نہ جاؤ

۲۶ قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

کہ دے کر اللہ ہے حیاتی ناکم نہیں دیتا

۲۷ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْأَشْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

کہ دے کر میرے پروردگار نے تو جس عیبی کے کاموں کو ہم پر جان میں نہا ہے اور جو ان میں چھپے ہیں اور گناہ اور ناشائستگی کی زبانی کو بھی اور اس

۲۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ ۚ

بت کو نہ منہ کے ساتھ کسی میں چیز کو ترک کر جس کی شرکت کی اس نے کوئی منہ نہیں آتا اور یہ کہ تم اللہ کی نسبت وہ بات کو جس کا نہیں علم نہیں۔

۲۹ وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۖ عَظُمَ لِعَظْمِكُمْ تَذَكُّرُونَ ۝

اور اللہ ہے حیاتی اور نبی باتوں اور علم سے منع کرتا ہے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت پر کرو

۳۰ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَشْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَشْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْرُقُونَ ۝

اور کھنے اور چھپے ہر ایک گناہ کو چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ نہ مانتے ہیں ان کو جس کی سزا دی جائے گی جو وہ کھاتے ہیں

امانت

۳۱ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي بَوَّأَهُ آمَانَتَهُ وَلِيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ

ہم اگر تم میں سے بعض نے بعض کو امین بنانا تو چاہئے کہ وہ شخص جس کو امین بنایا ہے اس کی امانت ادا کرے اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے

۳۲ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

اللہ تم کو علم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کو ادا کر دو

۳۳ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ أَكْبَرَ ۚ

اور جو اپنی امانتوں اور عہد کی مخالفت کرتے ہیں

۳۴ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ اس کے بوجھ کو اٹھائیں اور اس سے ڈر

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ

میں اور انسان نے اس کو اٹھایا

خیانت

۳۵ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُفَ وَمَنْ يَغْلُفْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

اور نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی ہے

۳۶ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ۖ وَمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

بے شک ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ تجھے بھیجے اور

۱۔ نبی ناشائستہ ہوتے۔

۲۔ خیانت کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے

۳۔

۳۸ لٰكِنَ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

۳۔ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں

۳۹ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں

۴۰ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاكٍ بَعِيْدٍ ۝

۴۔ ظالم بڑے اختلاف میں

اور بے شک ظالم بڑے دور کے اختلاف میں ہیں

۴۱ وَلٰكِنَ الظّٰلِمِيْنَ يَاۤئْتِ اللّٰهَ بِجُدُوْنَ ۝

۵۔ ظالم آیات خدا کا انکار کرتے ہیں

لیکن ظالم اشدکی آیتوں کا انکار کرتے ہیں

۴۲ وَمَا يَجْحَدُوْا بِآيٰتِنَا اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں

۴۳ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۝

۶۔ ظالم ایک دوسرے کے رفیق ہیں

اور بے شک ظالم بعض بعض کے دوست ہیں

۴۴ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ خَطَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَا يَرٰ اَنَّ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خٰسِرًا ۝

۷۔ ظالموں کو قرآن سے انفسا

اور ہر قرآن سے وہ چیز اتارنے میں جو ہوسوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو تو وہ گناہی زیادہ کرتا ہے

۴۵ قَالَ لَا يَنْتَظِرُوْنَ عَهْدِيْ الظّٰلِمِيْنَ ۝

۸۔ خدا کا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں

فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا

۴۶ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنّٰى مِّنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُوْنَ ۝

۹۔ ظالموں کو ظلم کا مزہ معلوم ہوگا۔

اور ظالم متعجب معلوم کریں گے کہ وہ کس کر دھڑ پر لوٹے جاتے ہیں

۴۷ وَاللّٰهُ لَا يَجِبُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

۱۰۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا

اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا

۴۸ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

۱۱۔ ظالم خدا کی رحمت سے دور اور اپنے خدا کی لعنت بھی

ظالموں پر اللہ کی لعنت لگا رہے

۴۹ فَبَعْدُ اَللّٰهُمَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

سو ظالم لوگوں کے لئے (خدا کی رحمت سے) دور ہی ہے

۵۰ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

۱۲۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں

اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے

۵۱ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نّٰصِرٍ ۝

اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں

۴۴ اِنَّهٗ لَا يَجِبُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا

۴۸ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

سن لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت لگا رہے

۱۸۔ عذاب دیکھ کر دنیا میں
رہنے کی خواہش کریں گے

۳۳ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ لَّيْسَ لَكَ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعُ النَّاسَ أَوَّلًا
جو لوگ انزالی کرتے رہے ہیں کہیں گے کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو تھوڑی سی مدت کی ہمت اور وہ تو ہم تیرے بگڑنے
تَكُونُوا أَقْسَمًا مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ ذَوَالٍ ۚ

۳۴ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَلِيلٍ مِّنْ دُونِهِ ۚ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا تَارَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ
اور جسے خدا گمراہ کرے اسکے بھاسا کوئی یار نہیں۔ اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے
هَلْ إِلَىٰ سِرٍّ مِّنْ نَّبِيٍّ ۚ

۳۵ وَيَوْمَ رِيحٌ غَائِبَةٌ تَفُوُّ السُّيُوفَ وَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ سِرِّينَ ۚ
اور جس دن ازراہ اپنے اٹھ کاٹنے کا کہے گا۔ اسے کاش میں رسول کے ساتھ راہ نکلتا۔

۳۶ يَوْمَ يُكَلِّمُنَا رُسُلُهُمْ أَفِئَةً مِّنْ أَفْوَةٍ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَأْوَىٰ مُّوَدَّعَةٌ ۚ
ہوئے یہی کہ تمہاری کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا۔

۳۷ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ لَافْتِرَتٍ بِهِمْ ۖ وَأَسْرُورًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَالْعَذَابُ
اور جس شخص نے انسانی کی ہے۔ اگر سب کچھ جہد میں ہے اس کے قبضہ میں ہو تو وہ ضرور اس کو فدیے میں دیکھے تو جب
وَقِضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ

۳۸ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ
لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ انہما زحمت کر گئے۔ اور لوگوں میں انسان کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان پر ظلم نہ ہوگا۔

۳۹ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ
اور ان لوگوں کے پاس زمین کی ساری کائنات ہو اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور ترقیامت کے دن عذاب کی سختی کے
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَّ اللَّهُ مِنْ آيَاتِهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۚ

۴۰ وَبَدَّ اللَّهُ مِنْ آيَاتِهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۚ
ہے اسکے دے ڈالے اور انکو خدا کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئیگا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ اور جیسے مل بد کرتے
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ

۴۱ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ
رہے ہیں ان کی خرابیاں ان کو ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے رہے ہیں وہ ان پر آنازل ہوگا۔

۴۲ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُّهُمُ اللَّهُ ۚ
میں نے ان کو چاہتا ہوں کہ تو میل اور اپنا گناہ اکٹھا کیے اور روزخبر میں ہو۔ اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔

۴۳ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُّهُمُ اللَّهُ ۚ
مگر وہ کہتے ہیں ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی فتاقیں انکو چاروں طرف سے گھیر لیگی اور اگر زیادہ کہیں گے تو جس پانی سے وہ
يَشْرَبُونَ ۚ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِالَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

۴۴ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِالَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ
فریاد رسی کی جاگی وہ گھیلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ انہوں کو بھون ڈالیں گے۔ بڑا پانی ہے اور آرام کے اعتبار سے بڑی جگہ ہے

۲۰۔ سرت و زمامت سے
خدا اپنے امتداد کاٹ کر
خاتم ہے۔

۱۱۔ ظالموں کے پاس مدنے
زمین کا خزانہ بھی ہر دور سب
عذاب کے لئے یہیں دے
ڈالیں۔

۲۲۔ ظالموں کے لئے آگ

۱۷۹ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝

اور سرکشوں کی یہی سزا ہے۔

۱۸۰ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نجزي الظالمين

ان کے لئے جہنم کا بچھونا ہوگا۔ اور ان کے اوپر بالا پوش۔ اور ہم سرکشوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں

۱۸۱ لَكُمْ نُجُجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَذَكَرُوا الظالمين فِيهَا جثيثًا ۝

پھر ہم پرہیزگاروں کو بچالیں گے۔ اور نافرمانوں کو اسی میں گھنٹوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔

۱۸۲ وَمَنْ يَفْلِحْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذٰلِكَ نجزيه جَهَنَّمَ وَكَذٰلِكَ نجزي الظالمين

اور جو ان میں سے ہے کہہ کہ خدا نہیں میں عبود ہوں۔ تو اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ سرکشوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں

۱۸۳ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظالمونَ فِي غَمْرَاتِ المَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيَهُمْ اَخْرَجُوْا اَنْفُسَكُمْ

کاش تو ظالموں کو اس وقت دیکھ کر موت کی بیوشیل میں پڑے ہوں۔ اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ اپنی

الْيَوْمَ نجزيهم وَعَذَابُ النُّوْرِ -

بائیں نکالو۔ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔

۱۸۴ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَبُ بِهِ سُجْرًا اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا ۝

کہا جو سرکش کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹا کر لایا جائیگا اور وہ اس کو سخت عذاب دیگا۔

۱۸۵ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ هُمْ اَعْدُوْا عَذَابَ الخُلْدِ هَلْ تُجْرَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

پھر فرمان لوگوں کو کہا جائیگا کہ اب ہمیشہ کے لئے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ سزا جو تم کو دی جا رہی ہے تمہارے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے

۱۸۶ وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَبِيْرًا ۝

اور جو تم میں سے ظلم دیکھ کر، کرے گا۔ ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

۱۸۷ اِنَّ الظالمينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

بے شک جو لوگ نافرمان ہیں۔ ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔

۱۸۸ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيُبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

الزام انہیں پر ہے۔ جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناحق زیادتی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو عذاب دردناک

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

ہونے والا ہے۔

۱۸۹ وَالظالمينَ اَعْدَلُ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمًا ۝

اور سرکش لوگوں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۱۹۰ اِنَّ الظالمينَ فِي عَذَابٍ مُّقْبِلٍ ۝

سن لو ظلم کرنے والے ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔

۲۳۔ ظالموں کو ذلت کا عذاب

۲۴۔ بری طرح کا عذاب

۲۵۔ ہمیشہ کا عذاب

۲۶۔ عذاب کبیر

۲۷۔ عذاب الیم

۲۸۔ عذاب مقیم

۲۹۔ ظالموں کو دہل	۶۵ قَوْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْبَعْرِ
۳۰۔ غناب میں تخفیف نہ ہوگی	۸۵ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
۳۱۔ ظالموں کا دوست	۱۸ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ
اور سفارشی نہیں۔	۲ زمانوں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مان جائے۔
۳۲۔ ظالموں کا شکاد برا	۱۵۰ وَيْسَ مَثْوًى الظَّالِمِينَ
اور ظالموں کا برا مکان ہے۔	۳۹ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
۳۳۔ ظالم سے بدلے	۳۱ وَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ
میں گناہ نہیں۔	اور جیسے ہیں کہ جب ان پر بیجا زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلے لیتے ہیں۔ x x x اور ان کسی پر ظلم ہوا ہو اور وہ
۳۴۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۳۲ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
۳۵۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۳۳ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
۳۶۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۳۴ بِغْيِ الْحَقِّ
۳۷۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۳۵ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
۳۸۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۳۶ زِيلًا كَثِيرًا
۳۹۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۳۷ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
۴۰۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۳۸ وَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ
۴۱۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۳۹ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
۴۲۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۴۰ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
۴۳۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۴۱ بِغْيِ الْحَقِّ
۴۴۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۴۲ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
۴۵۔ ظالموں کے بدلے تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا	۴۳ زِيلًا كَثِيرًا

فساد

۱۔ فساد پھیلنے کی ممانعت

۶۰
وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔

۶۱
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

اور ملک کے درست ہونے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور خدا کے ڈر سے اور امید پر خدا سے دعا میں لگتے

○
الْمُحْسِنِينَ

رہو۔ خدا کی رحمت نیکو کاروں سے قریب ہے۔

۶۲
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

ملک کے درست ہونے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔

۶۳
وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

اور مفسدوں کے رستے پر نہ چلنا۔

۶۴
وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ

اور ملک میں فساد کا طریقہ نہ ہو۔

۲۔ خناسد نہیں پاہتا

۲۴ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحِبُّ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ

اور بعض آدمی ایسا ہے جس کی باتیں مجھ کو دنیا کی زندگی میں کبھی معلوم ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے دل خیال پر خدا کو گواہ ٹھہراتا
الْخِصَامِ ۲۵ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ

ہے۔ حالانکہ وہ دشمنوں میں سخت جھگڑا لہے۔ اور جب وہ تہا رے پاس سے لوٹ کر جاتا ہے۔ تو ملک کو کوندہ مارتا ہے۔

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ ۲۶ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُكَ

تاکہ اس میں فساد پھیلانے۔ اور کھیتی باڑی کو اور نسل کو تباہ کرے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے۔ کہ خدا سے ڈر۔ تو

جَهَنَّمَ ۚ وَلَيْسَ إِلَهُمُ الْبُهَادُ ۚ ۲۷ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

یعنی اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ پس ایسے شخص کو جہنم کا بیجا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسا

وَاللَّهُ سَرِيعٌ بِالْعِبَادِ ۚ

شخص بھی ہے۔ جو خدا کی خوشنودی کے لئے اپنی جان تک دے ڈالتا ہے۔ اور اللہ بندوں پر بہت ہی شفقت رکھتا ہے

۲۸ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ

۳۔ اللہ مفسدوں سے
محبت نہیں رکھتا۔

اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔

۲۹ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ

۴۔ اللہ مفسدوں کے کام
نہیں بناتا۔

بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔

۳۰ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ ۚ

بے شک اللہ مفسد لوگوں کا کام بننے نہیں دیا کرتا۔

۳۱ فَلَولا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَمَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

توہ امتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں۔ ان میں غیر خرابی کرنے والے بھی کیوں نہ ہوتے۔ کہ ملک میں فساد کرنے سے منع کرتے۔ سو اپنی لوگوں

۵۔ لوگوں کو فساد سے روکنا
پاہیے۔

قَلِيلًا مِّنْ أَجْنِبًا مِّنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا حَرَجًا ۚ

کے جن کو ہم نے نجات دی۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی۔ سو وہ انہیں (لذتوں) کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دی گئی تھیں۔

اور یہ گنہگار تھے ۚ



امر بالمعروف والنہی عن المنکر

<p>۱۔ اپنے کام کرنے اور برے کام سے روکنے کا حکم</p>	<p>۱۲۲ وَلَا جَعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور اپنی قسموں سے خدا کو پرہیزگاری اور لوگوں میں ملاپ کرانے کا مانع نہ ٹھراؤ۔</p>
<p>۲۔</p>	<p>۱۲۳ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَمْوَالِ إِلَّا مِنْ قَلِيلٍ أَوْ صَدَقَاتِهِمْ بَيْنَ النَّاسِ ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں نیکی نہیں۔ سوا اس کے جو خیرات اور نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی صلح دے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ایسے کام کرے گا۔ اس کو ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔</p>
<p>۳۔</p>	<p>۱۲۴ وَكَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاذُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں باہم مدد کیا کرو۔ اور تم انہوں اور لوگوں پر زیادتی کرنے میں باہم مدد نہ کیا کرو۔ ۱۲۵ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ درگزر اختیار کرو۔ نیکی کرنے کو کہو۔ اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔</p>
<p>۴۔</p>	<p>۱۲۶ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ پس جو حکم تمہ کو دیا گیا ہے۔ اس کو عمل کرنا دے اور مشرکین کی پرہیزگاری۔ ۱۲۷ يَا بَنِي آدَمُ اصْبِرُوا وَامْسِكُوا إِلَى الْمَعْرِفَةِ إِنَّكُمْ عَنِ الْمُتَكَبِّرِ وَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا صَابَكُمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ پیارے بیٹے ناز بڑھ ملائش کی تزیین دے۔ اور بھائی سے روک! اور جو نصیحت تمہے پہنچے اس پر صبر کر۔ بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں</p>
<p>۵۔</p>	<p>۱۲۸ وَلَا تَطْرَفْنَ فِي الْأَمْرِ الْأَخْرَىٰ فَمَا عَلَيْكُمُ الْإِثْمُ اور اگر مسلمانوں کے دونوں طرف سے لڑیں۔ تو تم ان دونوں میں صلح کرو۔ پھر اگر ان میں ایک دوسرے پر زیادتی کرے لَتَىٰ يَبِغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ سِمْتٍ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پھر جب رجوع لے آئے تو زمین لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ</p>
<p>۶۔</p>	<p>۱۲۹ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مسلمان تو بس بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ۱۳۰ وَذَكَرْنَا فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کرتا رہو۔ بیشک نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔</p>
<p>۷۔</p>	<p>۱۳۱ فَذَكَرْنَا إِنَّ تَفْعَلِ الذِّكْرَ پس جہاں تک سمجھنا مفید ہے سمجھنا۔</p>

۱۰۸ وَلَتَكْرِمُنَّكُمْ مُنَادٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 اور تم میں ایسے لوگ بھی ہمنے پائیں جو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کو نیکی کہیں اور بُرے کاموں سے روکیں اور یہی لوگ مراد و پیغمبر
 ۱۰۹ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 لوگوں کی بہائی کو قسمی آیتیں پیدا ہوئیں ان سب سے تم بہتر ہو کر اچھے کام کو نیکی کہتے ہو اور بُرے سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو
 ۱۱۰ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 اللہ و روزِ آخرت پر ایمان رکھتے۔ اچھے کام کو کہتے۔ اور بُرے کام سے روکتے ہیں اور نیکی کاموں میں دوڑ پڑتے
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحِينَ

۱۰۹ ہیں اور یہی نیک بندوں سے ہیں۔
 ۱۱۰ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الْأَمْرَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا جَعَلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 جو رسول نبی اتی کی پیروی کرتے ہیں جس کو اپنے ہاں تو رات میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور انجیل میں (ذبحی) وہ ان کو اچھے کام
 ۱۱۱ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
 کرنے کو کہتا۔ اور بُرے سے روکتا ہے۔ اور ان پر اچھی اچھی چیزیں حلال کرتا ہے۔ اور ان پاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔
 ۱۱۲ الْحَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
 اور وہ جو حجہ جو لوگوں کے سروں پر اور بچندے جو ان پر پڑے تھے۔ دور کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائے۔ اولیٰ
 ۱۱۳ وَكَصْرُوهُ وَأَتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

کی حمایت کی۔ اور اس کو مدد دی۔ اور جو نور اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے پیچھے ہوئے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔
 ۱۱۴ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک کے رفیق ایک کے نیک کام کی ترغیب دیتے ہیں اور بُرائی سے منع کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے
 ۱۱۵ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
 ہیں۔ اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ان کے حال پر اللہ تعالیٰ
 لَٰنَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

رحم کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
 ۱۱۶ الْغَائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الزَّاعِمُونَ السَّاجِدُونَ الْأَرْضِ
 تو کہ کر نیوالے عبادت کر نیوالے۔ تسبیح و تحمید کر نیوالے (خدا کا راہ میں) سز کر نیوالے۔ رکوع کر نیوالے۔ سجدہ کرنے والے
 ۱۱۷ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَكَثِيرٌ مِّنْ الْمُؤْمِنِينَ
 نیکی کی طرف رغبت دلا نیوالے بُرائی سے باز رکھنے والے اور اللہ نے جو حدیں باندھ رکھی ہیں ان کو نگاہ رکھنے والے اور جو لوگوں کو چھوڑتا ہے
 ۱۱۸ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ جو خدا کی طرف بلائے۔ اور نیکی کا رہی ہو۔ اور کہے کہ میں خدا کے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں

کتاب الرسالۃ

فہرست مضامین جلد سوم کتاب تفصیل البیان فی مقاصد القرآن کتاب الرسالت

صفحہ	مضمون آیات	اعداد آیات	صفحہ	مضمون آیات	اعداد آیات
	قرآن کے اتارنے یا بنانے پر شیاطین کو قدرت نہیں	۲۲		نزول قرآن	
۴	اور یہ قرآن شیطان کا کلام نہیں	۲۳	۱	قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا	۱
۴	قرآن کسی کا ہن یا شیطان کا کلام نہیں ہے	۲۴	۱	قرآن مبارک رات میں نازل ہوا	۲
۴	قرآن عربی زبان میں نازل ہوا	۲۵	۱	قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔	۲
۴	قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ	۲۶	۲	قرآن آنحضرت صلعم کے دل پر نازل ہوا	۴
۵	متشابہ کی تاویل سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا	۲۷	۲	قرآن جبریل نے اتارا۔	۵
۶			۲	قرآن روح القدس نے نازل کیا	۶
	مقاصد نزول قرآن		۲	قرآن روح الامین نے اتارا ہے	۷
	نزول قرآن سے مقصود لوگوں کو نصیحت کرنا	۱	۲	قرآن بڑی قوتوں والے نے تعلیم کیا	۸
۶	لوگوں کو ڈرانا	۲	۲	قرآن معزز رسول کا کلام ہے	۹
۶	قرآن حجت پورا کرنے کے لئے نازل ہوا	۳	۲	قرآن خالق آسمان و زمین نے اتارا	۱۰
۸	قرآن اختلاف دور کرنے کے لئے نازل ہوا	۴	۲	قرآن جاننے والے حکیم علیم نے اتارا۔	۱۱
۸	قرآن لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے۔	۵	۲	قرآن آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والے نے اتارا۔	۱۲
۹	قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے	۶	۲	قرآن عزیز رحیم نے اتارا۔	۱۳
	اوصاف قرآن		۳	قرآن عزیز حکیم نے اتارا	۱۴
۱۱	قرآن ہدایت ہے۔	۱	۲	قرآن عزیز علیم نے اتارا	۱۵
۱۳	قرآن رحمت ہے۔	۲	۳	قرآن رحمن رحیم نے اتارا	۱۶
			۳	قرآن پروردگار جہان نے اتارا	۱۷
			۳	قرآن اللہ نے اتارا۔	۱۸
			۳	قرآن کا اتارنے والا بڑا بابرکت ہے	۱۹
			۴	قرآن کی حفاظت کا خدا نے وعدہ فرمایا	۲۰
			۴	قرآن پر خدا اور فرشتوں کی گواہی	۲۱

۲۳	اگر قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ خوف سے پھٹ جاتا	۱۳	قرآن بشارت ہے	۳
۲۳	رسول اللہ صلعم کا قرآن بھولنے سے محفوظ ہونا	۱۴	قرآن شفا ہے -	۴
۲۳	قرآن اس اچھی کتاب میں مندرج ہے جسے پاک اشخاص ہی چھوتے ہیں	۱۴	قرآن نور ہے	۵
۲۳	قرآن پاک صحیفوں میں لکھا ہوا ہے -	۱۴	قرآن برہان ہے -	۶
۲۳	قرآن لوح محفوظ میں مندرج ہے	۱۴	قرآن کتاب مبارک ہے -	۷
۲۳	قرآن کا رسول اللہ کو یاد کرانا اور اس کی تفسیر سمجھنا خدا کے ذمے ہے -	۱۵	قرآن حکمت والی کتاب ہے	۸
۲۳	قرآن میں ہر ایک قسم کی امثال ہیں	۱۵	قرآن کتاب ہمین ہے	۹
۲۳	قرآن مجید کے منجانب اللہ ہونے کے دلائل	۱۶	قرآن کتاب عزیز ہے	۱۰
۲۳	قرآن کے بنائے پر سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں	۱۶	قرآن کتاب بزرگ ہے	۱۱
۲۵	قرآن میں غیب کی خبروں کا ہونا	۱۶	قرآن عظمت والا ہے	۱۲
۲۶	قرآن کا حق ہونا اہل علم جانتے ہیں	۱۶	قرآن بشیر و نذیر ہے	۱۳
۲۶	قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا	۱۶	قرآن عزت والی کتاب ہے	۱۴
۲۶	بنی اسرائیل کے صحیح صحیح حالات بیان کرنا	۱۶	قرآن فرقان (حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے)	۱۵
۲۶	انبیاء سابقین کے صحیفوں میں مذکور ہونا	۱۶	قرآن آسان ہے	۱۶
۲۶	قرآن کی حقیقت اہل کتاب جانتے تھے -	۱۶	قرآن کی آیتیں واضح اور صاف ہیں	۱۷
۲۶	قرآن کے منجانب اللہ ہونے پر ایک عالم بنی اسرائیل کی شہادت	۱۹	قرآن برحق اور سچی کتاب ہے -	۱۸
۲۶	قرآن پر جنوں کا ایمان لانا	۲۱	قرآن میں کھک کی گنجائش نہیں	۱۹
۲۸	مناظرات مواظظ القرآن	۲۱	قرآن میں کچھ بھی نہیں	۲۰
۳۰	عبرت اہم سابقہ کے حالات سے	۲۱	قرآن میں باطل کا دخل نہیں	۲۱
		۲۱	قرآن سوچ سمجھ پیدا کرنے والا ہے -	۲۲
		۲۱	قرآن خدا کی طرف سے کھلی دلیل ہے -	۲۳
		۲۲	قرآن مختل ہے اور اس میں ہر شے کا بیان ہے -	۲۴
		۲۲	قرآن کا خدا سے ڈرنے والوں کے دل پہاڑ ہوتا ہے	۲۵
		۲۲	اہل کتاب قرآن سن کر روتے ہوئے	۲۶
		۲۲	سمجھ سے میں گرہٹتے ہیں	

تورات

۶۲	توریت کی تصدیق قرآن نے کی	۱
۶۲	کتاب واضح کتاب ہے	۲
۶۲	توریت شہادت الہی ہے	۳
۶۲	تورات حق ہے	۴
۶۲	تورات میں ہدایت ہے	۵
۶۲	تورات ہدایت اور نور ہے	۶
۶۲	تورات ہدایت اور رحمت	۷
۶۳	تورات ہدایت اور ذکر ہے	۸
۶۲	تورات امام و رحمت ہے۔	۹
۶۳	توریت ہدایت و رحمت والی مفصل کتاب ہے	۱۰
۶۳	توریت بصیرت اور ہدایت اور رحمت والی مفصل کتاب ہے	۱۱
۶۳	توریت فرقان روشن اور نصیحت آموز ہے	۱۲
۶۲	تورات میں خدا کا حکم ہے۔	۱۳
۶۲	انبیاء اور احوال تورات ہی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔	۱۴
۶۳	تورات اور انجیل پر عمل کئے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی	۱۵
۶۴	تورات اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہدایت والی نہیں	۱۶
۶۴	تورات کو یہودیوں نے پارہ پارہ کر ڈالا	۱۷
۶۴	تورات پڑھ کر عمل نہ کرنے والوں کی مثال کتابوں سے	۱۸
۶۴	تورات میں یہودیوں نے اختلاف کیا	۱۹

۵۶	قرآن کو کافروں نے چھوڑ دیا	۵
۵۶	قرآن سے اعراض کرنے والوں کی گمراہی اور ظلم	۶
۵۶	قرآن سے اعراض کرنے والے اندھے اٹھیں گے	۷
۵۶	قرآن سے اعراض کرنے والے قیامت کو گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے	۸
۵۶	قرآن کا انکار بدکار رہی کرتے ہیں	۹
۵۷	قرآن نہ ماننے والوں کے لئے عذاب ناز	۱۰
۵۷	قرآن سے انحراف کرنے سے زندگی میں اور مرنے کے بعد کبیرا عذاب	۱۱
۵۸	قرآن سے ظالموں کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔	۱۲
۵۸	قرآن کافروں کا کفر اور بڑھاتا ہے	۱۳
۵۸	قرآن کافروں کے لئے موجب حسرت ہے	۱۴
۵۹	اگر قرآن عجمی زبان میں نازل ہوتا تو بکرتب بھی نہ مانتے۔	۱۵

آداب تلاوت قرآن

۵۹	قرآن پڑھنا شروع کر دو تو پہلے شیطان سے خدا کی پناہ مانگو	۱
۵۹	قرآن خدا کا نام لے کر پڑھنا چاہیے۔	۲
۵۹	قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔	۳
۵۹	جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموش ہو کر سنو	۴
۵۹	جہاں قرآن کی توہین ہو۔ وہاں نہ بیٹھو	۵
۶۰	قرآن کے اتباع کا حکم	۶
۶۰	تبلیغ قرآن کا حکم	۷

انجیل

۱	انجیل کی تصدیق قرآن نے کی	۶۵
۲	انجیل میں ہدایت ہے	۶۵
۳	انجیل میں ہدایت نور اور نصیحت ہے	۶۵
۴	اہل انجیل کو انجیل پر عمل کرنا چاہیے	۶۵
۵	تورات و انجیل پر عمل کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی	۶۶
۶	توریت و انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر	۶۶
۷	انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال	۶۶
	صفات رسول	
۱	رسول آدمی ہی ہوتے ہیں	۶۶
۲	رسول بیوی اور اولاد بھی رکھتے ہیں	۶۷
۳	رسول کھانا بھی کھاتے ہیں	۶۷
۴	رسول خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے	۶۷
۵	رسولوں کی تعلیم قوی زبان میں	۶۷
۶	رسولوں کا ذمہ صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے	۶۷
۷	رسولوں کا کام ڈرانا اور خوشخبری سنانا ہے	۶۸
۸	رسولوں کے پاس نشانیں اور کتاب کا ہونا	۶۸
۹	رسولوں پر اللہ کی طرف سے غیب کی باتوں کا اظہار	۶۸
۱۰	رسولوں کو خدا کی مدد دنیا و آخرت میں	۶۹
۱۱	نبیوں سے خدا نے عہد لیا	۶۹
۱۲	بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت	۶۹
۱۳	نبیوں پر خدا کا انعام	۶۹
۱۴	قرآن میں بعض نبیوں کا ذکر ہے اور بعض کا نہیں	۷۰

۱۵	رسولوں پر سلام	۷۰
۱۶	رسولوں کے پیچھے دشمنوں کا لگنا	۷۰
۱۷	رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا	۷۰
۱۸	ہر رسول کو مجنون اور جادوگر کہا گیا	۷۱
۱۹	ہر رسول کے ساتھ لوگوں نے ٹھٹھا کیا	۷۱
۱۹	رسول اور نبی کو شیطان وسوسے میں ڈالتا	۷۱
۲۱	ہے مگر خدا ان وسوسوں کو مٹا دیتا ہے اس سے مقصود امتحان ہے	۷۱

آنحضرت کی رسالت کے دلائل

۱	اہل کتاب آپ کا نبی برحق ہونا جانتے تھے	۷۲
۲	آپ کی نبوت پر خدا کی شہادت	۷۲
۳	آپ پر اسی طرح وحی ہوئی جس طرح دوسرے انبیاء پر ہوئی	۷۳
۴	آپ کی اور دوسرے نبیوں کی تعلیم ایک تھی	۷۳
۵	آپ حضرت موسیٰ کی مانند تھے	۷۴
۶	توریت انجیل میں آپ کا ذکر	۷۴
۷	اہل کتاب جو باتیں چھپاتے تھے انہیں ظاہر کرنا	۷۴
۸	آپ کی رسالت میں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی	۷۵
۹	آپ لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے	۷۵
۱۰	آپ شاعر نہ تھے	۷۶
۱۱	قرآن کے آثار نے پر شیاطین کو قدرت نہیں ہے	۷۶
۱۲	قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے	۷۶

۸۴	یہ اعتراض کہ قرآنی کو آگ آسمان سے آ کر کیوں نہیں کھا جاتی۔	۶	۷۷	خدا چاہتا تو آپ کے قلب پر مہر کر دیتا	۱۳
۸۴	یہ اعتراض کہ آپ پر سب کے سامنے فرشتے کیوں نہیں اترتے	۷	۷۷	آپ خدا پر بہتان باندھتے تو سب پہلے خدا آپ کا دشمن ہوتا	۱۴
۸۵	یہ اعتراض کہ آپ پر لکھی لکھائی کتاب آسمان سے کیوں نہیں اتری	۸	۷۷	آپ کو فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کا علم	۱۵
۸۵	یہ اعتراض کہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا	۹	۷۷	آپ پر ایمان لانے میں قریش کے فضول عذرات	۱۶
۸۵	یہ اعتراض کہ آپ دوسری طرح کا قرآن کیوں نہیں لاتے	۱۰	۷۷	قرآن میں پیشین گوئیاں	
۸۶	یہ اعتراض کہ قرآن کسی بڑے امیر پر کیوں نہیں اُترا۔	۱۱	۷۸	مراجمت وطن کی پیشین گوئیاں	۱
۸۶	یہ اعتراض کہ قرآن آپ کو کوئی دوسرا شخص تعلیم کرتا ہے۔	۱۲	۷۸	کفار بدر کی شکست کی پیشین گوئی	۲
۸۶	یہ اعتراض کہ آپ کے پاس خزانہ۔ بلغ اور امیرانہ مٹھاٹھ کیوں نہیں ہے	۱۳	۷۸	کفار مکہ و اہل اسلام میں اتحاد ہونے کی پیشین گوئی	۳
۸۶	یہ اعتراض کہ ہم خدا یا فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔	۱۴	۷۸	فارس پر رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی	۴
۸۶	یہ اعتراض کہ آپ کو موسیٰ کے سے معجزات نہ ملے۔	۱۵	۷۸	مسلمانوں کی ایک جگہ قوم کو فتح کرنے کی پیشین گوئی	۵
۸۶	کافروں کا آپ سے فرمائشی معجزے طلب کرتا۔	۱۶	۷۸	مسلمانوں کے عروج کی پیشین گوئیاں	۶
۸۶	یہ اعتراض کہ قیامت اسی وقت کیوں نہیں آجاتی۔	۱۷	۷۹	غلبہ اسلام کی پیشین گوئی	۷
۸۸	نسخ پر اعتراض۔	۱۸	۷۹	شق القمر	۸
۸۸	کافروں کا آپ سے روح کی بابت سوال	۱۹	۸۰	آپ کی رسالت پر کافروں کے اعتراضات اور ان کے جواب	
			۸۰	یہ اعتراض کہ بشر رسول نہیں ہوتا۔	۱
			۸۱	یہ اعتراض کہ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں	۲
			۸۱	اور بازاروں میں کیوں بھرتے ہیں	۳
			۸۲	یہ اعتراض کہ خدا خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا	۴
			۸۳	یہ اعتراض کہ آپ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے	۵

۹۶	آپ کو فیصل بنانے میں ایمان ہے۔	۲۳	آپ کے وہ اوصاف جو	۱
۹۶	آپ کی امت پر خدا کا فضل اور اس کا جنتی ہونا۔	۲۴	دوسرے انبیاء کے ساتھ	۲
۹۶	آپ کے منکر زیاں کا رہیں۔	۲۵	مشترک ہیں	۳
۹۶	آپ کے ایذا دینے والوں کو عذاب الیم	۲۶	آپ اللہ کے رسول ہیں	۴
۹۶	آپ کو ایذا دینا یا بے جا اجازت آپ کے گھر میں جانا گناہ ہے	۸۸	آپ نے رسولوں کی تصدیق کی	۵
	آپ کے مخصوص اوصاف	۸۹	آپ کو خدا نے بندوں پر محبت پورا کرنے کے لئے بھیجا۔	۶
۹۷	آپ کا اتنی ہونا۔	۸۹	آپ بشیر و نذیر ہیں۔	۷
۹۷	آپ کا قدرت کے وقت آنا۔	۹۱	آپ لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں	۸
۹۷	آپ کی نبوت کا عام ہونا	۹۲	آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس	۹
۹۸	آپ کا خاتم النبیین ہونا۔	۹۲	آپ کو کافروں پر کچھ حق نہیں	۱۰
۹۸	آپ کا عذاب الہی سے روک ہونا۔	۹۲	آپ سے دوزخیوں کی باز پرس نہیں	۱۱
۹۸	آپ کی استغفار کا ظالموں کے حق میں مقبول ہونا	۹۲	آپ کی زندگی پر دین اسلام موقوف نہیں۔	۱۲
۹۸	آپ کا قیامت کو اپنی امت پر گواہ ہونا۔	۹۳	آپ بے راہ نہیں تھے	۱۳
۹۸	آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کا معاف کیا جانا	۹۳	آپ مجنون نہ تھے۔	۱۴
۹۹	آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کا نبیوں سے عہد لیا جانا۔	۹۳	آپ کا ہن نہ تھے۔	۱۵
۹۹	آپ سے بیعت خدا سے بیعت	۹۳	آپ شاعر نہ تھے	۱۶
۹۹	خدا اور کل فرشتے اور نیک بندے آپ کے رفیق اور مددگار رہیں۔	۹۳	آپ اپنی خواہش سے نہیں صرف وحی سے بولتے تھے۔	۱۷
۹۹	آپ نے جبریل کو دو بار دیکھا۔	۹۳	آپ روشن چراغ ہیں	۱۸
۱۰۰	آپ کو مقام محمودیٰ کی امید	۹۳	آپ دین حق لائے۔	۱۹
۱۰۰	آپ کو خدایات کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے گیا	۹۴	آپ حق پر تھے۔	۲۰
۱۰۰	آپ کو رویا دکھانے کا مقصد لوگوں کی آزمائش تھا	۹۴	آپ راہ راست پر تھے اور لوگوں کو سیدھی راہ پر بلا تے تھے۔	۲۱
		۹۵	آپ لوگوں کو پاک بناتے اور کتاب و حکمت سکھاتے تھے۔	۲۲
		۹۵	آپ کا خدا حقیقی ہے۔	

۱۰۴	ہے۔		۱۰۰	رویا کی تفصیل قرب کے درجے	۱۶
۱۰۴	آپ کی امت کا قیامت کو گواہ ہونا۔	۴۱		آپ کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی	۱۷
۱۰۴	آپ کے متبعین کو فلاح	۴۲		زیادہ حق ہے۔ اور آپ کی ازواج ان	
۱۰۵	آپ کے اخلاق حسنہ	۴۳	۱۰۰	کی مائیں ہیں۔	
۱۰۷	آپ کی شفقت و رحمت	۴۴		آپ ابراہیم سے سب سے زیادہ	۱۸
۱۰۷	آپ کا لوگوں سے بے غرض دستغنی رہنا	۴۵	۱۰۱	تعلق تھا	
	آپ کا اظہار عجز معجزات و دیگر خوارق	۴۶	۱۰۱	آپ کو عیسیٰ کے بارہ میں مباہلہ کا حکم	۱۹
۱۰۸	سے۔		۱۰۱	جو عورتیں آپ کو طلاق تھیں۔	۲۰
۱۱۰	آپ کو خدا کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔	۴۷	۱۰۱	آپ کو ازواج میں تقدیم و تاخیر کا اختیار	۲۱
	آپ اور آپ کے اصحاب		۱۰۲	آپ کو ازواج کا طلاق کی ممانعت	۲۲
	کے ساتھ کافروں کی		۱۰۲	آپ کو عام لوگوں کی طرح پھارنے کی ممانعت	۲۳
	بدسلوکیاں		۱۰۲	آپ کے سامنے آپس میں کانا پھوسی کرنے	۲۴
۱۱۲	کافر آپ کو جادو کر سکتے تھے۔	۱	۱۰۲	سے پہلے صدقہ دینے کا حکم۔	۲۵
۱۱۲	کافر کہتے کہ یہ شخص جادو کا مارا ہوا ہے	۲	۱۰۲	آپ پر خدا کا فضل خاص	۲۶
۱۱۲	آپ کو کافر دیوانہ کہتے تھے۔	۳	۱۰۳	آپ سے خدا ناخوش نہیں۔	۲۷
۱۱۲	آپ کو کان کا پتیا کہتے تھے۔	۴	۱۰۳	آپ کا آخر اول سے بہتر ہے	۲۸
۱۱۳	آپ کو جان سے مار ڈالنے کی سازش	۵	۱۰۳	آپ کو خدا عطا سے خوش کرے گا۔	۲۹
	آپ کا کافروں کے ظلم پر خدا سے مدد	۶	۱۰۳	میتھی میں آپ کو پناہ دی	۳۰
۱۱۳	مانگنا۔		۱۰۳	آپ کو خدا نے غنی کیا۔	۳۱
۱۱۳	اصحاب کا مجبور ہو کر ہجرت کرنا	۷	۱۰۳	آپ کا شرح صدر و رفع ذکر	۳۲
	آپ کو اور آپ کے اصحاب کو وطن سے	۸	۱۰۳	آپ کو بے انتہا اجر	۳۳
۱۱۳	ہجرت کرنے پر مجبور کرنا۔	۹	۱۰۴	آپ کو کوڑا کا ملنا۔	۳۴
	کفار کی ایذا دہی پر خدا تعالیٰ کا آپ کو	۱۰	۱۰۴	آپ کی مدد کا خدا کی طرف سے وعدہ	۳۵
۱۱۵	تسلی دینا		۱۰۴	آپ کے پیروؤں سے خدا کی محبت	۳۶
	تکلیف شرعی سے آزادی		۱۰۴	آپ پر خدا اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں	۳۷
	نہ آپ کو اور نہ آپ کے عزیز و اقارب کے	۱	۱۰۴	آپ قبلہ اہل کتاب کے تابع نہیں۔	۳۸
			۱۰۴	آپ سے یہود و نصاریٰ کسی راضی نہ ہونگے	۳۹
				آپ کی امت سب امتوں سے افضل	۴۰

۱۲۰	۴	۱۱۶	۲	آپ کو توحید کا حکم
۱۲۱	۵	۱۱۷	۳	انبیاء سابقین پر ایمان لانے کا حکم
۱۲۱	۶	۱۱۷	۴	تبلیغ وحی کا حکم
۱۲۱	۷	۱۱۷	۵	آپ اور آپ کے اہل و عیال کو نماز کا حکم
۱۲۱	۸	۱۱۷	۶	تہجد کی تاکید
۱۲۱	۹	۱۱۷	۷	آپ کو بذات خود جہاد کا حکم
۱۲۱	۱۰	۱۱۷	۸	آپ کو تسبیح و تحمید و استغفار کا حکم
۱۲۱	۱۱	۱۱۸	۹	آپ کو اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا حکم
۱۲۱	۱۲	۱۱۸	۱۰	اپنے اور مومنین کے گناہوں کی بھی
۱۲۱	۱۳	۱۱۸	۱۱	اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم
۱۲۱	۱۴	۱۱۸	۱۲	شرعی امور میں شک کی ممانعت
۱۲۲	۱۵	۱۱۸	۱۳	مکذیب احکام شرع کی ممانعت
۱۲۲	۱۶	۱۱۸	۱۴	منکروں کی اطاعت کی ممانعت
۱۲۲	۱۷	۱۱۹	۱۵	شُرک کی ممانعت
۱۲۲	۱۸	۱۱۹	۱۶	اگر آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال رائیخاں ہیں
۱۲۲	۱۹	۱۱۹	۱۷	آپ کو خدا کی نافرمانی پر دنیا و آخرت میں دہری سزا
۱۲۳	۲۰	۱۱۹	۱۸	نبی کی بیویوں کو گناہ پر دہرا عذاب
اصحاب				ازواج مطہرات
۱۲۳	۱	۱۲۰	۱	ازواجِ پیغمبرِ مسلمانوں کی ماہرین ہیں
۱۲۳	۲	۱۲۰	۲	آپ کے بعد آپ کی ازواج سے کسی کو نکاح کرنا ناجائز
۱۲۵	۳	۱۲۰	۳	پیغمبر کی ازواج کو اختیار کہ دنیا و آخرت میں کسی ایک کو اختیار کر لیں
۱۲۰	۴	۱۱۶	۲	آپ کو توحید کا حکم
۱۲۱	۵	۱۱۷	۳	انبیاء سابقین پر ایمان لانے کا حکم
۱۲۱	۶	۱۱۷	۴	تبلیغ وحی کا حکم
۱۲۱	۷	۱۱۷	۵	آپ اور آپ کے اہل و عیال کو نماز کا حکم
۱۲۱	۸	۱۱۷	۶	تہجد کی تاکید
۱۲۱	۹	۱۱۷	۷	آپ کو بذات خود جہاد کا حکم
۱۲۱	۱۰	۱۱۷	۸	آپ کو تسبیح و تحمید و استغفار کا حکم
۱۲۱	۱۱	۱۱۸	۹	آپ کو اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا حکم
۱۲۱	۱۲	۱۱۸	۱۰	اپنے اور مومنین کے گناہوں کی بھی
۱۲۱	۱۳	۱۱۸	۱۱	اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم
۱۲۱	۱۴	۱۱۸	۱۲	شرعی امور میں شک کی ممانعت
۱۲۲	۱۵	۱۱۸	۱۳	مکذیب احکام شرع کی ممانعت
۱۲۲	۱۶	۱۱۸	۱۴	منکروں کی اطاعت کی ممانعت
۱۲۲	۱۷	۱۱۹	۱۵	شُرک کی ممانعت
۱۲۲	۱۸	۱۱۹	۱۶	اگر آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال رائیخاں ہیں
۱۲۲	۱۹	۱۱۹	۱۷	آپ کو خدا کی نافرمانی پر دنیا و آخرت میں دہری سزا
۱۲۳	۲۰	۱۱۹	۱۸	نبی کی بیویوں کو گناہ پر دہرا عذاب
اصحاب کی دینداری اور ان کی تعریف				
اصحاب کے دلوں میں ایمان کی محبت اور کفر و فسق و عصیان سے نفرت				
اصحاب کی تورات و انجیل میں مرجح۔ ان کا خدا کی رضا اور اس کے فضل کا طالب				

۱۲۷	ہاجرین اور انصار سے خدا کا راضی ہونا	۸	۱۲۵	ہونا اور ان میں باہمی محبت و الفت	۳
۱۲۷	اصحاب بیعت الرضوان سے خدا کا راضی ہونا۔	۹	۱۲۶	بعض اصحاب حضرت کو خطبہ جمعہ پڑھتے چھوڑ کر چل دیئے۔	۵
۱۲۸	مکملہ کتاب الرسالت		۱۲۶	انصار کی ہاجرین سے محبت اور ان کا ایثار۔	۶
۱۲۸	قرآن کریم کی تسبیح		۱۲۶	جن اصحاب نے فتح مکہ سے پیشتر راہِ خدا میں مال صرف کیا اور لڑے ان کا درجہ۔	۷
۱۲۹	تمثیلات القرآن				
۱۳۰	قرآن کریم کی دعائیں				

مختصر فہرست مضامین کتاب الرسالت

صفحہ	مضمون آیات	صفحہ	مضمون آیات
۶۲	توریت کی تصدیق قرآن نے کی -	۱	نزول قرآن -
۶۲	تورات اور انجیل پر عمل کئے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی -	۲	قرآن معزز رسول کا کلام ہے -
۶۲	تورات اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہدایت والی نہیں انجیل -	۵	قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ مقاصد نزول قرآن
۶۵	انجیل میں ہدایت نور اور نصیحت ہے -	۶	قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے -
۶۵	اہل انجیل کو انجیل پر عمل کرنا چاہیے -	۹	اوصاف قرآن
۶۵	تورات و انجیل پر عمل کئے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی -	۱۱	قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا $\frac{9}{15}$
۶۶	صفات رسل	۱۸	اگر قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ خوف سے پھٹ جاتا -
۶۶	رسول آدمی ہی ہوتے ہیں -	۲۳	رسول اللہ صلعم کا قرآن مجھولنے سے محفوظ ہونا -
۶۹	بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت	۲۳	قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل
۷۰	قرآن میں بعض نبیوں کا ذکر ہے اور بعض کا نہیں -	۲۴	قرآن کے بنانے پر سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں -
۷۲	آنحضرت کی رسالت کے دلائل	۲۸	مناظرات -
۷۳	آپ پر اس طرح وحی ہوئی - جس طرح دوسرے انبیاء پر ہوئی -	۳۰	مواظظ القرآن -
۷۳	آپ کی اور دوسرے نبیوں کی تعلیم ایک تھی -	۳۱	زہد کی ترغیب -
۷۵	آپ لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے -	۳۲	متفوق نصائح -
۷۷	قرآن میں پیشین گوئیاں	۳۴	خلقت و نظرت انسانی از روئے قرآن
۸۰	آپ کی رسالت پر کافروں کے اعتراضات اور ان کے جواب -	۳۵	قرآن کے متعلق کافروں کے اقوال
۹۱	آپ لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں -	۵۲	کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس شخص نے دوسروں کی مدد سے بنالیا ہے -
۹۲	آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس	۵۸	قرآن کافروں کا کفر اور بڑھاتا ہے -
۹۷	آپ کے مخصوص اوصاف -	۵۹	آداب تلاوت قرآن
		۶۲	تورات

۱۱۸	آپ کو گناہ سے معافی مانگنے کا حکم۔	۹۷	آپ کا آئی ہونا۔
۱۲۰	ازواجِ مطہرات	۹۸	آپ کا اگلے پچھلے گناہوں کا معاف کیا جانا۔
	پنجمبر کی ازواجِ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کو	۱۰۰	آپ کو رویا دکھانے کا مطلب لوگوں کی آزمائش تھی۔
۱۲۰	احکامِ خدا کی پابندی زیادہ ضروری ہے۔	۱۰۱	آپ کو ابراہیم سے سب سے زیادہ تعلق تھا۔
۱۲۳	اصحاب	۱۰۸	آپ کا اظہارِ مجزہ جرات اور دیگر خوارق سے۔
۱۲۸	مکملہ کتابِ الرسالت		آپ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کافروں کی
۱۲۸	قرآنِ کریم کی تہیں۔	۱۱۲	بدسلوکیاں۔
۱۳۲	تمثیلات القرآن		تکلیفِ شرعی سے آزادی نہ آپ کو اور نہ آپ کے
۱۳۶	قرآنِ کریم کی دعائیں	۱۱۶	عزیز و اقارب کو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الرسالہ

نزول قرآن

۱۸۵ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن

۱۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔

ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔

۱۸۶ اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

۲۔ قرآن مبارک رات میں نازل ہوا۔

بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں اس (رات) میں ہر ایک نکت

حکیم ○ امرًا من عندنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ○ رحمة من

والا کام نفل کیا جاتا ہے ہماری طرف سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہیں تیرے پروردگار کی

شرفک وانکے هو السميع العليم ○ رب السموات والارض وما بينهما

رحمت سے بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے پروردگار

ان کنتم موقنین ○

کی رحمت سے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔

۱۸۷ اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

۳۔ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔

بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔

۱۸۸ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

۴۔ قرآن آنحضرت معلوم کے دل پر نازل ہوا۔

(بے نبی) کہہ دے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے (ہوا کرے) اس نے تو اس (قرآن) کو اللہ کے حکم سے تیرے دل پر اتارا ہے

۱۸۹ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ○ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ○

اس کو روح الامین (جبریل) نے اتارا ہے تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں ہو

۱۳- قرآن عزیز حکیم نے اتارا

۱/۳۴ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

(اس کتاب کا نازل کرنا غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔

۱/۳۳ حَمْدٌ ۝ ۲/۳۳ عَسَقٌ ۝ ۳/۳۳ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ

(اے نبی) اسی طرح تیری طرف اور ان کی طرف جو تجھ سے

قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

پہلے ہو گئے ہیں اللہ غالب حکمت والا وحی بھیجتا ہے۔

۱/۳۵ ۱/۳۴ حَمْدٌ ۝ ۲/۳۴ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

(اس کتاب کا نازل کرنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے

۱/۳۴ حَمْدٌ ۝ ۲/۳۴ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

(اس کتاب کا نازل کرنا اللہ غالب جاننے والے کی طرف سے ہے۔

۱۵- قرآن عزیز حکیم نے اتارا

۱/۳۱ حَمْدٌ ۝ ۲/۳۱ تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

یہ نازل کرنا ہے شفیق مہربان کی طرف سے

۱۶- قرآن عزیز حکیم نے اتارا

۱/۵۵ الرَّحْمَنُ ۝ ۲/۵۵ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝

رحمن (ہی) نے قرآن تعلیم کیا ہے

۱۷- قرآن پروردگار جہان نے اتارا۔

۱۹۲/۲۶ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور بے شک وہ جہان کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے

۸۰/۴۹ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

جہان کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے

۱۸- قرآن اللہ نے اتارا

۹/۱۵ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

ہے شک ہم ہی نے اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں

۲۳/۲۴ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝

ہے شک ہم نے تجھ پر ٹھہر ٹھہر کر قرآن اتارا

۳۹/۳۲ ۳۳/۳۵ ۲/۳۶ ۲/۳۷ ۱/۳۹

۱۹- قرآن کا اتارنے والا

۱/۲۵ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان (یعنی حق باطل میں تفریق کرنے والا قرآن) اتارا کہ وہ جہان والوں کو ڈرا دینے والا ہو۔

۲/۲۵ مِنَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآمُرُ بِمَا يُشَاءُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ

وہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس نے اولاد اختیار نہیں کی اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک

بڑا باریکرت ہے

شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ سَرَاهُ تَقْدِيرًا ۝

نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا انزورہ ٹھہرایا۔

۱۵-۲۰ قرآن کی مخالفت کا خدا نے دوسرا فرمایا

۱۶-۲۱ قرآن پر خدا اور فرشتوں کی گواہی

۱۷-۲۲ قرآن پر خدا اور فرشتوں کی گواہی

۲۳ قرآن کے آٹھ منے یا بتانے پر شیاطین کی قدرت نہیں

۲۴ قرآن اور یہ قرآن شیطان کا کلام نہیں ہے۔

۲۵ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے۔

۲۶ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا

۲۷ قرآن حکمًا عربیہ و لہن تبعت اہواءہم بعد ما جلاک

۲۸ قرآن سے اللہ کی طرف سے نہ تیرا کوئی حامی ہے اور نہ نگہبان۔

۲۹ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۰ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۱ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۲ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۳ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۴ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۵ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۶ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۷ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۸ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۳۹ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۴۰ قرآن عربی میں ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

۹۴ ۱۹۴
فَاتَّمَا يَتَرْنَاهُ يَلِيسَانَكَ لِبُشْرِيهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرِيهِ قَوْمًا لَدَا

سوہم نے اُسکو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو اُسکے ذریعے متقیوں کو بشارت دے اور اسی کے ذریعے (نصاری کی) جھگڑا توڑ دے۔

۱۹۵ ۱۹۵
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

اور (اسے نبی) اسی طرح ہم نے اُسکو عربی قرآن بنا کر اتارا اور اس میں بار بار ڈر اوسے ایسے شاید وہ پرہیزگار بن جائیں

أَوْ يُحَذِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا

یا وہ اُن کے لئے نصیحت پیدا کرے

۱۹۵ ۱۹۵
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

(قرآن) کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں (اترا ہے)

۱۹۶ ۱۹۶
قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

قرآن عربی بنا کر (اترا ہے) جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔

۱۹۷ ۱۹۷
كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں قرآن عربی میں اُن لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں

۱۹۸ ۱۹۸
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مِنَ الْكُفْرِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ

اور (اسے نبی) اسی طرح ہم نے تیری طرف قرآن عربی بذریعہ وحی کے بھیجا تاکہ تو سکتے اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے اور

یوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير

نیز جمع ہونیکے دن سے ڈرائے جس کے ہونے میں شک نہیں ہے (اُسدن) ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں

۱۹۹ ۱۹۹
إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

بے شک ہم نے اُس کو قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھو

۲۰۰ ۲۰۰
فَاتَّمَا يَتَرْنَاهُ يَلِيسَانَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

سوہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

۲۰۱ ۲۰۱
وَمَنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو لوگوں کیلئے امام اور رحمت ہے اور یہ ایک کتاب ہے (اگلی کتابوں کی) تصدیق کرنے والی عربی

لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ

زبان میں تاکہ اُن لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے اور نیکو کاروں کے لئے بشارت ہو۔

۲۰۲ ۲۰۲
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

وہ (ظلم) وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری۔ اسکی بعض آیتیں عام فہم میں دہی کتاب کی اصل ہیں اور دوسری

مُتَشَابِهَاتٌ

کئی پہلو والی ہیں۔

۱۹۴ قرآن کی بعض آیتیں مکمل
ہیں اور بعض متشابہ

۶۶۔ متشاکن مارل سولے
فدا کے کوئی نہیں جانتا

فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
سرمیں رکوں کے دل میں کمی ہے وہ اس کتاب میں سے ان آیتوں کے نیچے پڑتے جن میں کئی احتمال ہیں گراہی تاش کرنے
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
کے لڑنے سے اور نیز اس کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے ماوا کو اسکی اصل حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ
أَشْتَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ سَائِلِيهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

تم میں سختی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے سب کہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت تو عقل مند ہی پر کرتے ہیں اور

مقاصد نزول قرآن

۱۔ نزول قرآن سے مقصود
لوگوں کو نصیحت کرنا

سُورَةَ أَنْزَلْنَا هَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
یہ ایک سورت ہے ہم نے اسکو اتارا ہے اور ہم نے اس کے حکم کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت کرو
فَإِنَّمَا يَثُرُ نَهْ يَلِسَانِكَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

سو ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پر لیں۔

مَنْ أَحْلَمَ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ
ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور تو ان پر زبردستی کرنے والا نہیں ہے تو تو قرآن سے اس کو
مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدَ ۝

سبھا جو مہیے ڈرارے سے ڈرتا ہے۔

۲۔ لوگوں کو ڈرانا

۱۶۔ ۲۲۔ ۳۲۔ ۴۰۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ
اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟

۱۹۔ وَأَوْحِيَ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأَنَّكَ كُذِّبَ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
اور قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جنہیں یہ پہنچے انہیں ڈراؤں

۱۔ الْقَصَصِ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ
یہ ایک کتاب ہے جو تیری طرف اتاری گئی ہے تو اس سے تیرے دل میں کسی قسم کی تنگی پیدا نہ ہو۔

۱۱۔ لِنُنذِرَ سَائِرَهُمْ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

اسلئے (تاری گئی ہے) کہ تو اس کے ذریعے (لوگوں کو) ڈرے اور ایمانداروں کیلئے نصیحت ہو۔

۱۹۔ ۹۶۔ فَإِنَّمَا يَثُرُ نَهْ يَلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ سَائِرَهُ قَوْمًا لِّدَاءِ
سو ہم نے اسکو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو بشارت دے اور نیز اسکے ذریعے (نصاری کی) خبر دے

۳۵ قُلْ إِنَّمَا أَنْتُمْ رُكُومٌ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۝

۳۶ (اسے نبی) کہتے ہیں کہ میں تو وحی کے ذریعے سرت تمہیں ڈراتا ہوں اور یہ بے توجہ وہ ڈرائے جاتے ہیں بجا کر سنتے نہیں
۳۷ وَلَئِن مَّسَّتْكُمْ نَفْعَةٌ مِّنْ عَدَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُبَوِّئُنَا رَبُّنَا كُنُوزًا ظَالِمِينَ ۝
اور (اسے نبی) اگر انیس تیرے پر درد و غار کے غراب سے ایک لپٹ لگ جائے تو ضرور کہیں گے کہ بے ہمتی ہماری خرابی بیشک ہم ظالم تھے
۳۸ لَيَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

تاکہ تو ڈرانے والوں میں ہو

۳۹ أَمْ يَقُولُونَ اقْتِرْ لَهُ بَلُّهُ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ

۴۰ تَنْذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝
کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ وہ تو تیرے پر درد و غار کی طرف سے حق ہے تا تو ان لوگوں کو ڈرائے
۴۱ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْتُمْ بِأَبْوَاهِمُ فَهَمَّ غَافِلُونَ ۝
تاکہ تو ان کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غفلت میں پڑے ہیں۔

جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید وہ ہدایت پا جائیں

۴۲ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْتُمْ بِأَبْوَاهِمُ فَهَمَّ غَافِلُونَ ۝

تاکہ تو ان کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غفلت میں پڑے ہیں۔

۴۳ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

تاکہ وہ ان کو ڈرائے جو زندہ ہیں اور کافروں پر عتاب پوری ہو جائے۔

۴۴ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

بشارت دینے والا اور ڈرانے والا سوائے ان میں سے بہتوں نے منہ پھیر لیا۔ وہ سنتے ہی نہیں۔

۴۵ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ سَاءَ الْقَوْمِ الَّذِينَ هُمْ يَحْوِلُونَ

اور اسی طرح ہم نے تیری طرف وحی کیا تاکہ تو کہنے اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے اور انکے

۴۶ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا رَبَّ فِيهِمْ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝

ہونگے دن سے ڈرائے جس میں شک نہیں ہے (اس دن) ایک فریق جنت میں ہوگا ایک فریق دوزخ میں

۴۷ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً لِّهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو (لوگوں کیلئے) امام اور رحمت ہے اور یہ (قرآن) تصدیق کرنے والا ایک کتاب ہے

۴۸ عَرَبِيًّا وَلِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْحَسَنِينَ ۝

عربی زبان میں اور اسلئے ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے اور یہ نیکو کاروں کے لئے بشارت ہے

۴۹ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے تو تم اس پر چلو اور (اسے) ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سہارا تم

۵۰ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عِزًّا لَّاسْتَعِيزُ

کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دی ہو وہ نصاریٰ اور یہی فرقوں پر اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پرہیزگاروں سے

سہارا تم پر اتارنے کے لئے نازل ہوا۔

لَفِظِلَيْنِ ۝ ۱۵۸ ۝ اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ

بے خبر تھے یا کہنے لگو اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے براہ کر ہدایت پر ہوتے۔ سو تمہا سے
جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدٰى وَرَحْمَةٌ ۝ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيٰتِ اللّٰهِ

پاس تمہا سے پروردگار کی طرف سے عملی دلیل اور ہدایت اور رحمت آچکی سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اذ
وَصَدَفَ عَنْهَا سَجِرَةٌ مِّنَ الذِّنِّ يَصِدُّ فَوْنٌ عَنَّا سَوِّءٌ الْعَذَابِ بِمَا

کی آیتوں کو بھٹلا یا اور ان سے سو نہ پھیلو ہم غریب ہی ہیں لوگو نکو جو بھاری قوتوں سے سو بہ پھرتے ہیں بڑے مذہب کی مناد بنے
كَانُوا يَصِدُّ فَوْنٌ ۝ ۱۵۹ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يٰتِي رَبُّكَ

ہر اس بات کا کہ سو نہ پھیرتے ہیں کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر فرشتے آئیں یا تیرا پروردگار آئے یا تیرے پروردگار کی کوئی خاص
اَوْ يٰتِي بَعْضُ آيٰتِ رَبِّكَ ۝ يَوْمَ يٰتِي بَعْضُ آيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا

نشان آئے جس دن تیرے پروردگار کی خاص نشانی آئے گی کسی ایمان کو اس کا ایمان لانا جو پہلے سے ایمان نہیں آئی تھی یا اُسے
كَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۝ قُلْ اَنْتُمْ وَمَنْ اٰتٰكُمْ مَالًا مِّنْ

اپنے ایمان میں نیکی نہیں کماؤ کسی نفع نہیں دیکھا۔ (اے نبی) کہہ دے کہ تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں
اِنْ الذِّنِّ فَرَقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شٰعِبًا كُنْتُمْ مِنْهُمْ فِىْ شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ

بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو گھٹے گھٹے کر ڈالا اور کئی فریق بن گئے تھے ان سے کچھ لگاؤ نہیں۔ ان کا معاملہ
اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

تو بس اللہ ہی کی سپہ رس ہے پھر وہ انہیں بتلا دینگے جو جو (کلم) وہ کیا کرتے تھے۔
وَمَا اُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدٰى

اور (اے نبی) ہم نے تم پر کتاب منس اس لئے اتاری ہے کہ تم ان سے وہ باتیں بیان کر دے جن میں انہوں نے
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

اختلاف کر رہا ہے اور (وہ) ایماندار لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے
الَّذِى كَفَرَ كَتَبْنَا اَنْزِلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝ بِاِذْنِ

یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف اس لئے اتاری ہے کہ تو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے دے (یعنی)
رَبِّهِمْ اِلَى صِرٰطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيْدِ ۝ ۱۶۰ ۝ اللّٰهُ الَّذِى لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا

ان کے پروردگار کے حکم سے (زمانے) غالب قابل ترمیم کی راہ پر وہ ظالموں کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں
فِى الْاَرْضِ ۝ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝ ۱۶۱ ۝ اِنَّ الذِّنِّ

میں ہے اور زمین میں ہے اور ظالموں کے لئے ایک سخت عذاب ہے جو کافروں کی آخرت پر دنیا کی زندگی
يَسْتَجِيبُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ وَيَصِدُّوْنَ عَنَّا سَبِيْلَ اللّٰهِ وَيَسْعَوْنَ فِى

کو پسند کرتے اور (لوگوں کی) راہ خدا سے روکتے اور اس میں کئی ڈھونڈتے ہیں

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

ہم قرآن اختلاف دور کرنے کے لئے نازل ہوئے۔

۱۶۱۔ قرآن لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لائے۔

عَوَجَّاهُ أَوْلَيْكَ فِي صَلْبِ بَعِيدِهِ

وہی پرے درجے کی گمراہی میں ہیں۔

۹۰۔ قرآن اہل کتاب کی تصدیق کرتا ہے اور اس پر ایمان لاد جو میں نے اتارا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے پہلے اُسکے منکر تم ہی نہو کرتا ہے

۹۱۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ

اور جب اُن کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی جو اُس (کتاب) کی تصدیق کرنے والی ہے جو اُن کے پاس ہے

۹۲۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اُس پر جو اللہ نے اتارا ہے ایمان لاد تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا

يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ

کیا ہے اور وہ اس کے سوا کالٹا کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اُس (کتاب) کی تصدیق کرتا ہے جو اُن کے پاس ہے

۹۳۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبًا بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا

(اے نبی) کہہ دے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے (ہوا کرے) اُس نے تو اس (قرآن) کو اللہ کے حکم سے تیرے دل پر اتارا ہے

بَيْنَ يَدَيْهِ

جو اُس (کتاب) کی تصدیق کرتا ہے جو اُس سے پہلے ہے۔

۹۴۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ

اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا جو اُس (کتاب) کی تصدیق کرتا ہے جو اُن کے پاس ہے

۹۵۔ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

دین حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اُس (کتاب) کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے

۹۶۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ

اور (اے نبی) وہ وقت یاد کر جب اللہ نے نبیوں سے مہدیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَتَّوُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

آئے جو تمہارے پاس کی کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا

۹۷۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ أَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ

اے اہل کتاب اُس (قرآن) پر ایمان لاد جو ہم نے اتارا ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے

۹۸۔ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

اور (اے نبی) ہم نے تیری طرف دین حق کیساتھ کتاب اتاری جو اُس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے تصدیق کرتی ہے اور اُس پر

الْكِتَابِ وَهُمْ يَمُنُّونَ عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هَمَمِ عَمَّا

نگہبان ہے تو (اے نبی) تو اُس کی مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا ہے اور اس حق سے علیحدہ ہو کر جو تیرے پاس

جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَا جَاءَ

۹۳ ایسا ہے ان کی خوشیوں پر نہ پہل ہونے تم میں سے ہر ایک کیلئے ایک کتاب اور راستہ مقرر کر دیا ہے
وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

۹۴ اور یہ (قرآن) ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے

۹۵ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقٌ لِّلَّذِي

۹۶ اور یہ قرآن وہ نہیں ہے کہ غیر خدا کی طرف سے گھڑا گیا ہو لیکن اس کتاب کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے

بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ لِّلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۹۷ اور کتاب (تورات) کی تفصیل ہے پروردگار کی طرف سے اس کے ہونے میں شک نہیں

۹۸ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ

۹۹ ہے شک ان کے قصوں میں ممکنہ دن کے لئے عبرت ہے۔ یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے لیکن اس کتاب

وَلَكِنْ تَصْدِيقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

۱۰۰ کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور ہر شے کی تفصیل ہے اور ایسا نذر لوگوں کے لئے ہدایت

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

اور رحمت ہے۔

۱۰۱ وَالَّذِينَ آوَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

۱۰۲ اور (اسے نبی) جو کتاب ہم نے تیری طرف وحی کی ہے وہ حق ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے

۱۰۳ وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَا

۱۰۴ اور اس (قرآن) سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو لوگوں کیلئے امام اور رحمت ہے اور یہ ایک کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے

عَمَّا بَيْنَنَا وَمَنْ نَلَا مِنْ ظَالِمِينَ ۚ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝

۱۰۵ عربی زبان میں تاکہ ان لوگوں کو ڈرے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور نیکو کاروں کے لئے بشارت ہے

۱۰۶ قَالُوا يَا قَوْمِ مَنْ آتَانَا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

۱۰۷ (جنہوں نے) کہا کہ بھائیو! ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے۔ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو

بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

۱۰۸ اس سے پہلے ہے وہ حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف لگاتی ہے۔

اوصاف قرآن

۱- قرآن ہدایت ہے

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

یہ کتاب ہے اس میں شک (کی گنجائش) نہیں ہے پر ہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا سَرَقْنٰهُم يَبْقَعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ

ناز کو قائم رکھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے انہیں ریلے اس میں سے (راء خدا میں) خرچ کرتے ہیں اور جو اس کتاب
يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ
ہدایان لاتے ہیں جو تجھ پر اتاری گئی ہے اور (نیز) اس پر جو تجھ سے پہلے اتاری گئی ہے اور وہ آخرت پر بھی یقین

۵ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ سَرَابٍ مُّوْتَةٍ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور یہی (آخرت میں) فلاح پلنے والے ہیں۔

۹۷ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا

(اے نبی) کہہ دے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو (ہوا کرے) اس نے تو یہ (قرآن) اللہ کے حکم سے تیرے دل پر
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَّهُدًى وَّبَشْرٰى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اتارا ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔

۱۸۵ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ

رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے وہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ اور (اس میں) ہدایت اور حق و

مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقٰنِ ۝

باطل میں فرق کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں

۱۵۸ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ سَرَابٍ مُّوْتَةٍ وَّهَدًى مِّنْ رَّحْمَةِ رَبِّكُمْ

سو کچھ شک نہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آچکی ہے۔

۵۲ وَقَدْ جِئْتَهُم بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰی عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

اور کچھ شک نہیں کہ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کیساتھ ایماندار لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت بنا کر مفصل بیان کیا

۲۷ قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ سَرَابٍ مُّوْتَةٍ هٰذَا بَصٰٓئِرٌ مِّنْ سَرَابٍ مُّوْتَةٍ وَّهَدًى

(اے نبی) کہہ دے کہ میں تو بس اسی پر چلتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کیا گیا ہے یہ تمہارے پروردگار

وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

کی طرف سے سو جھکی باتیں ہیں اور ایماندار لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت

۵۷ یَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ عِظَةِ رَبِّكُمْ وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ
 اور ایسا خداؤں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (اسے نبی اکبر سے کر کے قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے
 فلیفرحوا ۵۸ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
 اور ایسا خداؤں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (اسے نبی اکبر سے کر کے قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے
 فلیفرحوا ۵۸ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ

ترس سے انہیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس (مال) سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں

۱۱۱ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۵۸

اور ایسا خداؤں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

۱۱۲ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلْبَيِّنَاتِ لَهُمُ الَّذِينَ ائْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى

اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب بھیجی ہے کہ تو ان سے وہ باتیں بیان کرے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں

۱۱۳ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۵۹

اور یہ (کتاب) ایماندار لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

۱۱۴ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا

اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی (اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت

لِلْمُسْلِمِينَ ۶۰

اور بشارت ہے۔

۱۱۵ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُّوسِ مِنْ رَبِّكَ لِثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى

(اسے نبی اکبر سے کہ اس کو تیرے پروردگار کی طرف سے روح القدس نے اتارا ہے کہ انہیں ثابت قدم رکھے

۱۱۶ وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ۶۱

جو ایمان لائے ہیں اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔

۱۱۷ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَمْدِي لِلَّذِينَ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

بے شک یہ قرآن اس راہ پر لگاتا ہے جو بہت ہی سیدھی ہے اور ان ایمان داروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۶۲

دیتا ہے۔ کہ ان کے لئے بڑا ثواب ہے۔

۱۱۸ هُدًى وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ۶۳

۱۱۹ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

۱۲۰ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۶۴

۱۲۱ اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں

۴۴ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اور بے شک وہ (قرآن) مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

۴۵ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْحَسَنِينَ ۝

یہ نیکو کاروں کے لئے ہدایت اور رحمت ہیں

۴۶ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

وہ (نیکو کار) جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں

يُؤْتُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی (آخرت میں) نفع پانے والے ہیں

۴۷ وَيُرِي الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ

اور ہمیں علم دیا گیا ہے یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے اور

يَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ ۝

وہ (دھندلے) غالب قابل ترین کی راہ پر لگاتا ہے۔

۴۸ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ

اے نبی اکبر دے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میں صرف اپنے ہی نقصان کے لئے گمراہ ہوں اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ ۝

وحی کے سبب سے جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر کی جاتی ہے بے شک وہ سننے والا (اور) قریب ہے

۴۹ قُلْ هُوَ الَّذِي بِنَاوَاهُدًى وَشِفَاءً ۝

کہہ دے کہ وہ تو ان کے لئے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا ہے

۵۰ هَذَا بَصَاةٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

یہ لوگوں کے لئے سوچنے کی باتیں ہیں اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

۱۵۴ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ دیکھو قرآن ہدایت ہے

دیکھو قرآن ہدایت ہے (عدد ۱)

۶۲ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اور ہم قرآن کے ذریعہ وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمانداروں کے لئے شفا اور رحمت ہے

۶۳ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

بے شک اس (قرآن) میں ایمان والوں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے۔

۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ دیکھو قرآن ہدایت ہے - (عدد ۱)

۲- قرآن رحمت ہے

۳- قرآن بشارت ہے

۱۳۷ لِيُبْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلِيُبْشِرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۳۸ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُ عِظَةِ اللَّهِ مِنْ شَرِبِكُمْ وَشَفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

۳- قرآن شفا ہے

۱۳۹ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۴۰ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

اور ایمانداروں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

۱۴۱ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

۵- قرآن نور ہے

۱۴۲ وَرَحْمَةً لِيُبْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلِيُبْشِرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۴۳ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

۶- قرآن برہان ہے

۱۴۴ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

۱۴۵ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

۷- قرآن کتاب مبارک ہے

۱۴۶ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

۱۴۷ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

۱۴۸ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

۱۴۹ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَدًى وَرَحْمَةً

۲۹
۳۸ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

بارک کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے تاکہ وہ ان آیتوں میں غور کریں تاکہ عقل والے نصیحت پکریں

۵۴
۳۴ ذَلِكُمْ مَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي كُرِّهُوا الْحِكِيمِ ۝

یہ ہے جو ہم آیتوں اور یہی نصیحت سے تمہیں ہڑتے ہیں

۱
۳۱ الرَّاقِدُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں

۱
۳۱ الرَّاقِدُ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝

یہ کتاب ہے اس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں

۲۹
۱۲ ذَلِكُمْ وَمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۝

یہ اس حکمت میں سے ہے جو تیرے پروردگار نے تیری طرف وحی کی ہے

۲
۳۱ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں

۲
۳۱ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

حکمت والے قرآن کی قسم

۲
۳۲ وَرِثَةٌ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝ ۵ أَنْضَرِبُ عَنْكُمْ

اور کچھ شہک نہیں کہ وہ ہمارے ہاں اصل کتاب (روح محفوظ) میں عالی مرتبہ حکمت والا ہے تو کیا ہم تم سے

الذِّكْرُ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝

میں بنا پر نصیحت کو ہٹالیں کہ تم لوگ حد سے باہر نکل جانے والے ہو۔

۱۵
۵ فَمَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۝

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آچکا ہے اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب بھی

۱
۱۳ الرَّاقِدُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں

۱
۲۷ ۱ ظُفْرًا ۲ ۲ ۲ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں

۱
۲۷ ظُفْرًا تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

یہ قرآن اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں

۲۹
۲۷ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝

اور ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور وہ اس کے لئے مناسب بھی نہیں وہ تو محض نصیحت اور کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے

۸ قرآن حکمت والی کتاب ہے

۹ قرآن کتاب مبین ہے

۱۸۵ ۲۲ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۝

اور (قرآن) ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کھلی دلیلیں ہیں

۱۹ ۲۲ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ

اور (اسے) ہم نے اسی طرح ہم نے اس کو کھلی آیتیں اتارا ہے

۱ ۲۳ سُوْرٰةٍ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُوْنَ

یہ ایک سورت ہے اور ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم نے (اس کے) کلام کو فرض کیا ہے اور اس میں کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو

۲۵ ۲۳ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰیٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِيْنَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً

اور بے شک ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں اتاری ہیں اور (نیز) جو لوگ گذر گئے ان کی کہادتیں اور

لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

برہنہ نگاروں کے لئے نصیحت

۲۶ ۲۴ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۝

بے شک ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں اتاری ہیں

۹ ۲۵ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰی عَبْدِهٖ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَ

وہی (خدا) ہے جو اپنے بندے پر کھلی آیتیں اتارتا ہے تاکہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے اور

اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۝

بے شک اللہ تم پر شفیق مہربان ہے

۵ ۲۸ وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۝

اور بے شک ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں

۱۱ ۲۵ رَسُوْلًا لِّيَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ

(ہم نے) تمہارا رسول جو تم پر اللہ کی کھول کر بیان کرنے والی آیتیں پڑھتا ہے۔

۵۵ ۲۶ یَاۤیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاۤءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ ۗ

لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آچکی ہے اور اس (مرض) کی شفا بھی جو سینوں میں ہے

۶ ۲۷ كِتٰبٌ اَنْزَلَ اِلَیْكَ فَلَا یَكُنْ فِیْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ ۗ وَ

(اسے) نبی (نبی) اتاری طرف اتاری گئی ہے کتاب تو اس سے تیرے دل میں (کسی طرح کی) تنگی پیدا نہ ہو۔ تاکہ تو اس کے ذریعے

ذِکْرٰی الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

لوگوں کو ڈرے اور مومنوں کے لئے نصیحت ہو۔

۱۳۰ ۲۸ وَجَاءَكَ فِیْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ ۗ وَذِکْرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اور (اسے) نبی (نبی) اس میں تیرے پاس حق آچکا اور ایمانداروں کیلئے نصیحت اور خیر خواہی بھی

۱/ ۱۰ ۝ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرًا لِمَنْ

(اسے نبی ہونے کے بعد قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔ اس اس کے لئے نصیحت

یجتنی ۝ ۱۱ تَنْزِيلًا لِمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝

بے جوڑے۔ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے

۱۲ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

۱۳ ۝ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

۱۴ ۝ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

۱۵ ۝ وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَكُمْ وَلَئِن كُنَّا إِلَّا لَمَوْعِدًا لِذِكْرٍ مُبِينٍ ۝

۱۶ ۝ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝

۱۷ ۝ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

۱۸ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمُتَجَاهِدُونَ وَإِنَّا لَكَنَّا عَزِيزُونَ ۝

۱۹ ۝ وَإِنَّ لَهُ لَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

۲۰ ۝ إِن فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

۲۱ ۝ قَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

۲۲ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

۲۳ ۝ وَإِنَّ لَهُ لَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝

۲۴ ۝

۱۹ ۲۴ اِنَّ هٰذَا تَذٰكِرَةٌ ۙ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْنَا اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝

بے شک، ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے

۲۵ ۲۵ كَلَّا اِنَّهٗ تَذٰكِرَةٌ ۙ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝

ہرگز یوں نہیں ہے وہ تو نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت کرے

۲۶ ۲۶ كَلَّا اِنَّهٗا تَذٰكِرَةٌ ۙ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝

ہرگز یوں نہیں ہے وہ تو ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت کرے

۲۷ ۲۷ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ ۲۸ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اِنْ يَّسْتَقِيْمُ ۝

وہ تو جان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے اور بس اس کے لئے جو تم میں سے سیدھا ہوتا ہے۔

۲۹ ۲۹ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۙ

اور وہ (قرآن) حق ہے اس (کتاب) کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے

۳۰ ۳۰ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط

۷۱ اشد کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

۳۱ ۳۱ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۙ

(اے نبی) تم پر دین حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اس (کتاب) کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے۔

۳۲ ۳۲ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ ۙ

بے شک ہم نے تیری طرف دین حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ تو لوگوں کے درمیان انکی مطابق فیصلہ کرے جو اشد تجھے

۳۳ ۳۳ وَلَا تَكُنْ لِلْخٰفِيْنَ خَصِيْمًا ۙ ۳۴ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ

سلبمانے اور تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے ہمکارا نہ کر۔ اور اللہ سے مانگی مانگ۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۳۵ ۳۵ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

اور (اے نبی) ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری

۳۶ ۳۶ وَكَذٰبَ بِهٖ قَوْمُكَ ۙ وَهُوَ الْحَقُّ ۙ

اور تیری قوم نے اُسے جھٹلایا حال آنکہ وہ حق ہے۔

۳۷ ۳۷ وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۙ وَالَّذِيْنَ اتَيْنٰهُمْ الْكِتٰبَ

اور وہ (فدا) وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ

۳۸ ۳۸ يَعْلَمُوْنَ اِنَّهٗ مُنْزَلٌ مِّنْ سَرٰبِكِ بِالْحَقِّ ۙ

تیرے پروردگار کی طرف سے دین حق کے ساتھ اتاری گئی ہے

۳۹ ۳۹ لَقَدْ جَاؤَكَ الْحَقُّ مِّنْ سَرٰبِكِ ۙ

بے شک تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔

۱۹ قرآن برحق اور یہی
کتاب ہے

۱۱۵ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

اے نبی! کہہ سے کہ لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آچکا ہے پس جو ہدایت پر ہو گیا تو وہ اپنے ہی نفع کے لئے ہدایت پر ہوا اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ اپنے ہی نقصان کے لئے گمراہ ہوتا ہے اور میں تم پروردگار نہیں ہوں

۱۱۶ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

بے شک وہ سچے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اس بات کو اکثر آدمی نہیں جانتے

۱۱۷ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ لَّذِكْرِكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

اور (اے نبی!) اس بیان میں سچے پاس حق اور ایسا تذکرہ ہے جسے نصیحت اور توبہ خواہی آپ کی ہے

۱۱۸ الْمُرْتَدُّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تیری طرف سے پروردگار کی طرف سے تمہارا لیا ہے وہ حق ہے۔ لیکن اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے

۱۱۹ وَإِلَى الْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ

اور (اے نبی!) ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ اتارا ہے۔

۱۲۰ وَيُرَى الَّذِينَ آوَوْا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ

اور (اے نبی!) انہیں علم دیا گیا ہے وہ سچے رکھتے ہیں کہ جو کچھ تیری طرف سے پروردگار کی طرف سے تمہارا لیا ہے وہی حق ہے

۱۲۱ إِنَّا أَسْرَأْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

(اے نبی!) بے شک ہم نے تجھے دین حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

۱۲۲ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

اور (اے نبی!) جو کتاب ہم نے تیری طرف سے بھیجی ہے وہ حق ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے

۱۲۳ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُوكُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۝

بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے (انہیں) دیکھتا ہے۔

۱۲۴ بَلْ جَاءَهُ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ۝

بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔

۱۲۵ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

(اے نبی!) بے شک ہم نے تیری طرف سے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے تو اللہ کی عبادت خالص اس کی امامت کرتا ہوا کر

۱۲۶ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۝

(اے نبی!) بے شک ہم نے تم پر لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے۔

۱۴
۴۲ اللّٰهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق اور ترازو اتاری اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہی (آگے) ہو
فَوَسَّيْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ رِيشَةً لِحَقِّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ○

سو آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم وہ (ایسا ہی) حق ہے جیسے تم بولتے ہو
وَأِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ ○

اور (اے نبی) بے شک وہ یقینی حق ہے

۲
۳۲ دیکھو قرآن کے نزول سے مقصود لوگوں کو ڈرانا ہے (عدد - ۲)

۲
۳۲ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

یہ کتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے

۳۴
۳۴ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

اس میں جہان کے پروردگار کی طرف سے ہونے میں کچھ شک نہیں ہے

۶
۳۲ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

کتاب کا نازل کرنا اس میں شک نہیں کہ جہاں کے پروردگار کی طرف سے ہے

۱۸
۱۸ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ○

سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی

۲۸
۳۹ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

قرآن عربی جس میں کچھ کجی نہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں

۲۲
۳۱ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ○

اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے صحت والے قابل تعریف کا اتارا ہوا ہے

۲۳
۲۳ قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَافِيرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَ

(اے نبی) کہہ دے کہ میں تو بس اسی پر چلتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ تمہارے

رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

پروردگار کی طرف سے سوجھ کی باتیں ہیں اور ایماندار لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت

۲۵
۳۵ هَذَا بَصَافِيرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

یہ لوگوں کیلئے سوجھ کی باتیں ہیں اور جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

۱۵۴
۴ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آپہنچ

۲۲- قرآن میں شک کی گنجائش نہیں

۲۱- قرآن میں کچھ کجی نہیں

۲۲- قرآن میں باطل کا دخل نہیں

۲۳- قرآن سوجھ سمجھ پیدا کرنے والا ہے

۲۳- قرآن خدا کی طرف سے کھلی دلیل ہے

۱۱۲ ۴ اَفَعَيَّرَ اللَّهُ اَبْتَعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۝

ترکیا میں اللہ کے سوا نبیل اور ہونہ صوں ملے انکو وہ ہے جس نے تمہاری طرف منسل کتاب اتھری

۱۱۳ ۵ وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَّلَتْهُ عَلٰی عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُكْفُرُونَ ۝

ہر بیشک ہم ان کے اس میں کتاب اور ہونے میں حکوم نے علم کیساتھ منسل بیان کیا ہے ایماندار لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔

۱۱۴ ۶ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرٰی مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي

اور یہ قرآن وہ نہیں کہ سوانعتنا کے گمراہیاہنے لیکن اس کتاب کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب

بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

دورات) کی تفصیل ہے اس میں شک نہیں ہے جہاں کے ہر درکار کی طرف سے ہے۔

۱۱۵ ۷ لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِ الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى

بے شک ان کے قصوں میں غنمدر کے لئے عبرت ہے گمراہی ہونے بت نہیں ہے لیکن اس کتاب

وَلٰكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلُ كُلِّ شَيْءٍ

کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور ہر شے کی تفصیل ہے

۱۱۶ ۸ وَنَزَّلْنَا عَلٰیكَ الْكِتَابَ تَيٰمِنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِّلْمُسْلِمِيْنَ ۝

اور (اسے نبی) ہم نے تم پر کتاب اتھری ہر شے کا بیان اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے

۱۱۷ ۹ كِتَابٌ فَصَّلَتْ اٰیٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

یہ ایک کتاب ہے کہ جس کی آیتیں ان لوگوں کیلئے جو ماننے میں قرآن عربی بنا کر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں

۱۱۸ ۱۰ اللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا مَّثٰنًا فِیْ تَفْصِيْلٍ مِّنْهُ جُلُوْدٌ لِّلَّذِيْنَ

اللہ نے سب سے بھی بات اتھری ہے (یعنی) ایکساں کتاب۔ دہرائی جانوال۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے

يَجْحَشُوْنَ رٰبَهُمْ ثُمَّ تَلٰیٰنُ جُلُوْدٌ هُمْ وَقَلُوْا يٰهُمُ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدًى

ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرنے میں پھر اللہ کے ذکر کیلئے ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی

اللّٰهِ يَهْدِيْ رِبِّهٖ مِنْ كَيْشًا وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

ہدایت ہے جسے وہ چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے

۱۱۹ ۱۱ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا بُدِئَ عَلَيْهِمُ

(اسے نبی) کہہ دے کہ تم اس پر ایمان اور یا ایمان نہ لاؤ بے شک اس سے پہلے نہیں علم دیا گیا ہے جب وہ ان پر پڑھا جاتا ہے تو

يَخْرُوْنَ لِلاَدِّ قٰنٍ سٰجِدًا ۝ وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا

ٹھوڑیوں پر سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی

لَمَفْعُوْلًا ۝ وَيَخْرُوْنَ لِلاَدِّ قٰنٍ يَّبْكُوْنَ وَزَيْدٌ هُمْ خَشُوْعًا

تھا۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں پر گر پڑتے ہیں اور وہ ان کی فردتھی (اور) پڑھاتا ہے

۲۵۔ قرآن منسل ہے ہر اس میں ہر شے کا بیان ہے

۲۶۔ قرآن کا ہر اسے ڈرنے والوں کے دل پر اثر ہوتا ہے

۲۷۔ اہل کتاب قرآن منکر روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں

<p>لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّدًا عَاظِنًا خَشِيرًا اللَّهُ وَطَلَّكَ الْأَمْثَالَ تَهْزُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○</p>	<p>۲۸- اگر قرآن کسی پہاڑ پر اترا تو وہ خوف خدا سے ہٹ رہا</p>
<p>سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنسَى ○ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ○ وَنُيِّسِرُكَ لِلْيُسْرَى ○</p>	<p>۲۹- رسول خدا صلوات اللہ علیہ نبوت سے محفوظ ہونا</p>
<p>فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ○ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ○</p>	<p>۳۰- قرآن مجید کی کتاب میں ہے جسے پاک انسان ہی چھوتے</p>
<p>فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ○ بِهَا مَرْفُوعَةٌ مُّطَهَّرَةٌ ○ بِهَا يَا أَيُّهَا سَفَرَةٌ ○ رِكْرِ مِيسْرَةٍ ○</p>	<p>۳۱- قرآن پاک صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔</p>
<p>بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ○ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ○</p>	<p>۳۲- قرآن لوح محفوظ میں مندرج ہے</p>
<p>لَا تَحْرِيكَ بِهِ لِسَانُكَ لِيَتَعَجَّلَ بِهِ ○ ۱۷ ○ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ○ ۱۸ ○ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ○ ۱۹ ○ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ○</p>	<p>۳۳- قرآن کا رسول خدا کو یاد کرانا اور اس کی تفسیر سمجھانا خدا کے ذمے ہے۔</p>
<p>وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ○</p>	<p>۳۴- قرآن میں ہر قسم کی امثال ہیں</p>
<p>وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدًّا ○</p>	<p>۳۵- اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کے سمجھانے) کے لئے ہر قسم کی کہادت بیان کی اور انسان بڑا ہی عجیب گڑا لوس ہے۔</p>

۳۳ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ

اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے (بہانے کے) لئے بار بار ہر قسم کی کہادت بیان کی اور اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی
 لَقِيْتُمْ لَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝

لئے تو جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ ضرور میں کہیں گے کہ تم تو محض باطل ہی ہو

۳۴ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے (بہانے کے) لئے ہر قسم کی کہادت بیان کی تاکہ وہ نصیحت لیں۔

قرآن مجید کے متن جانب اللہ ہونے کی دلائل

۳۵ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ نَبِّئْنَاهُ بِقَوْلِ كَثِيرٍ وَإِنْ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ صَدَقَاتِهِمْ

اور اگر تمہیں اس کی شک ہے تو اس کی ایک سورت تمہیں (بتا) دو اور اللہ
 شُهَدَاءُ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَقْوَلَاتِهِمْ وَالْحَاقَّةُ لِلْكَافِرِينَ ۝

اس آگ سے ڈرو میں کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے وہ (آگ) کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے

۳۶ أَمْ يُقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ مِنْ دُونِ

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اسے گمراہی ہے (اسے نبی) کہہ دے کہ کسی طرح کی ایک سورت تمہیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے
 اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

تم بلا سکو بلا لو اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس بات کو جس کا علم ہے انہوں نے اعادہ نہیں کیا جھٹلایا۔

تَأْوِيلُهُ ذِكْرُ الْكُذِّبِ الَّذِي مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝

عمل کا وہی تک اسکی اصل حقیقت ان کے پاس نہیں آئی اس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تا جو ان سے پہلے ہوئے ہیں تو (اسے نبی) دیکھ
 مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

کہ ظالموں کا کیا (بڑا) انجام ہوا۔ اللہ کوئی ان میں سے اس پر ایمان لاتا ہے اور کوئی ان میں سے اس پر ایمان نہیں لاتا اور

۳۷ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ نَبِّئْنَاهُ بِقَوْلِ كَثِيرٍ وَإِنْ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ صَدَقَاتِهِمْ

تفعلوا فاذنوا بمقولاته والهاقعة للكافرين ۝

تمہارے عمل تمہیں سے بیزار ہو جو میں کرتا ہوں اللہ میں اس سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔

۱۔ قرآن کے بنانے پر سوا
 خدا کے کوئی قادر نہیں

۳۳ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَاَدْعُوا مَنِ اسْتَفْتَمُ

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے (اسے نبی) کہہ دے کہ تم میں سے کسی ہی گھڑی ہوئی اس سوئیں لے آؤ اور اللہ کے
مِنْ دُوْرِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ ۳۴ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّهَا نَزْلٌ
سوا جس کو بلا سکو (اپنی مدد کے لئے) بلاؤ۔ اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو۔ پھر اگر کچھ جواب نہ دیں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اٹارا
بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاِنَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟

۳۴ قُلْ لَنْ لْجَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَآ يَأْتُوْنَ

(اسے نبی) کہہ دے کہ اگر (مارے) انسان اور جن میں سے بات پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں تو وہ اس جیسا
بِمِثْلِهِ وَاَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا ۝

(پہرے) نہ لیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں

۳۵ قُلْ فَاَتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(اسے نبی) کہہ دے کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں (تورات و قرآن) سے بڑھ کر ہو میں اسی پر چلنے
۳۵ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّكَ اَنْتَ الْبٰتِلُ وَاَنْتَ اَهْوَاۗءُهُمْ وَاَنْتَ اَضَلُّ مِمَّنْ اَتَّبَعُوْا

گوں کا اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو۔ پھر اگر وہ تجھے کچھ جواب نہ دیں تو جان لے کہ وہ محض اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں اور اس سے
هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

بڑھ کر گمراہ کون؟ جو اضلکی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش پر چلا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۳۶ فَلِیَا تُوْا بِحَدِیْثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

پس انہیں چاہیے کہ وہ بھی ایسی ہی ایک حدیث لے آئیں اگر وہ (اپنے دعوے میں) سچے ہیں

۳۷ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغٰیْبِ نُوْحِیْہٖ اِلَیْكَ وَا مَا كُنْتَ لَدَیْہُمْ اِذْ یُلْفِیْنَ اَقْلٰہُمْ اَتٰہُمْ

(اسے نبی) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ
یَكْفُلُ مَرٰیْمَ وَا مَا كُنْتَ لَدَیْہُمْ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ ۝

اپنے ظم لپالی میں بطور قوم اندازی کے) دال رہے تھے کلن میں سے کون مریم کا زور لے اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ آپس میں
ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغٰیْبِ نُوْحِیْہٖ اِلَیْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْتَ وَا لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اس سے پہلے نہ تو ان کو جانتا تھا اور نہ تیری قوم ہی
ہٰذَا ۙ فَاصْبِرْ اِنَّ الْعٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِیْنَ ۝

تو تو صبر کر بے شک انجام (نیک) پر میز کاروں کے لئے ہے

۳۸ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغٰیْبِ نُوْحِیْہٖ اِلَیْكَ وَا مَا كُنْتَ لَدَیْہُمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَہُمْ

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے کام کو طمہ لے رہے تھے

۲- قرآن میں غیب کی خبروں کا ہونا۔

وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۝ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

اور وہ مکر کر رہے تھے اور اکثر آدمی اگرچہ تو حرم کرے ایمان لانے والے نہیں ہیں

۱۱۱ وَمَا نَسْتَلُهمْ عَلَيْهِمِ مِنْ أَجْرٍ وَاِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور تو اس پر ان سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا وہ تو جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے اور بس

۱۱۲ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۗ وَقَدْ آتَيْنٰكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝

اسی طرح ہم تجھ سے وہ خبریں بیان کرتے ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں اور بے شک ہم نے تجھے اپنے پاس سے نصیحت دی

۱۱۳ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسٰى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ۝

اور (اسے نبی) تو (طوریکہ) مغربی جانب میں نہ تھا جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم کا فیصلہ کیا تھا اور تو اُس وقت وہاں ہی

۱۱۴ وَلٰكِنَّا اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَل عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ وَمَا كُنْتَ تَارِيْفًا لِاَهْلِ مَدِيْنٍ تَطُوْرًا

نہ تھا۔ لیکن (بات یہ ہے کہ) ہم نے ان کے بعد بہت سے قرن پیدا کئے پھر ان کی لمبی عمریں گزر گئیں اور مدین کے بسنے والوں

۱۱۵ عَلَيْهِمْ اٰتَيْنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا حُرْمِلِيْنَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ

میں تمہیں تھا کہ ان پر ہماری باتیں پڑتا ہو لیکن بات یہ ہے کہ ہم تجھے پھر نہیں بنا سکتے تھے اور تو اس وقت وہاں ہی

۱۱۶ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ اَنْتَ وَمَنْ اٰتٰهُمْ مِنْ ذٰلِكَ يَرْجُوْا رَبَّكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(موسیٰ کی پکارا تھا لیکن) تجھے (تیرے) پروردگار کی رحمت سے (مسلو ہو جاؤ) تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرنا

۱۱۷ وَيُرِي الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ الَّذِيْ اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ

اور نہیں ظم دیا گیا ہے انہیں نصیحت ہے کہ جو کچھ تیری طرف تیرے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے

۱۱۸ اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَان مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوْجَدُوْا فِيْهِ اٰخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝

تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر وہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بے شک وہ اُس میں بہت سا اختلاف پاتے۔

۱۱۹ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَفُصُّ عَلٰى بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں

۱۲۰ وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۝

اور بے شک وہ پہلوں کے صحیفوں میں (مذکور) ہے

۱۲۱ اِنَّ هٰذَا لَفِي الضُّمُفِ الْاَوَّلٰى ۝ ۱۲۲ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى ۝

بے شک یہ قرآن پہلوں کے صحیفوں میں (مذکور) ہے (یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں

۱۲۳ اَفَعِيْرَاللّٰهِ اَبَتْحٰى حَكْمًا وَّهٗوَ الَّذِيْ اُنزِلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا مَّا الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ تلاش کروں اور وہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری اور تمہیں ہم نے کتاب دی ہے

۱۲۴ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّهٗ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُنْزِلِيْنَ ۝

وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ دین حق کے ساتھ تیرے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے تو تمہیں ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو

۳۔ قرآن کا حق ہونا اہل

علم جانتے ہیں

۴۔ قرآن میں اختلاف کا ہونا

۵۔ بنی اسرائیل کے صحیح

صحیح حالات بیان کرنا

۶۔ انبیاء سابقین کے صحیفوں

میں مذکور ہونا

۷۔ قرآن کی حقیقت اہل

کتاب جانتے تھے

۱۹۷ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اِسْرَائِيلَ ۝

کیا ان کے لئے یہ نشان کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے عالم اس کو جانتے ہیں
قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكُفْرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ

۱۹۸ عَلٰى مِثْلِهِ فَاَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

جیسے (قرآن) کی گواہی بھی دے چکا ہے وہ ایمان لے آیا اور تم نے غرور کیا (تم میں تمہارا کیا انجام ہوگا) بیشک اللہ ظالم لوگوں کو
۱۹۹ وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِبْنَ لِيَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا

اور (اسے نبی) وہ وقت یاد کر کہ جب ہم نے جنوں کے کچھ انخاص تیری طرف پھیر دیئے کہ قرآن سنیں۔ سو جب وہ اس (کی تلاوت) پر
فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوْا اِلَى قَوْمِهِمْ مُّذْنِبِيْنَ ۝ قَالُوْا اَيُّ قَوْمٍ نَّاسِمِعْنَا كِتٰبًا

آموجود ہوئے تو بولے کہ خاموش رہو۔ پھر تلاوت ختم کی گئی اور وہ ڈرانے کیلئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے کہنے لگے کہ ہاں تو ہم
اَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ

نے ایک کتاب مٹی جو موسیٰ کے بعد تاری گئی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے حق کی طرف اور سید ہی راہ پر
مُسْتَقِيْمًا ۝ اَيُّ قَوْمٍ نَّاسِمِعْنَا اٰجِبِيْوَا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ

لگاتار ہے جا ہیو! اللہ کے منادی کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا اور
يُجَسِّدْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ۝ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ

درود ناک عذاب سے نہیں نجات دے گا۔ اور جو اللہ کے منادی کی بات قبول نہ کرے گا وہ زمین پر ناجز کرنے والا نہیں
وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءٌ اُوْلٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

۲۰۰ قُلْ اُوْحٰى اِلَيَّ اِنَّهُ اَسْمَعُ نَفْرًا مِّنَ الْجِبْنَ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝

۲۰۱ اِلَى الرَّشِدِ فَاَمْتَابِيْهِ وَلٰكِنْ نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا اَحَدًا ۝ وَاِنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ

۲۰۲ صٰحِبَةً وَّلَا وِلَدًا ۝ وَاِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلٰى اللّٰهِ شَطَطًا ۝

۲۰۳ وَاَنَا ظَنُّنَا اَنْ لَّنْ نَّقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا ۝ وَاِنَّهُ كَانَ

۲۰۴ مِّنْ رِّجَالٍ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِبْنَ فَرَادُوْهُمْ سَهْفًا ۝

۲۰۵ جِبْنَ مِّنْ سَهْفٍ شَخْصٍ كِي سناہ پکارتے تھے تو انہوں نے ان کا غرور اور بڑھا دیا۔

۸- قرآن کے من جانب اللہ
ہونے پر ایک عالم بنی اسرائیل
کی شہادت

۹- قرآن پر جنوں کا ایمان لانا

۴۶ وَأَنْتُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا ۝ وَأَنَا لَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُ

اور جیسا تم نے گمان کیا نہیں ہے جیسا ہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو (پہنچا کر) نہیں بھیجے گا اور ہم نے آسمانوں کو ٹولا تو ہم نے ان کو پختہ
ہا ملشت حرسا شدیدک و فہیبا ۹

تو بیداروں ہوناگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور پہلے ہمیں میں سننے کی جگہ بیٹھا ہوا کرتے تھے مگر جب سنتا ہے تو وہ اپنے لیے
فَمَنْ لِيَسْمَعِ الْآنَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْبًا بَارِئًا ۝ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِبَنِي

آگ کا ایک شعلہ کھلتے میں لگا ہوا پایا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کے لئے جو زمین میں ہیں شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کیلئے
الْأَرْضِ بِأَمِّ أَسْرَادٍ بِهَمِّ رَبِّهِمْ الرَّشْدَ ۝ وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الَّذِينَ ذَكَرُوا

ان کے پیروں کو گارنے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور بیشک ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض ہم میں سے اس کے برعکس ہیں ہم مختلف
كُتَابًا رَاقٍ قَدَا ۝ وَأَنَا ظَنُّنَا أَنْ لَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْبُدَ هَرَبًا

لوگوں کے ہیں۔ اور بے شک ہمیں بتین ہو گیا کہ ہرگز ہم اللہ کو نہ زمین میں رعبہ کی عبادت کریں گے اور نہ کہیں جگہ کریں گے
۵۱ وَأَنَا لَسْمِعْنَا اللَّهُ مَسَابِيَهُ فَمَنْ لِيُؤْمِنَ بِرَبِّهِ فَلَا يَحْتَابُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

عبادت کریں گے اور ہم ہر بات پر یہ ہم نے اس کو سنا ایسا لے آئے سو جو اپنے پیروں کو گارے ایمان لائے گا وہ نہ کسی سے ڈرے گا نہ
۵۲ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلِيكَ لِحُزْرٍ وَأَرْشَدًا ۝

یاد دہی سے اور بے شک ہم میں بعض مسلمان ہیں اور بعض ہم میں ناانسان پس جو سوم لیا تو انہیں نے بھلائی کا قصد کیا۔ اور جو ناہم ہیں
۵۳ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الصَّرِيْقَةِ

وہ دوزخ کا ایندھن بنے اور زمین پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ راہ پر قائم رہتے تو ہم ان کو ضرور دوزخ پانی پلاتے۔ تاکہ
لَا يَسْقِيَنَّهُمْ مَاءٌ غَدَا ۝ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ

ہم ان کو اس میں آزمائیں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے سونہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا اور یہ
عَذَابًا صَعَدًا ۝ وَأَنْ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ وَأِنَّهُ لَمَّا

(وہی لگئی ہے) کہ سچیں سب اللہ (کی عبادت) کیلئے ہیں تو تم اللہ کیسے تھا اور کسی کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ (محمد) اس کو
قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝
پکارنے لگے کھڑا ہوا تو وہ (حق) قریب تھے کہ اس پر ایک کے اوپر ایک پڑیں

مناظرات

۵۴ ثَمَنِيَّةٌ أَرْوَاحٌ مِنَ الصَّانِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِضَيْنِ قُلْ إِنَّ الدَّكَرَيْنِ

(اللہ نے ہمیشہوں کے) آٹھ جوڑے پہیا کے ہمیر کے دو (نر و مادہ) اور مری کے دو (نر و مادہ) پوچھ کر اللہ نے دونوں کو

حَرَّمَ اِمَّ الْاُنْتَيْنِ لَمَّا اَشْتَمَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْتَيْنِ نَبِثُوْنِي بِعِلْمِي كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ ۝ ۳۳ ۝ وَمِنَ الْاِبِلِ اُنْتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اُنْتَيْنِ كُلُّ اُنْتَيْنِ حَرَّمَ اِمَّ

الْاُنْتَيْنِ اَمَّا اَشْتَمَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْتَيْنِ اَمَّ كُنْتُمْ شَهْدًا وَاذَوْصَكُمْ اللّٰهُ

يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ۳۴ ۝ قَالُوْا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

اِنَّا لَمَبْعُوْتُوْنَ ۝ ۳۵ ۝ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا

اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ ۳۶ ۝ قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ۳۷ ۝

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ ۳۸ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ ۳۹ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ ۴۰ ۝ قُلْ مَنْ سَبَّحَ

لِلّٰهِ مَا قُلْنَا تَسْحَرُوْنَ ۝ ۴۱ ۝ بَلْ اٰتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ ۴۲ ۝

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حٰجَرَ اِبْرٰهِيْمَ فِى سَبَآءٍ اَنْ اَنْتَهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اِنِّى

اَجْعَلُكَ نَبِيًّا وَاَنْتَ اَنْتَ اَلْحَقُّ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ

اِسْمًا مِّمَّنْ اَسْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ ۴۳ ۝

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ جَاءَكَ اِسْرَافِيْلُ فَاَنْتَ اَنْتَ اَلْحَقُّ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

اَنْ تَجْعَلَ لِيْ اِسْمًا مِّمَّنْ اَسْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ ۴۴ ۝

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ جَاءَكَ اِسْرَافِيْلُ فَاَنْتَ اَنْتَ اَلْحَقُّ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

اَنْ تَجْعَلَ لِيْ اِسْمًا مِّمَّنْ اَسْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ ۴۵ ۝

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ جَاءَكَ اِسْرَافِيْلُ فَاَنْتَ اَنْتَ اَلْحَقُّ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

اَنْ تَجْعَلَ لِيْ اِسْمًا مِّمَّنْ اَسْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ ۴۶ ۝

Marfat.com

فَأْتِ بِمِثَالِ الْمَغْرِبِ فَبِئْسَ الَّذِي كَفَرَهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسکو مغرب سے نکالے تو عین اس پروردگار کا فریبکا بگاہو کر رہ گیا اللہ ہندی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

موعظ القرآن

۱- عبرت امر سابقہ کے مارت ۱۳۸ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

روگوں (۱) تم سے پہلے دستور پڑچکے ہیں تو تم ملک میں سیر کرو اور دیکھو کہ جملہ نے والوں کا انجام کیسا (بڑا) ہوا۔

المُكذِبِينَ ۝ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

یہ لوگوں کے لئے بیان ہے اور متقیوں کے لئے ہدایت اور نصیحت

۴ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ

ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشان بھی آتی ہے اسی کی طرف سے وہ موہید پھرتے ہیں سو جبکہ

كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

وہ تو حق کو جب ان کے پاس آیا جھٹلا چکے اب منقریب ہی ان کے پاس اس بات کی خبریں آئیں گی جس کی وہ ہنسی اڑا کرتے تھے

۶ الْمُرِيرُوا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَكُنْ

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بقیوں کو کہاں کہاں ہم نے انہیں ملک میں وہ مروج دیا تھا جو وہیں نہیں دیا

لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا آلِهَتَهُمُ آيَاتٍ لِيُحْشَرُوا فَاهْلَكْنَاهُمْ

اور ہم نے ان پر آسمان کی دھاریں بھیج دی تھیں اور ان کے (محلوں کے) نیچے ہم نے نہریں جاری کر رکھی تھیں پھر ہم نے

بِنُورٍ لَّهُمْ وَأَنْتَ أَتَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ ۝

انہیں ان کے ستاروں کی سناری میں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگ پیدا کر دیئے۔

۱۰ ۱۱ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحِيًّا بِرِسَالِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِّنِّينَ مَخْرُوعًا مِنْهُمْ مَا كَانُوا

اور (اے نبی) بے شک تجھ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا تھا تو جو لوگ ان میں ٹھٹھا کرتے تھے ان کو اسی عذاب

بِئْسَ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

نے آگیا جس کی وجہ سے وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔

۱۱ ۱۲ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ۝

(اے نبی) کہہ دے کہ تم ملک میں سیر کرو پھر غور کر دو کہ جملہ نے والوں کا انجام کیسا (بڑا) ہوا۔

۱۳ ۱۴ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝

اور (اے نبی) بے شک ہم نے تجھ سے پہلے امتوں کی طرف بھی بھیجے پھر ہم نے انہیں محتاج اور نکلیںوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ ہمارے

۴۴ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

پس جب ہمارا عذاب ان پر آیا وہ کیوں نہ گرد گرائے۔ بلکہ ان کے دل زا اور سخت ہو گئے اور جوڑ بیٹے،
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۴۴ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
کام کیا کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کی نظریں ابھار دیکھا با پس جب وہ اس نصیحت کو قبول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو
حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۝ ۴۵ فَقَطَّعَ
ہم نے ان پر ہر آرام کی چیز کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس نعمت سے جو انہیں دی گئی تھی خوش ہو

دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۴۵
کئے تو چاکہ انہیں ہم نے (غضب میں) اور ہر چیز کو توڑا ہی دینا امید تھی جو ان لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے جو کات دی گئی اور سب تریف

۴۵ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝ ۴۶ فَمَا كَانَ
اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلک کر مارا ان پر رات کو سوتے وقت ہمارا عذاب آیا یا اس وقت جب وہ درپہر کو سو رہے تھے سو

دَعُوهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝
دعوتی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلک کر مارا ان پر رات کو سوتے وقت ہمارا عذاب آیا یا اس وقت جب وہ درپہر کو سو رہے تھے سو

۴۶ جَبَّ أُنُوفَهُمْ إِذْ جَاءَهُمُ الْعَذَابُ لَأَيُّهَا اس وقت ان کا قول بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اسی کے باشندوں کو محتاجی اور مرض میں مبتلا کیا تاکہ وہ (ہمارے آگے) گرا آئیں پھر

يَقْتَرِعُونَ ۝ ۴۷ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا
ہم نے تکلیف کی جگہ کو آرام سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ کثیر ہو گئے اور کہنے لگے کہ تکلیف اور آرام تو ہمارے پہلے باپ دادوں

۴۷ فَدُوسُوا أَيْمَانُنَا فَتَرَءُوا النَّسَاءَ وَالضَّرَّاءَ فَاخْتَدْتُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۴۸ وَ
کوبھی بیچا تھا تب تا کہاں ہم نے انہیں (غضب میں) پکڑ لیا اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
آتے اور (اللہ سے) ڈرتے تو ہم ضرور ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی لیکن

۴۸ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ۴۹ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ
انہوں نے (دین حق کو) جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی بڑی کمائی کی سزایں پکڑ لیا۔ کیا بستیوں والے اس سے نڈر ہو گئے ہیں

۴۹ إِنَّ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ ۵۰ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
کہ ہمارا عذاب ان پر رات کو جب وہ چڑھے سو رہے ہوں آنا نل ہو۔ یا بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ہمارا

۵۰ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَحْسَبُونَ ۝ ۵۱ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
غضب ان پر پھر دن چڑھے جب وہ کھیل رہے ہوں آنا نل ہو کیا وہ اٹھکی تدبیر سے نڈر ہو گئے ہیں سب اللہ کی تدبیر سے نڈر

الْخٰسِرُونَ ۝ ۵۲ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو گھانا اٹھائیں لوگے ہیں کیا ان لوگوں کو جو زمین کے (پہلے) باشندوں کے بعد ان کے وارث ہو گئے ہیں اس

۵۲ وَهِيَ رَاكِبٌ يُدْرِكُهُمْ فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ مَعَهُ يُخَيِّلُهُمُ بَاطِلًا ذُو بَأْسٍ شَدِيدٍ لِّمَنْ خَشِيَ وَعَدَ لَهُمْ لَأَخْتَبُنَّ عَنْ يَمِينِهِمْ
اور وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو گھانا اٹھائیں لوگے ہیں کیا ان لوگوں کو جو زمین کے (پہلے) باشندوں کے بعد ان کے وارث ہو گئے ہیں اس

۵۳ وَهِيَ رَاكِبٌ يُدْرِكُهُمْ فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ مَعَهُ يُخَيِّلُهُمُ بَاطِلًا ذُو بَأْسٍ شَدِيدٍ لِّمَنْ خَشِيَ وَعَدَ لَهُمْ لَأَخْتَبُنَّ عَنْ يَمِينِهِمْ
اور وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو گھانا اٹھائیں لوگے ہیں کیا ان لوگوں کو جو زمین کے (پہلے) باشندوں کے بعد ان کے وارث ہو گئے ہیں اس

Marfat.com

اصْبَدْنَاهُمْ يَدْنُوهُمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ سَبَّحْتَ تِلْكَ الْقُرْآنَ

بات سے باریت نہیں ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے کان ہوں (کی سزا) میں بکرا لیں (کہ نبی) ہم ان کے دلوں پر ڈھیر
نَقَسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
دیتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں۔ (اے نبی) یہ بستیوں میں ہم ان کی خبریں تجھ سے بیان کرتے ہیں اور بے شک ان کے پیڑان کے
بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِ
پاس کھلی نہیں لیکر انے تو وہ ایسے کہاں تھے جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے ہوں اللہ کافروں کے دلوں
هُمْ مِنْ عَمَلٍهَا وَإِنْ وَجَدْنَا نَاكَ كَثْرَهُمْ لَفَسِقِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْضِهِمْ
ہم ہر نگاہ دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر کیلئے ہمدرد قیام نہ پایا۔ اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو بھاری پایا۔
مُوسَىٰ بِأَيَّتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا هَآءِهِ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے لوگوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان (نشانوں)
الْمُفْسِدِينَ ۝

کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا تو (اے نبی) دیکھ کہ ان مفسدوں کا کیا بڑا انجام ہوا۔

۱۱۱ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہیں اپنے پہلو پر (یا) بائیں یا کھڑا (یا) حالت میں) پکارتا ہے پھر جب ہم اس
ضُرُّهُ مَرَّكَانٌ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِمْ أَذْكَرَ لِكُزُومِ الْمَسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
سے اس کی تکلیف دُور کر دیتے ہیں تو وہ دایا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے ہم کو کسی کسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی بلا ہی نہیں تھا۔
۱۱۲ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ بِالْبَيِّنَاتِ
اُسی طرح سے باہر نکل جانے والوں کی نظروں وہ کام اچھے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے قوموں
وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ لِيُجْزِيَ الْقَوْمَ الْمَجْرِمِينَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلْفَهُ
کے لوگوں کو مہیا نہیں نہ کیا بلکہ کر دیا اور ان کے پیڑان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے اور وہ ویسے نتھے کہ بیان لے آئے ہی
فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

۱۱۳ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
۱۱۳ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
۱۱۳ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ

تو (اے نبی) دیکھ کہ ان ڈر کے ہوؤں کا کیا (بڑا) انجام ہوا

۱۱۴ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَفُحُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمًا وَحَصِيدًا ۝ وَمَا

(اے نبی) بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں بعض ان میں سے موجود ہیں اور بعض اُجڑ گئیں اور ہم نے ان
ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا سو ان کے وہ مہبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتا کرتے تھے جب تیرے ہمدردگار

لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ

کے تسمیٰ اور جہیز کی تفصیل اور ایماندار لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

۱۱۳ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَقْبَلَهُمُ اللَّهُ بِنْيَانِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی دباؤ سمیلا تھا اور اللہ کا عذاب ان کی غارتوں پر ان کی بنیادوں کی طرف سے آسودہ ہوا اور رحمتوں

۱۱۴ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

کے اوپر سے گر پڑی اور ان سے ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں کی انہیں خبر بھی نہ تھی

۱۱۵ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ فَكُنْ مِنَ الَّذِينَ

کیا یہ لوگ اس بات کے سوا کچھ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس (عذاب کے) فرشتے آئیں یا تیرے ہمدردوں کا حکم (عذاب) آجائے اسی طرح

۱۱۶ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ان لوگوں نے کیا عذابوں سے پہلے برے ہیں اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے سوچو

۱۱۷ سَيِّئَاتٍ مَعْمَلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَمِرُونَ

کامیاب کیا کرتے تھے ان کی برائیاں ان پر آسودہ ہوئیں اور ان کو اسی (عذاب) نے گھیرا جس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے

۱۱۸ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ

اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور گمراہی کرنے والوں (جہنم) سے بچو اور ہوس

۱۱۹ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت کی اور کوئی ان میں سے وہ ہوا جس پر گمراہی آکر چھٹ گئی تو تم ملک کی سیر کرو پھر

۱۲۰ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا (بڑا) ہوا۔

۱۲۱ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ

اور اللہ نے ایک گاؤں کی کہادت بیان (کی)۔ وہ ہر طرح سے امن و المینان میں تھا۔ ہر طرف سے کھرتے سے اس کے پاس

۱۲۲ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا

اس کی روزی آتی تھی اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تب اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا اور ان

۱۲۳ يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ

بڑے اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور بے شک ان کے پاس ان ہی میں سے ایک رسول آیا اور انہوں نے

۱۲۴ وَهُمْ ظَالِمُونَ

اُسے سمجھا یا سو عذاب نے انہیں پکڑ لیا اور وہ لوگ ظالم تھے۔

۱۲۵ وَإِذْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْغُرُوبَ وَأَنبَأَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم امارت میں اور بڑھلتے ہیں پھر وہ اس امارت میں

الْقُرْلَ قَدْ مَرُّنَهَا تَدْمِيرًا ۝ ۱۴ ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝

نا فرمائی کرتے ہیں تو (غذاب کی) بات اُس بستی پر ثابت ہو جاتی ہے اور اُس وقت ہم اُسکو تباہ کر ڈالتے ہیں اور ہم نے لوح کے بعد
وَكْفَىٰ بِرَبِّكَ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

کتی ہی امتوں کو ہلک کر دیا اور تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے (اور) دیکھنے والا

۱۴ ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

اور اسی بستی (بیتیان جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی سزا میں ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔

۱۴ ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا (اسے نبی) کیا تو ان میں سے کسی کو یا تلبے یا ان کی کوئی بھینسناہٹ سنتا ہے

۱۴ ۝ أَفَلَمْ يَجِدْ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں کی کہ ہم نے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں بے شک اس

لَايَةٍ لِّأُولِي النَّبِيِّ ۝ ۱۵ ۝ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامِ

میں بعض مندوں کے لئے نشانیاں ہیں اور (اسے نبی) اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے صادر نہ ہو سکتی

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝

ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور انہیں غذاب آچھٹتا۔

۱۵ ۝ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ۖ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

اور اسی بستی (بیتیان) جو ظالم تھیں ہم نے توڑ بھوڑ ڈالیں اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ سو جب

۱۵ ۝ فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝ ۱۶ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا

ان لوگوں نے ہمارے غذاب کی آہٹ پائی تو وہ اُس بستی سے بھاگنے لگے (ہم نے کہا) کہ بھاگو نہیں اور اسی عیش و

اللِّ مَا أَنْزَلْنَا فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْئَلُونَ ۝ ۱۷ ۝ قَالُوا لِيُؤْتِنَا إِنَّا كُنَّا

ہرام کی طرف جس میں تم تھے اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹو شاید تم سے کچھ پوچھ کی جائے۔ انہوں نے کہا ہاں ہمارے شامت

ظَلِيمِينَ ۝ ۱۸ ۝ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۝

بے شک ہم ظالم تھے سو برا بر ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی (کیتی) کھیتی ہوئی (راگ) بنا دیا

۱۷ ۝ وَإِنْ يَكُذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝ ۱۹ ۝ وَقَوْمٌ

اور اسی بستی (نبی) اگر وہ تجھے جھٹلا لیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد و ثمود نے بھی (اپنے پیغمبروں کو) جھٹلایا تھا۔ اور

۱۹ ۝ أِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ ۝ ۲۰ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلْنَا لِلْكَافِرِينَ

ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی۔ اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے تھے تو اول میں نے ان کافروں کو مہلت دی

ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝ ۲۱ ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

پھر میں نے انہیں کچھ توڑ دیکھا کہ یہی غذاب کیسا سخت تھا۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کے سبب ہلاک کر دیا۔

۲۱ ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

پھر میں نے انہیں کچھ توڑ دیکھا کہ یہی غذاب کیسا سخت تھا۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کے سبب ہلاک کر دیا۔

عَمِلُوا الْعَاهَمَ يَرْجِعُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

سزا کا مزہ چکھئے جو انہوں نے کی ہے تاکہ وہ راہِ راست کی طرف لوٹ آئیں (اسے نبی) کہہ دے کہ ملک کی سیر کرو اور دیکھو کہ جو لوگ پہلے
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ۝

ہو گئے تھے ہیں ان کا انجام کیسا (بڑا) بُرا۔ ان میں اکثر لوگ مشرک تھے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا مِنْ

پورے نبی) بے شک ہم نے تم سے پہلے ہی پیغمبران کی قوموں کی طرف بھیجے وہ پیغمبران کے پاس کھائی الیس لے کر آئے سو ہم
الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

نے ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کیا تھا ہر لیکر چھوڑا اور مسلمانوں کو مدد دینا ہم پر ضروری تھا
أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ

کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ہوتی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے گھروں میں وہ چلتے پھرتے
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

ہیں بے شک اس میں نشانیوں ہیں تو کیا تم سنتے نہیں۔

ثُمَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

پھر لوگ کافر ہوئے تھے میں نے انہیں (عذاب میں) پکڑ لیا تو وہ کیسے (میرا عذاب) کیسا بُرا۔
أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا

کیا انہوں نے ملک کی سیر نہیں کی جو دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا (بڑا) بُرا، جو ان سے پہلے تھے وہ حالت میں
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

ان سے زیادہ تھے اور اشد ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اُسے کوئی چیز عاجز کر دے بیشک وہ جانتے والا

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

تقدیرت والا ہے۔

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ جو ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَقْلَامِ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ۝

اور بے شک ان سے پہلے اگلے لوگوں میں سے بیت سے گمراہ ہو گئے تھے اور بیشک ہم نے ان میں ڈرائیو لے بھیجے تھے
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَرِّينَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

تو اسے نبی) دیکھ کر ان ڈرائیو ہونے کا کیسا (بڑا) انجام ہوا مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے بچے تھے۔
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَأَذَاتُ

انہوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گئے تھے ہیں تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں کی انہیں خبر بھی نہ تھی تو اللہ

هُمُ اللَّهُ يُخْزِيهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

۵
نے نہیں کیا کہ زندگی ہی میں ذلت کا مزہ بکھایا اور کچھ فکد نہیں کہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے کاش وہ اس بات کو جانتے
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَكُمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

ان سے پہلے نوح کی قوم تھا اور ان کے بعد دوسری قوموں نے جھٹلایا اور ہر امت نے اپنے رسول کیساتھ ہی ارادہ کیا کہ وہ من
لِيَأْخُذُوا بِهِ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَلْيَأْخُذْهُمْ كَيْفَ كَانَتْ عِقَابُهُ

۶
کو نیک کریں اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ وہ اس سے حق کو دھاریں تو میں نے انہیں (عذاب میں پکڑا تو دیکھا کہ) میرا عذاب
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ

تو کیا انہوں نے ملک کی سیر نہیں کی جو دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان سے پہلے ہو گئے ہیں۔ وہ طاقت
كَانُوا لَهُمْ أَشَدَّ مِنْ قُوَّةٍ وَأَنَا فِي الْأَرْضِ فَآخِذٌ بِهِمْ اللَّهُ بَدِئُ نُوَيْبِهِمْ وَمَا

اور زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑنے میں ان میں زیادہ تھے سو اللہ نے ان کے گناہوں (کی سزا میں انہیں پکڑ لیا اور کوئی
كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝ بَلِيبٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ اس لئے کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے۔ اس پر بھی انہوں
فَكَفَرُوا فَآخِذْهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

نے کفر کیا تب اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا ہے حکم وہ زبردست ہے سخت عذاب والا

۷
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا

تو کیا انہوں نے ملک کی سیر نہیں کی جو دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان سے پہلے ہو گئے ہیں۔ وہ طاقت
أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَنَا فِي الْأَرْضِ فَآخِذٌ بِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

اور زمین میں نشانیاں چھوڑنے میں ان سے زیادہ اور سخت تر تھے سو جو (بڑے) کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آتے
بَلِيبٌ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ

سوجب ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس علم پر جو ان کے پاس تھا خوش ہوئے اور انہیں اسی (عذاب)
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ بَلِيبٌ فَلَمَّا سَأَلُوا أَهْلَ الْأَرْضِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ

نے اٹھیا جس کی وہ ہنسی اڑا کرتے تھے پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہر طرف اکیلے اللہ پر ایمان
كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝ بَلِيبٌ فَلَمَّا يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

لائے ہیں اور انہیں ہم نہیں مانتے ہم اسکا شریک کیا کرتے تھے سو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا لیا تو اس وقت کا ان کا
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۝ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ۝

ایمان لانا انہیں نفع نہیں دے سکتا تھا یہ اللہ کی عادت ہے جو اسکے بندوں میں پہلے گزر چکی ہے اور اس موقع پر کافر گھلے میں ہے
فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَنْ مِثْلُ الْأَقْرَبِينَ ۝

۸
سو ہم نے ان کو ہلک کر دیا جو پکڑا تھا میں ان سے زیادہ سخت تھے اور پہلوں کی مثال گندہ چکی ہے۔

۲۳۷ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قَبْلِ بَرَاءِ إِلَّا قَالُوا مَنزُورٌ هَذَا نَسَاءُ

اور (اسے نبی) اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے جو دارا بنوا بھی کسی بستی میں بھیجا اس کے دو لٹمنوں نے اس سے یہی کہا کہ ہم نے
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ۝ قَالُوا لَوْ جِئْتُمْكُمْ
اپنے باپ دادوں کو ایک طریق پر پایا ہے اور بے شک ہم تو انہیں کے نقش قدم پر پیروی کرنے والے ہیں رسول نے کہا اگرچہ میں
يَاهُدَىٰ وَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝
اس سے بڑھ کر ہدایت لیکر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ انہوں نے کہا جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اسے
۲۳۸ فَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ مَاقِبَةُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

مانتے نہیں سو ہم نے ان سے بدلے لیا تو (اسے نبی) دیکھ کہ ان جھٹلانے والوں کا کیسا رجزا، انجام ہوا۔

۲۳۹ أَهْلُمْ خَيْرًا مِّنْ قَوْمٍ تَبِعُوا قَوْمَهُمْ فَأَهْلِكْنَاهُمْ أَتَمَّ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

بھلا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پیلے ہو گئے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے شک وہ گنہگار تھے

۲۴۰ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور کچھ شک نہیں کہ ہم نے وہ بستیاں جو تمہارے ارد گرد تھیں ہلاک کر دیں اور ہم نے (اپنی) آیتوں کو طرح طرح سے بار بار بیان کیا تاکہ

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ

وہ (اشک) طرف رجوع کریں سو ان کو انہوں نے کیوں مدد نہ دی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کیلئے معبود پکڑا

وَذَلِكَ أَفْكَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

تھا بلکہ وہ (معبود) تو ان سے کھوئے گئے اور یہ ان کا مجبوت ہے اور جو کچھ وہ انفراد کیا کرتے تھے۔

۲۴۱ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ

تو کیا انہوں نے ملک کی سیر نہیں کی جو دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا (بڑا) ہوا جو ان سے پہلے ہو گئے ہیں اللہ نے ان

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۝

پر ہلاکت ڈالی اور کافروں کے لئے ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔

۲۴۲ وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ

اور (اسے نبی) کتنی ہی بستیاں ہیں جو طاقت میں تیری اس بستی سے جس نے تجھے (وطن) نکالا بڑھی ہوئی تھیں ہم نے

فَلَا نَصْرَ لَهُمْ ۝

انہیں ہلاک کر دیا سو کوئی ان کا مددگار نہیں ہے

۲۴۳ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ

ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنوئیں والوں اور قوم ثمود نے جھٹلایا تھا اور (نیز قوم) عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں

وَأَخْوَانُ لُوطٍ ۝ بِلِقَاءِ رَبِّكَ الْمُبْتَكِرِ وَقَوْمٌ تَبِعُوا مِثْلَ بَلِّغُوا الرُّسُلَ فَرِحَ وَعِيدُ

اور بن والوں اور تبع کی قوم نے (ان) سب نے ہی پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ثابت ہو گیا۔

۳۶ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِمَّنْ قَرَّبَنَ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلِيمًا

اور میں سے پہلے ہم نے کتنی ہی اُنہوں کو ہلاک کر دیا جو پکارا دھکڑا میں ان سے زیادہ سخت تھے انہوں نے تلم شہر میں کوجمان ملا کر ایسا

۳۷ فَحَبِصْنَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْبَابٌ فَهُمْ يَنْصَتُونَ

نہیں جاننے کی جگہ ہے شک اس میں اس شخص کے لئے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے یا اس نے دل سے حاضر ہو کر اس کی

۵۱ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَ عَمَّكُمْ فَهَلْ مِنْ مَشَدِّكِرٍ

اور یہ شک ہم نے تم سے پہلے تمہارے ہم فریبوں کو ہلاک کر دیا پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟

۵۹ فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

پس اسے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔

۶۳ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں ہے کہ تم سے پہلے کفر کیا تھا انہوں نے اپنے کئے کا وبال کھیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے؟

۶۴ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ كَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا ابْشُرُوا الْإِنْسَانَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ

اس لئے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کی دلیلیں لیکر آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آدمی ہیں اور دکھائیں گے؟ پھر انہوں نے

تَوَلَّوْا وَاسْتَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ

کفر کیا اور تمہیں پھر لیا اور اظہار نے بے پروائی کی اور اللہ ہے پروردگار ہے تعریف کیا گیا

۶۵ وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ عَسَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا

اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم اور اس کے پیغمبروں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سختی کی ساتھ

وَعَذَابُنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا

سزا بلیا اور ہم نے انہیں بڑی طرح کا عذاب دیا سو اس نے اپنے کئے کا وبال کھیا اور ان کے کام کا خیر انجام گمانا

۶۶ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

ہی تھا اظہار نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اسے عقلمندو اللہ سے ڈرو۔

۱۸ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

اور یہ شک ان لوگوں نے جی بٹھلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گئے ہیں تو (دیکھا کہ) میرا انکار کیا (بڑا) تھا۔

۲۲ أَلَمْ تُهْلِكِ الْوَالِدِينَ ۚ ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۚ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ

کیا ہم نے پیلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر پھیلوں کو ہم رہلاکت میں ان کے پیچھے نکاتے ہیں گنہگاروں

بِالْبُحْرَيْنِ ۚ

کے ساتھ ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں

۲۹ فَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْتَلِفُ

سوا اظہار نے اسکو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا ہے شک اس میں اس کے لئے عبرت ہے جو ڈرے

زہد کی ترغیب

۱۹۵ لَا يَغْرَبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا أُوتِمْتُمْ بِهِمْ ۝ جَهَنَّمَ كَوْمِيسَ الْإِمَّادُ ۝

۱۔ متاع دنیا قلیل ہے

۱۹۶ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ

۱۹۷ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۝ لَا تظلمون فتيلًا ۝

۲۔ متاع دنیا ناپائدار ہے

۱۹۸ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَزِينَتُهُمْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ ۝ وَأَلْبَقَىٰ ۝ فَلَا تَعْقِلُونَ ۝ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا فِيهِ كَمَنْ مَتَعْنَاهُ

۱۹۹ وَمَا هِيَ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۝ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

۲۰۰ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

۳۔ متاع دنیا زامہ کا ہے

۲۰۱ كَلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۝ وَاتِّمَاءُ تَوْفُونَ ۝ اجوركم يوم القيمة فمن بر شخص موت کو چھیننے والا ہے اور قیامت کے دن تمہارے اجر نہیں پورے پورے دئے جائیں گے سو جو شخص آگ سے ڈرے

بے شک دنیا کی زندگی بے شک

جاننے ہوتے۔

۱۳۰ **مَنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْبِيرِهِمْ فَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝**

مَنْ پریسی طرح غلاب آجائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو یا وہ انہیں اُن کو چلتا پھرتا پکڑ لے سو وہ تو اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں
۱۳۱ **أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخْوَفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّوۤفٌ رَّحِيمٌ ۝**

یا انہیں ڈراوا دیتے وقت ہی پکڑ لے سو بے شک تمہارا پروردگار شفیق مہربان ہے

۱۳۲ **أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُ وَالْكُفَّ**

سو کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں جنگل کی کسی طرف میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسائے پھر تم اپنے لئے کوئی
وکیل لاؤ ۱۳۳ **أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا**

کار ساز بھی نہ پاؤ یا تم اس بات کی طرف سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں پھر وہ بارہا اسی دریا میں لوٹائے جنے اور تمہارے کفر
مِنَ الرِّيبِ فَيُفْرَقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالْكُفَّ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝

کی منزل میں تم پر کشتی توڑ دینے والی ایک ہوا بھیج کر تمہیں فرق کر دے پھر تم اس بارہ میں اپنے لئے کوئی ہمارا پیجا کر لیا لانا پاؤ
۱۳۴ **أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ۝ أَمْ**

کیا تم اس کی طرف سے جو آسمان میں ہے اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر ناگہاں وہ زمین جنبش
أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نُنزِلُ

کرنے لگے یا تم اس کی طرف سے جو آسمان میں ہے اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسائے یہ عنقریب ہی تم معلوم کر لگے
۱۳۵ **وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝**

کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور جو ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا تو (دیکھا بھی کہ) میرا عذاب کیسا ہوا۔

۱۳۶ **قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۱۳۷ مَنْ يُصِرْ فَعَسَىٰ**

(اے نبی) کہہ دے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو شخص اس دن
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝

اس سے دور نہ رکھا گیا تو بے شک اس نے اس پر (بڑا ہی) رحم کیا اور یہی کھلی کامیابی ہے

۱۳۸ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بَشْيَءٍ مِّنَ الصَّبْرِ تَنَالَهُ آيِدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ**

مسلمانو! اللہ کسی قدر تمہارے ساتھ ضرور تمہارا امتحان لیا جس تک تمہارے اور نیز پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے سو جو کوئی اس کے بعد بھی حد سے باہر نکل گیا اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔
وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الِّذِي وَاتَّقُوا اللَّهَ يَهْدِكُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ نَسْمَعُ وَأَطَعْنَا

اور (مسلمانو!) اپنے اوپر اللہ کا انعام اور اس کا وہ عہد جو وہ پختہ طور پر تم سے لے چکے ہے یاد کرو۔ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا
أَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

اور مانتا۔ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سینوں کی (چھپی) باتوں کو جانتا ہے

۱۳۶۔ فدا کی نافرمانی باعث عذاب

۱۳۷۔ فدا کی نعمتوں اور عہد کو یاد کرو۔

۵ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا النِّعْمَةَ الَّتِيْ عَلِيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ

مسلمانو! اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب کہ کچھ لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں اور اس نے تمہاری ایدیہم فکفت ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ○
وہ نے ان کے ہاتھ روک دیئے تھے اور اللہ سے ڈرو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

۶ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللہَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ

مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ○

تا کہ تم نفع پاؤ

۷ وَلَا تَسُبُّوْا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوْا اللّٰهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ

اور مسلمانو! یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں انہیں بڑا نہ کہو کہ وہ زیادتی میں آکر بے علم سے اللہ کو بڑا کہنے لگیں گے یہی زینار کل امتہ تمہارے تمہاری سر بہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون ○
لہا ہنہ ہواست کہ ان کے من مانے کرکھئے ہیں پھر انہیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لٹ کرانا ہے سو وہ انہیں جتاویگا چہل وہ

۸ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلَى الْكَلِمَةِ سَوٰءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ لَا نَعْبُدِ اِلَّا اللّٰهَ

اے نبی! کہہ دے کہ اے اہل کتاب! اس بات کی طرف آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر (مانی جاتی) ہے کہ ہم سوائے اللہ
وَلَا نَشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَخِذْ بِعُضُنَا بَعْضًا اَسْرٰۤا بٰۤا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ
کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں اور اللہ کے سوا ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ پکریں
تَوَلَّوْا قَوْلُوْا الشُّهَدٰۤا وَاٰتٰۤا مَسْلِمُوْنَ ○

پہنچا کرو (اس بات سے) سو نہ بھیجیں تو یہ مسلمانو! تمہارے کہو کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں

۹ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتٰلِفًا فِیْ دِيْنِهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَخْتَلِفُوْنَ وِیۡۤا مَرُوْنَ

بے شک اللہ کسی ایسے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے دین میں اختلافی خور ہے وہ جو خود بخود کرتے اور لوگوں کو بخود کی ہدایت
النَّاسَ بِالْجَحْلِ وَيَكْفُرُوْنَ مَا اٰتٰہُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا

کرتے ہیں اور جو مال، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسکو چھپاتے ہیں۔ اور ہم نے کافروں کے لئے ذلت
مُحْبِبِيْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ سِرًّاۤا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا

کا عذاب نیا رکھا ہے اور وہ جو اپنے لوگوں کے دکھ دے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر
بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۗ وَمَا ذٰۤا عَلِيْہِم

ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بڑا ہی ساتھی ہے اور ان کا کیا بگاڑ ہو جاتا ہے۔ اگر
لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَكَانَ اِلَيْہِمُ عِلْمًا

وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اس مال میں سے (راہ خدا میں) خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا

۶- تقویٰ اور رجوع الی اللہ

۷- بت پرستوں کو بڑا کہہ کر خدا کو بڑا نہ کہلاؤ

۸- اہل کتاب کو توحید کی طرف بلانا۔

۹- بخل نگہ نہ رکھو اور پھیلو

بِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ
تَعَارُفِ أَهْلِ الدِّانِ كَرَامًا ۝ بے شک اللہ زور و بھر بھی ظالم نہیں کرتا۔ اور اگر وہ (عمل) نیکی کا ہوتا ہے تو وہ اسکو دو چند
لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ اے نبی! کیا تم نے اپنے پاس سے بڑا بیماری ثواب دیتا ہے تو اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ
عَلَى هُوَ لَا يَشْهَدُ ۝ اے نبی! یومئذ یؤذون الذین کفروا وعصوا الرسولَ لو
لینہیں گے اور وہ نبی تمہیں ان لوگوں پر گواہ نہیں گے اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ جاہیں گے
تَسْوَى بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكْفُرُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

کہ کاش ان کے ساتھ زمین ہموار کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
سلمانو! یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی نہیں
وَمَنْ يَتَّخِذْهُم مِّنكُمْ فَاتَهُ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۱۔ یہود و نصاریٰ اور وہ
کی ہنسی اڑانے والوں سے
محبت نہ رکھو۔

اپنا دوست بنانے کا تو کچھ شک نہیں کہ وہ ان ہی میں سے ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
سلمانو! جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب ہی اللہ ایسے لوگ لا سوجو دکرے گا جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اور وہ اس سے محبت رکھتے ہوں گے مسلمانوں کے حق میں نرم دل اور کافروں پر سخت وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے
اللَّهِ لَا يَجَانُونَ لَوْمَةً لَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَن يُطَهِّرَهُمُ بِاللَّهِ وَأَسْرِعَ
اور کسی عداوت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے یہ فضل دے اور اللہ گنجائش
عَلِيمٌ ۝ اے ایمان والو! لیکن اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوٰۃ
والاجاننے والا ہے تمہارا دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ ایماندار ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْعَوْنِ ۝ وَمَنْ يُتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
اور وہ رکوع کرتے ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست رکھے گا تو کچھ شک نہیں کہ جو اللہ
آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
کا گروہ ہے وہی غالب آئے گا مسلمانو! ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل بنا رکھا ہے
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب من قبلکم و الکفار
یہ لوگ ان میں سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب (تورات) دی گئی ہے اور کفار کو بھی (اپنا دوست نہ بناؤ) اور اگر تم ایماندار
أَوْلِيَاءَ طَاهِرِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُتْمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

رہو تو اللہ سے ڈرو۔

خلقت و فطرت انسانی از روئے قرآن

۱- کہیں انسان کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا

۱/ هل اتی علی الانسان حیث من الذہر لم یکن شیئاً مذکوراً

۲- انسان کی اسلٹھی سے

۲/ ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون

۳- اور بے شک ہم نے انسان کو گھٹکن سے پیدا کیا جو سٹری ہوئی کچھڑ سے بنی تھی

۳/ واذ قال رب بلعہ للملکة انی خالین بشر ان من صلصال من حمأ مسنون

۴- جب تیرے ہمراہ گارنے زشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی سٹری ہوئی کچھڑ سے غمیر کی ہوئی گھٹکن سے پیدا کرنے

۴/ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین

۵- اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا۔

۵/ الذی احسن کل شیء خلقه وابدأ خلق الانسان من طین

۶- وہ (خدا) جس نے ہر چیز کو جو اس نے پیدا کیا اچھا بنایا اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔

۶/ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجاً

۷- اور خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد نطفے سے پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا

۷/ انما خلقنہم من طین لازب

۸- بے شک ہم نے انہیں لیس مار مٹی سے پیدا کیا۔

۸/ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقۃ ثم یخرجکم

۹- وہ (خدا) وہ ہے جس نے (اول تمہیں مٹی سے پھر اس کے بعد نطفے (اور پھر اسکے بعد جے ہوئے خون سے پیدا کیا پھر تمہیں

۹/ خلق الانسان من صلصال کالغائر

۱۰- انسان کو ٹھیکے کی طرح بچنے والی مٹی سے پیدا کیا

۱۰/ خلق الانسان من نطفة نازا هو خصیم مبین

۱۱- انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو (پیدا ہوتے ہی) وہ کھلم کھلا بھگڑنے والا بن گیا۔

۱۱/ ثم جعلنہ نطفة فی فراہم مکین

۱۲- پھر ہم نے اسے نطفے سے بنا کر ایک منسوبہ جلد میں رکھا پھر ہم نے نطفے کو جما پڑا خون بنایا پھر ہم نے جے ہوئے

۱۲/ ثم جعلنہ نطفة فخلقنا النطفة علقۃ فخلقنا

۱۳- علقۃ مضعۃ فخلقنا المضعۃ عظاما فکسونا العظام لحمات ثم اثنانہ

۱۳- خون کو گوشت کا لہٹڑا بنایا پھر ہم نے گوشت کے لہٹڑے کو ہڈیاں بنایا پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اس کو

۱۴- علقۃ مضعۃ فخلقنا المضعۃ عظاما فکسونا العظام لحمات ثم اثنانہ

۱۴- علقۃ مضعۃ فخلقنا المضعۃ عظاما فکسونا العظام لحمات ثم اثنانہ

خَلَقْنَا آخِرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ○

۳۳ ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهْيَبِينَ ○ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

پھر ہم نے اس کو ایک اہم پیدائش میں پیدا کیا سو رکعت والا ہے اللہ جو بہتر پیدا کرنے والا ہے
پھر اس نادم کی نسل کو ذلیل پانی (یعنی منی) کے غلام سے پیدا کیا
پھر اس کو ٹھیک کیا اور اپنی روح اس میں

شُرُوْحِهِ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○

پہونک دی اور تمہارے کان اور آنکھ اور دل پیدا کئے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

۳۴ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا

اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر (اس کے بعد) نطفے سے پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا

۳۵ أَوْلَادٍ لِلرِّجَالِ لِكُلِّ ذَكَرٍ مِمَّا يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ○

کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ نوراً ہی وہ کھلا جگر والو بن گیا

۳۶ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

وہ (نطفہ) وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر (اس کے بعد) نطفے سے پھر (اس کے بعد) علقے سے پھر وہ تمہیں بچے

طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّهُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوا شِيُوْخًا

بنا کر (وہم سے) نکالتا ہے پھر (وہ تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ پھر تمہیں گھٹاتا ہے) تاکہ تم بڑھے ہو جاؤ۔

۳۷ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ○

(وہ جو کہتے ہیں) ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو وہ بھی جانتے ہیں

۳۸ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُطْفَةٌ مِنْ مَنِيِّ بَيْمَتِي ○ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ○

کیا وہ مٹی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو پکایا جاتا تھا پھر وہ جما ہوا خون ہو گیا پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا

۳۹ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَلٍ مُبْتَلِيَةٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

بیشک ہم نے انسان کو مرد و عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں سو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا

۴۰ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهْيَبِينَ ○ ۴۱ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ○ ۴۲ إِلَىٰ قَدَرٍ

کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس (ذلیل پانی) کو ایک محفوظ قرار گاہ میں رکھا ایک مقررہ وقت

مَعْلُومٍ ۴۳ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ○

بیک پھر ہم نے اندازہ ٹھہرایا سو ہم کیا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں

۴۴ مِنْ آيِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ ○ ۴۵ مِنْ نُطْفَةٍ ○

اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے مفسر، نطفے سے

۴۶ قَلْبُظْرٍ الْإِنْسَانَ مِمَّا خَلَقَ ○ ۴۷ خَلَقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ○ ۴۸ يُخْرِجُكُمْ مِنْ

انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ کوڑنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو کمر اور سینے کی

بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

پڑوں کے درمیان ہے نکلتا ہے۔

۴۸ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ۝
اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور تم کو کان اور آنکھیں
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۱- انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں

اور دل دینے۔ تاکہ تم شکر گزار بنو۔

۴۹ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَحْمِلَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۝
وہ تم کو خوب جانتا ہے جب تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بیٹھے تھے تو اپنی پاکیزگی نہ جانتا یا کرو
فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝

۲- انسان کی پیدائش زمین اور صیروں میں

ہر چیز کو وہی خوب جانتا ہے۔

۵۰ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ۝
وہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی جان سے اسکا جوا بنا یا اور تمہارے لئے مویشیوں کے گٹھے جوڑے انکار سے وہ
ثَلَاثًا زَوْجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فَرِيضًا مِّنْ ثَلَاثٍ ۝

۳- انسان کی ساخت سب سے خوبصورت

۵۱ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ سَدَدْنَا لَهُ آسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
بے شک ہم نے انسان کو زیبا ترین ساخت میں پیدا کیا پھر اسے نیچوں کے بھی نیچے پہنچا دیا۔ لیکن جو ایمان لائے
۵۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ أَجْرُهُمْ أَعْلَىٰ ۝

۴- انسان خون کی پھینکی سے پیدا ہوا۔

اور نیک مل کئے ان کے لئے ہے اہل اجر ہے۔

۵۳ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ رَكِبُوا ۝ رَكِبُوا ۝ رَكِبُوا ۝
اُس نے آدمی کو خون کی پھینکی سے بنایا
۵۴ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

۵- انسان کو خدا نے نیکی دہی کی تمیز دی ہے۔

بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے۔

۵۵ وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ ۝
اور لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت پہنکی کہ ان چیزیں اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے معافی مانگیں روکنے والی نہیں
تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ نُبُلًا ۝

۶- انسان کو خدا نے نیکی دہی کی تمیز دی ہے۔

ہے مگر (وہ) دہا ہتے ہیں اگر ان پر بھی پہلوں کا دستور جاری ہو۔ یا ان کے رو برو عذاب آسجود ہو۔

۵۶ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝
ہے شک ہم نے اُسے (نیکی دہی کا) رستہ دکھلا دیا۔ اب وہ یا تو شکر گزار ہے اور یا ناشکرا

۷- انسان کو خدا نے نیکی دہی کی تمیز دی ہے۔

وَهَدَيْنَاهُ الْجَدِينَ ۝

اور ہم نے اسکو نیک اور بدی کی دونوں طرف دکھادیں

قَالَهُمَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا ۝

سواضد نے اسکی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی

كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ سَبِيلِهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا

اسی طرح ہم نے ہر امت کو ان کے عمل (ان کی نظریں) اچھے کر دکھائے ہیں پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر

يَعْمَلُونَ ۝

جائیں گے سو وہ انہیں جوارے کا جوہہ کرتے تھے

فَتَقَطَّعُوا أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلًّا حَبِيبًا ۝ فَنذَرَهُمْ

پھر انہوں نے اپنے درمیان اپنے دین کو لٹا کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر فرقہ اسی (دین سے) خوش ہے جو ان کے پاس ہے

فِي عُمْرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

تو (اے نبی) تو انہیں ایک مدت تک ان کی غفلت میں پڑا رہنے دے

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا بِجَبْنٍ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کر دہ (ریٹا) اور بیٹھا اور کھڑا (ہر حالت میں) پکارتا ہے پھر جب ہم

ضُرُّهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ مَسَّةً كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا

اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے ہمیں کبھی کسی تکلیف کے وقت جوئے

يَعْمَلُونَ ۝

پہنچی تھی بلایا ہی نہیں تھا اسی طرح حد سے باہر نکل جانے والوں کو ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں اچھے دکھائے گئے ہیں

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرِّهِمْ إِذَا هُمْ مَكْرُوفِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَاقِلُونَ

اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم رحمت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو میں ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کرنے

اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا وَإِنَّا لَنَاقِلُونَ مَا تَكْتُمُونَ ۝

گتے ہیں تو ان سے کہہ دے کہ اللہ کی کارسازی زیادہ چلتی ہوئی ہے ہمارے نشتے تمہاری سب کارسازیاں لگتے جاتے

وَلَكِنَّا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ لِيُوَسِّفَهُ لِكُفْرِهِ ۝ وَلَكِن

اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کی لذت چکھائیں پھر اس کو اس سے محین لیں تو وہ نا امید ہو جائے والا ناشکر ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف

أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرِّهِ مَسَّةً لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

پہنچے اور اس کے بعد ہم اس کو اسی کی لذت چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں کیونکہ وہ بہت ہی جلد

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

خوش ہو جائیں والا اور بخشنے والا ہے مگر جو لوگ مبرا در نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے ہیں ان کے لئے ہی بخشش اور بڑا اجر ہے۔

۱۰۔ ہر قوم اپنے ہی اعمال کو اچھا جانتی ہے

۱۱۔ انسان کی ہمت و ہری اور ناشکری

۳۳ وَاَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَسْأَلٍ مُتَوَدِّعُونَ وَإِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّكُمْ

اور جو کچھ تم نے مانگا تم کو دیا اور اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو پورا پورا گن نہ سکو کچھ شک نہیں کہ انسان
الْإِنْسَانَ لظَلُومًا كَفَّارًا

بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکر ہے۔

۳۴ وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاؤَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

اور آدمی جس طرح اپنے حق میں اپنی برائی کی دعا مانگتا ہے اسی طرح برائی کی بھی دعا مانگنے لگتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے

۳۵ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُكُمْ فَلَمَّا بَلَغْتُمْ آلَ الْبَرِّ

اور جب سمندر میں تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے تھے سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں مگر وہی ایک یاد رہتا ہے
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

پھر جب وہ تم کو خشکی پر نکال دیتا ہے تو تم اس سے پھر بیٹھتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے

۳۶ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا

اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ (رف سے) سونہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو ہٹا لیتا ہے اور جب اسے تکلیف

۳۷ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَجْوَاهُ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ

پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ میں پکارتا ہے پھر جب ہم اسے تکلیف کو ہٹا کر اسے نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے
حَلٰى عَالِمٌ بَلِّغِي فِتْنَةٍ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

کہ یہ تو مجھے میرے علم کے سب سے لے کر کوئی نہیں بلکہ وہ تو آزمائش ہے لیکن کُن میں سے اکثر اس بات کو نہیں مانتے

۳۸ لَا يَتَّبِعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاؤِ الْخَيْرِ وَإِن تَسَّه الشَّرُّ يَيْبَسُ فَيُؤَسِّقُهُمْ وَيُلِينُ أَدْبَارَهُ

بھلائی مانتے سے انسان تمکلتا نہیں اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے اور اگر تم اسے اس

۳۹ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرِّهِ مَسَّه لِيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى وَمَا أَطْرُقُ السَّاعَةَ قَائِمَةً

تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ منور رہے گی کہ یہ نعمت تو میرے ہی لئے ہے اور

۴۰ وَلَئِنْ شَرِحْتُمْ إِلَى سَرِيحِ إِنْ لِي عِنْدَهُ لِحُسْنِي فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا

مجھے یقین نہیں کہ تم نیاست قائم ہو اور اگر میں اپنے پروردگار کی رحمت لانا یا ہی گیا تو کچھ شک نہیں کہ اس کے پاس بھی

۴۱ وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى

بھلائی ہی بھلائی ہے سو ہم کافروں کو ضرور ان کے اعمال سے انہیں سخت عذاب (کا مزہ) چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر انعام

۴۲ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودَعَاؤِهِ عَرِيضًا

کرتے ہیں تو وہ ہمدردی سے اپنا سونہ پھیر لیتا ہے اور پہلو ہٹا لیتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی

۴۳ وَإِنَّا إِذْ فَكَّرْنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمْنَا قَرِحًا هَهُنَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَمَّا قَدَّ مَتَّ

اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت (کا مزہ) چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں ان اعمال کی سزا سے

تو وہ منور رہے گی کہ یہ نعمت تو میرے ہی لئے ہے اور

أَيُّ يَوْمٍ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورًا ۝

جان کے ہاتھوں نے اُسے بھیجے ہیں کوئی معیت آپکے تو (اُس وقت) انسان بے شک ناشکرا ہے

۱۵ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا مِمَّنْ لَكُفُورًا مِّمَّنْ ۝

اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا جز ٹھہرایا بیشک انسان کھلا ناشکرا ہے

۱۶ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

بے شک انسان بے مہربان پیدا کیا گیا ہے۔ جب اُسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب اُس کے ہاتھ

مَنُوعًا ۝

گم جاتا ہے تو کجوس بن جاتا ہے۔

۱۷ قِيلَ الْإِنْسَانَ مَا كَفَّرَهُ ۝ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ

انسان قارت ہو وہ کیا بڑا ناشکر ہے اُسے کس چیز سے پیدا کیا ہے (مض) نطفے سے اللہ نے اُسے پیدا

فَقَدَّ سَرَّهُ ۝ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِيرُهُ ۝ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ بِيَدِنَا ثُمَّ إِذَا

کیا پھر اُس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اُس کے لئے (نیکی بدی کی) راہ آسان کر دی پھر اُسے موت دی پھر اُسے قبر

شَاءَ أَنْشُرَهُ ۝ بِيَدِنَا كَلَّا لَمَّا يُفْضِ مَا أَمَرَهُ ۝

دی پھر جب وہ چاہے گا اُسے اٹھا کر اُکھے گا۔ واقعی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اُس کو حکم دیا وہ اُسکو بجا نہ لایا

۱۸ فَمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ سَرَّحْنِي الْكُرْمَانَ

لیکن انسان کوجب اُس کا پروردگار آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ اس کا اکرام کرتا ہے اور اُس کو نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے

۱۹ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّ سَرَّ عَلَيْهِ سَرَاقًا فَيَقُولُ سَرَّحْنِي أَهَانًا ۝ كَلَّا بَلْ

کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی دیکھیں جب اُس کا پروردگار اُسے آزماتا ہے اور اُس پر اُس کی روزی تنگ کرتا ہے تو وہ

۲۰ لَا تُشْكِرُونَ الْبَيْتِيمِ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ

کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ (ایسا) ہرگز نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تم تمہیں کی عزت نہیں کرتے اور محتاج کے کھانا

الزُّرَّاتِ أَكَلًا لَّمَّا ۝ وَتَحْبِثُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

کھلانے پر ایک دوسرے کو رغبت نہیں لاتے اور تم مُردوں کا مال ڈھوک ڈھوک کر کھاتے ہو اور مال سے بڑی محبت رکھتے ہو

۲۱ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَالْوَالِدُ وَالْوَالِدُ

میں اس شہر رکھتے، کی قسم کھاتا ہوں اور (اے نبی) اس کی قسم (اس لئے کہ) تو اس شہر میں ہوتا ہے اور باپ (آدم) اور اُس

۲۲ لَمَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ أَيْحَسِبُ أَنْ نَنْزِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝

کی اولاد کی قسم کھاتا ہوں بے شک ہم نے انسان کو معیت میں پیدا کیا ہے کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں

۲۳ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمِيرَةً أَحَدٌ ۝ أَلَمْ

رکھتا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اُس کو بچا کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا کیا ہم

نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ ۶۱ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ ۶۲ ۝ وَهَدَيْنَاهُ الْجَدِينَ ۝

نے اسکو دو آنکھیں نہیں دیں! اور ایک زبان اور دو لب نہیں دیئے اور ہم نے اس کی (شکل اور بدیہی) دونوں راہیں دکھائی
۶۱ ۝ فَلَا اتَّخَذُ الْعُقَبَةَ ۝ ۶۲ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ ۝ ۶۳ ۝ فَذَكَرْنَا قَبْلَهُ ۝

سورہ (بہر حق) وہ گھاٹی میں سے ہو کر نکلا اور تو کیا سبھا کھالی کیا ہے گردن کا (غصی یا تہ سے) آزاد
۶۳ ۝ أَوْ اطْعَمْنَا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ ۶۴ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ ۶۵ ۝ أَوْ مَسْكِينًا
کرنا ہے یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے : رشتہ دار یتیم کو یا سنی میں
ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

ٹے ہوئے محتاج کو

۶۶ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ ۶۷ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۝

بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکر ہے بے شک وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔

۶۸ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ وَإِنَّ سَاءُ لِمَنْ يَكْفُرُ بِلَايَتِي فَلَا تَسْتَعْتَلُونَ ۝

انسان جلدی کا (بند) بنایا گیا ہے ہم فقیر تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتے ہیں تو تم جلدی نہ کرو۔

۶۹ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝

بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے

۷۰ ۝ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدًّا ۝

اور شیطان (وقت پر) انسان کو تھپوڑ کر اگ ہو جاتا ہے

۷۱ ۝ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکارتے ہیں پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت
رَحْمَةً إِذَا فَرَّجْنَا لَهُمْ فَكْرًا ۝ ۷۲ ۝ يَتَّبِعُهُمْ بَينَ يَدَيْهِمْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُورٍ مُّبِينٍ ۝

کی لذت کھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ پھر اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں

۷۳ ۝ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۝ وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ ۷۴ ۝ لِيُعَذِّبَ

اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھالیا بے شک وہ (اپنے حق میں) بڑا ہی ظالم بڑا ہی نادان تھا

اللَّهُ الْمُنِيفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

کہ اللہ منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کو سزا دے اور مومنین اور مومنات پر بھرا کرے اور
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۳۹ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ فَسَىٰ

اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارتا ہے پھر جب وہ اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت
ما كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ

عطا فرمادیتا ہے تو جس کے لئے اس نے پہلے خدا کو پکارتا تھا اس کو بھول جاتا اور خدا کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ (دوسروں
تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝

کو بھی) خدا کی راہ سے گمراہ رہے تو کہہ دے کہ چند روز تو اپنے کفر میں عیش کر لے آخر تو دوزخیوں میں ہی ہوگا

۴۰ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَرِيعًا ۝

۱۲۔ انسان کمزور پیدا ہوا ہے

اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

۴۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

۱۳۔ انسان بے سہر پیدا ہوا ہے

بے شک انسان بے سہر پیدا کیا گیا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔

۴۲ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

۱۴۔ انسان جلد باز ہے

اور انسان جلد باز ہے۔

۴۳ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۝

اور انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔

۴۴ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

۱۵۔ انسان جھگڑالو ہے

اور انسان بڑا جھگڑالو ہے۔

صفحہ ۳۶

۴۵ وَإِذَا أَذْنَابُ النَّاسِ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

اور جب ہم آدمیوں کو رحمت (کامزور) پکھچھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے اعمال کے بدلے

أَيُّدِيهِمْ إِذْ هُمْ يَقْنُطُونَ ۝

۱۶۔ مصیبت کے وقت
انسان ناامید ہو جاتا ہے

جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی دم وہ مایوس ہو جاتے ہیں

۴۶ لَا يَسْتَمِعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوْسُقُنُوطًا ۝

انسان نیکی مانگنے سے نہیں سمجھتا اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناامید ہے اس ہو جاتا ہے۔

۴۷ قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۝

اے نبی! کہنے کو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُوطًا ۝

تم ان کو بند کر رکھتے انسان بڑا ہی تنگ دل ہے

۴۸ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

اور تم مال سے سخت محبت رکھتے ہو۔

۱۸ وَإِنَّهُ لَحَبِيبٌ لِّخَيْرٍ لِّشَدِيدِ يَدِهِ ۝

اور بے شک وہ مال کی محبت میں سخت (بھینسا ہوا) ہے

۱۹ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۝ ۱۸ ۝ ۱۹ ۝ ۲۰ ۝ ۲۱ ۝ ۲۲ ۝ ۲۳ ۝ ۲۴ ۝ ۲۵ ۝ ۲۶ ۝ ۲۷ ۝ ۲۸ ۝ ۲۹ ۝ ۳۰ ۝ ۳۱ ۝ ۳۲ ۝ ۳۳ ۝ ۳۴ ۝ ۳۵ ۝ ۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝ ۴۸ ۝ ۴۹ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ ۝ ۵۲ ۝ ۵۳ ۝ ۵۴ ۝ ۵۵ ۝ ۵۶ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝

۱۸- انسان مالدار ہو کر کھڑے کرتا ہے۔

۱۹- ایمان نہیں تو انسان گماتے میں ہے

۲۰ ہرگز یوں نہیں ہے بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے۔

۲۱ وَالْعَصْرِ ۝ ۲۰ ۝ ۲۱ ۝ ۲۲ ۝ ۲۳ ۝ ۲۴ ۝ ۲۵ ۝ ۲۶ ۝ ۲۷ ۝ ۲۸ ۝ ۲۹ ۝ ۳۰ ۝ ۳۱ ۝ ۳۲ ۝ ۳۳ ۝ ۳۴ ۝ ۳۵ ۝ ۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝ ۴۸ ۝ ۴۹ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ ۝ ۵۲ ۝ ۵۳ ۝ ۵۴ ۝ ۵۵ ۝ ۵۶ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝

۲۲ تمہارے صبر کی بے شک انسان گماتے میں ہے مگر وہ رگ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک

الصَّلٰحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے

قرآن کے متعلق کافروں کے اقوال

۱- كَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ هٰذَا الْاٰیٰتِ اَفَلَا يَفْقَهُوْنَ ۝ ۱۸ ۝ ۱۹ ۝ ۲۰ ۝ ۲۱ ۝ ۲۲ ۝ ۲۳ ۝ ۲۴ ۝ ۲۵ ۝ ۲۶ ۝ ۲۷ ۝ ۲۸ ۝ ۲۹ ۝ ۳۰ ۝ ۳۱ ۝ ۳۲ ۝ ۳۳ ۝ ۳۴ ۝ ۳۵ ۝ ۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝ ۴۸ ۝ ۴۹ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ ۝ ۵۲ ۝ ۵۳ ۝ ۵۴ ۝ ۵۵ ۝ ۵۶ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝

۱- کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس شخص نے دوسروں کی مدد سے بنا لیا ہے

۲- فَتَقَدَّرَ جَاءُ وَظَلَمًا وَزُورًا ۝

بنائے، پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے سو بے شک وہ ظلم اور جھوٹی بات لائے ہیں

۳- وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تَقُولُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھی ہیں سو وہی اس پر صبح اور شام پڑھی جاتی ہیں

۴- اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُمْ مِنْ قَبْلِ

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے (کوئی نہیں) بلکہ وہ تو تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ

تُنذِرُ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

تو ان لوگوں کو ڈرانے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید وہ ہدایت پر آجائیں

۵- وَاِذَا تَشَاوَرْتُمْ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا رَجُلٌ يَّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ

اور جب ان پر ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان

عَمَّا كَانَ يَّعْبُدُ اٰبَاؤَكُمْ وَّقَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اَنْفُكُ مُفْتَرِيْ وَّقَالَ الَّذِيْنَ

سبوروں سے روک دے تمہیں تمہارے باپ دادا پر چھتے چلے آئے ہیں کہ یہ (قرآن) تو ایک گھڑے ہوئے ہتھکنڈے کے سوا

كَفَرُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ ۱۸ ۝ ۱۹ ۝ ۲۰ ۝ ۲۱ ۝ ۲۲ ۝ ۲۳ ۝ ۲۴ ۝ ۲۵ ۝ ۲۶ ۝ ۲۷ ۝ ۲۸ ۝ ۲۹ ۝ ۳۰ ۝ ۳۱ ۝ ۳۲ ۝ ۳۳ ۝ ۳۴ ۝ ۳۵ ۝ ۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝ ۴۸ ۝ ۴۹ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ ۝ ۵۲ ۝ ۵۳ ۝ ۵۴ ۝ ۵۵ ۝ ۵۶ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝

اور کچھ بھی نہیں اور جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے حق کی نسبت جب وہ ان کے پاس آیا کہا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ اسْمُهَا وَمَا اسْرَسَلْنَا إِلَيْكُمْ قَبْلَكَ مِنْ كَذِبٍ ۝

یہی نہیں ہر حال ہے کہ ہم نے اس سے خود بنایا ہے (کوئی نہیں) بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔
۲۲ ۝ اَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنایا ہے (کوئی نہیں) بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔
۲۳ ۝ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ جُرْحِ غَوْنِمْ اَوْ اَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَجْحَرُونَ ۝

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنایا ہے (کوئی نہیں) بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔
۲۴ ۝ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝

یہ (قرآن) تو کچھ بھی نہیں مگر آدمی کا قول ہے۔
۲۵ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

اور جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے اس کی نسبت جب وہ ان کے پاس آیا کہا کہ یہ تو کلمہ جادو ہے۔ اور بس
۲۶ ۝ ذُرْنَاهُ وَمَنْ خَلَقْتُمْ وَجِدًّا ۝ ۲۷ ۝ وَجَعَلْتُمْ لَهُ مَا لَا تَمْدُودًا ۝ ۲۸ ۝

راے (نبی) مجھے اور اُسے چھوڑ جس کو اکیلا پیدا کیا اور اُس کو دور و راز تک پھیلا ہوا مال دیا۔ اور بیٹے
۲۹ ۝ بَيْنَ شُرُودًا ۝ ۳۰ ۝ وَهَدَيْتُمْ لَهُ نَمِيذًا ۝ ۳۱ ۝ ثُمَّ لِيَطْمَعَنَّ اَنْ اَزِيدَهُ

(بہر وقت) موجود بننے والے اور میں نے اس کا بڑا پھیلا ہوا پھیلا یا پھر وہ یہ طمع رکھتا ہے کہ میں اُسے اور
۳۲ ۝ كَلَّا اِنَّهٗ كَانَ لَا يَبْتَلِنَا عَنِيدًا ۝ ۳۳ ۝ سَا رَهِيْقَهُ صَعُوْدًا ۝ ۳۴ ۝ اِنَّهٗ فَكَّرَ

زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیتوں سے غافل رہتا تھا عنقریب میں اُس کو چڑھائی پر چڑھاؤں گا
۳۵ ۝ وَقَدَّرَ ۝ ۳۶ ۝ فَقَتِلْ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ۳۷ ۝ ثُمَّ قَتِلْ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ۳۸ ۝ ثُمَّ

اُس نے فکر کیا اور اندازہ لگا یا سو وہ قتل کیا جائے اُس نے کیسا (غلط) اندازہ لگا یا پھر وہ قتل کیا جائے اُس نے
۳۹ ۝ نَفَرَ ۝ ۴۰ ۝ ثُمَّ عَبَسَ وَكَبَرَ ۝ ۴۱ ۝ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝ ۴۲ ۝ فَقَالَ اِنْ

کیسا (غلط) اندازہ لگا یا پھر اُس نے دیکھا پھر تیری جڑ لائی اور ترش رو ہوا پھر بیٹھ پھیری اور گھمنہ کیا پھر کہا یہ تو
۴۳ ۝ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُوشِرُ ۝ ۴۴ ۝ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝ ۴۵ ۝ سَا صُلِيْبٌ سَفَرٌ

کچھ بھی نہیں مگر ایک ہمارا ہے جو تم سے جلا آتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں آدمی کا قول ہے میں اُسے دوزخ میں داخل کروں گا
۴۶ ۝ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ (اس کو) سُن کر سمجھ نہیں کرتے
۴۷ ۝ كَذٰلِكَ سَلَكْنَا فِيْ قُلُوْبِ الْجٰهِلِيْنَ ۝ ۴۸ ۝ اَلَيْسَ مِنْهُمْ اَلَيْسَ مِنْهُمْ ۝ ۴۹ ۝ حَتٰى يَرُوْا الْعٰزَابَ

اسی طرح ہم نے انکار و تکذیب کو انہیں گاروں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے وہ اُس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ
۵۰ ۝ الْاَلِيْمِ ۝ ۵۱ ۝ فَاِتٰتِيْمٌ بَعْتُهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ ۵۲ ۝ فَيَقُوْلُوْا هٰٓؤُلَآءِ

ناگ خواب نہ دیکھ لیں وہ ان پر اچانک آجائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو اس وقت وہ کہیں

۱۔ قرآن کو کافر جادو کہتے

۲۔ جب قرآن پڑھا جاتا تو کافر سمجھ نہ کرتے

۱۔ قرآن کو کافر جادو کہتے

مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝

کو دیتے ہیں جو حد سے باہر نکل گیا اور ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لایا اور جس تک عذابِ آخرت زیادہ سخت اور (ہمیشہ) باقی رہنے والا ہے
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَثًا ۝ لِلَّذِينَ خَلَدُوا فِيهَا
اور جو اس سے روگردانی کرے گا بے شک وہ قیامت کے دن (گناہوں کا) بوجھ اٹھائے گا وہ ہمیشہ اسی (گناہ)
وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۝

۹- قرآن سے اعراض کرنے
والے قیامت کو گناہوں کا
بوجھ اٹھائیں گے۔

میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے لئے بڑا بوجھ ہے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ لَكُمْ رَبُّكُمْ قَالَُوا اسَّاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ لِلَّذِينَ لَا يَجْمَلُونَ

اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نیاں تاکہ وہ قیامت کے
أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنَ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
دن اپنے (گناہوں کے) بوجھ اٹھائیں۔ اور ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں
الْأَسَاءُ مَا يَزُرُّونَ ۝

من لو کہ بڑا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُمْسِكُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو انہیں عذاب پکڑے گا اس لئے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے
وَمَا يَكْفُرُ بِهِمَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

اور اس کا انکار صرف بدکار ہی کرتے ہیں

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ

یہی جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی سند پر ہے اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس سے
مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۚ مِنْ
پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو (لوگوں کے لئے) امام اور رستہ ہے (سنا کر برابر ہو جائیگا) ایسی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور
الْأَحْزَابِ ۚ فَالَّذِينَ سَمِعُوا مَوْعِدَهُ ۚ فَلَا تَأْتِي فِي وَرَيْهِمْ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
جماعتوں میں سے جو اس کا انکار کریگا دعوہ کے مطابق اس کا ٹھکانا آگ ہے تو (اسے نبی) تو اس کی طرف سے شک میں
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

نہ ہو بے شک وہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔

۱۲۷ ۝ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۚ وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ

اور اسی طرح کی سزا ہم اس شخص کو دیتے ہیں جو حد سے باہر نکل گیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا اور بے شک
أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝

آخرت کا عذاب بڑا سخت اور (ہمیشہ) باقی رہنے والا ہے

۱۰- قرآن کا انکار بدکار
ہی کرتے ہیں
۱۱- قرآن زمانے والوں
کے لئے عذابِ نار

۱۶ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ہرنے کی کوشش کی وہی روزِ نبی ہیں

۱۷ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ تَرَجِزِ الْيَوْمِ

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ہرنے کی کوشش کی انہیں کے لئے سنتِ تسم کا دردناک عذاب ہے

۱۸ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

اور جو ہماری آیتوں کے ہرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی عذاب میں حاضر کئے جائیں گے

۱۹ بَلْ فَلَوْ بِهَمِّ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَابِدُونَ

بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لئے اُس کے علاوہ عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں یہاں تک

۲۰ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُزَفَّرِهِمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْبَرُونَ ۚ لَآ تَجْرُوا

کریب ہونے ان کے خوفِ حال بلکہ اس کو عذاب میں دھر پکڑا تو اسی دم وہ جلا اٹھے آج تم نہ جلاؤ بے شک تم (ہمارے مقابلے

۲۱ الْيَوْمِ أَنْتُمْ مِّنَا لَا تَنْصَرُونَ ۚ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تَنْشَأُ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ

میں کسی طرف سے بھی) مدد نہیں کئے جاؤ گے۔ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایلادیں پر (کفر کی طرف) اٹھ

۲۲ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ ۚ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْتَرُونَ

جاتے تھے گھنڈ کرتے ہوئے اُس کو ناساز جانتے ہوئے (اور) فضول بکواس کرتے ہوئے

۲۳ وَيَتَجَبَّبُهُمَا الْأَشْقَى ۚ الَّذِي يَصْلِي النَّارَ لِكَبْرِهٖ ۚ إِنَّهُ نَسُوهُ لَآ

اور اُس (نصیحت) سے وہ بدبخت دُور رہیگا جو بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ اُس میں

۲۴ يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

مرے ہی گا اور نہ (زندہ) ہی رہے گا۔

۲۵ إِذَا لَدَّتْكَ صِغْفُورُ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا

داگر تو قرآن سے اعراض کرتا تو، اُس رقت ہم تجھے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی ضرور دُہری دُہری مار کا مڑہ چکھاتے

۲۶ نَصِيْبًا

پھر تو ہمارے مقابلے میں کوئی اپنا مددگار بھی نہ پاتا

۲۷ وَلَا يَزِيدُ الْقٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

اور (قرآن) ظالموں کے لئے گھٹانا ہی بڑھاتا ہے۔

۲۸ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا

اور (اے نبی) بے شک جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر اترا ہے ان میں بہتوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھاتا ہے

۲۹ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ۚ وَإِنَّهُ لَكٰ حَسْبُهُ ۚ هٰكِيَ الْكٰفِرِيْنَ ۚ

اے بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں بعض جھٹلانے والے ہیں اور بے شک وہ کافروں کے لئے سوجبِ حسرت ہے

۱۲- قرآن سے انحراف کرنے سے زندگی میں اور مرنے کے بعد دُہرا عذاب

۱۳- قرآن سے ظالموں کو نقصان ہی پہنچتا ہے

۱۴- قرآن کافروں کا کفر اور بڑھاتا ہے

۱۵- قرآن کافروں کے لئے سوجبِ حسرت ہے

۱۹۸ ﴿۲۴﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝ ۱۹۹ ﴿۲۵﴾ فَفَرَّاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝

اور (اے نبی) ہاگرمس اس (قرآن) کو کسی بھی برائے نام سے پھروہ اس کو ان پر پڑھتا تو وہی (وہ اس پر ایمان نہ لاتے) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ دَعَاءَ عَجْمِيٍّ وَعَرَبِيٍّ ۝

اور اگر ہم اس کو بھی قرآن بنا دیتے تو وہ ضرور یہی کہتے کہ اس کی آیتیں کھول نہیں گئیں بھلا (قرآن) ہمیں اور (قوم) عربی! قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ ۝

(اے نبی) کہہ دے کہ وہ تو ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۝ اُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

کانوں میں گرانی ہے اور وہ ان پر اندھا ہے یہی لوگ ہیں جو دور کے ناصیے سے پکارے جلتے ہیں

آداب تلاوت قرآن

۹۸ ﴿۱﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پس جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے تو (پہلے) شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر

۹۹ ﴿۲﴾ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

(اے نبی) اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے (یہ قرآن) پڑھ

۱۰۰ ﴿۳﴾ وَتَرَانَا فَرْتَنَاهُ لِنُقْرَاهُ ۝ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

اور قرآن کو ہم نے پارد پارہ کر کے اتارا تاکہ تو اس کو لوگوں پر دفعہ دے دے کر پڑھے اور ہم نے اسکو ٹھہر ٹھہر کر اتارا

۱۰۱ ﴿۴﴾ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

یا اس پر زیادہ کر اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ

۱۰۲ ﴿۵﴾ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۝ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۝

پس بلند مرتبہ ہے بادشاہ برحق اور (اے نبی) قرآن (کے یاد کرنے) میں اس سے پہلے ہی کہ تیری طرف اس کی

۱۰۳ ﴿۶﴾ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

وہی حکم کی جائے جلدی نہ کر اور کہہ کہ اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے

۱۰۴ ﴿۷﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

۱۰۵ ﴿۸﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي

اور (اے نبی) جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں فضول بکواس کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کر یاں

۱۶- قرآن میں زبان میں نازل ہوتا سکتا ہے بھی نہ ملتا

۱- قرآن پڑھنا شروع کر دو تو پہلے شیطان سے خدا کی پناہ مانگو

۲- قرآن خدا کا نام لے کر پڑھنا چاہیے

۳- قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔

۴- جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموش ہو کر سنو

۵- جہاں قرآن کی آیتیں ہیں وہاں نہ بیٹھو

حَدِيثٌ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا ابْنُ سَيْئَانَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ

تک کہو اس کے سوا کسی اور بات میں کہو اس کرنے لگیں۔ اور یہ بات شیطان تجھ جلا دے تو یاد آنے کے بعد

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ان ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو

ہتھیار

۱۱۱ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ

(اے نبی) جو کچھ تیری طرف تیرے پروردگار کی جانب سے وحی کیا گیا ہے اس پر عمل اس کے سوا کوئی سبوت نہیں اور مشرکوں کی

۱۱۲ النِّصَاحَ ۚ بِرَّ كِتَابٍ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ

(اے نبی) ایک کتاب ہے جو تیری طرف اتاری گئی ہے تو اس سے تیرے دل میں کسی قسم کی تنگی پیدا نہ ہو تاکہ تو اس

۱۱۳ بِهِ وَذِكْرُكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ رَبِّكُمْ وَلَا

کے ذریعہ سے (لوگوں کو) ڈرانے اور ایسا نذرانوں کے لئے بشارت ہو اس پر چلو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے

۱۱۴ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ

تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور اس کے سوا کار سازوں کی پیروی نہ کرو تم بہت معمولی نصیحت پکڑتے ہو

۱۱۵ قُلْ إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ

(اے نبی) کہہ دے کہ میں تو بس اسی سے چلتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے

۱۱۶ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُضِّقَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۚ

اور (اے نبی) جو وحی تیری طرف کی جاتی ہے اس پر عمل اور اللہ کے فیصلہ کرنے تک مبرک راہ اور دو سبعا کون سے بہتر ہے

۱۱۷ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ

اور (اے نبی) جو وحی تیرے پروردگار کی طرف سے تیری طرف کی جاتی ہے اسی پر عمل۔ اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے

۱۱۸ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

اور (لوگو!) اس اچھی بات پر چلو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ آپ تک

۱۱۹ بَعَثْنَا ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

تم پر عذاب آجائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔

۱۲۰ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ

پس (اے نبی) جو وحی تیری طرف کی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے شک تو سید ہی راہ پر ہے

۱۲۱ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ

(اے نبی) اسی طرح ہم نے تجھے اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تو ان پر وہ (قرآن) پڑھے جو

۱۲۲ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

ہم نے تیری طرف بندوبست کی ہے اور وہ تو رحمن ہی کا انکار کرتے ہیں کہہ دے کہ وہ میرا پروردگار ہے۔

۲۔ قرآن کے اتباع کا حکم

۱۱۱۔ ۱۱۵

۱۱۶۔ ۱۲۰

۱۲۱۔ ۱۲۵

۱۲۶۔ ۱۳۰

۱۳۱۔ ۱۳۵

۱۳۶۔ ۱۴۰

۱۴۱۔ ۱۴۵

۱۴۶۔ ۱۵۰

۱۵۱۔ ۱۵۵

۱۔ تبلیغ قرآن کا حکم

تَوَكَّلْتُ وَاللَّيْلُ مَتَابٌ ۝

۳۳
اُس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے
وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
اور دے نبی (اگر ہم تجھے (تیری زندگی میں) بعض وہ عذاب جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں دکھلا دیں یا ان سے
الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

پہلے ہی (تجھے ماردیں (تو ایک ہی بات ہے) تیرا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور ہمارا ذمہ حساب لینا ہے۔

۳۴
فَأَصْدَقُ بِمَا نُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

۳۳
سو دے نبی (جس بات کا تجھے علم دیا جاتا ہے اُس کو ظاہر کر اور جاہلوں سے سو نہ پھیرے
وَإِنَّمَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
اور دے نبی (ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اسلئے اتاری ہے تاکہ تو لوگوں سے اُس بات کو بیان کر دے جو ان کی طرف اتاری گئی
۳۴
وَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ
اور دے نبی (ہم نے تجھ پر یہ کتاب محض اسلئے اتاری ہے تاکہ تو ان سے وہ باتیں بیان کر دے جن میں وہ اختلاف کر
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

رہے ہیں اور وہ ایسا نذر لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہو۔

۳۵
وَإِنَّمَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ سُرَّتُكَ لِكَلِمَةٍ وَلَنْ نَجِدَ مِنْ
اور دے نبی (تیرے پروردگار کی جو کتاب بندریہ وحی تیرے طرف بھیجی گئی ہے اُس کو پڑھنا سزاوارہ کوئی اس کی باتوں کا بدلے
دُونَهُ مُلْتَحِدًا ۝

والا نہیں ہے اور تو ہرگز اُس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا

۳۶
وَأَنْ أَنْتَلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أهُتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ
اور یہ کہ میں قرآن پڑھتا ہوں سو جو ہدایت پر آئے وہ اپنے ہی نفع کے لئے ہدایت پر آتا ہے اور جو کوئی
فَقَطُّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

گمراہ ہو تو کہہ دے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں اور بس

۳۷
وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُرْ إِلَىٰ سَرِّكَ
اور دے نبی (کہیں وہ تجھے اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ وہ تیری طرف اتاری گئی ہیں روک نہ دیں اور تو
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اپنے پروردگار کی طرف بلا اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہو

۳۸
أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
دے نبی (جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھنا سزاوارہ

۳۹

تورات

<p>دیکھو مقاصد نزول قرآن (عدو-۶)</p>	<p>۱- تورات کی تصدیق قرآن کے لیے کی</p>
<p>وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَإِنِّي لَأَتَّبِعُهُمُ الْغَيْبَ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْمُبِينَ ۝</p>	<p>۲- تورات واضح کتاب ہے</p>
<p>اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسانات کئے اور ان دونوں کو واضح کتاب دی</p>	<p>۳- تورات شہادت لہی ہے</p>
<p>وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ</p>	<p>۴- تورات حق ہے</p>
<p>اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جس کے پاس خدا کی طرف سے گواہی آئی ہو مگر وہ اسے چھپائے</p>	<p>۵- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ</p>	<p>۶- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>اس لئے ہے کہ اللہ نے کتاب (تورات) حق کے ساتھ اتاری</p>	<p>۷- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ</p>	<p>۸- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>(اے نبی) اس نے تجھ پر دین حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اس (کتاب) کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے (اُتری) ہے</p>	<p>۹- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>وَأَلَّا يُحِيزَ لَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ حِزْلًا مِّنْ قَبْلِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ</p>	<p>۱۰- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>اور اس نے اس سے پہلے تورات اتاری جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنا (قرآن) اتارا</p>	<p>۱۱- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>وَإِنِّي لَأَتَّبِعُهُمُ الْغَيْبَ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْمُبِينَ ۝</p>	<p>۱۲- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>اور میں نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو نبی اسرار کے لئے ہدایت (کا ذریعہ) ٹھہرایا اور یہ حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو</p>	<p>۱۳- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>مِن دُونِي وَكَيْلًا ۝</p>	<p>۱۴- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>اپنا کارساز بناؤ</p>	<p>۱۵- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّفَاتِهِ وَجَعَلْنَاهُ</p>	<p>۱۶- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو (اے نبی) تو اس کے ملنے میں شک نہ کر اور ہم نے اس کو نبی اسرار کے لئے ہدایت (کا ذریعہ) ٹھہرایا۔</p>	<p>۱۷- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۝</p>	<p>۱۸- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۝</p>	<p>۱۹- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>بے شک ہم نے تورات اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے</p>	<p>۲۰- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>فَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَىٰ الْعَصْبُ أَخَذْنَا لُلْحَمِيِّينَ وَفِي سَكَنَتِهَا هُدًى</p>	<p>۲۱- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>(اے نبی) چونکہ عصب وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے گئے تھے جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت ہے۔</p>	<p>۲۲- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَىٰ الْعَصْبُ أَخَذْنَا لُلْحَمِيِّينَ وَفِي سَكَنَتِهَا هُدًى</p>	<p>۲۳- تورات میں ہدایت ہے</p>
<p>اور جب موسیٰ کا عصب فرو ہوا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھایا اور ان میں جو لکھا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے</p>	<p>۲۴- تورات میں ہدایت ہے</p>

وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝

ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَوَضَعْنَا يَدَنَا عَلَيْهِ ۝

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب (دال کتاب) دی اور ہم نے نبی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا جو عقلمندوں کے لئے ہدایت

۝ وَوَضَعْنَا يَدَنَا عَلَيْهِ ۝

اور نصیحت ہے۔

۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

۸۔ تورات ہدایت اور ذکر ہے

۹۔ تورات امام و رحمت ہے

۱۰۔ تورت ہدایت اور رحمت والی مفصل کتاب ہے

۱۱۔ تورت بھیرت اور ہدایت و رحمت والی کتاب ہے

۱۲۔ تورت فرقان روشن اور نصیحت آموز ہے

۱۳۔ تورات میں خدا کا حکم ہے

۱۴۔ انبیاء اور اجار تورات ہی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔

اور اس (قرآن) سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو لوگوں کے لئے امام اور رحمت ہے

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس سے نیکو کاروں پر ہماری نعمت پوری ہوئی اور اس میں ہر بات کے لئے تفصیلی

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِمْ يَلْفَاقُ ۝

حکم ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین لائیں

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

اور پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لئے بھیرت افروز اور ہدایت اور

بَصَائِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝

رحمت تھی کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت آموز کتاب دی ان پر ہیزگاروں کے لئے جو بنبر

۝ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝

دیکھے اپنے پروردگار کا خوف مانتے ہیں اور تیا مت سے ڈرتے ہیں۔

وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ

اور (اے نبی) وہ تجھے کس طرح حاکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے پھر وہ اس

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

کے بعد بھی اس سے پھر ملتے ہیں اور وہ ایماندار نہیں ہیں

۝ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا

بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور ہے اسی کی مطابق پیغمبر جو خدا کے فرمانبردار تھے یہودیوں کو

لِّلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاءِ نِيَّوْنَ وَالْأَحْبَابِ ۝

حکم دیتے تھے اور اللہ والے اور عالم اس کی مطابق جو اللہ کی کتاب سے ان کو محفوظ رکھو یا گیا تھا

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي

اور وہ اس پر گواہ تھے تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تم کوڑی قیمت پر نہ بیجو۔ اور جس

ثَمَنًا قَابِلًا وَمَنْ لَمْ يَجِدْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

نے اس کی مطابق فیصد نہ کیا جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابِ لَكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الشَّرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا

کہے (نبی) کہ اے اہل کتاب جب تک تم قرآن اور انجیل کو اور دینز اس کو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے

أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ سَمَائِكُمْ وَلِيُزِيدَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

تم پر اتارا گیا ہے تا تم نہ کہو گے کہ کسی چیز پر بھی نہیں ہو اور (اے نبی) وہ (قرآن) جو تم پر تیرے پروردگار کی طرف

صَغِيًا نَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

سے اتارا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور زیادہ بڑھانے کا تو تو کافروں کا غم نہ کر

قُلْ فَأَنْتُمْ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کہے (نبی) کہ اے تمہارے پاس کی کوئی ایسی کتاب لا جو ہدایت میں ان دونوں (قرآن و تورات) سے بڑھ کر ہو میں

قُلْ فَإِنْ لَمْ يُسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ

اسی پر چلے گا اگر تمہارے ہوتو لاؤ۔ پھر اگر وہ تیری بات قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ منہ اپنی انسانی خواہشوں پر چلتے ہیں

أَتَّبِعَ هَوَاهُ بغير هدى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو جو نیراشدگی ہدایت کے اپنی خواہش پر چلے بیٹک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْعَلُوهُ

کہے (نبی) کہ اے اس کتاب کو کس نے اتارا جسے موسیٰ لائے تھے جو لوگوں کے لئے ہدایت اور نور ہے تم اسے پارہ

قُرْآنًا طَبِيسَ تَبْدُوْنَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۝

پارہ کرتے ہو کچھ اس میں سے ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپاتے ہو۔

قُلْ رَافِي أَنَا الشَّيْرُ الْمُبِينِ ۝ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝

اور (اے نبی) کہہ دے کہ میں تو کھول کر ڈرانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ فَوَسَّيْكَ لَنْسَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سو تیرے پروردگار ہی کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اس اعمال کی بابت جو وہ کرتے تھے

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۝

جن لوگوں پر تورات لادی گئی پھر وہ اس پر کار بند نہ ہوئے ان کی مثال کتابوں سے لدے ہوئے گدھے کی ہے۔

۱۵- تورات اور انجیل پر عمل
کئے بغیر ہدایت نصیب
نہیں ہو سکتی

۱۶- تورات اور قرآن سے
بڑھ کر کوئی کتاب ہدایت
دالی نہیں۔

۱۷- تورات کو یہودیوں نے
پارہ پارہ کر ڈالا

۱۸- تورات پر سکر عمل کرنے
والوں کی مثال کتابوں سے

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور انہوں نے بڑے برے عمل کرتے ہیں۔

۶۸ دیکھو عنوان مذکور بیان تورات (عدد-۱۸)

۱۵۴ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل (عدد-۶)

۲۹ دیکھو حالات اصحاب (عدد-۳)

۶- تورات و انجیل پر عمل کئے

بیر برایت فی سبب نہیں ہو سکتی

۷- تورت و انجیل میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر

۸- انجیل میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے اصحاب کی مثال

صفاتِ رسل

۱۱۹ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۝

۱- رسول آدمی ہی ہوتے ہیں

اور (سے) نبی ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے

۱۲۰ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوَنَا عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

کافروں نے کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں (ہمارے) ان مہبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا

اباؤں نے کہا تو تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں (ہمارے) ان مہبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا

پڑھتے تھے۔ تم نے کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں (ہمارے) ان مہبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا

۱۲۱ قَالَتْ لَهُمْ مَرْسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ

ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کرے اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ بغیر خدا کے حکم کے

۱۲۲ بِرُسُلِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں

۱۲۳ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ

اور (سے) نبی ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو

۱۲۴ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

جاننے والوں سے پوچھ لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ذریعے سے اور (سے) نبی ہم نے تم پر یہ نصیحت اتاری تاکہ

۱۲۵ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

تو لوگوں سے وہ باتیں بیان کر دے جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں اور تاکہ وہ سوچیں۔

تو لوگوں سے وہ باتیں بیان کر دے جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں اور تاکہ وہ سوچیں۔

۳۱ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّيَارِ كَمَا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور (اے نبی) تجھ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے وہ آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جتنے والوں سے پہچان لو
۳۲ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، وَمَا كَانَ

۲۔ رسول بیوی اور اولاد بھی رکھتے ہیں

۳۱ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا يَأْذُرُ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

کہ وہ بیزاری کے حکم کے کوئی نشانہ لے لے لے ہر ایک سیارہ کسی ہوئی ہے۔

۳۲ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

۳۔ رسول کھانا بھی کھاتے ہیں۔

اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے
۳۳ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ

اور (اے نبی) تجھ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب ہی کھانا کھا یا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرا کرتے
۳۴ فِي الْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، وَكَانَ رَبُّكَ

تھے اور ہم نے تم میں ایک کو ایک کے لئے ذریعہ آزمائش قرار دیا ہے۔ پھر کیا صبر کرو گے اور تیرا پروردگار
بَصِيرٌ

دیکھنے والا ہے۔

۳۵ يُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلِينَ

۴۔ رسول خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے

۳۶ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا

نبی کو اس بات میں کچھ مضائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لئے ٹھہرایا ہے یہ اللہ کا جاری کیا ہوا طریق ہے
۳۷ مِنْ قَبْلُ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

ان لوگوں میں جو پہلے ہو گزرے ہیں اور اللہ کا کام انہیں کے مطابق ٹھہرایا ہوا ہے ان لوگوں میں جو اللہ کے
اللَّهُ وَيَحْشُونَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے
۳۸ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُبَيِّنَ قَوْمِهِ لِبَيِّنَاتٍ هُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

۵۔ رسولوں کی تعلیم قومی زبان میں

اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی کی قوم کی بولی بولتا بھیجا تاکہ وہ (رسول) ان سے بیان کرے پھر اللہ جسے
۳۹ لِيَشَاءَ وَهِيَ مُخَيَّرَةٌ مِنْ أَشْيَاءِ الْعَالَمِينَ

چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے اور وہی غالب حکمت والا ہے

۴۰ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

۶۔ رسولوں کا ذمہ صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے

رسول کا ذمہ سوائے پیغام پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں۔

۳۹ قَهْلٌ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝

ترکیا رسولوں کا ذمہ سوائے کھول کر پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔

۴۰ ۱۷ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝

اور رسول کا ذمہ سوائے کھول کر پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں

۱۷ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝

اور ہمارا ذمہ سوائے کھول کر پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں

۴۱ ۲۱ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۝

۱۱ جب تئیں سب آدمی ایک ہی فریق تھے پھر اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور دین حق کیساتھ

۲۱ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفوا فِيهِ ۝

ان کیساتھ ہی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں بن میں انہوں نے اختلاف کیا

۴۲ ۲۲ رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ آيَاتِهِ ۝

۱۲ ہم نے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے تاکہ رسولوں کے (بھیننے کے) بعد لوگوں کو اللہ سے عذر

۲۲ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

کرنے کی گنجائش نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے

۴۳ ۲۳ وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۳ ہم رسولوں کو محض خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں اور بس

۲۳ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

بے شک ہم نے کئی دلیلوں کے ساتھ اپنے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ انصاف پر

۲۳ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ

تامل رہیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی اور لوگوں کے لئے فائدہ ہے ہیں اور یہ (اس لئے کیا) کہ اللہ جان

۲۳ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ قوت والا ہے غالب

۴۴ ۲۴ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝

۱۴ اللہ غیب کا جاننے والا ہے سوائے اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ مگر ہاں رسول کو جس سے وہ راضی ہو اس کو اس

۲۴ فَإِنَّكَ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا ۝

کے آگے اور اس کے پیچھے جو کچھ چلا جاتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دئے

۲۴ أَبْلغُوا رِسَالَتِي رُكُوعًا وَأَاقِطْ بِمَالِ الْيَوْمِ وَأَحْصِي كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو اس نے گھیر رکھا ہے اور ہر چیز کی تعداد کو شمار کر رکھا ہے۔

۱۔ رسولوں کا کام ڈرانا اور خوشخبری سنانا ہے

۲۔ رسولوں کے پاس نشانیں اور کتاب کا ہونا

۳۔ رسولوں پر اللہ کی طرف سے غیب کی باتوں کا انہماک

۱۰۔ رسول کو خدا کی مدد دینا اور آخرت میں

۱۴۱ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوْبًا يَفْقَهُوْنَ ۝

اور بے شک ہمارے پیچھے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا قول پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی مدد دیئے گئے ہیں اور بے شک جو ہمارا لشکر ہے وہی غالب آنے والا ہے۔

۱۴۲ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں اور دنیا میں دن گواہ کھڑے ہوں گے مدد کریں گے۔

۱۴۳ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُّوحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَّ عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمُ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ لِيَسْئَلُ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

اور (اے نبی وہ وقت یاد کر) جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا۔ اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کی بابت پوچھے۔ اور اُس نے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

۱۱۔ نبیوں سے عہد لینا

۱۲۔ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت

۲۵۳ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلِمَ اللّٰهِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا دی ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کی درجت اونچائی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور روح القدس کے درجے بلند کئے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی دلیلیں دیں اور روح پاک (جبریل) سے اس کی تائید کی

۲۵۴ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّْنَ عَلَى بَعْضٍ وَّاَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُوْرًا ۝

اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور دی

۱۳۔ نبیوں پر خدا کا انعام

۶۰ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اٰتٰنَا اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدِ الْوٰثِقِيْنَ ۝ وَالصّٰلِحِيْنَ ۝ نِيْلًا مِّنْ جَنَّتِ

۲۵۸ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ جَعَلْنَا

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے (یعنی آدم کی اولاد میں سے) نبی ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ نوح سے من ذریعہ ابراہیم و اسراہیل و ممتن ہدایتنا واجتبتنا اذا استأجنا

ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا اور ابراہیم اور اسراہیل (یعنی یوسف) کی اولاد میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت عظیم ایت الرحمن خروا سجدا و بکیتا ۝ کی اور انتخاب کیا جب ان پر رحمت کی آیتیں پڑھی جاتیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔

۳۳ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِثْرًا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي

اور جو ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اور جو (مال درشان دیکھو) ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اُس کے دسویں حصے

فَكَيفَ كَانَ نَكِيرٍ

کہہ نہیں سکتے تھے انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو (دیکھ کر) میرا عذاب کیسا ہے

۳۴ وَإِنْ يَكْفُرْ بِؤُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَاللَّهُ شَرِيحٌ لِمُؤْمِرٍ

اور (اے نبی) اگر وہ تجھے جھٹلائے تو تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ ہی طرف لوٹائے جائیں گے

۳۵ وَإِنْ يَكْفُرْ بِؤُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

اور (اے نبی) اگر وہ تجھے جھٹلائے تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس ان کے رسول

وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

کھلی دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے

۳۶ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ عَجُونٌ

اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گئے ہیں جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اسکی نسبت ایسی کہا کر جاو کر رہے

۳۷ أَوْ اتَّوَصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ

کیا یہ لوگ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں اے انہوں نے کوئی نہیں بلکہ وہ گمراہ لوگ ہیں

۳۸ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحِيًّا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا

اور (اے نبی) بے شک تجھ سے پہلے بھی رسولوں سے ٹھٹھکیا گیا تھا تو ان لوگوں کو جو ان میں سے ٹھٹھکارتے تھے

بِهِ يَسْتَمِرُّونَ

اسی عذاب نے آگہرا جس کی وہ ہنسی اڑا یا کرتے تھے

۳۹ يُحْسِرُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَمِرُّونَ

ہائے افسوس بندوں پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا ہے اسی کی وہ ہنسی اڑاتے ہیں

۴۰ وَكَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۚ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا

اور ہم نے انہوں میں کتنے ہی نبی بھیجے اور ان کے پاس جو نبی بھی آتا تھا اس کی وہ ہنسی

بِهِ يَسْتَمِرُّونَ

اڑاتے تھے

۴۱ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ

اور (اے نبی) تجھ سے پہلے جو رسول اور نبی بھیجیا اس کیساتھ بس ہی سائل پیش آیا کہ جس نے (خدا کا کلام) پڑھا تو شیطان

فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِفُ اللَّهُ مَا بَلَغِيَ الشَّيْطَانُ مِنْ نَجْوَى اللَّهِ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

نے اسکی نجات میں کچھ ملادیا۔ مگر جو کچھ شیطان اڑاتا ہے اسکو اللہ مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے اور اللہ جانتے والا

۱۸۔ ہر رسول کو مجنون اور جادوگر کہا گیا

۱۹۔ ہر رسول کے ساقف لوگوں نے ٹھٹھکیا۔

۲۰۔ رسول اور نبی کو شیطان دوسے میں ڈالتا ہے مگر خدا کن دوسو کن مٹا دیتا ہے اس سے مقصود امتحان ہے

اللہ اعلم بالصواب

حَكِيمٌ ۝ يَجْعَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

(اور یہ اس لئے ہے) تاکہ جو کچھ شیطان ڈالے اس کو اشدان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے
وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ
دل سخت ذریعہ آزمائش قرار دیتے اور بے شک ظالم ہرے درجے کے اختلافت میں ہیں اور (اس لئے ہے) تاکہ وہ
أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ
بہنیں علم دیا گیا ہے جان میں کہ وہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے
لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
لئے نرم پڑ جائیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اشد سیدھی راہ پر لگانے والا ہے۔

آنحضرت کی رسالت کے دلائل

وَإِنَّ الَّذِينَ آؤْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝

اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب (تورات) دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ (قبل ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّا لَفَرِيقًا مِّنْهُمْ
جنہیں ہم نے کتاب (تورات) دی ہے وہ اس (نبی) کو (ایسا ہی) پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور
لَيَكْفُرُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

بیشک ان میں سے ایک فریق والے جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُوا
اور جنہیں ہم نے کتاب (تورات) دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ (قرآن) تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ

مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ۝

نازل کیا گیا ہے تو (اے نبی) تو شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۝

اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے (اے نبی ان سے) کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان
وَمَنْ عِنْدَكَ عِلْمٌ الْكِتَابِ ۝

اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (تورات) کا علم ہے کافی گواہ ہے۔

۱۹۶
۲۶
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

کیا ان کے لئے یہ نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے عالم اس کو (برحق) جانتے ہیں

۱۹۴
۲۶
ابن کتاب آپ کا نبی برحق
ہونا جانتے تھے

۹۰ کَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ

۹۱ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

ہے ان کے پاس کھلی دلیلیں بھی آچکی ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

۹۲ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَتَد

۹۳ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالسُّورَةُ مَرْسَلَةٌ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

۹۴ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○

۹۵ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

۹۶ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالثِّبَانِ مِنْ بَعْدِهِ ○ وَأَوْحَيْنَا إِلَى

۹۷ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَإِيْيُوبَ

۹۸ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۹۹ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۰ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۱ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۲ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۳ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۴ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۵ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۶ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۷ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۸ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۰۹ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۱۰ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۱۱ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

۱۱۲ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

شہادت کی بیعت پر خدا کی شہادت۔

۱۱۳ آپ پر اسی طرح وحی ہوئی جس طرح دوسرے انبیاء پر ہوئی۔

۱۱۴ آپ کی اور دوسرے نبیوں کی تعلیم ایک تھی

۱۱۵ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ○

الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

اور بیت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کھلی کتاب آچکی ہے

يَهْدِي بِهَا اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ مِنْ ضَوْأِهَا سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

اللُّهُرِ (قرآن) کے ذریعے ان لوگوں پر جو اُس کی رضا پر چلتے ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں

التُّورِ بِأُذُنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر لگاتا ہے۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ۝ أَمْ

تو کیا انہوں نے اس بات میں سرے سے غور ہی نہیں کیا یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے

لَمْ يَعْزِبُوا عَنْ سَوْحِهِمْ قَوْمٌ لَهُمْ مَنَاسِكٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ

پاس نہیں آئی تھی انہوں نے اپنے (پاس) رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اُس کا انکار کر رہے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اُس کو جنون

هُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْثَرُ لَهُمْ لِيُحَقِّقَ كُرْهُونَ ۝ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

ہے (کوئی بات بھی نہیں) بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر حق ان کی

لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۝ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ

خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب تباہ ہو جائے بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی خیر خواہی

ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ سَرِيحًا خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ

لائے ہیں سو وہ اپنی خیر خواہی سے موہہ پھیرتے ہیں یا تو ان سے کچھ مال مانگتا ہے سو تیرے پروردگار کا (دیا) مال

الرِّزْقَيْنِ ۝ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

پہتر ہے اور وہی بہتر رُزقی دینے والا ہے اور (اے نبی) بے شک تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلا تا ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِمِثْيَاكٍ إِذْ أَلَمْتَ

اور (اے نبی) تو اس (قرآن کے نزول) سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اُس کو اپنے دہنے ہاتھ سے لکھتا تھا اگر ایسا

الْمُبْطِلُونَ ۝ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

ہوتا تو اس وقت بے شک ان مجبولوں کو شک کرنے کی گنجائش ہوتی بلکہ وہ تو کھلی آیتیں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے ان

وَمَا يَجِدُ إِلَّا إِلَهَ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ

کے سینوں میں (محفوظ) ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس (نبی) پر اُس کے

سَرِّبَهُ ۝ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَوَلَمْ

پروردگار کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں (اے نبی) کہہ دے کہ نشانیاں تو ہیں اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں

يَكْفُرُهُمْ إِنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ طَائِفَاتٌ فِي ذِكْرِكَ لِرَحْمَةٍ

تو صرف کھول کر ڈرانے والا ہوں اور میں کیا نہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑ ہی جاتی ہے

۱۶

۱۷

۱۸

۸۔ آپ کی رسالت میں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی

۹۔ آپ لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے۔

ذِكْرُكُمْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں رحمت اور نصیحت ہے

۵۲ ۝ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

اور (اسے) ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے روح اتاری تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ مانگا تھا کہ ایمان کیا ہے

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا هَدَىٰ بِهِ مَن نَّشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَمُدُّ عُنُقًا رَّالِي

لیکن ہم نے اس کو ایک نور ٹھہرایا اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں اور

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

تو بے شک (لوگوں کو) سیدھے رستے پر لگاتا ہے اس اللہ کے رستے پر جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے

إِلَّا إِلَى اللَّهِ تُصِيرُ الْأُمُورَ ۝

اور دوزخ میں جہنم سے ہر سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں

۳۵ ۝ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرْتِيبُ بِهِ رِيبَ الْمَنُونِ ۝ قُلْ تَرْتَضَوْنَ فَاِنِّي

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے بارے میں ہم زمانہ کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں (اسے نبی کہہ دو)

مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ۝ اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَآءُهُمْ بِهٰذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طٰغُوْنَ ۝

کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقین ان کو اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ گمراہ لوگ ہیں

۳۶ ۝ اَمْ يَقُولُونَ تَقْوَلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ

یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس (نبی) نے اسے خود گمراہ لیا ہے؟ کوئی بھی نہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے تو اگر وہ اپنے دعوے

مِثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

میں آجے ہیں تو وہ ایسی ایک ہی بات کہیں سے لے آئیں

۳۷ ۝ وَمَا تَنْزَلَتْ بِهٖ الشَّيْطٰنِ ۝ وَمَا يَتَّبِعِيْهِمْ لَهْمٌ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

اور اس کو شیطانوں نے نہیں اتارا اور نہ یہ ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں

۳۸ ۝ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُوْلُوْنَ ۝

وہ تو (کلام الہی کو) سننے سے ایک طرف ہٹا دے گئے ہیں

۳۹ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝ فَاِن تَذٰهَبُوْنَ ۝

اور وہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے تو تم لوگ کہہ جا رہے ہو؟

۴۰ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ كٰهِنٍ قَلِيْلًا

اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تم بہت ہی کم یقین کرتے ہو اور نہ وہ کسی کاهن کا کلام ہے۔ تم لوگ

مَا تَذٰكُرُوْنَ ۝

بیت ہی کم نصیحت پکارتے ہو۔

۱۰- آپ شاعر نہ تھے

۱۱- قرآن کے اتارنے پر

شیاطین کو قدرت نہیں ہے

۱۲- اور یہ قرآن شیطان کا

کلام نہیں ہے

۱۳- قرآن کسی شاعر یا

کاهن کا کلام نہیں ہے

۱۴- سزا پاتا تو آپ کے
قلب پر مہر کر دیتا

۱۵- آپ خدا پر بیتان باندھتے
توبہ سے پہلے خدا آپ کا
دشمن ہوتا

۱۶- آپ کو فرشتوں کی اعلیٰ
جماعت کا علم

۱۷- آپ پر ایمان لائے میں
قریش کے فضول عذرات

۱۴- اَمْ يَقُولُونَ افترنا على الله كذباً فان يئنا الله يحتم على قلبك يمح الله

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر عجب ٹا بیتان باندھ لیا ہے سو اگر چاہتا اللہ تو تیرے دل پر مہر لگا دیتا۔ اور اللہ باطل کو

الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں سے ثابت کر دیتا ہے۔ شک وہ سینوں کی (چھپی) باتوں کو جانتا ہے

۱۵- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ ۱۶- لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ۱۷- ثُمَّ

اور اگر وہ بعض باتیں خود بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم ضرور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے

لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ ۱۸- فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

پھر اس کی گردن کی رگ کاٹ ڈالتے پھر کوئی تم میں سے اس سے باز رکھنے والا نہیں ہے۔

۱۹- مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

(فرشتوں کی) اونچی جماعتوں کی جب وہ جگڑ رہے تھے مجھے کیا خبر تھی

۲۰- وَقَالُوا إِن تَنْزِيلُ الْهُدَىٰ مَعَكَ فَخُذْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ يُنَزَّلْ لَكُمْ

اور انہوں نے کہا اگر تم تیرے ساتھ ہو کہ ہدایت پر چلیں تو ہمارے ملک سے ایک لے جائیں کیا ہم نے انہیں حرم میں جگہ نہیں

حَرَمًا أَمِنًا يُجِيبُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

دی جو امن والی جگہ ہے اس کی طرف ہر قسم کے پھل کچھ چلے آتے ہیں جو ہماری طرف سے (لوگوں کا) رزق ہے۔ لیکن

لَا يَعْلَمُونَ

ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے

قرآن میں پیشین گوئیاں

۱۸- اعرابیت وطن کی پیشین گوئی

۱۸- اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ اِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ سَرَّيْتِي اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ

بے شک وہ (خدا) جس نے تجھ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے ضرور تجھے واپس کی جگہ لکھے میں (اور اپس لانے والا ہے) اے

بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(نبی) کہہ دے کہ میرا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لیکر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے

۲۰- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي اَنْ شَاءَ

بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دکھلایا کہ تم انشا اللہ ضرور مسجد الحرام میں داخل ہو گے۔ امن (رومان)

اللَّهُ امِينًا مَخْلُقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ اَفَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ

ساتھ اپنے سر منڈوانے والے اور بال کترواتے واتے ہوتے۔ بالکل (کسی سے) نہ ڈرتے ہوئے جو تم نے نہ جانتا

تَعْلَمُوا جَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتَحَاتِرِيًّا

اس نے ہاں لیا سو اس سے پہلے ہی ایک فتح ملا فرمائی
 اَلْكَافِرَاتُ كُوْخٌ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكَ كَمَا لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝ اَمْ يَقُولُونَ
 کیا تمہارے کفارین (انگھ کا فرقہ) سے بہتر نہیں یا تمہارے لئے سمیعوں میں رہائی (کسی ہوئی) ہے کیا وہ یہ کہتے
 حٰنٌ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۝ سَيُزَمُّ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الذُّبُرَ ۝
 میں کہ ہم پھر لے لیں والی جہالت میں منقریب یہ جہالت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر مہائیں سے

۲۔ کفارہ بدر کی شکست کی پیشین گوئی

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ
 اس ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم عداوت رکھتے ہو مہمت پیدا کر دے اور
 وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
 اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۳۔ کفارہ کتبہ و اہل اسلام میں اتحاد ہونے کی پیشین گوئی

الْمَوْتِ ۝ غَلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِيْ اَدْنٰى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَعْلَمُوْنَ
 روم منلوب ہو گیا قریب ہی کے ملک میں اور وہ اپنے منلوب ہونے کے بعد

۴۔ فارس پر رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی

فِيْ بَعْضِ سِنِيْنَ هٰٓلِكَ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ اَوْ يَوْمَئِذٍ يُفْرِغُ
 منقریب ہی غالب ہوں گے چند سال میں پہلے اور پیچھے اللہ ہی کا حکم ہے اور اس دن ایسا نثار خوش
 الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ يَنْصُرُ اللّٰهُ مَنِ امْتَسَقَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝
 ہوں گے۔ اللہ کی فتح سے وہ جسے چاہے فتح دے اور وہی غالب رحم والا ہے یہ اللہ نے وعدہ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝
 کیا چاہتا ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر آدمی (اس بات کو نہیں جانتے وہ دنیا کی زندگی کی ظاہر
 باتوں کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں

۵۔ مسلمانوں کے ایک جنگجو قوم کو فتح کرنے کی پیشین گوئی

فَلِ الْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَنُدْعُوْنَ اِلَى قَوْمِ اٰوَّلِيْ بَابِ مَدِيْنَةٍ
 (اے نبی جہاد سے) پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دے کہ تم منقریب ہی ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف
 تَقَاتِلُوْهُمْ اَوْ يُسَلِّمُوْا ۝ فَاِنْ نَّطِيعُوْا يُوْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَّاِنْ
 بلائے جاؤ گے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے سو اگر (اس موقع پر) تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں بھلا عوض
 تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝
 دے گا اور اگر تم نے اسی طرح پیٹھ پھیری جیسا کہ تم پہلے پیٹھ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
 اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہجرت کی ہم انہیں ضرور دنیا میں اچھے ٹھکانے پر لگا کر

۶۔ مسلمانوں کے عروج کی پیشین گوئی

وَلَا جِرَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ مَلُوكًا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ
 رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ۝

كَمَا اسْتَخْلَفْنَا دَاوُدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِيُوسُفُ إِنَّكَ مُخْتَارٌ عَلَيْنَا ۝ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أُمَّمًا يُعْبُدُونَ رَبَّهُمْ كَمَا كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۝ وَأَلِيَّهُم مَّا يَشَاءُونَ ۝

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

دیکھو فتح مکہ کی پیشین گوئی (عدد ۱)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۝ وَ
 كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۝

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشُّقُّ الْقَمَرُ ۝ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا اسِحْ ۝

مُسْتَوْرًا ۝ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ مُّسْتَعْتِقَةٌ ۝

۱۔ غلبہ اسلام کی پیشین گوئی

۲۔ شق القمر

آپ کی رسالت پر کافروں کے اعتراضات اور ان کے جواب

۳۲ - یہ اعتراض کہ بشارت رسول نہیں ہوتا

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشَرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْعلُوهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَأَنزَلْنَاهُ فِي قُرْآنٍ عَرَبِيٍّ لِّتَعْلَمُوا وَيَتَذَكَّرُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشارت کو لی چیز نہیں انزل کیا لیکن کتاب الہی جو اس کی کتاب کو کس نے ہمارا جو موسیٰ لائے تھے جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت ہے تم اس کو پارہ بنادو نہاؤں گے اور کثرتاً یاد و علم تم مائل تعلموا انتم ولا اباؤکم قیل اللہ پارہ کرتے ہو کچھ اس میں سے ظاہر کرتے ہو اور بت سا چھپاتے ہو اور اس کتاب کے ذریعے ہمیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم نہ جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا (اے نبی) کہہ رہے کہ اللہ نے وہ کتاب انہیں بھیجی ان کی بگو اس میں چھوڑ دے

۳۱ - اگر ان لوگوں کو اس بات سے تعبیر ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک آدمی کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو تمہارے غیب سے بشارت دے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں یہ بشارت دے کہ ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں راستی کا قدم دینی لیسکر مبین

بشارت (ہے) اور کافروں نے کہا کہ شک یہ تو کھلا ہوا دگر ہے۔

۳۰ - وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمشونَ مُظْمِئِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ تَسْهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِي خَبِيرًا ۝

اور لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آئی صرف اسی بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشارت کو رسول بنا کر بھیجا ہے (اے نبی) کہہ دے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے (اے نبی) کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ و بیکم ہائے کان بعبادہ خبیر البصیر

کافی گواہ ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے (انہیں) دیکھنے والا ہے

۲۹ - اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ

لوگوں کے لئے ان کے حساب (دینے) کا وقت قریب آگیا اور وہ موزن پھیرے غفلت میں پڑے ہیں ان کے پاس

مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ لَا هَيْبَةَ قُلُوبِهِمْ

جب کبھی بھی کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے آتی ہے اس کو وہ کیسے بناتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل اُسے

وَاسْتَرُوا وَالْبُجُوعَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرِ وَ

خاف ہوتے ہیں اور ظالموں نے چپکے چپکے ایک دوسرے کے کان میں کہا کہ یہ تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہے تو کیا تم آنکھوں دیکھتے

أَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ

باد میں پھیننا چاہتے ہو رسول نے کہا کہ میرا پروردگار بات کو جانتا ہے آسمان میں ہو لو اور زمین میں اور وہی سنتے

الْعَلِيمُ ۝ بَلْ قَالُوا أَصْغَاتُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝

واہ جاننے والا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ (قرآن تو) پریشان خواب میں بن گئے خود اس نے اُسے بنایا ہے بلکہ وہ تو بیک

قَلِيًّا تَنَابُؤًا كَمَا أُرْسِلُ الْأَوْلُونَ ۝ مَا آمَنْتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ

شاعر ہے سو وہ ہمارے پاس کوئی نشان لائے مگر پہلے پہلے بینر نشانوں کیساتھ بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی

أَهْلَكْنَاهَا أَفَرَأَمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي

بتی ہمیں نہیں ہمارے ہاک کر دیا ایمان نہیں لائی تھی تو کیا وہ ایمان لے آئیں گے اور (اے نبی) تجھ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی

إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

بھیجے وہ آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے (تو لوگو!) اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝ ثُمَّ

اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے پھر ہم نے انہیں اپنا

صَدَقْتَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝

وعدہ سچا کر کھلایا اور ہم نے انہیں اور جس کو ہم نے چاہا نجات دی اور مرد سے باہر نکل جانے والوں کو ہاک کر دیا

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلْنَا

اور انہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں

إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونُ مَعَهُ سَنَدًا ۝

آتا دیکھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

اور جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے خود کیوں نہیں باتیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں

مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

نہیں آتی اسی طرح ان ہی کا سا قول ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے دل ایک دوسرے

يُوقِنُونَ ۝

سے ملتے جلتے ہیں ہم نے تو نشانیاں ان لوگوں کے لئے بیان کر دیں جو یقین کرتے ہیں

۲۔ یہ آقرآن کر آپ کھا کر کھاتے اور بازاروں میں گھومتے ہیں۔

۳۔

۳۔ یہ اعتراض کہ خدا خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا

۱۱۸ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً ۖ كَذَلِكَ قَالَ

۴۔ یہ اقراض کر آپ کوئی نشان کیوں نہیں دیتے

اور جو لوگ کہہ نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ اللہ خود ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ
طرح ان ہی کا سا قول ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے ہو گئے تھے یہ ان سب کے دل ایک دوسرے سے جلتے جلتے
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

ہیں ہم نے تو نشانیاں ان لوگوں کے لئے بیان کر دیں جو یقین کرتے ہیں

۱۱۹ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ
اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کے پروردگار کی (ت سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتا رہی گئی (اے نبی ان سے) کہہ دے کہ بے شک
آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اُتارے لیکن ان میں سے اکثر آدمی (اس بات کو) نہیں جانتے

۱۲۰ وَإِذْ أَلْمَزْتَهُمْ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتُمَا قُلُوبَنَا نَبِعَ مَا يُوحَىٰ إِيَّايَ مِنْ

اور (اے نبی) جب تو ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتا تو وہ کہتے ہیں کہ تو اسے کیوں نہیں سمجھتا (تو اسے نبی) کہہ دے کہ میں تو

تو سچا ہوں، ہذا بصائر من شربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ۝ وَإِذْ

میں اسی پر چلتا ہوں جو میری طرف میرے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سوچ کی

قَرِيءَ الْفُرْآنِ فَأَسْمِعُوا آلَهُ وَانصتوا لعلكم ترحمون ۝

باتیں میرا اور ایمانداروں کیلئے ہدایت اور رحمت اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے (غور سے) کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم

۱۲۱ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْعَيْبُ لِلَّهِ فَانظُرُوا

اور وہ کہتے ہیں کہ اس (نبی) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتا رہی گئی (اے نبی) کہہ دے کہ عیب تو میں

إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝

اللہ ہی کے لئے ہے تو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں

۱۲۲ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتا رہی گئی سو تو تو محض ایک ڈرانے والا

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

ہے اور ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہوتا ہے۔

۱۲۳ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتا رہی گئی (اے نبی) کہہ دے کہ اللہ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ آلِيهِ مَنْ أَرَادَ ۝

جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اُسے اپنی طرف ہدایت کرتا ہے

۱۲۱ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ لَوْتِي ۗ

اور دے نبی ہا کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین کاٹی جاتی یا اس سے فردے بل لیلہ الا مرجمیعا

بلانے جاتے تو کافر تو تب بھی ایمان نہ لاتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

۱۲۲ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّنَا ۗ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ

اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا کیا ان کے پاس وہ کھلی دلیلیں نہیں آتی جو انکوں

۱۲۳ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

کے صحیفوں میں (مذبح) ہے اور اگر ہم اس (کے آنے سے پہلے ہی عذاب بھیجا کہ نہیں ہلاک کر دیتے تو (اس وقت) وہ ضرور ہی عذر کرتے

رَسُولًا فَتَتَّبِعُوا آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزِلَ وَنُحْزِي ۗ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ

کہ اسے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا کہ اس سے پہلے ہم ذلیل و خوار ہوں تیری آیتوں پر چلتے۔

فَتَرْتَبِصُوا فَمَا تَسْتَعْلَمُونَ ۗ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۗ

اے نبی کہہ دے کہ ہر ایک انتظار کر رہا ہے تم بھی انتظار کرو مغرب تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ دیکھیں اور کون ہدایت پر ہے

۱۲۴ بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَاهُمْ ۗ بَلِ اقْتَرَبَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۗ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا

ہلا نہیں نے کہا کہ (قرآن ہی پریشان خواب میں بلکہ اس نے خود اسے بنا لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے تو اسے چاہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی

۱۲۵ أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ۗ مَا آمَنَتْ قَرْيَةٌ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

لے گیا کہ ایک منبر (نشانیوں کیساتھ) بھیجے گئے تھے ان سے پہلے کوئی بستی بھی نہیں ہم نے ہلاک کر دیا ایمان نہیں لائی تھی تو کیا

۱۲۶ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَ

اور انہوں نے کہا کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کچھ نشانیاں کیوں نہیں ہماری گئیں (اے نبی) کہہ دے کہ نشانیاں تو بس اللہ ہی

۱۲۷ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

کے پاس ہیں تو میں تو صرف کھول کر ڈرانے والا ہوں اور بس کیا انہیں یہ (نشانی) کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر

۱۲۸ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۗ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا

پڑھتی جاتی ہے بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لئے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ (اے نبی) کہہ دے

وَبَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ شَاهِدِينَ ۗ

کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے

۱۲۹ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَمِدًا إِلَيْنَا الْأَعْلَىٰ ۗ ثُمَّ لِيَرْسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بَقُرْبَانٍ

(یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں تا وقتیکہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی

تاکلہ الناس ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ

نے جسکو آسمان سے آگ کھا جائے (نبی ان سے) کہہ دے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے اتنے ہی رسول کھلی دلیلیں اور وہ چیز جو

۵۔ یہ اقراض کر قربانی کو آگ آسمان سے آکر کیوں نہیں کھا جاتی۔

نشانیاں

نشانیاں

تَنَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۳۱۱ فَاِنْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ نَكْتُمُوكُمْ فَانْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ جَاوُزًا بِالْبَيِّنٰتِ وَالزَّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيرِ ۝۳۱۲

اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا پھر اگر وہ اس پر بھی تجھے جھٹلائیں تو تجھ سے کتنے ہی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھل دیں اور سمیٹے اور عکس کتاب لے کر آئے تھے

وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلٰٓئِكَةٌ مِّنَ السَّمَآءِ مَعَهُ الْقُرْءٰنَ ۝۳۱۳ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلٰٓئِكًا لَّقَضِيَ الْاَمْرُ شَرًّا لَّا

اور انہوں نے کہا کہ اس دینی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار گیا۔ اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو جھگڑا ہی طے ہو جاتا اور بیظرون ۝۳۱۴

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلٰٓئِكًا لَّجَعَلْنَاهُ رُجُلًا وَّلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبَسُوْنَ ۝۳۱۵

پھر انہیں بہت ندی جاتی۔ اور اگر ہم ان کو فرشتہ بناتے تو یہی ہم اُسے ضرور آدمی ہی کی صورت بناتے اور البتہ ان یلیسون ۝۳۱۶

بہر وہی شبہ ڈالتے جو سب وہ اب کر رہے ہیں۔

فَلَعَلَّكَ تٰمِرٌ لَّكَ بَعْضُ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَضٰٓئِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَقُوْلُوْا

تو (اے نبی) شاید تو بعض وہ باتیں جو میری طرف دی جاتی ہیں چھوڑنے والا ہے اور ان سے تیرا دل تنگ ہوتا ہے۔

لَوْ اَنْزَلَ عَلَيْهِ كُتٰبًا مَّعَهُ مَلٰٓئِكَةٌ اِنَّمَا اَنْتَ كَذِبٌ وَّاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝۳۱۷

مگر ان کے اس کہنے سے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہ اتار لیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا

سود تو بعض ایک ڈرانے والا ہے اور اٹھ ہرٹے پر کار سانا ہے

وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَجَحْمٌ ۝۳۱۸ لَوْ مَا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَلْاٰتِيْنَ

اور انہوں نے کہا کہ اے جنس جس پر نصیحت اتاری گئی بے شک تو تو ایک دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو تو ہمارے بالملکۃ ان کنت من الصادقین ۝۳۱۹

پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا۔ ہم تو فرشتے حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور (جس وقت فرشتے آئیں گے) اُس وقت وہ گائوا اذامنظربن ۝۳۲۰

انہیں بہت نہیں دی جانے کی بے شک ہم لے ہی اس نصیحت کو اتار رہے اور بے شک ہم ہی اُس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے پہلی امتوں میں ہی رسول بھیجے تھے۔ اور جو رسول بھی ان کے پاس آتا تھا اسی کی رسو لہ الا کائوا بہ یستہزؤون ۝۳۲۱

۴۰۰۔ یہ اعتراض کرنا آپ پر سب کے سامنے فرشتے کیوں نہیں اترتے

۱۱

۱۵

پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی رسم پڑھ چکی ہے اور ان تمام پر آسمان سے

بَا بَا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ كَفَالُوا إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا

ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ دن میں اُس میں چڑھ جائیں تو وہ ضرور ہی کہیں کہ ہماری آنکھوں پر تو بس نشہ چڑھ گیا ہے
بَلْ لَّحْنٌ قَوْمٌ مُّسَكَّرُونَ ۝

بلکہ ہم لوگوں پر کسی نے جادو کر دیا ہے

لَوْ لَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَكَانَ لَكَ فِي كُفْرِكَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

اس (نبی) کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا کہ وہ بھی اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوگا

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا

اور (اے نبی) اگر ہم تجھ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتارتے پھر وہ اُس کو اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیتے تو بھی کافر

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

مزدبھی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور بس

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ ط وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ

یا رہم تجھے جب بائیں گے کہ تیرے لئے سونے کا ایک گھر ہو یا تو آسمان پر چڑھ اور ہم تو تیرے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تا وقتیکہ

حَتَّى نُنزِّلَ عَلَيْكَ كِتَابًا تَقْرَأُ ۝ فَذَلُّوا قُلُوبَهُمْ هَلْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۝

تو ہم پر ایک ایسی کتاب نازل نہ کرے جسے ہم خود پڑھ لیں بلکہ نبی ان سے کہہ دے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو ایک بھیجی ہوا آدمی

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ

اور کافروں نے کہا کہ اس پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا (ہم نے) اسی طرح اتارا تاکہ ہم اُس سے تیرا دل جماعت

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ

رکھیں اور ہم نے اُسکو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اور (اے نبی) وہ تیرے پاس جو مثل بھی لاتے ہیں (اُس کے مقابلے میں)

بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

ہم تیرے حق میں اور اچھا بیان لاتے ہیں

وَإِذَا سَأَلَ عَنْهُمْ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّمَا يَنْتِزِعُ الْقُرْآنَ

اور (اے نبی) جب اُن پر ہماری کھلی آیتیں برسی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس (قرآن) کے

غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ لَهُ قُلُوبًا مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تَلْفَافٍ نَفْسِي ۝ رَأَيْتُ

سوا کوئی دوسرا قرآن لایا اسی کو کچھ بدل دے (اے نبی) کہہ دے کہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنی طرف سے اُس کو بدل

أَشْبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۝ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يُّوْمٍ عَظِيمٍ ۝

دوں میں تو بس اُسی پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے

قُلُوبًا مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عَشْرًا ۝

(اے نبی) کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ (قرآن) تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تم میں اس کی خبر دیتا میں تو تم میں اس (دعویٰ) سے پہلے ایک

۷- یہ اقراض کر آپ پر لکھی
لکھائی کتاب آسمان سے کیوں
نہیں اتری

۸- یہ اقراض کر سارا قرآن
ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں
ہوا۔

۹- یہ اقراض کر آپ دوسری
طرح کا قرآن کیوں نہیں لاتے

یوں اور نبی

یوں سے اور نبیوں

مَنْ قَبِيْهِ اَنْلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۰ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَاَوْ

مرد دوزخ تک رہ چکا ہوں تو کیا تم سمجھتے نہیں سو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس نے اللہ پر جھوٹا باندھا یا اس کی کذب پابندیہ انکار کیا ہے المجرمون ۝

آیتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ گنہگار فلاح نہیں پاتے
وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلَ هٰذَا الْفُرْقَانَ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرٰىتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝۱۱

اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن (کتنے اور ٹائٹ) دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ کیا ان یقیناً مومن رحمتہ سراہا کہ دشمنوں سے تمنا بیدہم معیشتم فی الحیوۃ الدنیٰ

تیرے پروردگار کی رحمت کو بھانپتے ہیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کی اور ان و سافعنابعضہم فوق بعض درجبت لیکن بعضہم بعضاً شخریا اور رحمت

میں بعض کے بعض پر درجے بلند کئے تاکہ ان میں سے بعض بعض کو (اپنا) محکوم بنالیں اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سراہک خیر مما یجمعون ۝

دہاں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں
وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ یَقُولُوْنَ اِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرًا لِّسَانُ الَّذِیْ یُحَدِّثُوْنَ

اور بے شک ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے (حاصل آکر) اس کی زبان جس کی طرف وہ الیہ العجیبی و هذا السان عربی مبین ۝

کہراہی (سے) اس کو سوسب) کرتے ہیں بھی ہے اور یہ (قرآن) نسخ عربی زبان ہے
فَلَعَلَّكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا یُوحٰى اِلَیْكَ وَضَائِقًا یَبْهٰتٌ اِنْ یَقُولُوْا

تو (اے نبی) شاید تو بعض ان باتوں کو جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے چھوڑنے والا ہے اور تیرا دل امن سے تنگ ہوتا لولا انزل علیہ کتبا و جہا معہ ملک انما انت نذیر ہ واللہ علی کل

شئ و قکیل ۝
ہے بعض اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر خوانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی زشتہ کیوں نہیں آیا سو تو تو

صرف ایک ڈالے والا ہے اور اللہ ہر شے پر کار ساز ہے۔
اَوْ یُلْقٰی اِلَیْهِ کُتُبًا وَّ یُنزِلُ عَلٰیہُ الْوَحٰی ۝۱۲

یا وہم جب ایمان لائیں گے کہ اس کی طرف (آسمان سے) کوئی خوانہ ڈالا جائے یا اس کے لئے ایک بلغ ہو جس میں سے یہ کہائے اور الا رجلاً مسخوراً ۝ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلو فلا

خالوں نے کہا کہ تم تو بس ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی کے پیچھے ہوئے ہو (اے نبی) دیکھ کہ انہوں نے تجھ پر کیسی مثالیں یستطیعون سبیلاً ۝ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک
لو عا لیں سو وہ گمراہ ہو گئے اب راہ نہیں پاسکتے برکت والا ہے وہ (خدا) کہ اگر چاہے تو وہ تیرے پاس سے بھی بہتر سامان جیسا کہ

۱۰- یہ اعتراض کہ قرآن کس بڑے سے کیوں نہیں اتارا

۱۱- یہ اعتراض کہ قرآن آپ کی کوئی دوسرا شخص تعلیم کرتا ہے

۱۲- یہ اعتراض کہ آپ کے پاس خوانہ-بلغ اور امیرانہ ٹھاٹھ کیوں نہیں

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ۝

دینی ایسے باغ جن کے درختوں کے نیچے نہیں جاری ہوں اور تیرے لئے محل بسا کر دے
 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَالِ الْوَالِدِ أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ أَنْزَلْنَا رَبَّنَا الْقَدِ اسْتَكْبَرُوا
 اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا رہیں بھلا تو ہم اپنے پروردگار
 فِي الْفَسَادِ وَعَتَوْا عَنْ نِقَاتِ كِبْرًا ۝ ۲۲ یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰی يَوْمَئِذٍ
 ہی کو دیکھ لیتے بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں گمنڈ کیا اور بڑی بھاری سرکشی کی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے
 الْجِبْرِ مِائِنَ وَيَقُولُونَ جِبْرًا مَّجْجُولًا

۱۳- یہ اعتراض کہ ہم خدا یا
 فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے

اُس دن کھنگاروں کے لئے کچھ بشارت نہیں ہوگی اور کہیں سے کہیں (تھپنے کے لئے) کوئی مضبوط آڑ ہو
 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا آوْتِنَا مَوْسٰیٰ اَوْ لَمْ
 پھر جب ہمارے ہاں سے ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کہ اس (نبی) کو دیا ہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا کیا
 يَكْفُرُوۡا بِمَا آوْتِنَا مَوْسٰیٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَاۡنِ وَقَالُوا اِنَّا بِرَبِّكُمۡ
 انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ (تورات اور قرآن) دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے
 كٰفِرُوۡنَ ۝

۱۴- یہ اعتراض کہ آپ کو موسیٰ
 کے سے سبوتا دیتے

کو مدد پہنچاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سب ہی کے منکر ہیں
 وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتّٰی تَنْجُرُنَا مِنَ الْاَرْضِۢ بِنُوحًا ۝ ۲۱ اَوۡ تَكُوۡنَ
 اور انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لئے زمین سے چٹھے جاری کر دے یا تیرے
 لَكَ جَنَّةٌ مِّنۡ نَّجِيلٍ وَعِنۡبٍ فَتَنْجُرُنَا مِنَ الْاَرْضِۢ بِخَيْرٍ ۝ ۲۲ اَوۡ تَسْقِطَ
 لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو پھر تو اس سے درمیان نہیں جاری کر دے یا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے ہم پر آسمان کا
 السَّمَآءُ كَمَا زَعَمَتۡ عَلَيْنَا كَسَفًا ۝ ۲۳ اَوۡ تَأْتِنَا بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيۡلًا ۝ ۲۴ اَوۡ
 کوئی ٹکڑہ توڑ کر گرا دے یا تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لئے سونے کا ایک گھر ہو یا تو
 يَكُوۡنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنۡ زُخْرِفٍ ۝ ۲۵ اَوۡ تَرۡقٰی فِی السَّمَآءِ وَلٰكِنۡ نُؤْمِنُ لِرُقِيۡلِكَ
 ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جانے اور ہم تو تیرے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تا وقتیکہ تو ہم پر ایک ایسی کتاب
 حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُہٗ قُلۡ سُبْحٰنَ رَبِّیۡ هَلۡ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مَّرۡسُوۡلًا
 نہ اتنا ہے جس کو ہم خود پڑھیں (لے نبی) کہہ دے کہ میرا پروردگار (عجرت سے) پاک ہے میں تو صرف بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں اور میں
 وَيَقُولُونَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ ۝ ۲۶ قُلۡ لَا اَمۡلِكُ لِنَفْسِیۡ
 اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ (قیامت کا) وعدہ کب پورا ہوگا (اے نبی) کہہ دے کہ میں اپنی جان کے نقصان
 ضَرًا وَّلَا نَفَعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۝ ۲۷ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۝ ۲۸ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا
 کا مالک نہ نفع کا مگر ہاں اتنا ہی جتنا اللہ چاہے ہر ایک امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے پھر جب ان کا وقت آجاتا ہے

۱۵- کافروں کا آپ سے
 فریادیں مجھے طلب کرنا

۱۶- یہ اعتراض کہ قیامت اس
 وقت کیوں نہیں آجاتی

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ قُلْ أَسْرَأُ بِكُمْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ

تو وہ ایک گھنٹہ بھی رکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے ہاتھیں دے کر بھلا جتاؤ تو اس کا عذاب
بیا تاؤ وہاں سارا ماکاؤ ایستعجل منه المجرمون ۝

تم پر مات کو یا ان کو آبلے تو اس میں سے گنہگاروں کس چیز کے لئے جلدی ہمارے ہیں

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَدَلْ

اور دے ہی جب ہم کسی ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے تو کہتے
اَنْزَلَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُّسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

ہم کہ تو تو سمن بیتن یا نہ ہنے والا ہے کوئی نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہیں۔ اسے نبی اکبر دے کہ اس کو روح پاک نے
لِيُنذِرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝

تمہے پر اندکار کی طرف سے حق کیا تو اتار رہے تاکہ وہ سمنوں کو ہدایت دے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہو

وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

اور (اسے نبی) اور تمہے سے روح کی بابت پوچھتے ہیں کہہ دے کہ روح تو میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تمہیں بیت عقولاً

إِلَّا قَلِيلًا ۝

علم دیا گیا ہے۔

۱۷- نسخ پر اعتراض

۱۸- ان ذروں کا آپ سے روح کی بابت سوال

آپ کے وہ اوصاف جو دوسرے انبیاء کے ساتھ مشترک ہیں

۱۲۱ ۝ وَإِنَّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

اور دے نبی، بیشک تو رسولوں میں سے ہے

۱۲۲ ۝ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۝

اور محمد تو صرف ایک رسول ہے اور بس

۱۲۳ ۝ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

اور دے نبی، ہم نے تجھے لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کا کافی گواہ ہے

۱۲۴ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝

دے نبی اکبر دے کہ لوگو ابے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں

۱۲۵ ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا رسول اور نبیوں کا خاتم ہے

۱- آپ اللہ کے رسول ہیں

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے

۲۶ ۝ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

(اے نبی) بے شک تو رسولوں میں سے ہے

۲۷ ۝ مُحَمَّدًا رَّسُولَ اللَّهِ ۝

محمد اللہ کا رسول ہے

۲۸ ۝ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ۝ دیکھو متقاعد نزول قرآن (حدود ۶)

بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔

۲- آپ نے رسولوں کی تصدیق کی

۳- آپ کو خدا نے بندوں پر رحمت پورا کرنے کے لئے بھیجا۔

۲۹ ۝ وَلَوْلَا اَنْ تَصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ لِّمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا

اور اگر وہ بات نہ ہوتی کہ جو اعمال ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں ان کی خاست سے ان پر کوئی مصیبت آنا دل ہو اور پھر

اَسْرَسَلْتَ الْبَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

وہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تھا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے اور ایمانداروں میں ہوتے

۳۰ ۝ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

اور ہم نے انہیں (ایک ہی) بات کو بار بار سمجھایا تاکہ وہ نصیحت پر لگیں

۳۱ ۝ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ۝

تاکہ وہ اس شخص کو ڈرانے جو زندہ ہے اور کافروں پر (مذہب کی) بات پوری ہو جائے۔

۴- آپ بشیر و نذیر ہیں

۳۲ ۝ اِنَّا اَمْرًا سَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّاَلَا تَسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْمَدِيْنَةِ الَّتِي

وہی (اے نبی) بے شک ہم نے تجھے دین حق کیساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور تم سے دوڑخیوں (کے اعمال) ال بات کہیں

۳۳ ۝ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا بِبَيِّنٰتٍ لَّكُمْ عَلٰى فِتْنَةٍ مِّنَ الرَّسُوْلِ اَنْ

اے اہل کتاب رسولوں کے بند ہو جانے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تم سے (احکام شریعت) بیان کرتا ہے تاکہ تم نہ کہنے لگو

تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّاَلَا سِنِيْرٍ فَعَدُوْا جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ۝

کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا سو تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آچکا

۳۴ ۝ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

میں تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں

۳۵ ۝ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ۝

بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں

۳۶ ۝ وَمَا اَسْأَلُكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝

اور میں نے تجھے محض بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے

اور رسول بھیجے کی اہمیت دیکھیں

اور اللہ کی تعریف دیکھیں

۳۳ ۳۳ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

اے نبی! تجھے ہم نے تجھے (تو میں پر) گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے

۳۴ ۳۴ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَدِيحًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور (اے نبی!) ہم نے تجھے سب لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر آدمی (رسالت کی) نہیں جانتے

۳۵ ۳۵ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

اے نبی! بے شک ہم نے تجھے (تو میں پر) حق کیساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت (مسیحی) نہیں ہے جس میں بیک ڈرانے

۳۶ ۳۶ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

اے نبی! بے شک ہم نے تجھے (تو میں پر) گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے

۳۷ ۳۷ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۝

(اے نبی!) تو تو (تو میں پر) ایک ڈرانے والا ہے

۳۸ ۳۸ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

(اے نبی!) تو تو (تو میں پر) ایک ڈرانے والا ہے اور ہر ایک کے لئے راہ برے

۳۹ ۳۹ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝

اور (اے نبی!) کہہ دے کہ میں کھول کر ڈرانے والا ہوں

۴۰ ۴۰ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بَصَّأْتُمْ مِنْ حِجَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے سامنے (محمد) کو کوئی جنون نہیں ہے وہ تو ایک کھول کر ڈرانے والا ہے اور میں

۴۱ ۴۱ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

(اے نبی!) کہہ دے کہ لوگو! میں تو تمہارے لئے ایک کھول کر ڈرانے والا ہوں اور میں

۴۲ ۴۲ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

برکت والا ہے وہ (خدا) جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرانے والا ہو۔

۴۳ ۴۳ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

(اے نبی!) کہہ دے کہ میں تو (تو میں پر) ڈرانے والوں میں سے ہوں اور میں

۴۴ ۴۴ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

اور میں تو ایک کھول کر ڈرانے والا ہوں اور میں

۴۵ ۴۵ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ يَدْعُ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝

وہ تو ایک سخت وقت (کے آنے) سے پہلے تمہارے لئے ایک ڈرانے والا ہے اور میں

۴۶ ۴۶ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝

تو تو (تو میں پر) ایک ڈرانے والا ہے اور میں

۷- آپ کا نام صرف پیغام
پنچا دینا ہے اور بس

۱۹ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ط

۲۰ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَيَّ رِسُولُ الْبَلَاغِ الْمُبِينِ ۝

۲۱ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

(اے نبی) تیرا ذمہ صرف پیغام پنچا دینا ہے اور ہمارا ذمہ حساب لینا ہے۔

۲۲ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ

۲۳ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔

۲۴ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۝

(اے نبی) تیرا ذمہ صرف پیغام پنچا دینا ہے اور بس

۲۵ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأِنَّمَا عَلَيَّ رِسُولُ الْبَلَاغِ الْمُبِينِ ۝

۲۶ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ نَزَّادُكُمْ ۚ

۲۷ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ نَزَّادُكُمْ ۚ

۲۸ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ نَزَّادُكُمْ ۚ

۸- آپ کو کافروں پر کچھ
حق نہیں۔

۲۹ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِلَهُمْ ظَلِمُونَ ۝

(اے نبی) تمہیں اس معاملہ میں کچھ اختیار نہیں یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے بہر حال وہ ظالم ہیں

۹- آپ سے روزخیزوں کو
باز پڑھیں

۳۰ وَلَا تَسْأَلْ عَنَّا صَاحِبُ الْجَحِيمِ ۝

اور (اے نبی) روزخیزوں کے بارہ میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائیگا

۱۰- آپ کی زندگی پر دین اسلام
موقوف نہیں

۳۱ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَكَاتٍ أَوْ قِتَالٍ

۳۲ أَنْقَلِبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِرَ اللَّهُ شَيْئًا

۳۳ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

۳۴ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ فَاكِرًا ۚ

ہم نے تمہارا خیال ہی نہیں کیا اور اللہ شکر گزاروں کو عوض دے گا

۳۵ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ فَاكِرًا ۚ

۳۶ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ فَاكِرًا ۚ

ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۝

دنیائے اٹالیں تو ہر حال انہیں تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر اللہ دیکھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں

۱۱۲-۱۱۳ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۱۴-۱۱۵ آپ مجنون نہ تھے

۱۱۶-۱۱۷ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۱۸-۱۱۹ آپ مجنون نہ تھے

۱۲۰-۱۲۱ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۲۲-۱۲۳ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۲۴-۱۲۵ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۲۶-۱۲۷ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۲۸-۱۲۹ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۳۰-۱۳۱ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۳۲-۱۳۳ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۳۴-۱۳۵ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۳۶-۱۳۷ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۳۸-۱۳۹ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۴۰-۱۴۱ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۴۲-۱۴۳ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۴۴-۱۴۵ آپ بے راہ نہیں تھے

۱۴۶-۱۴۷ آپ بے راہ نہیں تھے

۹۱ ۳۲ ۹ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 ۱۸- آپ حق پر تھے

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝
 کرے اگرچہ مشرکوں کو برا معلوم ہو۔

۹۲ ۳۱ ۱۰ قَانَ كُنْتُ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَأَلَ الَّذِينَ يَفْرَهُونَ الْكِتَابَ مِنْ
 سوئے نبی، اگر تو اس کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے

فَبَرَكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝
 سے کتاب (تورات) پڑھ رہے ہیں بے شک تیرے پاس حیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے تو تو شک کرنے والوں میں ہرگز نہ

۹۳ ۳۰ ۱۱ وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْثِثُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي
 اور اسے نبی پیغمبروں کی خبروں میں سے ہم تمہارے ہر ایک بات بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے تیرے دل کو دھارے بندھا نہیں۔

هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
 اور اس بیان میں تیرے پاس حق اور ہوشیاری کے لئے نصیحت اور خبر خواہی سب کچھ آچکا۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے

۹۴ ۲۹ ۱۲ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝
 کچھ دے کر تم اپنی جگہوں کے باوجود ہم بھی عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو اور انا منتظر ہوں۔

۹۵ ۲۸ ۱۳ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝
 راے نبی اے شک تو کھلے حق پر ہے

۹۶ ۲۷ ۱۴ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ
 وہ (خدا) وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب دینوں پر غالب کرے

بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝
 اور اللہ کا نبی ہے گواہی دینے والا

۱۹- آپ راہ راست پر تھے اور لوگوں کو سیدھی راہ پر لہاتے

۲۳ ۲۲ ۱۵ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْمُ
 ہر ایک امت کے لئے ہم نے عبادت کا ایک خاص طریق مقرر کر دیا ہے وہ اسی طریق پر عبادت کرتے ہیں تو وہ تجھ سے ہر

إِلَىٰ سَرَاتِكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ۝
 سلسلے میں نہ جھگڑیں اور انہیں اپنے پروردگار کی طرف بلاجے شک تو سیدھی راہ پر ہے اور اگر وہ (دوس پر بھی) تجھ سے

۹۷ ۲۱ ۱۶ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝
 جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

۹۸ ۲۰ ۱۷ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
 اور راے نبی، بے شک تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔

۵۱ علی صراط مستقیم

دے نبی تو سیدھی راہ پر ہے

۵۲ وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور (دے نبی) بے شک تیری سے کسی طرف ہدایت کرتا ہے اس اللہ کے رستے کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے

التَّهْمَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تُصِيرُ الْأُمُورَ

جو آسماں میں ہے اور جو زمین میں ہے سُن لو کہ سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے

۵۳ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور بے شک تو سیدھی راہ پر ہے

۵۴ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

اور (خدا) چاہتا ہے کہ تجھے سیدھے رستے پر چلائے

۵۵ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

اور (دے نبی) اُس نے تجھے گمراہ پایا تو راہ پر لگا دیا

۱۵۱ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

جس طرح ہم نے تم میں تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول بھیجا وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو پہلے تم نہیں جانتے تھے

۱۵۲ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

بے شک اللہ نے مسلمانوں پر اسان کیا جب اُس نے ان میں ان ہی کے درمیان سے ایک رسول بھیجا۔ وہ ان پر اس

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ

کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ

مُضِلِّينَ

راہ سے پہلے گمراہی میں تھے

۱۵۳ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ

وہ (خدا) وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ (اُس سے) پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔

۱۵۴ إِنَّ وَلِيَّكَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

بے شک میرا حمایتی اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری اور وہی (سب نیک) بخوتوں کا حمایتی ہے

۲۰۔ آپ لوگوں کو پاک بناتے اور کتاب و حکمت سکھاتے

۲۱۔ آپ کا خدا حمایتی ہے

آپ کے مخصوص اوصاف

۱۔ آپ کا امتی ہونا

۱۵۷ **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ**

۱۵۸ **وَأَمَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ**

تاکہ تم ہدایت پر ہو جاؤ۔

۱۶۱ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ**

۱۶۲ **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ آتٍ لَّكُمْ تَقْوَىٰ مَا جَاء نَارًا مِّن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ وَقَدْ بَشَّرَكُم بِالْبَشِيرِ وَنَذَرَكُم بِالنَّارِ لَئِي كُمْ تَعْلَمُونَ**

۲۔ آپ کا فترت کے قریب آنا۔

۱۶۳ **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ**

۳۔ آپ کی نبوت کا عام ہونا

۱۶۴ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ**

۱۶۵ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ**

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلِيلٍ مُبِينٍ ۝ ۳۶ وَآخِرِينَ

اور نیز انہیں کتاب اور حکمت کا حکم دیا ہے اگرچہ اس کے آگے سے پہلے وہ کھل گزریں تھے اور ان ہی میں سے ایک
مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ۳۶ ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
اور جہالت میں بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملتا اور وہی غالب حکمت والا ہے اللہ کا فضل ہے جسے
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝
وہ چاہے یہ فضل دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا رسول اور نبیوں کا خاتم ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۝

اور (اے نبی) اللہ ایسا نہیں ہے کہ تو ان میں سے ہو اور وہ انہیں عذاب دے

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ

اور (اے نبی) اگر وہ اس وقت جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آجاتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

ان کے لئے رسول بھی مغفرت مانگتا تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہرمان پانتے

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

اور (اے نبی) اس لئے ہے کہ رسول تم پر گواہ ہو

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے (اے نبی) تجھے ہم ان پر گواہ لائیں گے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ

اور (اے نبی) وہ دن یاد کر، جس دن ہم ہر امت میں ان پر (گواہی دینے کے لئے) ان ہی میں سے ایک گواہ

هُوَ إِلَّا شَهِيدًا ۝

کھڑا کریں اور تجھے ان (لوگوں) پر گواہ لائیں گے

مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

اس قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

(اے نبی) بے شک ہم نے تجھے کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تیرے وہ گناہ جو پہلے ہوئے اور وہ جو تیرے ہوئے محض

وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے اور تجھے سیدھے رستے پر چلاے۔

۴- آپ کا خاتم نبیین ہونا

۵- آپ کا عذاب الہی سے روک ہونا

۶- آپ کی استغفار کا غلام ہونے کے حق میں مقبول ہونا

۷- آپ کا تیاست کو اپنی امت پر گواہ ہونا

۸- آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کا معاف کیا جانا

۱۳- آپ کو مقام محمودی کی امید

۶۹ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

۱۴- آپ کو خدایات کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا

۱۴ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

پاک ہے وہ (خدا) جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام (مکہ) سے مسجد اقصیٰ (یروشلم) کی طرف لے گیا وہ اسے اس قدر

۱۵- آپ کو روایا دکھانے کا مقصد لوگوں کی آزمائش تھا

۷۰ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ

اور (سے) نبی (تم) نے وہ روایا جو تجھے دکھایا لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے اور (اسی طرح سینہ کے) اس درخت کو بھی

۱۶- روایا کی تفصیل قرب کے دہے

۵۰ عَمَّا شَدِيدِ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ

اس کو یہ قرآن، سنت قرآن والے فرشتے نے تیسرے کی تیسری تہا۔ پھر وہ اور قریب ہوا پھر اور نیچے تک آیا سو وہ دو گمان کے حامل پر ہو گیا یا اس

۱۱ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝ أَفَمَأْجُ

بھی زیادہ قریب ہو گیا پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو کہ دل نے اس کو سمجھنا نہیں جانا جو اس نے دیکھا تو کیا

۱۲ عِنْدَ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَ هَاجِنَةِ الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝

سدرۃ المنتہیٰ کے پاس جس کے پاس بہت المازی ہے (اس وقت) میری (سدرۃ المنتہیٰ) پر چھایا گیا تھا جو کچھ چھایا تھا

۱۳ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

اس وقت آپ کی نظر نہ بھکی اور نہ اونچی بے شک اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں

۱۷- آپ کے مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں

۱۸ لَمَّا رَأَى الْوَالِي بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ

کتاب میں مومنوں اور ہاجروں سے زیادہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے

۱۸۱ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

راے نبی ابے شک ہم نے تجھے کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھ پر
وَمَا تَأْخُذُكَ مِنْهُ نِعْمَةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَيْكَ بِمَدْرَأَتِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝
اپنی نعمت پوری کرے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے۔

۱۸۲ وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

۲۷- آپ سے خدا ناخوش نہیں ہے۔
۲۸- آپ کا اخیر اول سے بہتر ہے۔
اور بے شک تیرا اخیر اول سے بہتر ہے۔
۲۹- تمہیں میں آپ کو پناہ دی۔
۳۰- آپ کو خدا نے غنی کیا۔

۱۸۳ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

اور عنقریب ہی تیرا پروردگار تجھے وہ کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائیگا

۱۸۴ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝

کیا یہ بات نہیں ہے کہ اُس نے تجھے یتیم پایا اور ٹھکانے پر لگایا

۱۸۵ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

اور اُس نے تجھے محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔

۱۸۶ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنَّاكَ وَزُرَّكَ ۝

۳۱- آپ کا شرح صدر و رفع ذکر
۳۲- آپ کو بے انتہا اجر
۳۳- آپ کو کوثر کا ملنا

۱۸۷ أَلَمْ نَقُصِّ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

اور تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کیا سو بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے بے شک سختی کے ساتھ آسانی

۱۸۸ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ

ہے تو (اے نبی) جب تو (لوگوں کو سمجھانے سے) فرصت پانے تو (عبادت کے لئے) اکھڑا ہو۔ اور

فَارْغَبْ ۝

اپنے پروردگار کی طرف راغب ہو

۱۸۹ وَإِنَّ بِكَ لَآجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝

اور (اے نبی) بے شک تیرے لئے بے انتہا اجر ہے۔

۱۹۰ اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

۳۳- آپ کو کوثر کا ملنا
راے نبی ابے شک ہم نے تجھے (حوض) کوثر عطا کیا۔ تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کرے

هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

شک تیرا عیب لگانے والا ہی اوت ہے۔

<p>۳۴- آپ کی مدد کا خدا کی طرف سے وعدہ</p>	<p>۳۴ وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا اور اللہ تیری غالب آنے والی مدد کرے</p>
<p>۳۵- آپ کے پیروں سے خدا کی محبت</p>	<p>۳۵ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (اے نبی) کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہوں کو بخیر بخشے گا</p>
<p>۳۶- آپ پر خدا اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں</p>	<p>۳۶ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ ہے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود (یعنی رحمت) بھیجتے ہیں۔ مسلمانو تم بھی اس پر درود</p>
<p>۳۷- آپ قبلہ کی کتاب کے تابع نہیں</p>	<p>۳۷ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قَبْلَتِهِمْ اور (اے نبی) تو ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والا نہیں ہے</p>
<p>۳۸- آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کبھی راضی نہ ہوں گے</p>	<p>۳۸ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لِي بِاللَّهِ اور (اے نبی) تجھ سے یہود اور نصاریٰ تاہم تیکہ ان ہی کا مذہب قبول نہ کرنے ہرگز راضی نہیں ہوں گے (اے نبی) اللہ کی ہدایت ہے</p>
<p>۳۹- آپ کی امت سب امتوں سے افضل ہے</p>	<p>۳۹ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور (مسلمانو!) اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا تاکہ تم قیامت میں لوگوں پر گواہ ہو</p>
<p>۴۰- آپ کی امت کو گواہ ہونا</p>	<p>۴۰ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُحِبُّونَ بِاللَّهِ (مسلمانو!) تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لئے نکال گئی ہے تم (لوگوں کو) اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو</p>
<p>۴۱- آپ کی امت کا قیامت کو گواہ ہونا</p>	<p>۴۱ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور (یہ اس لئے ہے کہ تم (اور) لوگوں پر (قیامت کو) گواہ ہو</p>
<p>۴۲- آپ کے متبعین کو فلاح</p>	<p>۴۲ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرْتَهُمْ وَأَنْصَرُوهُ وَأَتَّبِعُوا النَّوَارِثَ الَّذِينَ أَنْزَلَ مَعَهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اُن کے ساتھ اتارا گیا ہے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں</p>

۱۵۸ ﴿فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتُ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَنشأؤهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝﴾

ترانے نبی اے اللہ ہی کی رحمت سے ہے کہ تو ان کے لئے نرم ہو گیا اور اگر دکھیں تو بوجھن سنت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے پاس سے
حوالہ کا عفو عنہم واستغفرہم ونشأؤہم فی الامر فاذا عزممت فتوکل علی اللہ
بچھڑ جلتے تو انہیں معاف کر اور ان کے لئے (اللہ سے) معافی مانگ اور (لالی کے) کام میں ان سے مشورہ لے پھر جب تو
توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین ۝

ایک بات پر غم جلتے تو اللہ پر بھروسہ رکھ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

۱۵۹ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ
۱۵۹ ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝﴾

یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے تو تو ان سے درگزر کر اور انہیں سمجھا اور ان کے
فی انفسہم قولا بلیغا ۝

دو بات کہہ جو ان کے دلوں میں گھر کر جائے

۱۶۰ ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ أَنْ يُجْشِرُوا إِلَىٰ سَرَابٍ مُّسِيئَةٍ لَهُمْ دُورٌ مِّنْ دُونِهَا وَلِيَّ
۱۶۰ ﴿وَلَا تَنْفِيحٌ لِّعَاقِبَتِهِمْ يَتَّقُونَ ۝﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ سَرَابًا بِالْغَدَاةِ وَهُمْ

اور (اے نبی) اس (قرآن) کے ذریعے سے ان کو لوگوں کو ڈرا جو اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف اکٹھے کئے
و لا تنفیح لعیاقبتہم یتقون ۝ ولا تطردی الذین یدعون سرابا بالغدایۃ وہم
جائیں گے ان کا اس کے سوانہ کوئی دوست ہے اور نہ سفلی تا کہ وہ پرہیزگار بن جائیں اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ نکال جو
والعشیرۃ یریدون وجہہ ہا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک

اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اسی کی ذات کے خواہاں ہیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان کا کچھ ذمہ ہے (یہیں ایسا نہ ہو)
علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین ۝ وکذالک فننا بعضہم

کہ تو انہیں (اپنے پاس سے) نکال دے پھر تو (بھی ظالموں میں سے ہو جائے اور اسی طرح ہم نے ان میں سے ایک کو ایک
ببعض لبقولوا اھلکاء من اللہ علیہم من بیننا والیس اللہ باعلم بالشکرین

سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی دو لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا ہے (تو کیا اللہ فکر گزاروں
ہے و اذا جاءک الذین یؤمنون بایتنا فقل سلم علیکم کتب سر بکم علی

کو اچھی طرح کہ نہیں جانتا اور (اے نبی) جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ تم پر سلامتی
نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم سوء بجمالیۃ ثم تاب من بعدہ و

ہے تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت فرض کر لی ہے کہ جو تم میں سے ناگاہی سے کوئی بڑا کام کر بیٹھے اور پھر اس
واصلہ فانہ عفو ورحیم ۝ وکذالک تفصیل الایۃ ولتستبین سبیل

کے بعد تو بکر لے اور اصلاح پر آجائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے
المجربین ۝

ہیں اور اس لئے دکر تے ہیں تاکہ گنہگاروں کی راہ ظاہر ہو جائے۔

۱۱۵ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنَّهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ

اور اے نبی، تو اپنی آنکھیں اُس بل کی طرف نہ پھیلا جس کے ساتھ ہم نے اُن میں سے کتنی ہی جہتوں کو نادمہ بنیایا اور اُن

انْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

پر خم نہ کر اور مسنونوں کے لئے اپنے (ماترزی کے) بازو جھکا دے

۱۱۸ وَأُصِبرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

اور اپنے آپ کو اُن لوگوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کر جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی ذات چاہتے

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

ہیں اور چاہیے کہ تیری آنکھیں اُن سے تجاوز نہ کرے کہ تو دنیا کی زینت کی آرائش چاہنے لگے اور اُس کا کہا زمانہ جس کے

عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا فَرِطًا ۝ ۱۱۹ وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ

دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش (تفانی) کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اُس کا کام مد سے بڑھ گیا ہے

فَلْيُؤْمِنُ مِمَّنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۝

اور کہہ کر یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے سو چو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے (اُس کا) انکار کرے

۱۲۱ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۱۲۲ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ

اور اے نبی، مسنونوں میں سے جو تیرے تابع ہو گئے ہیں اُن کے لئے (تواضع) کے بازو کھچا دے پھر اگر وہ تیری نافرمانی

إِلَىٰ رَبِّي فَمَا تَعْمَلُونَ ۝

کریں تو کہہ دے کہ جو تم کرتے ہو میں اُس سے بیزار ہوں۔

۱۲۴ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ ۱۲۵ وَأَبْصِرْ هُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝

تو (اے نبی) ایک وقت تک اُن سے موہہ پیرے لے اور اُن کو دیکھتا رہ غنقریب ہی وہ دیکھ لیں گے

۱۲۶ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ ۱۲۷ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝

کیا وہ ہمارے عذاب ہی کے لئے جلدی پھا رہے ہیں سو جب وہ (غضب) اُن کے صحنوں میں اترے گا تو اُن ڈرائے گیوں کی صبح

۱۲۸ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ ۱۲۹ وَأَبْصِرْ هُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝

اور تو ایک مدت تک اُن سے موہہ پیرے اور دیکھتا رہ غنقریب ہی وہ بھی دیکھ لیں گے

۱۳۰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ۝

اور اے نبی، بے شک تو بڑے (اعلیٰ) خلق پر ہے۔

۱۳۱ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

تو اپنے پروردگار کے حکم کا منتظر اور کھیل دے (یونس) کی طرح (بے صبر) نہ ہو جب اُس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا اور وہ

۱۳۲ وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

اور وہ (رسول) غیب کے بتلانے پر نہیں ہے

۳۴۔ آپ کی شفقت و رحمت

۱۲۸ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ د

اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں (نبی) ان کے حق میں رحمت ہے

۱۲۹ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا اس پر تمہاری تکلیف خاق ہے تم پر حریص ہے مومنوں پر شفیق

۱۳۰ بِأَسْمَائِينَ سُرُوفٍ سَرَّحِيمٌ ۝ إِنَّمَا فِئ تَوَكُّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا

مہربان ہے پھر اگر وہ سونہ موٹیں تو دے ہی کہہ دے کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

۱۳۱ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔

۱۳۲ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسًا عَلَىٰ أَلْبَابِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝

سو دے نبی، شاید تو اس غم میں کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے ان کے پیچھے اپنی جان کھونے والا ہے۔

۱۳۳ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور دے نبی، ہم نے تو تجھے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

۱۳۴ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرًا ۝

تو دے نبی، ان کے پیچھے کہیں حسرتوں کے مارے تیری جان ہی نہ جاتی رہے۔

۱۳۵ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

دے نبی، کہہ دے کہ میں اس پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا وہ تو جہان والوں کے لئے نصیحت ہے اور بس

۱۳۶ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور میں اس پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا وہ تو جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے اور بس

۱۳۷ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ۝

اے نبی، کیا تو ان سے کچھ مال مانگتا ہے سو تیرے پروردگار کا مال بہتر ہے اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے

۱۳۸ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يُعْجِزَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

دے نبی، کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا مگر جو شخص یہ بات چاہے کہ وہ اپنے پروردگار کی راہ اختیار کر لے (وہ کہے)

۱۳۹ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

دے نبی، کہہ دے کہ جو کچھ مزدوری میں نے تم سے مانگی ہو تو وہ تم ہی کو مبارک ہو میری مزدوری تو صرف اللہ کے ذمے

شَيْءٍ شَنِيدٌ ۝

ہے اور وہ ہر شے پر موجود ہے

۱۴۰ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝

دے نبی، کہہ دے کہ میں اس پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا اور میں بنا دہی آدمیوں میں سے نہیں ہوں

۳۴۔ آپ کا لوگوں سے بے غرض اور مستغنی رہنا

۲۳ قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى

(اے نبی! مجھ سے اس پر تم سے بجز رشتے کی محبت (قائم رکھنے) کے کچھ مزدوری نہیں مانگتا۔

۲۴ اَمْ كَسَلْتُمْ اَجْرًا فَاَنْتُمْ مِّنْ مَّعْرُومٍ مُّثْقَلُونَ

(اے نبی! کیا تو ان سے کچھ مزدوری مانگتے ہے کہ وہ توادان کے پوجھ سے دبے جا رہے ہیں

۲۵ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنْ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ

اور (اے نبی!) اگر ان کی (حق سے) روگردانی تجھ پر شاق گذرتی ہے تو اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تو زمین میں کوئی سوراخ ڈھونڈ

اَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاوٰتِ فَتَاْتِيَهُمْ بَايَةٌ ۙ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعْتَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَآ لَكُنَّ

نکالے یا آسمان پر کوئی پیر (ملا کر چڑھ جاتے) اور تو ان کے پاس کوئی نشانی دے گئے (تو تو انہی ہی کو دیکھ) اور اگر اٹھ چاہتا

مِنَ الْجِبَالِ ۙ اِلَيْهِ الْمَا سْتَجِيبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ

تو ان کو آیت پر جمع کر دیتا تو جاہل ذہن قبول تو بس وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو تو اسد ہی اٹھائے

اِلَيْهِمْ يَرْجَعُونَ

۱-۳-آپ کا اظہار مجز
مہجرات و دیگر خوبت سے

گا۔ پھر وہ اسی کی طرف اٹھنے جائیں گے۔

۲۶ قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَايِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ

(اے نبی! کہہ دے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب نہیں جانتا اور میں تم

مَلِكٌ اِنْ اَتَّبِعْتُمْ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيْ ۙ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَفَلَا

سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں میں تو بس اسی پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے (اے نبی)

تَتَفَكَّرُونَ

کہہ دے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہیں تو کیا تم سوچتے نہیں۔

۲۷ قُلْ اِنِّيْ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ تَرَابٍ وَّكُنَّا بِهٖ اَمَّا عِنْدِيْ مَا يَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ

(اے نبی! کہہ دے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل ہوں اور تم نے اُسے بھٹلا دیا۔ میرے پاس وہ (غذاب)

اِنَّ الْحَكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ ۙ يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ۙ قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِيْ

تو ہے نہیں جس کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو حکم تو بس اللہ کا ہے وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنا والا ہے (کہ

مَا يَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقَضٰى الْاَمْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظٰلِمِيْنَ

نبی! کہہ دے کہ اگر میرے پاس وہ (غذاب) ہوتا جس کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہی ہو چکا ہوتا

۲۸ قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۙ وَلَوْ كُنْتَ اَعْلَمُ الْغَيْبِ

(اے نبی! کہہ دے کہ میں اپنی جان کے نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مگر اُسنا ہی جتنا اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا

لَا سُنَّكَ لَمُرْتَدًّا مِنَ الْخَيْرِ وَمَا سُنَّيْ السُّوْعٰى

تو میں اپنے لئے (افسوس) سے بھلائی جمع کر لیتا اور تجھے (کبھی کوئی) تکلیف نہ پہنچتی

۱۰۹ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ بِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا

۱۰۹ (اے نبی) کہہ دے کہ میں اپنی جان کے نقصان (بچنے) پر قادر ہوں اور نہ نفع مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ ہر ایک
جَمَاءٍ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

۱۰۹ (اے نبی) اگر وہ مومن نہ ہوں تو کہہ دے کہ میں نہیں برابر کی حالت میں (جنگ کا) اعلان کرتا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ جو
مات کے لئے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت آجاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ (ایک گھڑی) آگے ہی
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلْنَا أَذُنًا لَكُمْ عَلَىٰ سَوَاحِدِ أُولَٰئِكَ أَقْرَبُ أَقْرَبًا وَمَا

۱۰۹ تُوَعِدُونَ ۝ وَإِنَّكُم لَعَالَمٌ لِّمَا تَكْفُرُونَ ۝ وَإِنَّكُم لَعَالَمٌ لِّمَا تَكْفُرُونَ ۝ وَإِنَّكُم لَعَالَمٌ لِّمَا تَكْفُرُونَ ۝
۱۰۹ (اے نبی) اگر وہ تم سے پیچھے ہو گا تو تم سے پہلے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں
أَذْرًا لَّيْسَ لَكُمْ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

۱۰۹ نہیں جانتا شاید یہ دُعا میں تمہارے لئے آزمائش اور ایک وقت تک نافع و پہنچاتا ہو
إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّغِيرَ الدَّاعِيَ إِذَا أَوْكَا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا

۱۰۹ (اے نبی) بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو پکارنا سکتا ہے (خصوصاً اس وقت) جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں اور
أَنْتَ بَهْدِي الْعَمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّكَ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

۱۰۹ تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے (نکال کر) ہدایت کرنے والا نہیں ہے تو صرف انہیں کو سنا جاتا ہے جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

۱۰۹ (اے نبی) بے شک تو جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتا لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت کرے اور وہ ان کو خوب جانتا ہے جو ہدایت
وَلَيْنَ أَسْأَلُنَا رِجَالًا قَرَأُوا مَصْفُورًا فَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهَا يَكْفُرُونَ ۝ فَإِنَّكَ

۱۰۹ اور اگر ہم ایک ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد دیکھیں تو وہ اس کے بعد بھی ضرور ہی کفر کریں سو بے شک تو نہ مردوں
لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّغِيرَ الدَّاعِيَ إِذَا أَوْكَا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ

۱۰۹ کو سنا سکتا ہے اور نہ بہروں کو پکار ہی سنا سکتا ہے (خصوصاً اس وقت) جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں اور تو اندھوں کو
بَهْدِي الْعَمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّكَ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

۱۰۹ ان کی گمراہی سے (نکال کر) ہدایت کرنے والا نہیں ہے تو صرف انہیں کو سنا جاتا ہے جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہی
أَفْسَنْ حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ

۱۰۹ تو کیا جس پر عذاب کا وعدہ پورا نہیں کیا (تو اسے بچا لیا) کیا تو اسے چھڑالے گا جو آگ میں ہے
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ

۱۰۹ اور زندہ اور مرنے والے برابر نہیں ہیں بے شک اللہ جسے چاہے سنا دے اور تو تو انہیں سنانے والا نہیں ہے
بِسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْإِسْنِدِيُّ ۚ

جو قبروں میں (بے پڑے) ہیں۔ تو تو صرف ایک ڈرانے والا ہے اور بس

مردی سنان میں

Marfat.com

۲۱

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
 وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝

بے توبہ سے اسی کی طرف (تجھے) رہو اور اس سے مغفرت مانگو اور مشرکوں کے لئے خرابی ہے

۲۲

أَفَأَنْتَ نَسِيتَ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي لِعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

تو کیا تو بہرے کو سنا دے گا یا اندھے کو راہ پر لگا دے گا اور اس کو جو کھلی گمراہی میں ہے

۲۳

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاةِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَايَ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ
 إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

میں تو صرف اٹھی پھلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے اور میں صرف کھول کر ڈرانے والا ہوں اور بس

۲۴

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ لِي أَمْرٌ لَّهُ سَاطِعٌ أَمْ لَكَ ۝

اے نبی! کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ جس (غضب) کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا پروردگار اس کیلئے عیب و عجز

۲۵

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ
 ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

اے نبی! کہہ دے کہ میں تو بس اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دے

۲۶

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
 مِنَ الْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ وَأَسْتَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَلَقَوْا مِنْ رَبِّكَ خِيبًا وَأَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَخْفَىٰ مِنْكُمْ خِيبًا ۝

بھلنے اور توخیاں کرنے والوں کی طرف سے عجاہانہ کر اور اللہ سے معافی مانگ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۲۷

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ
 ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

اور ان کی طرف سے عجاہانہ جو اپنی جانوں کی خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے کو پسند نہیں کرتا جو

۲۸

خَوَّانًا أَنِيبًا ۝ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ
 خَبِيرٌ ۝

خیانت کرنے والا گنہگار ہو یہ لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے اور جب وہ

۲۹

مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مَا كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

ناپسندیدہ باتوں کا مشورہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ ان کے کاموں کو گہرے ہوئے ہے

۳۰

قُلْ هَآءِ سُنَّتِي مَنْ هُوَ إِلَّا جَادِلْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ
 فَرَارٌ هُوَ إِذْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ فَيُقَاتِلْهُ فَمَا لَمْ يُقَاتِلْهُ ۝

خبردار ہو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جگڑا لیا تو قیامت کے دن ان کی طرف

۳۴۔ آپ کو خدا کی طرف سے
 تنبیہ ہوئی

عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا

۳۷ سے کون جبارے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا
مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يَبْتَئِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ

نبی کو زب نہیں دیتا کہ جب تک وہ ملک میں بھی طرح مرد و عاقل نہ کر لے اس کے پاس تیدی ہیں تم تو دنیا کا مال و متاع
الدُّنْيَا زُيِّنَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يُزِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۳۷ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ

چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اگر اللہ کی طرف سے پہلے تحریر نہ ہو چکی
سَبَقَ لَكُمْ فِيهَا مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۳۸

۳۸ ہوتی تو جو (فدیہ) تم نے لیا ہے اس (کی سزا) میں تمہیں ضرور بڑا بھاری عذاب پہنچتا۔
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ

۳۹ (اے نبی) اللہ تجھے معاف کرے تو نے انہیں (جہاد سے پیچھے رہ جانے کی) کیوں اجازت دی (اس وقت تک ممبر کرتا)
الْكٰذِبِيْنَ ۳۹

۴۰ کہ تو ان لوگوں کو متاثر کر لیتا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جان لیتا
مَا كَانَ لِنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا اٰوْلٰدِ

نبی اور مسلمانوں کو مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کی مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں
قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۴۰

۴۱ جبکہ ان پر ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ لوگ دوزخی ہیں
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

۴۲ اور (اے نبی) وہ وقت یاد کرنا جب تو اس شخص سے کہتا تھا جس پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ اپنے پاس اپنی بیوی کو روک
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَحْفِظِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ

۴۳ رکھ۔ اور اللہ سے ڈر۔ اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور تو لوگوں سے ڈرتا
اَنْ تَخْشَاهُ ۴۱ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدًا مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا بِكَ الْيَتٰمٰى لَئِيْ لَا يَكُوْنَ عَلٰى

۴۴ تمہارا حالانکہ اللہ ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈرے پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت
الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٍ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرٌ

۴۵ پوری کر چکا تو ہم نے اسکا نکاح تجھ سے کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں جب وہ
اللَّهُ مَفْعُوْلًا ۴۲ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ

۴۶ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو اللہ کا کام ہو کر رہتا ہے نبی پر اس بات میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس
اللَّهُ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّفْعُوْلًا ۴۳ وَالَّذِيْنَ

۴۷ کے لئے ٹھہرا دی ہے یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو پہلے ہو گئے ہیں اور اللہ کا کام انہیں پر ٹھہرا ہوا ہے

يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشُونَ وَلَا يَحْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 وہ (پہلے) جو اللہ کے پیغام (لوگوں کو) پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے
 حَسِبًا ۝

نہیں ڈرتے اور حساب لینے والا اللہ کا ہی ہے۔

۱۰ ۝ عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ ۱۱ ۝ إِنَّ جَاءَكَ الْإِعْلَىٰ ۝ ۱۲ ۝ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهَا يَتَزَكَّىٰ ۝
 (نبی نے) تیوری چڑھائی اور سوہنہ پھیر لیا اس بنا پر کہ اُس کے پاس ایک اندھا آیا اور (اے نبی) تو کیا جانے شاید
 ۱۰ ۝ اُوْبَيْدُ كَرَفْتَنَفَعَهُ الَّذِي كَرِهَ ۝ ۱۱ ۝ أَمَا مِنْ اسْتَعْزَىٰ ۝ ۱۲ ۝ فَأَنْتَ
 روپاک ہو جانا یا وہ نصیحت سننا اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ مگر جو بے پروائی کرتا ہے تو اسی کے نیچے
 لَهُ نَصْدَانِي ۝ ۱۳ ۝ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَتَزَكَّىٰ ۝ ۱۴ ۝ وَأَمَا مِنْ جَاءَكَ لَيْسَىٰ ۝
 پڑتا ہے اور تیرا اس میں کیا نقصان ہے اگر روپاک نہ ہو۔ لیکن جو تیرے پاس روڑ کر آتا ہے اور وہ
 ۱۳ ۝ وَهُوَ يَحْتَسِبُ ۝ ۱۴ ۝ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝
 (راخڑے) ڈرتا ہے تو تو اُس کی طرف سے غفلت کرتا ہے

آپ اور آپ کے اصحاب کیسا تمہارے کافروں کی بدسلوکیاں

۱۰ ۝ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ
 کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب نہ ہو کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف سے پیغام بھیجا کہ لوگوں کو (غضب خدا سے) ڈرا اور جو لوگ ایمان
 آمَنُوا أَنْ هُمْ قَدِمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝
 لے ہیں انہیں۔ بشارت دے ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لئے وحی کا تم یہی بلند مرتبہ ہے) اور کافروں نے کہا کہ یہ تو سحر
 ۱۰ ۝ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
 اور (اے نبی) اگر تو ان سے کہے کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

جادو ہے اور بس

۱۱ ۝ وَأَسْرُوا الْجَنُودِ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ
 اور جو لوگ ظالم ہیں انہوں نے پوشیدہ ایک دوسرے کے کان میں کہا کہ یہ (پہنبر) تو تم ہی جیسا ایک بشر ہے
 التَّحَرُّرِ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ۝
 تو کیا تم آنکھوں دیکھتے جا دو میں پہننا چاہتے ہو؟

۴۸ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِيْنَا مِثْلَ مَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ ؕ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا قَدْ قَالُوا لَوَآئِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْمُهْتَمِينَ ۚ قَالُوا لَوْلَا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ قَبْلُ لَأَبْدُوكُمُوهَا ۖ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ ۝

ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم سب کے ہی منکر ہیں

۴۹ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝
۵۰ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝ وَإِذَا ذُكِرُوا بِالْآيَاتِ كَرُوهَا ۝ وَإِذَا سَأرُوا

اور جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے حق کی نسبت جب وہ ان کے پاس آیا کہا کہ یہ تو سولے کھلے جادو کے اور کچھ بھی

۵۱ اِيَّاهُ يَسْتَسْخَرُونَ ۝ وَقَالُوا إِنَّا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

اے بنی اسرائیل تو تعجب کرتا ہے اور وہ منسی اڑاتے ہیں اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت نہیں سیکھتے اور

۵۲ وَيَعْبُوا إِن جَاءَهُمْ مُّذَنَّبٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

اور انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا

۵۳ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور تم تو اس کو مانتے نہیں

۵۴ وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِآيَاتِنَا قَالُوا لَوْلَا نُنزِّلُ الْسَّمَاءَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ

اور جب ان پر ہماری کھلی آیتیں پڑ ہی جاتی ہیں تو جو لوگ کافر ہیں وہ حق کو جب ان کے پاس آتا ہے کہہ دیتے

۵۵ سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے

۵۶ إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّيْقَاقُ الْقَمَرُ ۝ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ ۝

قیامت قریب آگئی اور چاند ٹھٹ گیا اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو (اُس کی طرف سے) مومنوں کو پھیر لیتے

۵۷ وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِآيَاتِنَا قَالُوا لَوْلَا نُنزِّلُ الْسَّمَاءَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ

ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو تو ہم سے چلا آتا ہے

۵۸ وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِآيَاتِنَا قَالُوا لَوْلَا نُنزِّلُ الْسَّمَاءَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ وَإِنَّا لَنُنزِّلُ السَّمْعَ بِآيَاتٍ مُّزَيَّنَةٍ ۖ

اور (اے نبی) وہ وقت یاد کر جب مدینہ کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے نبی اسرائیل میں تمہاری اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو رات

۵۹ لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَبَشِّرَ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ

کی جو مجھ سے پہلے ہے میں تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی جو میرے بعد آئیگا بشارت دینے والا ہوں اُس کا

أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

نام احمد ہو گا۔ پھر جب وہ (رسول) ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے
فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوَثَّرُ ۝

پھر اس دکا نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں نرا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آیا ہے۔

عَنْ أَعْمُرٍ مَّا يَسْتَفْعُونَ بِهِ إِذْ لَيْسَ مَعَهُنَّ إِلَهٌ وَآذَهُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ ۝

انم خوب جانتے ہیں جس نیت سے وہ اس پر کان لگاتے ہیں جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی
ان تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا فَسُحُورًا ۝ انظر كيف ضربوا لك الامثال
کرتے ہیں جب تم لالہ کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو کے بارے میں کہتے ہو (نہی) دیکھ کر انہوں نے تجھ
فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

پر کیسی مثالیں ڈھالیں سو وہ گمراہ ہو گئے اب وہ لالہ نہیں پا سکتے

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت اتاری گئی ہے کچھ بھی شک نہیں کہ تو دیوانہ ہے

وَمِنَ الَّذِينَ يُوذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ قُلٌّ أَذِنُوا لَكُمْ يٰ قَوْمِ ۝

اور بعض ان میں سے ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو نرکان ہے رہر کسی کی بات پر یقین کر لیتا ہے) اے نبی کہہ
يَا لَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

اے کہ نہ ہارے بھلے کے لئے کان ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کا یقین کر لیتا ہے

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْتِلُواكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُجْرِبُوكَ ۝

اور (اے نبی) وہ وقت بھی یاد کر جب تیرے بارے میں وہ لوگ جو کافر ہوئے بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھ پر کافر کر دیں

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

اور (رسول نے) کہا کہ میرے پروردگار (میرے اور میرے مٹانوں کے درمیان) حق حق فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار وہ بہرمان ہے
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۝

اور جنہوں نے ظلم پہننے کے بعد راہ فرما دی ہے ہجرت کی ہم انہیں ملک میں ضرور اچھے ٹھکانے پر لگا کر رہیں گے

إِلَّا تَنْصَرُوا فَكَلَّا نَمُوتُ فَكَلَّا اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا ۝

دو لوگوں! اگر تم اس کی مدد کرنا چاہو تو اس کی اُس وقت مدد کرنا چاہیے جب اسے کافروں نے (اس کے گھر سے ایسے حال میں نکالا تھا
فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ۝

کہ وہ دو طرفہ تھا اور کاجیب وہ دونوں غار میں (جا کر چھپے) تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تم نہ کہے شکر اللہ ہماری ساتھ

عَلَيْهِ وَأَيُّهَا بَجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۝

ہے پھر اللہ نے اس پر اپنی تسکین اتاری اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور جو لوگ کافر تھے

۲۔ کافر کہتے کہ شخص جادو کا مارا گیا ہے

۳۔ آپ کو کافر دیوانہ کہتے تھے

۴۔ آپ کو کان کا کچا کہتے تھے

۵۔ آپ کو جان سے مارنے کی سازش

۶۔ آپ کو کافروں کے ظلم پر خدا سے مدد مانگنا

۷۔ اصحاب کا مجبور ہو کر ہجرت کرنا۔

۸۔ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو وطن سے ہجرت پر مجبور کرنا

كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

۱۳۱ ان کی بات کو نجا کر دیا اور اللہ کی جہات ہے وہ بالا ہے اور اللہ غالب مکت والا ہے۔
وَكَاتِنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ
اور داسے نبی اکتی ہی بستیاں ہیں جو تیری اس بستی سے جس نے تجھے نکالا تو ت میں بڑھ چڑھ کر تھیں ہم نے ان
فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

۱۳۲ کو ہاک کر مارا سو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا
يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّا لَكُمُ أَن تَوْصِيُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۝
وہ رسول کو اور تمہیں اس بات پر گھر سے نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو
۱۳۳ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
خیرات ان ہاجر فقیروں کا حق ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں
۱۳۴ وَلَا يَجْزِيكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۝
اور داسے نبی تجھے وہ لوگ جو کفر میں دوڑے دوڑے پھرتے ہیں غم میں نہ ڈالیں

۱۳۵ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تجھے وہ بات غم میں ڈالتی ہے جو وہ کہتے ہیں سو وہ تجھے نہیں جھٹلاتے لیکن
بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ ۱۳۶ وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَعَالِي مَا
ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور بے شک تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے
كَذَّبُوا وَأَوْدَوْا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ
(اپنے) جھٹلائے جانے اور ستائے جانے پر مبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کی باتوں کا
مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۳۷ كُوْنِي يَدْلُوْنَ وَاللَّيْسُ بِهٖ اُوْرَبُ شَكِّ تِيْرِيْ بِاسْمِ رَسُوْلُوْنَ كِيْ بَعْضِ خِيْرِيْ اَبْكِيْ هِيْنَ
کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور بے شک تیرے پاس رسولوں کی بعض خیریں ابھی ہیں
۱۳۸ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
(اسے نبی) اپنی آنکھیں اس مال جاہ و جلال کی طرف نہ پھیلا جس کے ساتھ ہم نے ان میں سے کئی جماعتوں کو فائدہ
وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِيْنَ ۝

۱۳۹ پینچا یا ہے اور ان پر غم نہ کر اور مومنوں کے لئے اپنے (تواضع کے) بازو جھکا دے
۱۴۰ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ۝ ۱۴۱ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۝
اور بے شک تمہیں ہانکنے والوں کے لئے ہم تیری طرف سے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو
۱۴۲ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ ۱۴۳ وَلَقَدْ لَعَلَّمَ اَنَّا كَبَّيْضِقُ صَدْرِكَ يَا يَقُولُونَ ۝
غضب یہی وہ (مزمز) معلوم کر لیں گے اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے تیرا دل تنگ ہوتا ہے

۱۳۲ کفار کی ایذا دہی پر خدا
تعالیٰ کا آپ کو تسلی دینا

۱۵ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ ۝ ۱۶﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ

تو تیرے پروردگار کی تعریف کے ساتھ (اُس کی پاکی بیان کر اور سجدہ کرنے والوں میں رہ اور اپنے پروردگار کی عبادت
يَأْتِيكَ الْبَقِيَّةُ ۝

کر تا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آجائے

۱۷ ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝

اور اے نبی! ان پر غم نہ کر اور جو کمرہ کرتے ہیں اُس سے دل تنگ نہ ہو۔

۱۸ ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَا لَيَجْزُنَّكَ كُفْرُهُ أَهْلِ الْإِيمَانِ مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ

اور (اے نبی) جو کفر کرے اُس کا کفر تجھے ٹھیک نہ کرے بلکہ ہی طرف اُن کو لوٹ کر آنا ہے پھر ہم انہیں بتائیں گے
اللَّهُ عَلَيْهِم بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

جو جو عمل انہوں نے کئے ہیں بے شک اللہ سینوں کی (جیسی) باتوں کو جانتا ہے

۱۹ ﴿فَلَا يَجْزِيكَ فُؤُؤُهُمْ أَنَا نَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

(اور اے نبی) اُن کا قول تجھے غم میں نہ ڈالے بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں

﴿مَّا يَكْتُمُونَ لِرَبِّكَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافًا وَكَذِبًا﴾

تکلیف شرعی سے آزادی

نہ آپ کو اور نہ آپ کے عزیز و اقارب کو

۲۰ ﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۲۱﴾ لَا

(اے نبی) کہہ دے کہ بے شک میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہان کا

شَرِيكٌ لَهُ: وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ ۲۲﴾ قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ

پروردگار ہے اُس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں (اے نبی) کہہ دے کہ کیا

أَبْغَىٰ رَبًّا وَآوَهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ

میں سولے خدا کے کوئی دوسرا پروردگار تلاش کروں (اللہ) نہ کسی ہر شے کا پروردگار ہے اور جو کوئی بھی بڑا کام کرتا ہے وہ اپنے ہی رب

وَازْسَأْهُ وَرَسُولَهُ الْآخِرَىٰ: ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۲۳﴾

کیلئے کرتا ہے اور کوئی پوچھا ٹھانے والا دوسرے کا (اللہ) نہیں اٹھایا گیا ہے اس پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سو وہ نہیں

۲۴ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۲۵﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲۶﴾ لَمْ يَلِدْ ۝ ۲۷﴾ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۲۸﴾ وَلَمْ

(اے نبی) کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ خود اس نے کسی کو جنم اور نہ وہ خود کسی سے جنم لیا

اس آپ کو توحید کا حکم

﴿مَّا يَكْتُمُونَ لِرَبِّكَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافًا وَكَذِبًا﴾

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے
قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور نیز اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے اور (نیز) اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ سَبِّهِمْ

اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی
لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

طرف سے دیا گیا ہے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

اے رسول جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے اس کو (نوگوں تک) پہنچا دے اور اگر تو نے ایسا
مِن سُلْتَانَةٍ وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۝

نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہ پہنچا یا اور لوگوں سے اللہ تیری حفاظت کرے گا
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ وَاللَّهُ

اور اے نبی تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر جوارہ ہم تجھ سے کچھ روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیتے ہیں
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ ۝

اور (اے نبی) رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ نماز تہجد پڑھو یہ تیرے لئے زائد حکم ہے
يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سَبِّحْ نِصْفَهُ أَوْ نَقُصْ مِنْهُ

(اے) پادریں لیٹنے والے رات کو (نمازیں) اکر اکر ہا کر مگر تھوڑا سا یعنی) آدھی رات تک یا تو اس میں سے کچھ تھوڑا
قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ

ساکم کر دے یا اس پر (کچھ) زیادہ کر دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر پڑھا کر بے شک ہم تجھ پر ایک بھاری بات
قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ

ڈالیں گے بے شک رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سٹوٹرا اور قول کو زیادہ درست کرنے والا ہے بے شک
لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

دن میں تجھے طویل رات ہے اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر اور (سب سے) قطع تعلق کر کے اس کی طرف رجوع ہو جا
فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ الْإِنْفُسَ

تو (اے نبی) تو اللہ کی راہ میں لا مرت تیری ہی جان کو تکلیف دی جاتی ہے
نَفْسٍ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعِذْ بِرَبِّكَ إِنَّكَ كَانَتْ تَوَّابًا ۝

اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پائی بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگ بے شک وہ توبہ قبول

۲- انبیاء سابقین پر ایمان لانے کا حکم

۳- تبلیغ وحی کا حکم

۴- آپ اور آپ کے اہل عیال کو نماز کا حکم
۵- تہجد کی تاکید

۶- آپ کو بذات خود جہاد کا حکم

۷- آپ کو تسبیح و تہجد اور استغفار کا حکم

۵۵. **وَاسْتَغْفِرْ لِنَبِيِّكَ وَسَلِّمْ بِحَمْدِ سَرِيَّاكَ بِالْعِشِيِّ وَالْأَبْكَارِ**

اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ پاک بیان کرو شام و صبح

۱۹. **وَاسْتَغْفِرْ لِنَبِيِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ**

اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مؤمنین اور مؤمنات کے گناہوں کی بھی۔

۲۲. **وَإِنَّ مَرَّ عَيْشِيَرَتِكَ إِلَّا قَرِيبِينَ**

اور (اے نبی) اپنے قریبی رشتہ داروں کو (ہمارے عذاب سے) ڈرا۔

۹۲. **لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ سَرِيَّاكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ**

اے نبی! بے شک تیرے پاس پروردگار کی طرف سے حق آچکا ہے تو شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو

۹۵. **وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ**

اور (اے نبی) ان لوگوں میں ہرگز نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو مہمل یا کراہت میں (تو گمانا اٹھانے والوں میں) ہو جائیگا

۱۲۰. **وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ**

اور (اے نبی) اگر تو اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ کی طرف سے نہ کوئی تیرا

مِنْ دَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

درست بے ضرر نہ ہوگا

۱۲۷. **وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِذْ لَمْ يَنْظُرِيَنَّ**

اور (اے نبی) اگر تو اس کے بعد بھی کہ تیرے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلا تو اس صورت میں بے شک تو بھی ظالموں میں

۱۱۷. **وَأَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا**

اور (اے نبی) اگر تو اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں اطاعت کرے گا تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو زے

الظَّنِّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

۱۱۸. **إِنَّ سَرِيَّاكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ**

سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ جو ہدایت پر ہیں

۱۱۳. **وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ دَرِيٍّ وَلَا وَاقٍ**

اور (اے نبی) اگر اس کے بعد بھی کہ تیرے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ کی طرف سے نہ کوئی تیرا درست ہے اور نہ کوئی

۲۵. **وَلَا لَطْعَمٍ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا**

اور (اے نبی) اس کی اطاعت نہ کر جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کا

۲۲. **فَلَا تَطْعَمِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهَيْبَةِ جِهَادِ كِبِيرًا**

تو (اے نبی) تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑے زور سے لڑ۔

۸- آپ کو اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا حکم

۹- اپنے اور مؤمنین کے گناہوں کی بھی

۱۰- اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرانیکا حکم

۱۱- شرعی امور میں شک کی ممانعت۔

۱۲- نیکو کامیابی کے حکام شرع کی ممانعت

۱۳- منکروں کی اطاعت کی ممانعت

۱۳۳ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

اے نبی! اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مان

۱۳۴ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

اور (اے نبی) کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مان

۱۳۵ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝

تو اے نبی تو جھٹلانے والوں کا کہا نہ مان اور ہر ایک ذلیل قسم کھانے والے کا کہا نہ مان

۱۳۶ كَلَّا لَا تَطِيعُهَا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

برگز نہیں تو ان کا کہا نہ مان اور سجدہ کر اور (خدا کے) نزدیک ہو

۱۳۷ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اور اے نبی تو مشرکوں میں مت ہو

۱۳۸ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قِبَلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ

اور اے نبی! بے شک تیری طرف اور ان کی طرف جو تجھ سے پہلے ہوئے ہیں وہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرے

۱۳۹ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ

عمل کا رت ہو جائیں گے اور ضرور تو گھٹا اٹھا اٹھا نیوالوں میں سے ہو جاؤ گے بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شرک گدا رو

۱۴۰ وَإِذَا لَمْ يَأْتِكَ مِنَ الْبَنَاتِ فَتُكْفَرْنَ بِهِمْ وَإِذَا لَمْ يَأْتِكَ مِنَ الْبَنَاتِ فَتُكْفَرْنَ بِهِمْ

اور اے نبی! اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا تو تو کسی قدر ان کی طرف تھک ہی جاتا اس صورت میں ہم

۱۴۱ ضِعْفًا الْحَيَاةِ وَضِعْفًا الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْهِمْ نَصِيرًا ۝

تجھے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ضرور ڈھری ڈھری مار کا مزہ چکھاتے پھر تو ہمارے مقابلے میں اپنے لئے کوئی مددگار نہیں

۱۴۲ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مَكَّنًّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ

نبی کی بیبیو! جو تم میں سے کھلی بے حیائی کا کام کرے گی اسے دو چند عذاب دیا جائے گا

۱۴۳ ضِعْفَيْنِ ۝ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

اور یہ بات اللہ پر آسان ہے

۱۳۴- شرک کی ممانعت

۱۳۵- اگر آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال بائیسگان ہیں

۱۳۶- آپ کو خدا کی نافرمانی پر دنیا اور آخرت میں ڈھری سزا

۱۳۷- نبی کی بیویوں کو گناہ پر دوہرا عذاب

ازواجِ مطہرات

<p>۳۳- النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَىٰ بنی مسلمانوں پر خدا کی باروں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُكَلِّمُوا آيَةً مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا اور (مسلمانو!) تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ اور نہ یہ (مناسب ہے کہ اس کے بعد کبھی إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝</p>	<p>۱- ازدواجِ پیغمبر مسلمانوں کی مائیں ہیں ۲- آپ کے بعد آپ کی ازواج سے کسی کو تکلیف کرنا ناجائز</p>
<p>۳۴- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَازِوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم محض دنیا کی زندگی اور آرائش ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں فائدہ دوں فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ لَكُمْ سَرَّاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ اور تم کو (اپنے پاس سے) عمدہ طرح پر نعمت کروں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی چاہتی ہو وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝</p>	<p>۳- پیغمبر کی ازواج کو اختیار کر دینا و آخرت میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں</p>
<p>۳۵- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسُنَّتْ كَاَحَابِيَّتِنَ النَّسَاءِ اِيْنَ اتَّقِيْنَ فَلَا تُخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ نبی کی بیویو! تم کچھ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم (اللہ سے) ڈرتی ہو تو (کسی سے) نرمی سے بات نہ کرو قَبِيْطَمَةَ النَّبِيِّ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَقُرْنُ فِيْ کردہ شخص جس کے دل میں کمبختی ہے (تم سے کسی طرح کی) توقع رکھے اور معقولیت سے بات کہو اور اپنے بِيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَىٰ وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَارْتَبِنَ گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلے جاہلیت کے وقتوں کا بناؤ سنگار نہ کرو اور نماز پڑھتی اور زکوٰۃ دیتی رہو الزَّكٰوٰةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے پیدای الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف بنا دے اور اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں اللّٰهِ وَالْحِكْمَةَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝ پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے</p>	<p>۴- پیغمبر کی ازواج عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں ان کو حکام خدا کی پابندی زیادہ ضروری ہے</p>

۵۔ آپ کی ازواج کن کن کے سامنے آسکتی ہیں

۵۱ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَسْنَائِهِمْ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ بَيْعٌ أَوْ عَهْدٌ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ حُرْمَةٌ كَمَا حُرْمَةٌ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَسْنَائِهِمْ وَلَا مَمْلُوكَاتِكُمْ إِيْمَانُهُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

گناہ ہے اور اے پیغمبر کی بیویوں سے ڈرتی رہو۔ بیشک اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے

۵۲ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَجْهِ حِجَابٍ

۶۔ پیغمبر کی بیویوں سے کچھ مانگو ہو تو پردہ کے نیچے سے مانگو

۵۳ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

۷۔ آپ کی بیبیاں اور سب مسلمان عورتیں چادر اوڑھ کر نکلا کریں

۵۴ مَنْ جَلَّابِئِهِمْ ذَلِكُ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِرُنَّ كَمَا اللَّهُ عَفُورٌ رَاحِمٌ

۵۵ بِنِسَاءِ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُم بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ

۸۔ پیغمبر کی ازواج کو گناہ پر گناہ عذاب اور نیکی پر گناہ ثواب

۵۶ وَصَنَعَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

۵۷ وَتَعْمَلُ صَالِحًا لِحَالَتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

۹۔ آپ کی کسی بیوی نے آپ کا کوئی راز افشا کر دیا اس کا قصہ

۵۸ عَلَيْهِ عَرَفَتْ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ

۵۹ أَبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَاتِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

۶۰ فَلَوْ بَكَتُمْ وَإِنْ تَطَهَّرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَانَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

۶۱ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو جَبَرُوتٍ أَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ سَرَبِيلٍ إِنْ طَلَّقْتُمْ أَنْ يُبَدَّلَ لَهُ

۶۲ أَرْثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَدُوًّا لَهُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ بَرًّا لَهُمْ فَمَا لَهُمْ بِأَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ بَرًّا لَهُمْ

۶۳

ازواج مطہرات

۲۳ ۴ النبی و اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہتہم
 بنی مسلمانوں بھان کی جالوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے اور اس کی بیویاں ان کی ماہیں ہیں
 ۲۳ ۵ و ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد کابد
 اور (مسلمانو!) تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ اور نہ یہ (مناسب ہے کہ اس کے بعد کبھی
 ان ذالکم کان عند اللہ عظیمًا ۵

۱۔ ازواجِ پیغمبر مسلمانوں کی
 ماہیں ہیں
 ۲۔ آپ کے بعد اپنی ازواج
 سے کسی کو نکاح کرنا ناجائز

۲۸ ۶ یا ایہا النبی قل لا زواجک ان کنن تر دن الحیوة الدنیا و زینتہا
 اسے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم محض دنیا کی زندگی اور آرائش ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں فائدہ دوں
 فتعالین امتیعکن واسر حکن سرا حامیلا ۶ ۷ وان کنن تر دن اللہ
 اور تم کو (اپنے پاس سے) عمدہ طرح پر رغبت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو
 ورسولہ والدار الاخرہ فان اللہ اعذ للمحسن من کن اجرا عظیمًا ۷

۳۔ پیغمبر کی ازواج کو اختیار
 کر دینا و آخرت میں سے
 کسی ایک کو اختیار کر لیں

۲۲ ۸ لینساء النبی لسن کا حدیث من النساء ان اتقین فلا تخضعن بالقول
 نبی کی بیوی! تم کچھ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم (اللہ سے) ڈرتی ہو تو (کسی سے) نرمی سے بات نہ کرو
 فیطمع الذی فی قلبہ مرض و قلن قولا معروفا ۸ ۹ وقرن فی
 کردہ شخص جس کے دل میں کھوٹ ہے (تم سے کسی طرح کی) توقع رکھے اور معقولیت سے بات کہو اور اپنے
 بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الا ولی و اقمن الصلوۃ و اتین
 گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلے جاہلیت کے وقتوں کا بناؤ سنگار نہ کرو اور نماز پڑھتی اور زکوٰۃ دیتی رہو
 الزکوۃ و اطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیبذہب عنکم الرجس اهل
 اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسے اہل بیت اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے پیدی
 النبیت و یطہرکم تطہیرا ۹ ۱۰ واذ کمن ما یسئل فی بیوتکن من ابیت
 کر دو اور کہو اور تمہیں پاک و صاف بنا دے اور اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں
 اللہ و الحکمة ان اللہ کان لطیفًا خبیرًا ۱۰

۴۔ پیغمبر کی ازواج عام عورتوں
 کی طرح نہیں ہیں ان کو حکام
 خدا کی پابندی زیادہ ضروری
 ہے

پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے

ازواجاً خیراً منکن مسلّماتٍ مؤمناتٍ فینبتت عیداتٍ سلیماتٍ
 اگر وہ تمہیں طلاق دیتے تو اسیدے کہ اس کا پروردگار اس کو تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ ایسا نادر فریضہ ہے۔
 نَبَّیْتُ وَأَبْكَأَلَهُ

خدا کی طرف رجوع ہونے والی عبادت گزار روزہ دار و حاجن اور کنواری

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
 اے پیغمبر ہم نے تیرے لئے تیری بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے تو نے ہیر دینے ہیں اور تیرے ہاتھ کا مال
 خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا لَا مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ

پھر بیویوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالوں کی بیٹیاں جو تیرے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں اور
 نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 کوئی سی مسلمان عورت جو اپنے تئیں بے ہیر پیغمبر کو دے دے بشرطیکہ پیغمبر اس کو نکاح میں لینا چاہے یہ بات خاص
 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
 تیرے ہی لئے ہے سب مسلمانوں کے لئے نہیں ہم نے جو عام مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کا حق
 عَلَيْكَ حَرْجٌ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

بہتر ٹھیکر دیا ہے ہم کو معلوم ہے اور تیرے لئے یہ خاص حق اس لئے ہے کہ تمہیں کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا
 لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْتَاعَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
 اسے نبی اس کے بعد تمہیں عورتیں نہ ہوں اور نہ یہ حلال ہے کہ ان سے تو کوئی اور بیوی بدل لے اگرچہ ان کا حق
 حُسْنٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

تمہیں حیرت میں ڈال دے مگر ہاں وہ جو تیرے ہاتھ کا مال ہے اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے
 تُرْجَى مِنْ نِسَاءِ مَنْهِنَّ وَتُرْوَى إِلَيْكَ مِنْ نِسَاءِ مَنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ
 نیز تو اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ رکھے اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھے اور جن کو تو نے الگ کر دیا تھا ان میں
 عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ بِذَلِكَ إِذْنًا أَنْ تَقْرَأَ عَيْنَهُنَّ وَلَا يُحْزَنَ وَ

سے کسی کو پھر اپنے پاس بلا لے تو تمہیں پر کچھ گناہ نہیں ہے حق اس لئے ہے کہ غالباً تیری بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ تجھ پر
 يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

نہ ہونگی اور جو کچھ بھی تو ان کو دے لگا اسے لے کر سب ارضی رہیں گی اور جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
 اے نبی جو چیزیں اللہ نے تیرے لئے حلال کیں تو اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیوں حرام کرتا ہے

۱۰- آپ کو کین کن عورتوں
 سے نکاح کرنا جائز تھا؟

۱۱- آنحضرت کو اپنی ازواج
 پر نکاح کرنے یا ان کو طلاق
 دینے کی ممانعت

۱۲- آپ کو ازواج میں
 تقدیم تاخیر کا اختیار

۱۳- آپ نے بیویوں کی خاطر
 حلال کو حرام کر لیا۔

۵۵ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

رسالنا جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ

۵۶ كَرَّةً رِبِّهِمْ لِيُبْذَرُوا فِيهَا وَأَنْ يُخَلِّقُوا فِيهَا مَا يَشَاءُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

اور جب مومنوں نے کفار کی جماعتوں کو (جو دینے میں ان پر چڑھائی تھیں) دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ
صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

۵۷ وَالْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَنْ مَن قَضَىٰ

۵۸ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

۵۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ

۶۰ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ

۶۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ

۱- صحاب کے دلوں میں ایمان کی محبت اور کفر و فسق و عصیان سے نفرت

۲- صحاب کی تورات و انجیل میں سچ ان کا خدا کی رضا اور اس کے فضل کا طالب ہونا اور ان میں

۷۔ مہاجرین اور انصار سے

فدا کا راضی ہونا

وَالشَّيْقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
اور مہاجرین اور انصار میں سے (اسلام میں) بڑے جاننے والے اول رہنے والے اور جنہوں نے اچھی باتوں میں ان کی پیروی کی
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
اللہ ان سب سے راضی ہوئے اور وہ اس سے راضی ہوئے اور اس نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کئے ہیں جن کے
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

(درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ انہیں (باغوں) میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے۔

۸۔ صحابہ بیعت الرضوان

سے فدا کا راضی ہونا

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
بے شک اللہ مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے راضی ہو گیا اس نے معلوم کر لیا جو
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝
(ایمان) ان کے دلوں میں تھا سو اس نے ان پر تسلی اتاری اور بدلے میں ان کو قریب ہی فتح دی :

تکملہ کتاب الرسالہ

قرآن کریم کی قسمیں

۴۵	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	پس تیرے پروردگار ہی کی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑے آپ سے فیصلہ نہ کریں۔ ان کو ایمان سے بہرہ نہیں۔
۴۲	لَعَنَّا لَعْنًا لَمْ يَكُن لِي سَكْرَتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا	تیری جان کی قسم کہ یہ لوگ اپنی ہستی میں جھوم رہے تھے۔
۹۲	فَوَسِّرْكَ لِنَسْئَلِنَ هُمْ أَجْمَعِينَ	سو تیرے پروردگار ہی کی قسم کہ ان سب سے ہم ان کے اعمال کی ضرورت باز پرس کیس گے۔
۵۷	تَاللَّهِ لِنَسْئَلِنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ	خدا کی قسم کہ جو بیٹیاں تم لگ کرتے رہے ہو۔ تم سے ضرور ان کی باز پرس ہونی ہے۔
۴۲	تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ رُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ	خدا کی قسم کہ پہلے ہم نے امتوں کی طرف ضرور پیغمبر بھیجے۔
۴۸	فَوَسِّرْكَ لِنَسْئَلِنَ هُمْ أَجْمَعِينَ	تیرے پروردگار کی قسم کہ ہم تمام آدمیوں اور شیطانوں کو جمع کریں گے۔ پھر ان کو جہنم کے گرد لا حاضر کریں گے۔ اور وہ دو زانو بیٹھے ہونگے
۱	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	بسم اللہ الرحمن الرحیم
۱	وَالصَّفَاتِ صَفًا	تسم ان شکروں کی۔ جو صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر زور سے ڈانٹے ہیں۔ پھر ذکر الہی کی تلاوت کرتے ہیں
۱	ص وَالْقُرْآنِ ذَالِ كَرِه	م۔ قسم قرآن کی کہ میں میں نصیحت ہے۔
۱	حَمْدِ	م
۱	وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ	م

قسم ہے اس کتاب کی۔ جو احکام الہی واضح طور پر بتا رہی ہے۔

۵۳۸
وَقِيلَ يَا سَرَّابُ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

ہم کو رسول کے یوں فریاد کرنے کی قسم ہے۔ کیا رب بے شک یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔

۵۳۹
ق تَف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝

ت۔ قسم قرآن مجید کی۔

۵۴۰
وَالذِّبْرَانِ ذُرَّوَانِ ۝ ۲۰ ۝ فَالْحَوْلَتِ وَقْرًا ۝ ۲۱ ۝ فَالْجُرَيْتِ لَيْسْرًا ۝

تسم ان ہواؤں کی۔ جو بادلوں کو اڑانے لے پھرتی ہیں۔ پھر مینہ کا بوجھ اٹھاتی۔ پھر آہستہ آہستہ چلتی۔

۵۴۱
فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ۝

پھر ایک ضروری چیز کو قسم کرتی ہیں۔

۵۴۲
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُلِ ۝

تسم آسمان کی۔ جس میں رستے پڑے ہوئے ہیں

۵۴۳
فَوَسَّابِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِفُونَ ۝

سو قسم آسمان اور زمین کے پروردگار کی۔ کہ یہ قرآن برحق ہے۔ جس طرح کہ تم کلام کرتے ہو۔

۵۴۴
وَالظُّورِ ۝ ۲۲ ۝ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۝ ۲۳ ۝ فِي سَرَقٍ مِّنْ نُورٍ ۝ ۲۴ ۝ وَالْبَيْتِ

تسم کوہ طور کی۔ اور کتاب لوح محفوظ کی۔ جو چوڑے کھیلے کا فذوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اور بیت المعمور

۵۴۵
الْمَعْمُورِ ۝ ۲۵ ۝ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝ ۲۶ ۝ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝

کی۔ اور اونچی چھت کی۔ اور جوش زن سمندر کی۔

۵۴۶
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝

تسم ستارے کی جب وہ آسمان سے ٹوٹتا ہے۔

۵۴۷
فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۝ ۲۷ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝

تسم ستاروں کے ڈوبنے کی۔ اور سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔

۵۴۸
ن وَالْقَائِمِ وَمَا يَبْصُرُونَ ۝

ن۔ قسم قائم کی۔ اور جو کچھ لوگ لکھتے ہیں۔ اس کی۔

۵۴۹
فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝ ۲۸ ۝ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

تسم ہے ہم کو ان چیزوں کی جو تم کو دکھائی دیتی ہیں۔ اور ان چیزوں کی جو تم کو نہیں دکھائی دیتی ہیں

۵۵۰
فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِ اسْمَعُونَ ۝

تسم ہے ہم کو مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی۔ کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں۔

۵۵۱
كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝ ۲۹ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجْرُ ۝ ۳۰ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا اسْفَرِ ۝

واقعی قسم ہے چاند کی۔ اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔

۱/۲۵ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝
قسم ہے روز قیامت کی۔ اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔

۱/۲۶ وَالْحَرَسَلَتِ عُرْفًا ۝ فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا ۝ وَالنَّشْرَتِ نَشْرًا ۝
قسم ان ہواؤں کی جو پہلے معمولی رفتار سے پھلانی جاتی ہیں۔ پھر زور پکڑ کر تیز ہو جاتی ہیں۔ اور رادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں۔ پھر انہیں پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں۔ پھر لوگوں کے دلوں میں ذکر الہی کا خیال ڈالتی ہیں۔ تاکہ محنت تمام ہو۔ اور ڈرایا جائے۔

۱/۲۹ وَالنُّزَعَتِ غَرْقًا ۝ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ۝ وَالسَّيْحَتِ سَيْحًا ۝
قسم ان نشتوں کی جو بلن میں گھس کر (نخ سے) بلن نکالتے ہیں۔ اور ان کی جو ایسی آسانی سے لگاتے ہیں جیسے بند کھولتے ہیں۔ اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔ اور ان کی جو رکھ سنبھلے رکھتے ہیں۔ پھر موجب حکم کے ہتھام کرتے ہیں۔

۱/۳۱ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ ۝ الْجَوَّاسِ الْكُنَّسِ ۝ وَالْبَلِّ إِذَا عَسَر ۝
قسم ہے ان ستاروں کی جو چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے اور چھپ جاتے ہیں۔ اور قسم ہے رات کی جس وقت

اس کی سیاہی چڑھتی ملی آتی ہے۔ اور قسم ہے صبح کی جس وقت پو پھٹتی ہے۔

۱/۳۲ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ وَالْبَلِّ وَمَا وَسَق ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَق ۝
قسم ہے ہم کو اشفق کی۔ اور قسم ہے رات کی۔ اور جن کے اپردہ چھا جاتی ہے ان کی۔ اور قسم ہے

۱/۳۵ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ۝
ان قسم ہے بڑھیل والے آسمان کی۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ اور قسم ہے گواہ کی اور اس کی جس کے مقابل میں وہ

۱/۳۶ وَالسَّمَاءِ وَالظَّارِقِ ۝
قسم ہے آسمان کی اور رات کے آنے والے کی۔

۱/۳۷ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمُنَادِ ۝
قسم ہے بارش والے آسمان کی اور قسم ہے روئیدگی سے بھٹنے والی زمین کی۔

۱/۳۸ وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَالْبَلِّ إِذَا أَيَّر ۝
قسم ہے صبح کی۔ اور دس راتوں کی۔ اور جفت اور طاق کی۔ اور رات کی جب وہ گزرنے لگے۔

۱/۳۹ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حُجْرٍ ۝
عقل مند کے نزدیک تو ان چیزوں کی قسمیں بڑی بھاری نہیں ہیں۔

۱/۴۰ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَالْوَالِدِ ۝
ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی۔ اور تو اس شہر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور نیز قسم کھاتے ہیں

وَمَا وُلْدَهُ

باپ اور اُس کی اولاد کی۔

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ ۲۱ ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ ۲۱ ۝ وَالنَّجْمُ إِذَا أَجْلَاهَا ۝

۱۹۱ قسم آفتاب کی۔ اور اُس کی صوب کی۔ اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ اور قسم ہے دن کی جب وہ

۲۰ وَالْبَيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ ۲۰ ۝ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا ۝ ۲۰ ۝ وَالْأَرْضُ

۱۹۲ آفتاب کو نمایاں کرے۔ اور قسم ہے رات کی جب وہ آفتاب کو چھپالے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اُس کی جس نے اُس کو بنایا۔ اور

۲۱ وَمَا ظَلَمَهَا ۝ ۲۱ ۝ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ۝ ۲۱ ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝

۱۹۳ زمین کی اور اُس کی جس نے اُس کو بچھایا۔ اور انسان کی اور اُس کی جس نے اُس کو درست بنایا۔ پھر اُس کو اُس کی بدکاری اور

۲۲ وَالْبَيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ ۲۲ ۝ وَالنَّجْمُ إِذَا أَجْلَاهَا ۝ ۲۲ ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّاكِرِينَ ۝

۱۹۴ قسم رات کی جب وہ سب چیزوں کو ڈھانک لے۔ اور دن کی جب وہ خوب روشن ہو۔ اور قسم اُس کی جس نے نرا اور ماہر

وَاللَّائِيْنَ

پیدا کیا۔

وَالضُّحَىٰ ۝ ۲۳ ۝ وَالْبَيْلُ إِذَا سَلَّىٰ ۝

۱۹۵ قسم چاشت کے وقت کی۔ اور قسم رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے۔

۲۴ وَاللَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ ۝ ۲۴ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ ۲۴ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝

۱۹۶ قسم ہے اُبمیر اور زیتون کی۔ اور قسم ہے طور سینین کی۔ اور قسم ہے اس شہرِ بڑا امن کی۔

۲۵ وَالْعَدِيَّاتِ ضَبْحًا ۝ ۲۵ ۝ فَاكْمُرِيْنَ قَدْحًا ۝ ۲۵ ۝ فَاَلْمَعِيْرَاتِ ضَبْحًا ۝

۱۹۷ قسم اُن گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپ اُٹھتے ہیں۔ پھر اُپوں کے مارنے سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔

۲۶ فَاَشْرَنْ بِهٖ نَقْعًا ۝ ۲۶ ۝ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝

۱۹۸ پھر صبح کے وقت چھاپا جا مارتے ہیں۔ پھر وہ اُس سے غبار بلند کرتے ہیں۔ پھر اُسی وقت جماعت میں جاتے

وَالْعَصْرِ ۝

قسم ہے عصر کے وقت کی۔

تمثیلات القرآن

۱۶ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذَّنْبِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
ان کی مثال اس شخص کی سی مثال ہے جس نے آگ روشن کی۔ پھر جب اس کے آس پاس کی چیزیں جگ اٹھیں تو
ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

اللہ نے ان کی روشنی چھین لی۔ اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ کہ ان کو کچھ نہیں سوجھتا۔

۱۹ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
یا جیسے آسمان بارش۔ کہ اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی۔ موت کے ڈر سے مارے کراک کے
أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَضِرًا مُوتٍ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ
اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونے لیتے ہیں۔ اور اللہ منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

۲۰ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كَمَا أَضَاءَ
تربیب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو ایک لے جائے۔ جب ان کے آگے بجلی چلی

لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۚ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
تو اس میں چلے۔ اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے
بِسْمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور ان کے دیکھنے کی قوتیں چھین لے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۱ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاؤَ وَنِدَاءَ
اور جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ایک چیز کے پیچھے بونستی نہیں پڑا پکار رہا ہے۔

۲۲ ثُمَّ تَسْتَفْتِيهِمْ فَرَأَوْهُمُ كَمَا يَبْغُونَ مِنَ الْأَعْيُنِ وَأَنْزَلْنَا سُنَّاتًا
پھر اس کے بعد تمہارے دل ایسے سنت ہو گئے۔ کہ گویا وہ بھڑکیں۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ سخت۔
وَأَنْزَلْنَا سُنَّاتًا لِّعِبَادِكُمْ مِنَ الْغُرُوبِ وَأَنْزَلْنَا لَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا أَنْبَاءً
اور پیغمبروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے بہتر کچھ نکلتی ہیں۔ اور بعض ایسے
فِي مَجَارِمٍ وَمِنَ الْجِبَالِ يَخْرُجُ مِثْقَالُ الذَّرَّةِ أَثْقَالًا وَمِنَ الْمَاءِ يَخْرُجُ
جو پھٹ جاتے ہیں۔ اور ان سے پانی جھرتا ہے۔ اور بعض پیغمبر ایسے بھی جو خدا کے خوف سے گر پڑتے

اللَّهُ يُغَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝
ہیں۔ اور جو تم کر رہے ہو اللہ اُس سے غافل نہیں ہے۔

۲۹۳
۲
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ شُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَاتْرَكَهُ صَلْدًا

تو اس کی خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے۔ کہ اس پر مٹی تھی۔ پھر اس پر زور کا مینہ برسا اور اس کو صاف سیاٹ کر
لا یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

۲۹۴
۲
مَثَلُ الَّذِينَ يَبْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس دانہ کی سی ہے۔ جس سے سات
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ

بالیں پیدا ہوئیں۔ ہر بال میں سو دانے۔
لِيَشَاءَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

دیتا ہے۔ اور اللہ گنجائش والا اور ہر حال سے واقف ہے۔
وَمَثَلُ الَّذِينَ يَبْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا

۲۹۵
۲
اور جو لوگ خدا کی خوشنودی کے لئے اور اپنی نیت ثابت رکھ کر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال
مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ بَرِيَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَانْتَأَتْ أَكْهَبًا

ایک باغ کی سی ہے۔ جو اونچی جگہ پر ہے۔ اس پر زور کا مینہ برسا۔ تو وہ اپنا دو چن بھیل لایا۔ اگر اس
ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

۲۹۶
۲
پر زور کا مینہ نہ پڑا۔ تو ہلکی پھواری کاٹی ہے۔ اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو۔ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔
أَيُّوًّا أَحَدٌ كُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ نَّجْرِيٍّ مِّنْ

بھلا تم میں سے کوئی بھی یہ بات پسند کرے گا کہ بھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اس کے نلے نہریں بہیں
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ

نہری ہوں۔ اور اس میں ہر طرح کے بھیل مالک کو میسر ہوں۔ اور بڑھا پے نے اس کو آلیا۔ اور اس کے ناتواں
ضَعْفَاءٍ فَأَصَابَهَا عِصَابٌ مِّنْ سَمَوَاتٍ فَاصْبَرَ وَكُنَّ لَهُ فِئَةٌ مِّنْ يَتِيمَاتٍ

بچے ہیں۔ اب اس باغ پر ایک بگولا بگولا جس میں آگ بھری تھی۔ تو باغ جل بھن کر رہ گیا۔ اسی طرح
اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِثْلُ نُونٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

اللہ احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم غور کرو۔
إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ

۵۸
۳
اللہ کے ہیں عیسے کی مثال آدم کی سی ہے۔ کہ خدا نے اس کو مٹی سے بنا کر حکم دیا۔ کہ (آدم)
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

بن۔ وہ بن گیا۔

۱۱۶ مثل ما يظلمون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربي فيما صنع
 دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ نوح کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں بڑی
 اصابت حُرَّتٍ قَرِيْمٍ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَاهْلَكْتَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ
 نظر تھی۔ وہ ان لوگوں کے کھیت کو باگی۔ جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور اس کو تباہ کر گئی اور اللہ نے
 وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

ان پر ظلم نہیں کیا۔ بلکہ وہ اپنے اور ہر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

۱۱۷ وَاٰتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اٰتَيْنَاهُ اٰيٰتِنَا فَا نَسَا مِنْهَا فَا تَبِعَهُ الشَّيْطٰنُ
 اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑا کر سنا جس کو ہم نے اپنی کرامتیں دی تھیں۔ پھر اس نے وہ کنبیلی اتار دی۔ تو
 فَكَانَ مِنَ الْغٰوِبِيْنَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّ اَخْلَدَ اِلَى
 شیطان اس کے پیچھے لگا۔ تو وہ گمراہوں میں جا ملا۔ اور اگر ہم چاہتے۔ تو ان کی برکت سے اس کا مرتبہ بلند کرتے۔ مگر
 الْاَرْضِ وَاتَّبَعَهُ هَوٰىهُ فَمَثَلَةٌ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحَمَّلْ عَلَيْهِ
 اس نے پستی میں گرنا چاہا۔ اور اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے ہو لیا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی مثال ہو گئی۔ کہ اگر اس
 يَلْهَثُ اَوْ تَتْرٰكُهُ يَلْهَثُ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰتِنَا
 کو کہہ دو تو زبان باہر لٹکائے رہے۔ اور اگر اسکو چھوڑ دو تو بھی زبان باہر لٹکائے رہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔
 فَاقْصِصْ الْقِصْصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ ۱۱۸ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ
 جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو یہ قصے ان سے بیان کر۔ تاکہ یہ لوگ سوچیں۔ جن لوگوں نے
 الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ان کی بڑی مثال ہے۔ اور وہ کچھ اپنا ہی بگاڑتے رہے ہیں۔

۱۱۸ اِنَّ شَرَّ الدِّنِّ وَاَبْسُ عِنْدَ اللّٰهِ الضَّمُّ اَلْبِكْمِ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

اللہ کے نزدیک بدترین جیوان بہرے اور گونگے ہیں کہ کچھ نہیں سمجھتے۔

۱۱۹ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَا سَمِعَهُمْ لَتَبَوَّلُوْا وَّهُمْ
 اور اگر اللہ ان میں بہتری پاتا تو ان کو شنوائی کی طاقت ضرور عطا فرماتا۔ لیکن اگر خدا ان کو شنوائی
 مُعْرِضُوْنَ ۝

بھی دیتا۔ تب بھی یہ لوگ ضرور سننے پھیر کر اُلٹے بھاگتے۔

۱۲۰ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ
 دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہے۔ کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا۔ پھر زمین کی روئیدگی جس کو
 نَبَاتٍ وَّالْاَمْرِضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ طَحَتْ اِذَا اَخَذَتِ
 آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ مل گئی سیان تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار کر لیا۔

الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلِهَا أَنَّهُم قَدِ ابْتَدَعُوا

اور خوش نما ہوئی۔ اور کھیت والوں نے سمجھا کہ وہ اس پر قابو پا گئے۔ تو رات کے وقت یا دن کے
اتھا امرنا لیلًا اور نما رگ فجعلنا حصیدًا کان لم تغن بِالْأَمْسِ
وقت ہمارا حکم اس پر آ پینچا۔ پھر ہم نے اس کا ایسا ستھرا ڈکریا۔ کہ گویا کل اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو
كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

لگ سوچتے اور سمجھتے ہیں ان کے لئے دلیلیں ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ
دونوں فرقوں کی مثال اندھے اور آنکھوں والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں
يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَقْلًا تَذَكَّرُونَ ○

کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟
أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ

اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر نالے (اپنی سمائی کے) بموجب بہ نکلے۔ پھر جھاگ جو اوپر آ گیا تھا۔ اس کو
زَبَدًا زَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَدِيدٍ أَوْ
ریلہ بہا لے گیا۔ اور جو زور یاد دوسرے ساز و سامان کے لئے روہتوں کو تپاتے ہیں۔ اس میں اسی طرح کا جھاگ
مِنَّا زَبَدٌ مِّثْلَهُ لَئِنْ لَمْ يَضْرِبِ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ مَا لَذَبَدٌ

ملا ہوتا ہے۔ یوں اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو رائیگاں جاتا ہے۔ اور
فِي ذَهَابٍ جُفَاءً. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ
رہا پانی، جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ زمین میں ٹھیرا رہتا ہے۔
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ○

اللہ اسی طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ
جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ کہ ان کے عمل گویا لکھ ہیں۔ کہ آندھی کے
فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ
دن اُس کو ہوا لے اڑی۔ جو کچھ یہ لوگ کر گئے ہیں۔ اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پر لے
الْفُضْلُ الْبَعِيدُ ○

درجے کی نیک کامیابی یہی ہے۔
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کلمہ طیب کی کیسی مثال دی۔ کہ کلمہ طیبہ گویا ایک پاکیزہ درخت ہے۔

ثَابِتًا وَفَرَعُهُمَا فِي السَّمَاءِ ۝ تَوَاتَىٰ أَكْثَرُهَا كُلِّ حِينٍ يَأْذِنُ

اس کی جڑ منسوب ہے۔ اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا جیل بنا رہتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لئے اس لئے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ شاید وہ سوچیں۔

۲۳ وَمِثْلُ كَلِمَةٍ حَبِيشَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيشَةٍ اجْتُنَّتْ مِنْ فَوْقِ

اور گندھی بات کی مثال گندے درخت کی سی ہے۔ اس کو کچھ ٹھہراؤ نہیں۔ زمین کے اوپر سے اکھاڑ پھینکا۔

۴۵ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمِنْ رَزَقْنَاهُ

فدانے ایک مثال بیان فرمائی۔ کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملک۔ جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ایک مٹا ہوا کھانا ہے جس کو کھانے کی چیز سے بھی روزی دے رکھی ہے۔ تو وہ اس میں سے کچھ چھپاتے اور

۴۶ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

اور ظاہر (جس طرح چاہے) خرچ کرتا ہے کیا یہ روزی برابر ہو سکتے ہیں؟ (ہنس) الحمد للہ مگر ان میں بہت سے اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ اور فدانے ایک مثال بیان فرمائی۔ کہ دو آدمی ہیں ان میں سے ایک کو ٹکا۔ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ

۹۲ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزْلُهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَانَ تَخِذُونَ

اور اس عورت جیسے نہ بنو۔ جس نے اپنا اچھا کتا کتا باہت ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ کہ لگو اپنے قسموں کو آپس میں آپس میں داخلہ بینہ ان تکون امۃ ہی اربی من امۃ انما کے نشاد کا سبب بنانے۔ کہ ایک گروہ اور دوسرے گروہ سے زبردست ہو جائے۔ خدا اس اختلاف سے تم لوگوں

۳۲ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

اور ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کر۔ جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دے رکھے تھے۔ اور ہم نے

وَحَفَفْنَاهُمْ بِخُلٍّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝ كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْ

ان کے گرد گھوڑے کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور ہم نے دونوں کے بیچ میں کھیتی بوٹی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل

اُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَمْرًا ۝

لائے۔ اور پھل میں کسی طرح کی کمی نہ کی۔ اور دونوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی۔

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ

باغوں کے مالک کے پاس پیداوار موجود رہتی تھی۔ (ایک دن) یہ شخص اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے کہنے

عَزُفَرًا ۝ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ

لگا کر میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اور جتنے کے اعتبار سے بھی زبردست ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں گیا اور اپنے

تَبِيدَ هَذِهِ أَبَلًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ

نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا۔ لگا کہنے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ نیاست برپا ہو۔

إِلَى رَبِّي لِأَجْدَانٍ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَدِبًا ۝ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ

اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا تو جہاں جاؤں گا میں اس کو اس (دنیا سے) بہتر پاؤں گا۔ اس کا

يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ

دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا۔ بول اٹھا کہ کیا تو اس کا منکر ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطقے

سَوَّيْتُكَ رَجُلًا ۝ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

سے پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا؟ لیکن میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے۔ اور میں اپنے پروردگار کیساتھ کسی کو بھی

لَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنُّنَ

شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا۔ تو تو نے یہ کیوں نہ کہا۔ کہ یہ خدا کے کہنے سے ہوا ہے۔ بے مدد خدا کچھ بھی طاقت

أَنَا أَقْلُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُوْتِنِي خَيْرًا مِنْ

اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم دیکھتا ہے تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر کچھ

جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبَعُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝

عطا فرمائے۔ اور اس پر آسمان سے کوئی ایسی بلا نازل کرے۔ کہ وہ پھیل میدان ہو کر رہ جائے۔

۱۸ ۝ أَوْ يُصْبَعِ مَاءً غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَظِيْعَ لَهُ طَلَبًا ۝ وَأَحْبَبُ ثَمَرِهِ

یا اس کا پانی بہت نیچے اتر جائے۔ پھر تو اس کو کسی طرح نہ پاسکے۔ چنانچہ (عذاب نازل ہوا) اور اس کی پیداوار

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِيَّةً عَلَىٰ مَا آفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

(عذاب) کے پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ پر لگائی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ ملتاتارہ گیا۔ اور وہ باغ

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ ۱۹ ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ

اپنی ٹہنیوں پر گرا ہوا پڑا تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قَوْفَهُ حِسَابًا لَّهُ

یہاں تک کہ جب اُس کے پاس آیا۔ تو اس کو کچھ بھی نہ پایا۔ اور (مرگیا تو) خدا کو لپٹے پاس موجود پایا۔ سو اس نے اس

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۲۹ أَوْ كَظَلَمْتُمْ فِي بَحْرٍ مَّجِيٍّ تَغْتَابُهُ مَوْجٌ مِّنْ

کا حساب (نور) پورا پورا چکا دیا۔ اور اشد جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا (اُنکی مثال) بڑے گہرے دریا کے اندر وہی اندھیروں کی سی

قَوْفَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَابَ ظَلَمْتُمْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ

ہے کہ دریا کو لہرنے ڈھانک لیا۔ اور لہر کے اوپر لہر اس کے اوپر بادل (غرض) اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک۔ کہ آدمی

بِدَاهُ لَمْ يَكُنْ يُرَىٰ لَهُ سَبَابٌ مِّنْ لَّهِ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝۳۰

اپنا ہاتھ نکالنے تو ایسا لگتا ہے۔ کہ اس کو دیکھ نہ سکے۔ اور جس کو اللہ ہی نور نہ دے تو اُس کے لئے کوئی روشنی نہیں

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِذَا أَخَذَتْ

جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کا ریساز بنا رکھے ہیں۔ اُن کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اس نے گھر بنا یا۔ اور

بَيْتًا وَإِن أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۳۱

کچھ شک نہیں کہ گھروں میں سے بودا گھر مکڑی کا ہے۔ کاش یہ لوگ (اتنا) سمجھتے۔

ضَرْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَهْلٌ لَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءِ

تمہارے لئے تم ہی میں کی ایک مثال بیان فرمائی۔ جن غلاموں کے تم مالک ہو۔ ان میں سے اس رزق میں جو تم

فِي مَآرِزِكُمْ فَإِنَّمْ فِيهِ سَوْءٌ مَّا تَخَافُونَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُدْرِكُونَ

نے تم کو دے رکھا ہے۔ کوئی بھی تمہارا شریک ہے۔ کہ تم اس میں برابر کا حق رکھتے۔ اور تم ان کی ایسی پروا کرتے ہو جیسی تم اپنی

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۱۹ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝۳۲

اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔

اور نہ تاریکی۔ اور نہ نور۔

۲۱ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝۳۱

اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ۔

۲۸ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ

اور نہ زندہ اور نہ مرے برابر ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے سننے کی قوت دیتا ہے۔ اور

بِسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝

جو لوگ قبروں میں ہیں۔ تو ان کو (نبی بات) سنائیں سکتا۔ تو تو ڈرانے والا ہے اور بس۔

۲۹ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَرَجُلًا وَفِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَمَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ

اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ کہ ایک غلام ہے۔ اس میں کئی ساتھی ہیں۔ وہ آپس میں بڑی کلنگش رکھتے ہیں۔ اور ایک غلام

۱۹ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۖ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اور ایک دوسرے سے

تَكَافُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَبَائِهِ

بڑھ کر مال اور اولاد کا خواہشمند ہونے ہے۔ اس کی مثال ہمیں کسی مثال ہے کاشنک کہ عینتی کو دیکھ کر خوشیاں کرنے لگتے

ثُمَّ يَجِيءُ فَيَزِلُّهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَطَايَاهُمْ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

ہیں۔ پھر بڑھ چک کر ٹٹک ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھتا ہے کہ پہلی بڑگئی ہے۔ پھر روزن میں آجاتی ہے۔ اور آخرت میں

شَدِيدٌ يُدْأَىٰ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ

نذاب سخت اور خدا کی طرف سے معافی اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی

الْغُرُورِ ۝

بھس ہے۔

۳۰ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا إِذَا قُوتُوا بِأَلْمِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

ان لوگوں کی سی مثال ہے جو ابھی ان سے ذرا پہلے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اور ان کو درد

۱۵ آلِيمٌ ۚ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ

نذاب ہونا ہے۔ شیطان کی سی مثال ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر۔ پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے

۱۶ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا

بھے تھیجے سے بچھڑا وسط نہیں۔ میں تو جہان کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ

أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝

دونوں دوزخ میں جاؤں گے۔ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی سزا ہے سرکشوں کی۔

۳۱ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْمَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُواهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ

جن لوگوں پر توڑت لادی گئی۔ پھر وہ اس کو نہ اٹھاسکے۔ ان کی مثال گدھے کی سی مثال ہے۔ جس

يَحْمِلُ أَثْقَالَهَا وَيُسَّ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

پرکٹا ہے۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ ان کی بڑی مثال ہے۔

لَا يَمْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

اور اللہ نے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ

یافزوں کے لئے خدا نے نوح کی بی بی اور لوط کی بی بی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ دونوں ہمارے
گانتا تھت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهم بما فلم يغنيا

بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو دونوں کے شوہر اللہ کے

عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا السَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ○

مقابلہ میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور انہیں حکم دیا گیا کہ (جنہم میں) داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں

۱۱۶ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ مَا ذُكِرْتِ

بھی داخل ہو۔ اور ایسا نہ اروں کے لئے خدا نے فرعون کی بیوی کی مثال دی۔ جب کہ اس بی بی نے کہا کہ اے میرے

رَأِي ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِحِبْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ

بہو روگا میرے شوہر بہشت میں اپنے پس ایک گھر بنا۔ اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ اور مجھے

وَبِحِبْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ ۱۱۶ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي

کو قلم لگوں سے بچا۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی (مثال دی) جنہوں نے

أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ

اپنی عنصمت کو محفوظ رکھا۔ تو ہم نے ان کے پیٹ میں اپنی روح بھونک دی۔ اور وہ اپنے پروردگار

رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْقَائِمِينَ ○

کے حکام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی رہی۔ اور وہ فرماں بردار بندوں میں سے تھی۔

قرآن کریم کی دعائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

اللہ کے نام سے جو نہایت بہر بان رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف غلامی کو ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا لِكَ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ

نہایت رحم والا بہر بان۔ روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سادگی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا سادہ دکھا۔
نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

فصل کیا۔ ان کا جن پر غضب نازل ہوا۔ اور نہ گمراہوں کا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا

اے ہمارے پروردگار ہماری یہ (خدمت) قبول کر۔ بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے
مُسْلِْمِیْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَاِیْرَ نَامُنَّا سِکَّنَا وَ
تَبُّ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِیْمُ ۝

ہماری عبادت کے طریقے بتا۔ اور (ہمارے گناہوں سے) دور گذر فرما۔ بے شک تو ہی بڑا درگذر کرینو والا بہر بان ہے۔
رَبَّنَا اِنْتَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

اے رب ہمارے دے ہیں دنیا میں بھلائی۔ اور آخرت میں بھلائی۔ اور بچا ہیں دوزخ کے عذاب سے
رَبَّنَا اَقْرِمْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَّقِنْتِ اَقْدَامَنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ ۝

اے رب ہمارے والد سے ہم پر صبر۔ اور جہا ہمارے قدم۔ اور غالب کر ہم کو کافر لوگوں پر۔
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ۝ رَبَّنَا لَا تُولِخْنَا

اے ہمارے پروردگار تم نے سنا اور تسلیم کیا۔ تیری ہی مغفرت اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَا نَا۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَنَا عَلَی

اے ہمارے پروردگار نہ پکڑو ہم کو اگر بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے رب ہمارے نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا
الذِّیْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَآ طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۝ وَاَعْفُ عَنَّا
کر رکھا تمہا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی طاقت ہم کو نہیں۔ اور درگذر

وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

کریم سے اور بخش دے ہمیں۔ اور رحم کر ہم پر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تو غالب کر ہم کو کافر لوگوں پر۔

۳۴ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۝

اے رب ہمارے نہ پھیر ہمارے دل ہدایت کرنے کے بعد۔ اور ہمیں اپنے پاس سے دے ایک رحمت۔

۳۵ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ

کہ بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک دن جس میں شبہ ہی نہیں لوگوں کو اکٹھا

فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

کے گا۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

۳۶ رَبَّنَا إِنَّتَا أَمْنَا فَأَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں پس بخش دے ہمارے گناہ اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے

۳۷ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ

تو لوں کہہ کہ اے خدا ملک کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور تو جس سے چاہے بادشاہی چھین

تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّدُ مَنْ تَشَاءُ هَبْ لَكَ الْخَيْرَ إِنَّكَ عَلِيمٌ

لے۔ اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔ سب طرح کی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تَوَجَّهْ بِالْبَيْتِ فِي التَّمَارِ وَتَوَجَّهْ التَّمَارِ فِي الْبَيْتِ

بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو گھٹا کر دن میں شامل کر دے۔ اور تو ہی دن کو رات

وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

میں شامل کر دے۔ اور تو ہی بے جان سے جاندار اور تو ہی جاندار سے بے جان نکالے۔ اور تو ہی جس کو

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

چاہے بے حساب روزی دے۔

۳۸ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

اے میرے پروردگار اپنی جناب سے مجھ کو نیک اولاد عنایت فرما۔ بے شک تو دعائیں سنتا ہے۔

۳۹ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

اے ہمارے پروردگار جو (کتاب) تو نے اتاری۔ اس پر ایمان لائے۔ اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ تو ہم کو نصیبین کرنے والوں

۴۰ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثِقَلْنَا قُلُوبَنَا وَانصُرْنَا

اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر۔ اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں۔ ان

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

سے درگزر فرما اور ہمارے پاؤں جھٹے رکھ۔ اور کافر لوگوں پر ہمیں فتح دے۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

ہم کو اللہ کا کافی ہے۔ اور وہ بہترین کارساز ہے۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

اے رب ہمارے تو نے جہنم نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے پس بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

لے رب ہمارے تو جسے دوزخ میں ڈالے تو ضرور اسے رسوا کر دیا۔ اور سیاہ کاروں کا کوئی ساتھی نہیں۔

أَنْصَارٍ ۝ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُبَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا

اے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے کو ایمان کے لئے پکارتے سنا۔ کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ سو ہم

بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَعْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرَ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا

ایمان لے آئے۔ اے رب ہمارے اب ہمارے گناہ بخش دے۔ اور ہماری برائیوں کو ہم سے اتار دے۔ اور ہمارا

مَعَ الْإِبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدُتْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نَحْرُوكَا

نیکوں کے ساتھ غافل کر۔ اے رب ہمارے دے ہمیں جو اپنے رسولوں کی معرفت تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ اور

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ

اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے نکال یہاں کے رہنے والے ظالم کر رہے ہیں۔ اور اپنی طرف سے

لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

کسی کو ہمارا حامی بنا۔ اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔

رَبِّ انِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

اے میرے پروردگار! مجھ کو اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا اور کوئی میرے بس کا نہیں ہے۔ تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

اے ہمارے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو ہم کو شہیدین کرنے والوں کے ساتھ لکھ رکھ۔

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِيَانَا

اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار۔ جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں اور بچپلوں سب کے

وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

لئے عید قرار پائے۔ اور میری طرف سے نشانی۔ اور ہم کو روزی دے۔ اور تو سب روزی دینے والوں میں بہتر ہے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔

۱۴۳ لا شَرِيكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اٰمَرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھ کو یہ ہی حکم دیا گیا ہے۔ اور میں اس کا سب سے پہلا فرمان بردار ہوں۔

۱۴۴ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا۔ اور ہم پر رحم نہ کرے گا۔ تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

۱۴۵ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

اے رب ہمارے ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔

۱۴۶ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا

ہمارا پروردگار علم کے رو سے سب چیزوں پر حاوی ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ اے ہمارے پروردگار

۱۴۷ بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝

ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔

۱۴۸ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّاَوْتِنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

اے رب ہمارے ہم پر صبر ڈال دے۔ اور مسلمانوں کی حالت میں موت دے۔

۱۴۹ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَاغْفِرْ لِيْ وَاغْفِرْ لِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝

اے میرے پروردگار میرا اور میرے بھائی کا (قصوں) معاف فرما۔ اور ہم کو اپنی رحمت میں لے لے۔ اور تو رحم کرنے والوں

۱۵۰ اَنْتَ وَاَنْتَ وَاَنْتَ فَغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ۝ وَاَكْتُبْ

تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ پس بخش دے ہم کو۔ اور رحم کر ہم پر۔ اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ اور اس دنیا

۱۵۱ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاكَ اَلَيْكَ ط

اور آخرت کی بہتری ہمارے نام لکھ دے۔ ہم تیری ہی طرف رجوع ہوئے۔

۱۵۲ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

مجھ کو خدا بس کرنا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہیں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ ہی عرش عظیم کا مالک

۱۵۳ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ وَاِنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنْ

اے رب ہمارے نہ کیجو۔ ہمیں ستم کش ظالم لوگوں کا۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر

۱۵۴ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

لوگوں سے بچالے۔

۱۵۵ رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَاِنِّيْ اَتَّوَكَّلُ بِكَ

اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ کہ جس چیز کا علم مجھ کو نہیں اس کی تجھ سے درخواست کروں۔ اور

۱۵۶ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنُّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

اگر تو میرا (قصوں) معاف نہیں فرمائے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ تو میں برباد ہو جاؤں گا۔

۲۱۰ فَا طَرَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا
 اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے تو ہی ہے رفیق میرا دنیا اور آخرت میں۔ اٹھانا مجھ کو مسلم
 وَالْحَقْفَنِي بِالصَّاحِبِينَ ۝

اور شامل کرنا مجھے نیکوں کے ساتھ۔

۲۱۱ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ
 کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا سنتا ہے۔ اے رب میرے کر دے مجھے نماز درست رکھنے والا۔ اور میری

ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

نسل کو بھی۔ اے رب ہمارے اور میری دعا قبول کر۔ اے رب ہمارے بخش دے مجھ کو اور میرے ماں باپ
 يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

کو اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہو۔

۲۱۲ رَبِّ ارْحَمْنِي مِثْلَ مَا رَحِمْتَ رَجُلًا
 اے رب رحم کر میرے والدین پر جیسا انہوں نے مجھ کو چھوڑنے کو چاہا۔

۲۱۳ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي
 اے رب میرے داخل کر مجھے داخل کرنا سچائی کا۔ اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا۔ اور میرے لئے اپنے

مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝

پاس سے ایک مدد دینے والی قوت مہیا فرما۔

۲۱۴ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

اے رب ہمارے دے ہمیں اپنے پاس سے ایک رحمت اور ہمارے لئے کام میں درستی کا سامان کر دے۔

۲۱۵ رَبِّ انشُرْ لِي صَدْرِي ۝ وَسَيِّرْ لِي أَمْرِي ۝ بِسْمِ اللَّهِ وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ

اے رب میرے کھول دے سینہ میرا۔ اور آسان کر ہم پر میرا کام۔ اور کھول دے گره میری زبان

مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْتَحُوا قَوْلِي ۝

کی۔ کہ میری بات کو لوگ سمجھیں۔

۲۱۶ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم نصیب کر۔

۲۱۷ أَنِّي مَسْنِيَّ الْقُمْرِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے۔ اور تو نرم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

۲۱۸ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

تیرے سوا کوئی سبوتا نہیں۔ تو پاک ہے۔ میں نے ظلم کیا۔

۲۱۹ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝

اے رب میرے زچھوڑ مجھے اکیلا۔ اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔

۲۲۰ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۝ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اور ہم (مسلمانوں کا) پروردگار رحمن ہے جس سے ہم (ان باتوں پر جو تم

۲۲۱ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ ۹۸ ۝ جاتے ہو۔ مدد مانگتے ہیں۔

اے رب میرے اتار مجھے مبارک جگہ میں۔ اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔

۲۲۲ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

تو اے میرے پروردگار مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر لیجیو۔

۲۲۳ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ ۹۹ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ

اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے۔ اور پناہ چاہتا ہوں تیری اے رب اس سے

أَنْ يُخْضِرُونِ ۝

کہ وہ میرے پاس آئیں۔

۲۲۴ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بد بختی نے آدبا یا۔ اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے

مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝

نکال۔ بے شک پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک قصور وار ہیں۔

۲۲۵ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو بخش دے ہمیں۔ اور رحم کر ہم پر۔ اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے۔

۲۲۶ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

اے رب میرے بخش دے مجھ کو اور رحم کر مجھ پر۔ اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے۔

۲۲۷ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

اے رب ہمارے ٹال دے ہم سے دوزخ کا عذاب۔ کہ اس کا عذاب گلو گیر ہے۔

۲۲۸ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

بے شک وہ بُرا ٹھکانا ہے۔ چاہے تھوڑی دیر رہو یا ہمیشہ کو۔

۲۲۹ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِمَنْفِقِينَ

اے رب ہمارے ہماری بیبیوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ اور کر دے

إِمَامًا ۝

ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا۔

۲۴ ۵۳ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ ۵۴ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ

اے میرے پروردگار مجھ کو سمجھنا دے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل کر۔ اور آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر

صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ ۵۵ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝

باری رکھ۔ اور آرام کا وہ جنت کے وارثوں میں سے مجھ کو بھی وارث بنا۔

۲۶ ۵۶ وَلَا تَحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ ۵۷ لِيَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ ۵۸ إِلَّا

جب لوگ اٹھا کھڑے جائیں گے۔ اُس دن مجھ کو رسوا نہ کیجیو۔ کہ اُس دن مال ہی کام آنے کا اور نہ

مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

میرے کام آئیں گے اگر جو پاک دل سے خدا کے حضور میں حاضر ہوگا۔

۲۷ ۵۹ فَاقْلِبْ بَنِيَّ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَاجْعَلْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُبْرِينَ ۝

مجھ میں اور ان لوگوں میں ایک قلمی فیصلہ کر دے۔ اور مجھ کو اور ایمان والوں کو جو میرے ساتھ ہیں بچالے۔

۲۸ ۶۰ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں نجات دے

۲۹ ۶۱ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

اے رب میرے مجھے توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا۔ اس کا شکر کروں

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝

اور ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے۔ اور داخل کر دے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔

۳۰ ۶۲ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

اے رب میرے بے شک ظلم کیا میں نے اپنی جان پر۔ پس مجھ کو بخش دے۔

۳۱ ۶۳ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

اے رب میرے نجات دے مجھ کو ظالم لوگوں سے۔

۳۲ ۶۴ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝

اے رب میرے میں اُس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔

۳۳ ۶۵ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝

اے رب میرے غالب کر مجھے مفسد لوگوں پر۔

۳۴ ۶۶ قَسْبُحْنُ اللَّهِ حِينَ تَمُوتُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ ۶۷ وَلَهُ الْحَمْدُ

پس جس وقت تم لوگوں کو شام ہو۔ اور جس وقت تم کو صبح ہو۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اور آسمان اور زمین میں ہی

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ ۶۸ يُخْرِجُ

اللہ تعریف کے لائق ہے۔ اور میرے پہر اور جب تم لوگوں کو دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو مڑے

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ

سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اور زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کرنا ہے۔ اور
كَذَلِكَ نُخْرِجُكَ

اسی طرح تم مردے کے بعد نکالے جاؤ گے۔
رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ○

۱۳۷

اے میرے پروردگار مجھ کو نیک رجوں میں سے (ایک نیک روح) عطا فرما۔
اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ

۱۳۸

بارخدا یا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے۔ پیچھے اور کھلے کے جاننے والے۔ جن باتوں میں
بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

تیرے بندے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو ہی ان کے جھگڑوں کو چکائے گا۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا

۱۳۹

اے رب ہمارے محیط ہوا ہے ہر چیز کو تیرا رحم اور علم۔ تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی۔
سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي

اور تیری راہ پر چلے۔ اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ اے رب ہمارے اور داخل کر انہیں ہمیشہ رہنے
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّى مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ

کی بشتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ادا ان کے آباؤ اجداد کو اور ان کی بیبیوں کو۔ اور ان کی اولاد
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

میں سے (جو نیک ہوں ان کو۔ کیونکہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○ وَإِنَّا إِلَى

پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا۔ ہے اور تم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کر
رَبَّنَا أَنْتَ الْقَابِضُ ○

لینے۔ اور بے شک ہم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
رَبِّ أَوْرَعِنِي أَنْ أُنْشَرُ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَلْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيْهِ وَ

اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں میں
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي النَّبِيِّ رَأْيِي نَبَتْ إِلَيْكَ وَ

تیرے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو۔ اور میری اولاد میں
وَأِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

نیک بنتی پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع لانا ہوں۔ اور میں تیرے فرماں بردار بندوں میں ہوں۔

۱۰۳ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْتَصِرْ ۝

میں عاجز ہوں سو اب تو ہی بدل لے۔

۱۰۹ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُونَا بِالْإِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِیْنَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ ۝

اے رب ہمارے بخشد سے ہیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے آگے رہے۔ اور نہ کہ

ہمارے دلوں میں کدورت ایمان والوں کے ساتھ۔ اے رب ہمارے تو میت بہرمان رحم والا ہے۔

۱۰۴ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَیْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ۝ رَبَّنَا لَا

اے رب ہمارے تجھی پہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے

تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِیْنَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

رب ہمارے نہ کہ ہمیں ستم کش کا فر لوگوں کا۔ اور بخش دے ہمیں اے رب ہمارے۔ کیونکہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے

۱۰۵ رَبَّنَا أَلِیْمٌ لَّنَا نُوْرِنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَیْ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

اے رب ہمارے کامل کر دے ہمیں ہمارا نور۔ اور بخش دے ہمیں کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۰۶ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَیْ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِیْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ

اے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو۔ اور جو کوئی میرے گھر میں ایسا نذر ہو کر آئے۔ اور تمام ایسا نذر مردوں

۱۰۷ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِیْنَ إِلَّا تَبَارًا ۝

اور عورتوں کو۔ اور ایسا کر کہ ظالموں کی تباہی بڑھتی چلی جائے۔

۱۰۸ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ ۱۰۹ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ ۱۱۰ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

کہہ کہ میں تمام مخلوقات کے شر سے بچ کے ماہک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اندھیری رات کے

۱۱۱ إِذَا وَقَبَ ۝ ۱۱۲ وَمِنْ شَرِّ لَیْلِ لَقَبْتَ فِي الْعُقَدِ ۝ ۱۱۳ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور گندوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اور ہونے

۱۱۴ إِذَا حَسَدٍ ۝

والے کے شر سے جب وہ ہونے لگے۔

۱۱۵ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ ۱۱۶ مَلِكِ النَّاسِ ۝ ۱۱۷ إِلَهِ النَّاسِ ۝

کہہ کہ (شیطان) جو لوگوں کے دلوں میں دسو سے ڈالتا ہے۔ جنات اور آدمیوں کے۔ ان کے شر

۱۱۸ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ ۱۱۹ الَّذِیْ یُوسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِیْ

سے۔ میں لوگوں کے پروردگار۔ لوگوں کے بادشاہ۔ لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔

۱۲۰ النَّاسِ ۝ ۱۲۱ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

كتاب المعاد

W

فہرست مضامین جلد چہارم کتاب تفصیل البیان فی مقاصد القرآن کتاب المعاد

صفحہ	مضمون آیات	اعداد آیات	صفحہ	مضمون آیات	اعداد آیات
۶	قیامت کو اعمال نامے کھولے جائیں گے	۳		دار آخرت	
	جس کا اعمال نامہ دہنہ ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کی خوشیاں	۴	۱	دنیا آخرت سے بہتر ہے۔	۱
۶	جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ دوزخ میں جائے گا	۵	۲	خدا آخرت چاہتا ہے۔	۲
۷	جس کا اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ وہ موت مانگے گا۔	۶	۲	آخرت کا اجر بہتر ہے۔	۳
	اعمال ضائع نہیں جاتے		۲	آخرت کی کوشش مشکور ہوگی۔	۴
۷	خدا کسی کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔	۱	۲	آخرت کی نصیحت اور درجے	۵
	کفر اور نیکی بدی ہر شخص اپنے ہی لئے کرتا ہے	۲	۲	دار آخرت انہیں کے لئے ہے جو متکبر اور فسادی نہیں۔	۶
۸	جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اپنے ہی لئے کرتا ہے۔	۳	۲	دار آخرت متقیوں کے لئے ہے۔	۷
	ہدایت اور گمراہی ہر شخص اپنے ہی لئے اختیار کرتا ہے۔	۴	۲	زندگی حقیقت میں آخرت ہی کی ہے۔	۸
۸	جو شخص گناہ کرتا ہے اپنے ہی لئے کرتا ہے	۵	۲	دار آخرت دار پامٹار ہے	۹
۹	امور آخرت میں بینا اور اندھا ہونا اپنے ہی لئے ہے	۶	۳	آخرت میں بہترے خدا کو دیکھیں گے بہترے مصیبت کا انتظار کریں گے۔	۱۰
۹	بخیل اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے	۸	۳	آخرت کا عذاب بڑا ہے۔	۱۱
۹	سرکشی کا وبال سرکش پر ہی ہے	۹	۳	آخرت کا عذاب سخت ہے۔	۱۲
۹	عہد شکن کا وبال اسی پر ہے۔	۹	۳	آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور خدا کی مغفرت و رضا بھی	۱۳
۹	مجاہدہ کرنے والا اپنے ہی لئے مجاہدہ کرتا ہے۔	۱۰	۶	مکرمین آخرت کو عذاب الیم	
				کتابت اعمال	
				بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔	۱
				ہر شخص پر کراہا کاتبین یعنی لکھنے والے فرشتے	۲
				متنبین ہیں۔	

			جو شکر کتاب ہے اپنے ہی لئے کرتا ہے۔	۱۱
			جزا اعمال	
		۹	بر عمل کی جزا ملے گی۔	۱
		۹	برائی کی جزا بقدر اعمال ہی ملے گی۔	۲
		۹	بر شخص کو اس کے اعمال کی پوری جزا	۳
		۱۰	ملے گی اور اس پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔	۴
		۱۱	جزا اعمال نیت پر ہے۔	۵
		۱۲	مواخذہ دلوں کے فعل پر ہوگا۔	
			موت	
		۱۲	دنیا میں بیٹھی کسی کو نہیں۔	۱
		۱۲	بر شخص مرنے والا ہے	۲
		۱۲	موت کا وقت مقرر ہے۔	۳
		۱۲	موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔	۴
		۱۳	موت سے بچان نفع نہیں دے سکتا	۵
		۱۳	موت کا وقت خدا کے سوا کسی کو معلوم	۶
		۱۳	نہیں	
		۱۳	جان کنی کا وقت	۷
		۱۳	مازنا ملکر، الموت ہے۔	۸
		۱۳	موت کے بعد بوٹنا نہیں	۹
		۱۴	موت کی بہوشی	۱۰
		۱۴	موت کے وقت کافروں کا ایمان لانا	۱۱
		۱۴	مقبول نہیں۔	
			موت کے بعد	
		۱۴	کافر کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بعد کوئی	۱
		۱۴	زندگی نہیں	
			حشر	
۱۵	موت کے بعد زندہ ہو کر خدا کے حضور	۱		
	میں حاضر ہونا ہوگا۔			
۲۱	حشر پر منکروں کا استعجاب اور اس کا	۲		
	جواب			
۲۳	حشر سے غرض جزا و سزا	۳		
۲۴	دلائل حشر	۴		
			قیامت	
۲۹	قیامت ضرور آئے گی۔	۱		
۳۱	قیامت حق ہے	۲		
۳۱	قیامت کا وعدہ سچا ہے	۳		
۳۱	قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں	۴		
۳۲	قیامت مہسی کی بات نہیں ہے۔	۵		
۳۲	قیامت کا وقت مقرر ہے۔	۶		
۳۲	کفار کا سوال کہ قیامت کب ہوگی جواب	۷		
	کہ خدا کو ہی ظلم ہے۔			
۳۲	قیامت قریب ہے۔	۸		
۳۵	قیامت طرۃ العین میں آجائے گی۔	۹		
۳۵	قیامت اچانک آجائے گی۔	۱۰		
۳۵	قیامت ایک ڈانٹ یا چنگھاڑ سے قائم	۱۱		
	ہوگی			
۳۶	کافر قیامت کے لئے جلدی مچاتے ہیں	۱۲		
۳۶	قیامت کی حقیقت کوئی کیا جانے۔	۱۳		
۳۶	قیامت بڑی آفت ہے۔	۱۴		
۳۷	قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔	۱۵		
۳۷	قیامت حسرت کا دن ہے۔	۱۶		

نسخ صور

۴۰ پہلی بار کا صور
۴۱ صور کی آواز سے گھبراہٹ اور بیہوشی

کائنات میں تبدیلیاں

۴۱ قیامت کو زمین لرزے گی
۴۱ زمین متور ہو جائے گی۔

۴۱ زمین اجڑ کر چھیل میدان بن جائے گی۔

۴۲ زمین پھیلائی جائے گی۔

۴۲ زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال ڈالے گی

۴۲ زمین کی حالت پر انسان کا تعجب

۴۲ خدا کے حکم سے زمین داستان سناے گی

۴۲ زمین اٹھا کر ٹپک دی جائے گی

۴۲ زمین آسمان بدل دیے جائیں گے۔

۴۲ زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی۔

۴۲ پہاڑ چلنے لگیں گے۔

۴۲ پہاڑ لرزیں گے۔

۴۲ پہاڑ مٹھکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔

۴۲ پہاڑ ریت ہو جائیں گے۔

۴۲ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو اڑیں گے۔

۴۲ پہاڑ اوپر اٹھا کر نیچے چکے جائیں گے۔

۴۲ سمندر ابل پڑیں گے۔

۴۲ دس ماہ کی حاملہ اونٹیاں چھٹی پھریں گی۔

اجرام سماوی میں انقلاب

۴۲ چاند پھٹ گیا۔

۳۷ قیامت ہارجیت کا دن ہے۔

۳۷ قیامت عظیم الشان دن ہے

۳۷ قیامت کا زلزلہ عظیم ہے

۳۷ قیامت بعض کو پست اور بعض کو بلند

۳۷ کرے گی۔

۳۷ ہول قیامت سے بچنے پوڑھے ہو جائیں

۳۷ گے۔

۳۷ قیامت آسمانوں اور زمین میں بھاری

۳۷ ہے۔

۳۷ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ دودھ

۳۷ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول

۳۷ جائیں گی اور لوگ نشے کی سی حالت میں

۳۷ ہوں گے

۳۷ قیامت کو آوازیں دب جائیں گی۔

۳۷ پنڈلی کھولی جائے اور لوگوں کو سجدے

۳۷ کا حکم

۳۸ قیامت فیصلے کا دن ہے۔

۳۸ قیامت کو لوگوں کے درمیان فیصلہ

قیامت کی نشانیاں

۳۹ باجوج و ماجوج

۳۹ قیامت سے پہلے دابہ زمین سے نکلیگا

۳۹ جو لوگوں سے ہمکلام ہوگا۔

۳۹ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔

۳۹ آسمان سے دھواں آئے گا۔

۳۹ قیامت کی بعض علامتیں آچکیں۔

۳۹ قیامت سے پہلے ہر بنی کا ہلاک ہونا۔

۳۹ چاند شق ہوا۔

۴۹	کسی سے دوسرے کے اعمال کی بازپرس نہ ہوگی	۱۶	۵۷	نعمتوں کی بابت سوال	۳
۴۹	قیامت کو فدیہ نہیں لیا جائے گا	۱۷	۵۷	ہر شخص کو اس کے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا	۳
۴۹	مجرم اپنے بیٹے - بیوی - بھائی وغیرہ کو بے فائدہ فدیہ میں دینا چاہے گا	۱۸	۴۰	قیامت کو ذرہ ذرہ نیکی بدی دکھلائی جائے گی	۴
۴۰	ہر شخص اپنے ماں - باپ - بھائی - بیٹوں - بیوی وغیرہ سے بھاگے گا	۱۹	۴۰	قیامت کو ہاتھ پاؤں - آنکھ - کان اور کھال گواہی دیں گے	۵
۴۰	قیامت کو خرید و فروخت - دوستی بخارش نہ ہوگی	۲۰			
۴۰	کوئی کسی کے کام نہ آئے گا -	۲۱	۶۱	میزان	
۴۰	دوست دوست کے کام نہ آئے گا -	۲۲		وزن اور میزان حق ہے	۱
۶۱	مقتیوں کے سوا دوست بھی دشمن بن جائیں گے	۲۳	۶۲	بھاری تول والے خوش - ہلکی تول والے آگ میں	۲
۶۱	مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا	۲۴	۶۲	دوزخ میدانِ حشر میں	۳
۶۱	بے زور اور بے مددگار	۲۵	۶۲	دوزخ بھر لکایا جاوے گا	۴
۶۱	کافروں کو عذر کرنے اور پونے کی اجازت نہ ہوگی -	۲۶	۶۲	جنت قریب لائی جائے گی	۵
۶۱	بغیر خدا کی اجازت کے کوئی نہیں بول سکے گا	۲۷	۶۲	قیامت کو کافر مومنوں سے علیحدہ کئے جائیں گے	۶
۶۲	ظالموں کا عذر بیچار اور لعنت اور برا گھر	۲۸	۶۳	قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہے	۷
	شفاعت		۶۳	کافروں کے چہرے بھونڈے	۸
۷۲	شفاعت اللہ ہی کے لئے ہے -	۱	۶۳	کافروں میں جھگڑیں گے	۹
۷۲	قیامت کو کوئی شفاعت نہ ہوگی	۲	۶۳	کافروں کی حسرت اور ندامت	۱۰
۷۲	شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر نہ ہوگی -	۳	۶۴	کافر اپنے نیست و نابود ہونے کی تمنا کریں گے	۱۱
۷۳	کافروں کے لئے شفاعت نہیں	۴	۶۵	کافر دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے	۱۲
۷۴	اجبی سفارش کا اچھا عوض اور بری کا برا -	۵	۶۵	قیامت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا عوض ملے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا	۱۳
			۶۷	ہر شخص کے اپنے ہی اعمال کام آئیں گے	۱۴
			۶۷	کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا	۱۵
			۶۸		

۱۱۳	رسولوں کے منکروں کو عذاب	۶	۹۱	دوزخی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے مگر اسی	۳۶
۱۱۳	گردنوں میں طوق اور زنجیریں	۷	۹۱	میں لوٹا دیئے جائیں گے	-
۱۱۳	منکبرین دوزخ کو عذاب	۸	۹۱	اہل اعراف دوزخیوں سے پناہ مانگیں گے	۳۷
۱۱۳	اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے کی سزا	۹	۹۱	اہل اعراف کا دوزخیوں سے سوال	۳۸
۱۱۵	مکذبین کو عذاب	۱۰	۹۲	دوزخیوں سے جنتیوں کی بات چیت	۳۹
۱۱۵	منکبرین کا حشر و عذاب	۱	۹۲	دوزخ کے داروغوں سے عذاب کی	۴۰
۱۱۶	ذلت کا عذاب	۲	۹۳	تختیف کے لئے بے فائدہ درخواست	۴۱
۱۱۶	آگ میں ہمیشہ	۳	۹۳	جنتیوں سے کھانا پانی مانگنا۔	۴۱
۱۱۶	داخل جہنم	۴	۹۳	دوزخی موت مانگیں گے۔	۴۲
۱۱۷	دوزخ میں کالے منہ	۵	۹۳	بعض دوزخی ہمیشہ دوزخ میں	۴۳
۱۱۷	ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھلینگے	۶	۹۳	دوزخ میں کون جائینگے؟	
۱۱۷	تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نہ گزر	۷	۹۴	شیاطین اور اس کے متبعین	۱
۱۱۷	جائے		۱۰۰	منافقتین کو عذاب	۲
۱۱۸	عاد کو عذاب آخرت		۱۰۱	منکبرین قیامت	۳
	دوزخیوں کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے		۱۰۲	قیامت کے منکروں کو عذاب	۴
	اور معبودان باطل کی اپنے		۱۰۹	قیامت کو معبودان باطل کا اپنے عابدوں	۵
	پرستاروں سے		۱۱۰	سے بیزار ہونا	۶
۱۱۸	ملاکہ سے جواب طلب کیا جائے گا۔	۱	۱۱۰	قیامت کو شیطان اپنے متبعین سے بیزار	۷
۱۱۹	جن وانس سے جواب طلبی	۲	۱۱۰	ہوگا	
۱۱۹	عیسیٰ علیہ السلام سے	۳	۱۱۰	جھوٹ بولنے والوں کو عذاب دردناک	۱
۱۲۰	اکیلے ہوں گے خنز کا ساتھ نہیں۔	۴	۱۱۰	مکذیب آیات کرنے والوں کے لئے	۲
	معبودان باطل اور ان کے پرستاران کے	۵	۱۱۰	دوزخ۔	
۱۲۰	سوال و جواب		۱۱۲	مکذیب آیات کرنے والوں کے منہ کالے۔	۳
	دشمنان خدا کے خلاف ان کے کان آئیں	۶		ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ	۴
۱۲۲	اور گوشت پوست شہادت دیں گے۔		۱۱۲	کھلیں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں	
۱۲۵	دنیا میں دوبارہ واپس جانے کی تمنا	۷	۱۱۲	سے نہ گزرے	
	جو یا خدا سے غافل رہا۔ اسے اندھا کر کے	۸	۱۱۲	یہ تمنا کہ دنیا میں واپس بھیج دیئے جائیں۔	۵

۱۳۶	اونڈے منہ ہو کر -	۲۹	۱۲۷	عذاب دیا جائے گا -	
۱۳۶	سخت عذاب	۳۰		بے سمجھے تکذیب آیات کرنے والوں کو	۹
۱۳۶	طالبانِ دنیا کو نار	۳۱	۱۲۷	عذاب	
۱۳۶	مشرکوں کو شرک کی پوری سزا	۳۲		کافروں کی ٹولیوں سے جہنم کے دروازے	۱۰
۱۳۶	قیامت کے منکروں کو پوری جنا	۳۳	۱۲۸	کھولتے موکلین دوزخ کی گفتگو	
	سونا چاندی جمع کرنے والوں کو دوزخ میں	۳۴	۱۲۸	منکرین قیامت سے سوال و جواب	۱۱
۱۳۷	داغ -		۱۲۹	مشرک رفیق کے سوال و جواب جہنم میں	۱۲
۱۳۸	مالدار عیب چیں کا انجام	۳۵		سرکشوں (طاغین) کو گرم پانی پیپ اور	۱۳
۱۳۸	بے نماز اور خیل	۳۶	۱۲۹	طرح طرح کے عذاب	
	قیامت میں نیکی کا بدلہ		۱۳۱	گنگار (انیم) کا کھانا سینڈھ کا درخت	۱۴
	ہر نیکی کا عوض ملے گا -	۱	۱۳۱	خدا کی دعویٰ کرنے والوں کو جہنم -	۱۵
۱۳۸	ہر نیکی کا عوض مقدار مقرر سے زیادہ ملے گا -	۲		اللہ پر کامل اعتقاد نہ رکھنے والوں کو دنیا و	۱۶
۱۳۹	نیکی کا اجر دو چند ملے گا -	۳	۱۳۱	آخرت میں گھاٹا	
۱۳۹	بعض نیکیوں کا اجر دس گنا ملے گا -	۴	۱۳۲	اللہ کی راہ سے بہکانے والوں کو دنیا میں	۱۷
۱۳۹	اولیا کو نہ خوف ہے نہ غم -	۵		رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب -	
۱۳۹	مستی اللہ کے ہمان ہیں -	۶	۱۳۲	ایمان سے بچلانے والوں کو جہنم -	۱۸
۱۳۹	اللہ کو ماننے والوں کے لئے بھلائی	۷	۱۳۲	اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کو عذاب جہنم	۱۹
	خیرات اور نیکی کی صلح دینے والوں کو	۸		اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے والے کو سخت	۲۰
۱۳۹	اجر عظیم		۱۳۳	عذاب	
۱۳۹	اللہ شکر گزاروں کو جزا دیگا -	۹	۱۳۴	اللہ کی آیتوں میں ٹیڑھا چلنے والوں کو نار	۲۱
۱۳۹	صابروں کو اجر	۱۰	۱۳۴	اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا چلنے کی سزا	۲۲
۱۴۰	راہِ خدا میں محنت کر لے والوں کی جزا	۱۱		اللہ پر اعتراض کرنے والوں اور انبیاء کے	۲۳
۱۴۰	ایماندار اور نیکیوں کو نیک بدلہ -	۱۲	۱۳۴	قائلین کو سخت عذاب -	
۱۴۰	ایماندار اور نیکیوں کو عمدہ زندگی -	۱۳	۱۳۵	اصحاب الشمال	۲۴
	ایماندار اور نیکیوں کو انصاف کے ساتھ پورا اجر	۱۴		اللہ اور رسول کی نافرمانی (عسیان) کی سزا	۲۵
۱۴۰	اور کچھ زیادہ بھی ملیگا -		۱۳۵	فاسق اور خطاکار	۲۶
	ایماندار نیکیوں کا بے خوف و غم ہوں گے -	۱۵	۱۳۵	بدکار (فجار)	۲۷
۱۴۰			۱۳۵	بدکار دوزخ میں کالے منہ ہو کر	۲۸

۱۴۵	جنت میں نہریں -	۱۷	ایمانداروں کی سسی آخرت میں ان کے کام	۱۶
	جنت میں پانی کے علاوہ - دودھ - میزیدار	۱۸	آئے گی -	
۱۴۶	شراب اور صاف شہد کی نہریں	۱۹	قیامت میں نبی اور مومنوں کو ذلت نہ ہوگی -	۱۷
۱۴۶	جنت میں پختے -	۲۰	قیامت میں نیکوں کو امن	۱۸
۱۴۷	جنت کے پانی میں کافور ملا ہوگا -	۲۱	قیامت سے مومن ڈرتے ہیں	۱۹
۱۴۷	جنت کے پانی میں زنجبیل -	۲۲		
۱۴۷	جنت کے پانی میں تسنیم	۲۳	الاعراف	
۱۴۷	جنت کی شراب پر مشک کی مہر	۲۴	دوزخ اور بہشت کے درمیان اعراف ہیں	۱
۱۴۷	جنت میں رزق -	۲۵	سے دونوں طرف کا نظارہ اور اہل اعراف	
۱۴۸	جنت میں رزق کریم	۲۶	کی اہل جنت سے بات چیت	
۱۴۸	جنت میں اکل و شرب	۲۷	جنت	
۱۴۸	جنت میں بیریاں	۲۸	جنت سدرۃ المنتہی کے پاس ہے	۲
۱۴۸	جنت میں کیلے	۲۹	جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی برابر	۳
۱۴۸	جنت میں کھجوریں اور انار	۳۰	ہے -	
۱۴۸	جنت میں انگور	۳۱	جنت میں بڑی سلطنت ہے -	۴
۱۴۸	جنت میں ہر قسم کا میوہ	۳۲	جنت آرام کی جگہ ہے -	۵
۱۴۹	جنت کے میوے جھکے ہوئے -	۳۳	جنت میں کسی قسم کی تکلیف نہیں -	۶
۱۴۹	جنت کے درخت گنجان ہیں -	۳۴	جنت میں گرمی سردی نہیں -	۷
۱۴۹	جنت کے درخت گہرے سبز ہیں	۳۵	جنت میں لغوا اور بیہودہ گفتگو نہیں	۸
۱۴۹	جنت میں سایہ	۳۶	جنت میں موت نہیں	۹
۱۵۰	جنت میں پرندوں کا گوشت	۳۷	جنت میں مکانات طیبہ	۱۰
۱۵۰	جنت میں صاف شراب کا دور	۳۸	جنت میں بالا خانے	۱۱
	جنت کی شراب سے بیہوشی - بہکنا اور	۳۹	جنت میں تخت	۱۲
۱۵۰	در و سر نہیں	۴۰	جنت میں فرش	۱۳
۱۵۱	جنت میں دبیز اور مہین رشیم کا سبز لباس	۴۱	جنت میں قالین اور گدے	۱۴
	جنت میں چاندی سونے کے کنگن اور	۴۲	جنت میں تکیے	۱۵
۱۵۱	موتیوں کے ہار	۴۳	جنت میں دروازے	۱۶
	جنت میں چاندی سونے کے پیالے اور	۴۴		

۱۶۹	نیکیاں کرتے ہیں	۲	۱۵۱	رکابیاں	
۱۶۶	مجاہدین	۳	۱۵۲	جنت میں پاک ازواج	۴۲
۱۶۹	صابرین	۴		جنت میں بڑی بڑی اکھمل والی - خوبصورت	۴۳
۱۸۲	جنت میں آگے بیٹھنے والے	۵	۱۵۲	نوجوان حیا دار عورتیں	
۱۸۲	مقربین	۶	۱۵۳	جنت میں غلمان	۴۴
۱۸۲	انشاب الیمین یعنی داہنی طرف والے	۷	۱۵۳	جنت میں نعمتیں	۴۵
۱۸۳	جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔	۸	۱۵۳	جنت میں پسندیدہ پیش	۴۶
۱۸۳	ایمان دار نصاریٰ	۹	۱۵۳	جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی	۴۷
۱۸۲	ایمان دار یہودی	۱۰	۱۵۴	جنتیوں کو غلو و	۴۸
	وہ نمازی جو زکوٰۃ دیتے اور بدکاری سے بچتے	۱۱	۱۵۴	جنتیوں کو غیر منقطع بخشش	۴۹
۱۸۲	ہیں -		۱۵۵	جنتیوں کو امن و امان اور سلامتی	۵۰
۱۸۵	رحمن کے خاص بندے	۱۲	۱۵۵	جنتیوں کو باہم ایک دوسرے کا سلام	۵۱
۱۸۶	خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والے۔	۱۳	۱۵۵	جنتیوں کو اعراف والوں کا سلام	۵۲
۱۸۷	ابرار۔	۱۴	۱۵۵	جنتیوں کو فرشتوں کا سلام	۵۳
	غلام آزاد کرنے - بھوکوں کو کھانا کھلانے	۱۵	۱۵۶	جنتیوں کو خدا کا سلام	۵۴
۱۸۷	اور خیرات دینے والے		۱۵۶	جنتیوں سے خدا کی رضامندی	۵۵
۱۸۸	بھلائی کرنے والے -	۱۶	۱۵۶	جنتی اور دوزخی برابر نہیں -	۵۶
۱۸۸	توبہ کرنے والے مومن	۱۷	۱۵۷	جنتیوں کی روزخیزوں سے بات چیت	۵۷
۱۸۸	جن کے اعمال زیادہ دزنی ہوں گے۔	۱۸	۱۵۷	جنتیوں کی باہمی گفتگو	۵۸
۱۸۸	روح مطمئن	۱۹		جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے	۵۹
	صابرین اہل کتاب کو اعمال کی مقدار سے	۲۰	۱۵۸	کینہ نہ ہوگا	
۱۸۸	زیادہ اجر		۱۵۸	جنت اعمال کے عوض ملے گی	۶۰
	جنت میں لذائذ روحانی			بغیر امتحان ہیں پورا اترے جنت کی طبع	۶۱
۱۸۹	لذائذ جنت کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔	۱	۱۵۸	نہیں پائیے	
	لذائذ جنت جو بیان کی گئیں ہیں وہ فضیلتی	۲	۱۵۹	جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے	
۱۸۹	ہیں۔		۱۵۹	مومنین جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے	۱
۱۸۹	جنتیوں کو رزق کریم	۳		متقین جو خدا سے ڈر کر گناہوں سے بچتے اور	۲

شرفِ حضورِی				
۱۹۲	جنتی پروردگار سے ملیں گے۔	۱	۱۹۰	خوشنودی خداوند تعالیٰ بڑی نعمت
۱۹۲	جنتیوں کو پروردگار کا سلام	۲	۱۹۱	دیدار الہی سب سے بڑی نعمت
۱۹۲	جنتیوں کے چہرے نر و تازہ و ہشاش بشاش	۳	۱۹۱	جنتی اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔
				کافر سامنے آنے نہیں پائیں گے۔

مختصر فہرست مضامین کتاب المعاد

صفحہ	مضمون آیات	صفحہ	مضمون آیات
۷۴	حساب کے بعد فیصلہ	۱	دائر آخرت
۷۹	دوزخ :	۳	کتابت اعمال
۵۴	دوزخ میں کون جائیں گے ؟	۷	اعمال ضائع نہیں جاتے
	دوزخیوں کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے اور محبوبان	۹	جزاء اعمال
۱۱۸	باطل کی اپنے پرستاروں سے	۱۲	موت
۱۳۸	قیامت میں نیکی کا بدلہ	۱۴	موت کے بعد
۱۴۱	اعراف	۱۵	حشر
۱۴۶	جنت	۳۹	قیامت
۱۴۲	جنت آرام کی جگہ ہے	۳۶	قیامت کی حقیقت کون کیا جانے ؟
۱۴۳	جنت میں لغو اور بیہودہ گفتگو نہیں	۳۹	قیامت کی نشانیاں
۱۵۲	جنت میں پاک ازدواج	۴۰	نفع صور
۱۵۶	جنتیوں سے خدا کی رضا مندی	۴۱	کائنات میں تبدیلیاں
۱۵۹	جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے ؟	۴۴	اجرام سماوی میں انقلاب
۱۸۹	جنت میں لذائذ روحانی	۴۷	نفع صور دوبارہ
۱۹۰	خوشنودی خداوند تعالیٰ بڑی نعمت	۵۵	حساب
۱۹۱	دیدار الہی سب سے بڑی نعمت	۶۱	میزان
۱۹۲	شرف حضوری	۷۲	شفاعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب المعاد

دار آخرت

كُلُّ مَتَاعِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى

۱۔ دنیا کے آخرت بہتر ہے

(اسے نبی) کہہ دے کہ دنیا کی بونہی تھوڑی ہے اور آخرت اس کے لئے جو ڈرے بہتر ہے

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَطَهْوٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ

اور دنیا کی زندگی تو نرا کھیل تماشا ہے اور بے شک بچھلا گھران کے لئے جو ڈرتے ہیں بہتر ہے

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

تو کیا تم سمجھتے نہیں

وَالْآخِرَةُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

۱۱۹

اور بچھلا گھران کے لئے جو ڈرتے ہیں بہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ اَنْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتَا قُلْتُمْ

۱۲۰

مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے) نکلو تو تم (بوجہل ہو کر)

اِلَى الْاَرْضِ اَرْضِيْمٌ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

زمین کی طرف گر پڑتے ہو تو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو تو آخرت کے مقابلے

فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ

میں دنیا کی زندگی کا نفع تو بہت تھوڑا ہے۔

وَلَدَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

۱۲۱

اور بے شک آخرت کا گھران کے لئے جو ڈرتے ہیں بہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں؟

۲۴ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو عارضی نفع ہے

۲۵ وَلِكُلِّ اِلٰهٍ اٰخِرَةٌ خَيْرٌ وَلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے اور ڈرنے والوں کا گھر کیا ہی اچھا ہے

۱۶۲ بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

۶۷ تَرِيْدُوْنَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاِلٰهَ يَرْيِدُ الْاٰخِرَةَ ۝

تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔

۵۷ وَلَا جَزَا لِّلْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَّكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لئے جو ایمان لائے اور (اللہ سے) ڈرتے رہے بہتر ہے

۱۹ وَمَنْ اَسْرَدَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ

اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لئے کوشش کی جیسا اس کے کوشش کرنے کا حق ہے اور وہ ایمان والا ہے

كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۝

تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

۲۱ وَالْاٰخِرَةُ الْاَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَقْوِيًّا ۝

اور بے شک آخرت بڑھانے والی درجوں کے بڑی ہے اور بڑھانے والی تقویت بھی بڑی ہے

۵۸ تِلْكَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِمَن نَّشَاءُ وَلَا يَجْعَلُ لَهَا جِزَا ۝

یہ کھپلا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کو دیں گے جو ملک میں نہ سرکشی چاہتے ہیں اور نہ فساد اور انجام نیک

فَسَادًا وَّاَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

متقیوں کا ہے

۳۵ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

اور (اپنی) آخرت تیرے پروردگار کے ہاں ہے بہترین گاروں کے لئے ہے۔

۶۹ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۝ وَاِنَّ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ لَهِيَ

اور یہ دنیا کی زندگی تو نرنا کھیل تھا ہے اور بے شک جو کھپلا گھر ہے حقیقت میں وہی زندگی ہے کاش وہ

الْحَيٰوةُ الْاٰخِرَةُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

اس بات کو جانتے

۶۷ يَقُوْمُ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۝ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

جیسا یہ دنیا تو بس عارضی ناکرہ ہے اور جو آخرت ہے وہی پایدار گھر ہے

۲- خدا آخرت چاہتا ہے

۳- آخرت کا اجر بہتر ہے

۴- آخرت کی کوشش مشکور ہوگی

۵- آخرت کی فضیلت اور درجے

۶- دارِ آخرت نہیں کیلئے ہے جو سنگبر اور فساد کی نہیں

۷- دارِ آخرت متقیوں کے لئے ہے

۸- زندگی حقیقت میں آخرت ہی کی ہے۔

۹- دارِ آخرت دارِ پایدار ہے

۱۰۔ آخرت میں بہترے خدا کو دیکھیں گے بہترے مصیبت کا انتظار کریں گے

كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۝ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝ تَتَّظَنُّونَ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

ہرگز نہیں جلد تم دنیا چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو کتنے ہی چہرے اُس دن تیرے تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھو سہ ہوں گے اور کتنے ہی چہرے اُس دن بُرے ہوں گے وہ یقیناً کوس گے کہ اُن پر کمر توڑنے والی مصیبت آپڑے گی۔

۱۱۔ آخرت کا عذاب بڑا ہے

۱۱۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے

۱۲۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۝

اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے

۱۲۔ آخرت کا عذاب سخت ہے

۱۳۔ آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور خدا کی مغفرت اور رضامندی سے بخشش اور دنیا کی زندگی تو محض رضا بھی

۱۳۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ذُو مَأْوَىٰ ۝ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعَرُورَىٰ ۝

اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور (نیکیوں کیلئے) اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی ہے اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے والا ٹانڈہ ہے۔

۱۴۔ منکرین آخرت کو عذاب الیم

۱۴۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اُن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے

کتابت اعمال

۱۔ بندوں کے اعمال کلمے جانتے ہیں

۱۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَكَتَب ۝ مَا قَالُوا وَقَتَاهُمْ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ ذُو قُوَّةٍ عَذَابُ الْخَرِيقِ ۝

بے شک اللہ نے اُن لوگوں کا قول سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم اُس کو جو انہوں نے کہا اور نبیوں کو اُن کے ناحق تمل کرنے کو کلمے رکھتے ہیں اور (قیامت کو) ہم اُن سے کہیں گے کہ عذاب کا چکھو

۲۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ۝

اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے باہر جلتے ہیں تو اُن میں سے کچھ لوگ

عَبْرَ الَّذِي يَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۝

راتوں کو اپنے کہے کے خلاف شکر کرتے ہیں اور جیسے جیسے شورے راتوں کو کرتے ہیں اللہ لکھتا جاتا ہے۔

۲۰ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ

اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے دیہاتیوں کو مناسب نہ تھا کہ رسول خدا سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ رسول کے
سُرَّوَالِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنِ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ
ہان کی ہمدانیہ کر کے اپنی ہانوں کی فکر میں پڑ جائیں یہ اس لئے کہ انکو خدا کی راہ میں بیسی اور محنت اور بھوک کی تکلیف
ظَمًا وَلَا نَصَبًا وَلَا حَمَصَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُطُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ

پہنچتی ہے تو اندر جن نقات پر کا زور ہے کہ ان کا چلنا ناگرا کر رہتا ہے وہاں چلتے ہیں تو اور دشمنوں سے کچھ بل بٹا رہتے
الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّكُمْ إِلَّا كَيْتَابٌ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ
تو ہر پرکھ کے ہلے ان کا مل نیک لکھا جاتا ہے بیشک اللہ غلوں دل سے اسلام کی خدمت کرنے والوں کے
إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُفْقِرُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ

اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور اسی طرح حقوڑا یا بیت جو کچھ خرچ کرتے ہیں
لَا كِبْرَةَ وَلَا يَفْطَعُونَ وَاذْيَا إِلَّا كَيْتَابٌ لَهُمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ
اور جو میدان ان کو طے کرنے پڑتے ہیں یہ سب ان کے نام لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

سے بہتر بدلہ ملا فرمائے۔

۲۱ إِنَّ رَسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝

ہمارے فرشتے تمہاری سب کار ساریاں لکھتے جاتے ہیں
وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَكْزَمُهُ ظَهْرُهُ فِي عَقِبِهِ وَخُرُوجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا بِأَيْقُنِهِ
اور ہم نے ہر آدمی کی برائی بھلائی کو اس کے ساتھ لکھ کر کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم
مَنْشُورًا ۝ إِفْرًا كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

نامہ اعمال نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیتے وہ اس کو اپنے رو بہ رو دکھلا ہوا دیکھ لے گا۔ یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لیا کرتا ہے
يَوْمَ نَدُّ عَمَّا كُلَّ النَّاسِ بِأَمْثَلِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ
جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں سمیت بلا کر گھر آکر بیٹھے۔ تو جن کا نامہ اعمال ان کے دل پہ لکھا گیا ہے
يَفْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فِتْلًا ۝

وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگیں گے اور ان پر نور بھی ظہر نہ ہوگا

۲۲ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ

اور کتاب (اعمال) لاکر رکھی جائے گی تو تو گنہگاروں کو دیکھے گا کہ اس سے جو اس میں لکھا ہوگا ڈر رہے ہوں گے
يُؤْتِلِنَّا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی کیسی کتاب ہے جو نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑے اور نہ کسی بڑی کو سب ہی کو گنیر رکھا ہے۔

وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو وہ موجود پائیں گے اور (اسے بنی) تیرا ہر درد گار کسی پر ظلم نہیں کرتا

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَدًا ۝

ہرگز نہیں جو کچھ یہ بکتا ہے ہم سب لکھ لیتے ہیں اور اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَكَابِتُونَ ۝

تو جو شخص نیک کام کرے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو اس کی کوشش اکارت ہونیوالی نہیں اور ہم اس کے اعمال سب لکھتے جاتے ہیں

إِنَّا نَحْنُ قَوْنِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ۝

ہے شک ہم ہی مڑوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ان کو اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے

فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

تنانوں کو گنتے ہیں اور ہم نے ہر ایک شے کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب میں گھیر رکھا ہے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنِآثَاءً أَشْهَادًا وَأَخْلَقَهُمْ ۝

اور فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں مورت ذات ٹھیرا دیا گیا ان کے پیدا کرنے کے وقت ان کی شہادت لکھی جائے

سَنَكْتُبُ شَهَادَاتِهِمْ وَيَسْأَلُونَ ۝

گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝

کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی بات اور ان کی سرکوشی کو نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے رسول ان کے پاس لکھتے ہیں۔

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِثَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ ۝

اور تو ہر امت کو لکھنوں پر گرا دیکھیں گے ہر امت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی اور کہا جائیگا کہ آج نہیں اسی کا بدلہ لیا جائے

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۲۹ هَذَا كِتَابُنَا يُبَيِّنُ عَلَيْكُمْ بِأَحْسَنِ حَقِّهِ إِنَّا كُنَّا نَسْنَنُهُ ۝

گا۔ جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے مقابل صحیح صحیح بولتی ہے۔ بے شک ہم لکھتے

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

رہتے تھے جو تم کیا کرتے تھے

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝

بے شک ہم جانتے ہیں جو اجزا زمین ان سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس حفاظت کرنے والی ایک کتاب ہے

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ ۳۰ مَا يَلْفِظُ ۝

جب دو لینے والے لیتے ہیں ایک دہنی طرف بیٹھا اور دوسرا بائیں طرف جو لفظ بھی وہ بولتا ہے ایک نگہبان اس

مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

کے پاس مستعد ہوتا ہے۔

۵۵ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدُهُ

اور اُس کا ساتھی کہے گا یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔

۵۶ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعْلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ

اور لگ جو کچھ کرے یہاں اعمال ناموں میں موجود ہے اور چھوٹا اور بڑا سب کچھ لکھا ہوا ہے

۵۸ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَلْحَصُّهُ اللَّهُ وَتُسَوَّوْنَ

جب اللہ ان کو بلا اٹھائے گا پھر میرے لیے عمل یہ لگ کرتے رہے وہ ان کو بتا دینگا۔ اللہ نے اُس عمل کو گن رکھا ہے اور وہ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

اُسے نبھول گئے اور اللہ ہر شے پر موجود ہے۔

۶۹ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

اور ہم نے کتاب میں ہر شے کو گن رکھا ہے۔

۷۴ وَإِن عَلَيْكُمْ حِفْظُهُنَّ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَلْمُونَ مَا تَعْمَلُونَ

اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں (یعنی) بزرگ لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو

۸۶ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

کوئی شخص نہیں جس پر محافظہ فرشتے تعینات نہ ہوں

۹۹ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالتَّيْبِينَ

اور زمین اپنے چمک چمک کے نور سے ہمک اُٹنے لگی اور اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کئے

وَالشَّهَادَةُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

بائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا

۸۱ وَإِذَا الْقُفُوفُ نُسِرَتْ ۝

اور جب نامہ اعمال پھیلانے جائیں گے

۱۹ فَمَا مَنَ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ يَمِينَهُ يَقُولُ هَذَا مَا آتَىٰ وَأَكْتَبِيهِ ۝ ۶۶ إِنِّي

سو جس کا اعمال نامہ اُس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائیگا وہ (خوش ہو کر) کہے گا کہ اے میرا اعمال نامہ پڑھو میں یقین

ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِّقٌ حِسَابِيهِ ۝ ۶۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں سو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔

۶۶ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ ۶۶ فَطَرَفُهَا دَانِيَةٌ ۝ ۶۶ كَلُوا وَاشْرَبُوا

اعلیٰ جنت میں جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے کھاؤ اور پیو خوش گوار ملے اُس کا جو تم نے

هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

گذشتہ دنوں میں کیا ہے

۲ ہر شخص پر کریم کا تبین
یعنی لکھنے والے فرشتے ستین
ہیں۔

۳۔ قیامت کو اعمال نامے
کو لے جائیں گے۔

۴۔ جس کا اعمال نامہ ہے
اُتے میں دیا جائیگا اُس کی
خوشیاں

۳۳ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ ﴿۳۳﴾ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا تَبِيرًا ۝﴾

لیکن جس کا اعمال نامہ اُس کے دہنے ہاتھ میں دیا گیا اُس سے آسان حساب کیا جائے گا

۳۴ ﴿وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝﴾

اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش لوٹے گا

۳۵ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ ﴿۳۴﴾ فَيَقُولُ يَكِيدَتْنِي لَمَّا أُوتِيَ كِتَابِي ۝﴾

لیکن جس کا اعمال نامہ اُس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ

۳۶ ﴿وَلَمَّا أَدْرَا مَا حِسَابِي ۝﴾

کہ میرا حساب کیا ہے۔

۳۷ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ ﴿۳۶﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝﴾

لیکن جس کا اعمال نامہ اُس کی پیٹھ پیچھے سے دیا گیا وہ موت مانگے گا۔

۵۔ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی میں بلے گا

۶۔ جس کا اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت مانگے گا

اعمال ضائع نہیں جاتے

۱۰۲ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ﴾

اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان (کے کام) کو ضائع کر دے۔

۱۰۳ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

اور یہ اللہ مؤمنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا

۱۰۴ ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضَيِّعُ عَمَلٌ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرُوا ۖ﴾

سو ان کے پروردگار نے ان کی بات منظور کی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا

۱۰۵ ﴿أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ﴾

عورت ضائع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو

۱۰۶ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ إِنَّا لَا نُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ ۝﴾

اور جو لوگ کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں تو بے شک ہم ان کی نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے

۱۰۷ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

بے شک اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا

۱۰۸ ﴿وَأَعْمِدُ فَانِ اللَّهُ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

اور (اے نبی) مبر کہ بے شک اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

۱۔ خدا کسی کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔

۹۱۲ رَاتَهُ مَنِ تَبَيَّنَ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

بے شک جو دے گا اور صبر کرے گا تو کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا

۹۱۳ وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا

اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب سے کچھ کم نہیں کرے گا

۹۱۴ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ تَبِعًا ۚ وَن ۝

جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور جس نے نیک کام کئے وہ اپنے لئے بھگتا ہے

۹۱۵ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ

سو جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے

۹۱۶ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ تَذَرُونَ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ

اگر تم نیک کرے تو اپنی ہی جان کے لئے نیک کر دے اور اگر تم بڑا کر دے تو اسی پر اس کا وبال بھی ہے

۹۱۷ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ

جس نے نیک کام کیا اس نے اپنی ہی جان کے بھلے کے لئے کیا۔ اور جس نے بڑا کیا تو اسی کے بڑے کے

لِلْعَبِيدِ ۝

لئے اور (اے نبی) تیرا ہر دو گار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں

۹۱۸ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۚ

جس نے نیک کام کیا اس نے اپنی ہی جان کے بھلے کے لئے کیا اور جس نے بڑا کیا تو اسی کے بڑے کے لئے پھر تم

۹۱۹ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ

(اے نبی) تو تو صرف انہیں کو ڈراتا ہے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز پڑھتے ہیں اور جو پاک

تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ

ہوتا ہے تو وہ اپنی ہی جان کے نفع کے لئے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

۹۲۰ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَاءَ

جو ہدایت پاتا وہ اپنی ہی جان کے نفع کے لئے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اسی کے نقصان کیلئے گمراہ ہوتا ہے

۹۲۱ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ

جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ہی جان کے نفع کے لئے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو (اے نبی) تو کہہ دے کہ

الْمُنذِرِينَ ۝

میں تو ایک ڈرانے والوں میں سے ہوں۔

۹۲۲ مَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَاءَ

جس نے ہدایت پائی اس نے اپنی جان ہی کے نفع کے لئے ہدایت پائی اور جو گمراہ ہوا تو وہ اسی کے نقصان کیلئے گمراہ ہوتا ہے

۲۰ کفر اور نیک ہی ہر شخص
لپے آئے کرتا ہے

۳۰ جو اپنے نفس کو پاک کرتا
اپنے ہی لئے کرتا ہے

۳۱ ہدایت اور گمراہی ہر شخص
اپنے ہی لئے اختیار کرتا ہے

<p>۵۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اپنے ہی لئے کرتا ہے۔</p>	<p>۱۱۱ وَمَنْ يَلْسِبْ اِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلٰى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝</p> <p>اور جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے نقصان کے لئے کرتا ہے اور اللہ جاننے والا مکت والا ہے</p>
<p>۶۔ سو آخرت میں مینا اور انہما ہوتا اپنے ہی لئے ہے</p>	<p>۱۱۲ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ سُرَّتْكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝</p> <p>(لوگو!) تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے سوجھ کی باتیں آ رہی ہیں سو جس نے دیکھا اس نے اپنے ہی نفع کے لئے</p>
<p>۷۔ بخیل اپنے آپ ہی سے بخیل کرتا ہے</p>	<p>۱۱۳ وَمَنْ يَخْلُ فَاِنَّمَا يَخْلُ عَنِ نَفْسِهِ ۚ</p> <p>دیکھا اور جو اندھا ہوا اس کا وبال اسی پر ہے اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں</p>
<p>۸۔ سرکشی کا وبال سرکشی ہی پر ہے</p>	<p>۱۱۴ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بُغِيْتُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ۚ</p> <p>لوگو! تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر ہے۔</p>
<p>۹۔ جہد شکن کا وبال اسی پر ہے</p>	<p>۱۱۵ فَمَنْ تَنَكَّثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهِ ۚ</p> <p>جو جہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لئے کرتا ہے۔</p>
<p>۱۰۔ مجاہدہ کرنے والا اپنے ہی لئے مجاہدہ کرتا ہے</p>	<p>۱۱۶ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۝</p> <p>اور جو کوئی محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے محنت کرتا ہے بے شک اللہ جہان والوں سے بے پروا ہے</p>
<p>۱۱۔ جو شکر کرتا ہے اپنے ہی لئے کرتا ہے</p>	<p>۱۱۷ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ</p> <p>اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے۔</p>

جزاء اعمال

<p>۱۔ ہر عمل کی جزا اسے ملے گی</p>	<p>۱۱۸ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ</p> <p>اور جو کچھ انہوں نے کیا اسے وہ موجود پائیں گے</p>
<p>۲۔ ہر نفس اپنے کئے کے بدلے گروے</p>	<p>۱۱۹ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِِيْنٌ ۝</p> <p>ہر جان اپنے کئے کے بدلے گروے</p>
<p>۳۔ ہر بدی کی جزا بقدر اعمال ہی ملے گی</p>	<p>۱۲۰ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ۝</p> <p>انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے</p>
<p>۴۔ ہر بدی کی جزا بقدر اعمال ہی ملے گی</p>	<p>۱۲۱ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كَسَبُوْنَ ۝</p> <p>تہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کما لیا کرتے تھے</p>

۲۷ ۱۰ هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

تہیں مرتن اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے

۲۸ ۱۱ فَلَا يَجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

سو جنہوں نے بدیوں کی ہیں انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے

۲۹ ۱۲ وَلَا يَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے

۳۰ ۱۳ وَمَا يَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے

۳۱ ۱۴ الْيَوْمَ يَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے

۳۲ ۱۵ إِنَّمَا يَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

تہیں مرتن اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے

۳۳ ۱۶ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝

اور یہ کہ انسان کے لئے اس کی کوشش سے زیادہ کچھ نہیں

۳۴ ۱۷ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْبِكْرُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

جو مال بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۳۵ ۱۸ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۳۶ ۱۹ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ اجْرُسَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

اور تمہارے دن تمہارے ثواب تمہیں پورے دیئے جائیں گے

۳۷ ۲۰ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۳۸ ۲۱ وَلَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

اور تم پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا

۳۹ ۲۲ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ۝

اور جو شے بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا

۴۰ ۲۳ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ بَعْضِ مَا نَزَّلْنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ فَاجْعَلُوا لَهُ لُجُومًا ۝

اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیرا پروردگار انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ نہ دے بے شک جو وہ کرتے ہیں وہ اس

۳۳ - ہر شخص کو اس کا مال کی پوری جزائے دی ہوگی کچھ ظلم نہیں ہوگا

۳۹ - ۴۰

۱۱ ۱۶ یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ

جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئیگا اور ہر شخص کو اُس کے کئے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اُن پر
لَا يُظْلَمُونَ ○

ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۱۲ ۱۷ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

اور اُن پر توں بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا

۱۳ ۱۸ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ○

اور اُن پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا

۱۴ ۱۹ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

ہس آج کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا

۱۵ ۲۰ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ○

اور ہر جان کو اُس کے کئے کا پورا بدلہ دیا جائیگا اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں

۱۶ ۲۱ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَالتَّجْرِبَةُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ○

اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اس لئے کیا تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے

۱۷ ۲۲ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا

۱۸ ۲۳ وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَمَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

اور تاکہ اُنہیں اُن کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائیگا

۱۹ ۲۴ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ○

پھر وہ پورا بدلہ دیا جائے گا۔

۲۰ ۲۵ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ

اور جو دنیا کا ثواب چاہے گا اُسے ہم وہی دیں گے اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا اُسے ہم وہی دیں گے اور

۲۱ ۲۶ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ○

ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔

۲۲ ۲۷ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكْرَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ○

(اے نبی) کہہ دے کہ کل اپنی نیت پر عمل کرتا ہے تو تمہارا پروردگار ہی اُسے خوب جانتا ہے جو زیادہ رو بہ راست ہے

۲۳ ۲۸ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اُس کے لئے ہم اُس کی کھیتی میں زیادتی کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اُسے ہم اسی میں

۲۰- جزا اعمال نیت پر ہے

الدُّنْيَا نُوْنُهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيْبٍ ۝

اسے ہم اسی میں سے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے

۳۳ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۝

لیکن رُفت اس پر ہے جو تمہارے دلوں نے قندرا کیا ہے۔

۳۴ وَلٰكِنْ يُّؤَخِّدْكُمْ ذٰلِكَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۝

لیکن نہیں اس پر کہے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے

۳۵ وَاِنْ تَبَدُّوا مَا فِي الْقِسْمِ ۝

اور اگر تم اس بات کو جو تمہارے دلوں میں

۳۶ اَوْ تَحْضَوْا يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ۝

ہے ظاہر کرے یا اسے چھپاؤ اس پر اللہ تم سے محاسب کرے گا۔

۱۔ سوائزہ دلوں کے فعل پر ہوگا۔

موت

۳۷ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۝

اور (اے نبی) تم سے پہلے ہم نے کسی آدمی کو بھیجی نہیں دی اگر تو مر گیا تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں

۳۸ كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ ۝

ہر نفس موت چکھنے والا ہے اور ہم نہیں برائی اور بھلائی میں بہانے کر اڑاتے ہیں اور تم ہماری طرف لوٹنے جاؤ گے۔

۳۹ ثُمَّ اَنْتُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمِيْنُونَ ۝

پھر بے شک اس کے بعد تم مرنے والے ہو۔

۴۰ كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ ۝

ہر نفس موت چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹنے جاؤ گے

۴۱ اِنَّكَ مَيِّتٌ ۝

تو (نبی) کچھ شک نہیں کہ تو بھی مرے گا اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔

۴۲ كُلُّ مِّنْ عَلَيْهِمْ ۝

ہر ایک جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے

۴۳ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۝

اور ہر امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے

۴۴ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۝

تو (اے نبی) ان پر (بددعا کرنے میں) جلدی نہ کر ہم ان کی عمر کو گنتی میں رہے ہیں

۴۵ نَاذًا جَاءَ اَجَلُهُمْ ۝

پھر جب ان کا وقت آجاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں نہ آگے جاتے ہیں

۱۔ دنیا میں ہیش کسی کو نہیں

۲۔ ہر نفس مرنے والا ہے

۳۔ موت کا وقت مقرر ہے

۴۔ موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔

۳۲
۳۳ ثُمَّ الشَّانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخِرِينَ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا

کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے

پہر ان کے بعد ہم نے بہت سی امتیں پیدا کیں

وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

جاتی ہے اور نہ وہ پیچھے ہی رہتے ہیں

۳۴ فَاذْجَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

پھر جب ان کا وقت آجائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے

۳۵ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذْ جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

اور اللہ کسی شخص کو جب اس کا وقت آجائے گا ہرگز پیچھے نہیں چھوڑے گا اور اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے

۳۶ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

بے شک جب اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت آجاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹایا جاتا۔ کاش تم جانتے ہوئے

۳۷ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَاسُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تُنْعَوْنَ

(اے نبی) کہہ دے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا۔ اور اس وقت تمہیں تھوٹنا

إِلَّا قَلِيلًا ۝

ہی ناکامہ پہنچایا جائے گا

۳۸ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ

(اے نبی) کہہ دے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم سے ضرور ملے گا تاکہ تمہیں والی ہے اور پھر تمہیں پھینچے اور کھلے

الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر وہ تمہیں تمہارے عملوں سے آگاہ کر دے گا

۳۹ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

۴۰ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَافِي ۝ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝

ہرگز یوں نہیں جب جان گلے میں آبلے گی اور کہا جائے گا کون ہے۔ چھال پھونک کرنے والا اور وہ یقین کرے گا کہ قسمت

۴۱ وَالنَّفْسِ السَّاقِ بِالسَّاقِ ۝ إِلَىٰ سَرَائِكِ يَوْمِئِذٍ الْمَسَاقِ ۝

کا وقت آگیا اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی اس دن روانگی تیرے پروردگار کی طرف ہے

۴۲ قُلْ يَتَوَقَّعُ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ سَرَائِكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

(اے نبی) کہہ دے کہ تمہیں موت کا فرشتہ جو تم پر تعینات کیا گیا ہے مارے گا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۴۳ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبِيَةٍ أَهْلَكْنَهَا أَوْ هُمَا لَا يَرْجِعُونَ ۝

اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہ آئیں۔

۵۔ موت سے بھاگنا نفع نہیں دے سکتا

۶۔ موت کا وقت خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

۷۔ جان کنی کا وقت

۸۔ مارتا تک الموت ہے

۹۔ موت کے بعد لوٹنا نہیں

۹۹
۲۳ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا

ہاں تک کہ جب میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج تاکہ میں اس
فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ
مکہ جے پھوٹا یا ہوں نیک عمل کروں ہرگز نہیں۔ تو ایک بات ہے جو وہ کہے گا اور ان کے آگے ایک پردہ ہے
يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾

اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں

۱۰۰ وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿۱۰۰﴾

۱- موت کی بیہوشی

اور موت کی بے ہوشی جو حق ہے آئی۔ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔

۱۰۱ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ ۖ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ وَقَالُوا

۱۱- موت کے وقت کا زور

اور (اے نبی) کاش دیکھے جب وہ گھبرا رہے ہوں گے سو وہ بھاگ نہ سکیں گے اور قریب ہی جگہ سے پکڑے جائیں گے
أَمْثَلِيهِ ۖ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۱۰۱﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ
اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور ان کے لئے دور جگہ سے اس کو پکڑا کہاں جبکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں اور بغیر
مِنْ قَبْلُ ۖ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۱۰۲﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ
دیکھے دور کے فاصلے سے انکھیں دوڑاتے تھے۔ اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا

کا ایمان و ناسقبول نہیں

وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿۱۰۳﴾

بسیا کہ پہلے ان کے ہم مشرہوں کے ساتھ کیا گیا ہے بے شک وہ شک در شک میں تھے۔

موت کے بعد

۱۰۲ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۱۰۲﴾

۱- کافر کہتے ہیں کہ دنیا کی

اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور بس۔ اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے

زندگی کے بعد کوئی زندگی

۱۰۳ وَأَنفُسُهُمْ أَجْلًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿۱۰۳﴾

نہیں۔

اور وہ خدا کی سنت نہیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا ضرور وعدہ برحق ہے
عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۴﴾ لَيْسَ لَهُمُ الَّذِي يُحْتَفِلُونَ
ہاں لیکن اکثر آدمی یقین نہیں کرتے تاکہ جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں انہیں خود ان پر ظاہر کر دے
فِيهِ ۖ وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۱۰۵﴾
اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ ہی غلطی پر تھے۔

۱۰۴ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَوْتٌ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۱۰۴﴾

یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور بس ہم مرتے ہیں اور جیتتے ہیں اور ہم پھر جی کر نہیں اٹھیں گے

۳۳ ان هؤلاء ليقولون ۳۴ ان هي الامواتنا الاولى وما نحن بمشركين

کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلی ہی دفعہ مرنا ہے اور بس اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔

۳۵ وقالوا ان هي الاحياءنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر

اور کہتے ہیں یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور بس ہم مرتے ہیں اور جیتتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے۔

۳۶ زعم الذين كفروا ان لن يتبعوا قل بلى و سراجي لتبعن ثم لئن لم يأتهم

کافر سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو کہہ دے کہ مجھے اپنے پروردگار کی قسم

بما علمتم وذلك على الله يسير

تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں بتایا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے

۳۷ لا اقيم يوم القيامة ۳۸ ولا اقيم بالنفس الوامة ۳۹ الجسب

ہم روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں اور ملامت کرنے والے کن کیا انسان یہ جانتا ہے کہ ہم اس کی بڑیاں جمع نہ کریں

الانسان ان يجمع عظامه ۴۰ بلى قادرين على ان نسوي بنانه

گے۔ ہاں ہاں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور پور ٹھیک بٹھادیں۔

حشر

۴۱ ثم ليبيتكم ثم ليحبيكم ثم اليه ترجعون

پھر وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلانے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۴۲ ولكل وجهه هو مواليها فاستنبهوا الخيرات اين ما تكونوا يات

اور ہر ایک کے لئے ایک طرف مقرر ہے بدہر وہ منہ پھیرتا ہے تو تم نیکیوں کی طرف بیکہ جہاں کہیں بھی تم

بكم الله جميعا ان الله على كل شئ قدير

ہو گے اللہ تم سب کو (میدان حشر میں) لے آئیگا بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے

۴۳ واعلموا انكم اليه تحشرون

اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے

۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

۹۱ واتقوا الله الذي اليه تحشرون

اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کئے جاؤ گے

۹۲ ولئن مئتم اوتيتكم لا الى الله تحشرون

اور اگر تم مر گئے یا قتل کئے گئے تو کچھ شک نہیں کہ تم اس اللہ کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے

۱۔ موت کے بعد زندہ ہو کر فرائض حضور میں حاضر ہونا ہوگا

۳۴ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

وہ نہیں ہنوز قیامت کے دن جس میں شک نہیں ہے جمع کرے گا

۳۵ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں تمہاری رو باتیں بتلا دے گا جن میں اختلاف کرتے تھے

۳۵ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کرے گا

۳۶ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ

جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ تمہیں (امت کی طرف سے) کیا جواب دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ ہمیں

عَلَامُ الْغُيُوبِ

کچھ خبر نہیں ہے شک ہمیں باتوں کا تو ہی خوب پہننے والا ہے

۳۷ إِنَّمَا يَكْتُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ تَمَّ الْبَيِّنَاتِ

مانتے تو ہیں وہی ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے

۳۸ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمِّرَ كَمَا

اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو بازوں پر اڑے مگر سب تمہاری مانند اُتیں ہیں ہم نے کتاب میں

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

کس بات کی کمی نہیں کی پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف اکٹھے کئے جائیں گے۔

۳۹ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ

پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے جائیں گے۔

۴۰ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا آيَاتِ اللَّهِ لِيَخْشَرُونَ

اور یہ کہ تم نماز کو قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور تم اسی کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔

۴۱ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا جائے گا سو وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔

۴۲ قَالَ فِيهَا مَخْبُوءَاتٌ وَفِيهَا مَعْرُوفَاتٌ وَمِنْهَا مَخْرَجُونَ

فرمایا تم اس زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں مردے اور (قیامت کو) اسی سے نکالے جاؤ گے۔

۴۳ وَأَنَّ الْبَيْتَ يُحْشَرُونَ

اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔

۴۴ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ وہ پہلے خلقت کو پیدا کرتا ہے پھر اسے

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ

لڑائے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کو انصاف سے بدلہ دے

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے سو ہم تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کر دیں گے

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے

هُوَ سَرُّبُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے

وَإِنَّ سَرَابَكُمْ هُوَ يُخْبِرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

اور رازے نبی انہیں پروردگار ضرور انہیں اکٹھا کرے گا بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ مِثْلِهِ بَلَاءًا وَعَدَا

اور انہوں نے اللہ کی بکی تیس کھائیں کہ جو مر جائے گا۔ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں۔ یہ اس

عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

کے زعمے سچا وعدہ ہے لیکن اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے تاکہ وہ ان سے وہ باتیں بیان

يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كُن بَيْنَ ۝

کے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے ہمارا کہنا تو کسی شے

قَوْلُنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَسْرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

کے لئے جب ہم اسے کرنا چاہنے ہیں صرف اس قدر ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے

وَحَشْرُهُمْ قَالُوا نَعَادُ سِرًّا مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے سو ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے

وَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ ۝

اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝

وہ لوگو! ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری بار نکالیں گے

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَيْنَا يَرْجَعُونَ ۝

اور انہوں نے اپنے درمیان اپنے دین کے کام کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا وہ سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا أَنَّا كُنَّا فَعَلِينَ ۝

جیسا ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہم اسے لوٹائیں گے یہ ہمارے ذمہ ہے بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں

۱۷
۲۳ تَمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَبْعْتُونَ ۝

پھر کچھ شک نہیں کہ قیامت کے دن تم (قبروں سے) اٹھائے جاؤ گے۔

۱۸
۲۳ وَاللَّيْلُ فَخَشِرُونَ ۝

اور تم اسی کی طرف اکتھے کئے جاؤ گے۔

۱۹
۲۴ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِيَنِي ۝

اور وہ جو مجھے مارتا ہے پھر مجھے زندہ کرے گا :

۲۰
۲۸ وَلَهُ الْحُكْمُ وَالْيَوْمِئَاتِ تُرْجَعُونَ ۝

اور اسی کا حکم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۲۱
۲۹ اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے سو میں تمہیں تمہارے عملوں سے آگاہ کر دوں گا۔

۲۲
۲۹ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۲۳
۲۹ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝

وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۲۴
۲۹ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝

پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے

۲۵
۳۱ اَللّٰهُ بِيَدِهِ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اُس کو دوبارہ لوٹائے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۲۶
۳۱ وَمِنَ الْاٰيٰتِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهَا ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ

اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین کھڑے ہیں پھر جب وہ

۲۷
۳۱ مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝

تمہیں زمین سے ایک بلا و ابلا بھیگا تو اسی دم تم نکل کھڑے ہو گے

۲۸
۳۱ وَهُوَ الَّذِي يُبْدِ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝

اور وہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اُسے دوبارہ لوٹائے گا اور وہ اس سے بہت آسان ہے۔

۲۹
۳۱ اِلَى الْمَصِيْرِ ۝

میری ہی طرف لوٹنا ہے

۳۰
۳۱ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلٰكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

(اے نبی) کہہ دے کہ تمہیں وہ موت کا فرشتہ مارتا ہے جو تم پر تعینات کیا گیا ہے پھر تم اپنے پروردگار ہی کی طرف ہٹائے

۳۳ وَ يَوْمَ يَجْتَمِعُ لَهُمْ جَمِيعًا ثَمَّ يُقُولُ لِلْمَلَكِ أَهْلُكُمْ أَمْ لَا يَا كُمْ كَانُوا

اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہیں پر جا
يَعْبُدُونَ ○

کرتے تھے۔

۳۴ *** وَالْإِلَى الْمَصِيرُ ○ إِلَى الْمَصِيرُ ○

اور میری ہی طرف لوٹنا ہے

۳۵ وَإِن كُنَّا لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ○

اور وہ سب ہی اکٹھے ہمارے سامنے حاضر کئے جائیں گے

۳۶ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ○

وہ (قیامت) تو صرف ایک دانت ہے اُس کے ہوتے ہی وہ سب ہمارے سامنے حاضر کئے جائیں گے

۳۷ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ○ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

پھر تمہیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے سو وہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کر دے گا

۳۸ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

پھر تم اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے۔

۳۹ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ○

اسی کی طرف لوٹنا ہے

۴۰ وَإِن مَّرَدًّا إِلَى اللَّهِ

اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہیں لوٹنا ہے

۴۱ فَأَصْدِيقَاتٍ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ۖ فَمَا تُزَيِّدُكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ

تو (اے نبی) تو صبر کر بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے سو اگر تم تجھے بعض وہ (غذاب) جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں

نَتَوْقِيكَ فَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ ○

دکھائیں یا (اس سے پہلے ہی) تجھے ماریں تو وہ تو ہر حال میں ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے

۴۲ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ○

اللہ ہمیں ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے

۴۳ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ○

پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے جاؤ گے

۴۴ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ

(اے نبی) کہہ دے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ رکھتا پھر تمہیں مارے گا پھر قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا۔

فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

جس میں شک نہیں ہے لیکن اکثر آدمی (اس بات کو) نہیں جانتے

۲۵ یَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ۝ بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

اس دن حق کے ساتھ جگمگاہٹیں گے یہ (قبروں سے) نکلنے کا دن ہے بے شک ہم ہی جانتے

۲۶ نَحْنُ وَنُؤَيِّبُتُ وَآلِيبْنَا الْمَصِيرُونَ ۝ بِئْسَ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا

اور مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے اس دن ان سے زمین پھٹ جائے گی جلدی

ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا لِيَؤْرَ ۝

کرتے ہوں گے۔ یہ اٹھا کرنا ہم پر آسان ہے۔

۲۷ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝

اور یہ کہ تیرے پروردگار ہی کی طرف اٹھنا ہے

۲۸ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْأٰخِرَةَ ۝

اور یہ اس کے ذمے ہے پچھلی پیدائش

۲۹ ثُمَّ تَرْدُّوْنَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

پھر تم تپے اور کھلے جانے والے (آ خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے

۳۰ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

۳۱ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ

(اے نبی کہہ دے کیوں نہیں مجھے اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور (زندہ کر کے) اٹھائے جاؤ گے

۳۲ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

اور اسی کی طرف ہی اٹھنا ہے۔

۳۳ ثُمَّ إِذَا نَسَّأَ النَّشْرَةَ ۝

پھر جب وہ جا ہے گا اُسے جلا اٹھائے گا

۳۴ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

اور جب جانیں ملائی جائیں گی

۳۵ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِمٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَذَّٰبًا مَّكِينًا ۝

اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف شفقت کے ساتھ گھٹینے والا ہے پھر اُس سے ملنے والا ہے

۳۶ إِنَّ الْبَيْنَا يَا بِهِمْ ۝

بے شک ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہے

۹۶ **إِن إِلَىٰ سَائِلِكُمُ الرَّجْعِي ۝**

بے شک تیرے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے

۹۷ **وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوَلَمْ نَكُنْ نَوْنًا خَلَقْنَا جَدِيدًا ۝**

اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم (مرکز) ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو از سر نو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟

۹۸ **قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝۱۰۱** **أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۝۱۰۲**

تو کہہ دے کہ تم پتھر یا لوہا یا کوئی اور چیز بھی بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بڑی سخت ہو۔ اس پر یہ بوجھیں گے کہ ہم کو دو بارہ کون زندہ کرے تو کہہ دے کہ وہی جس نے تم کو اول بار پیدا کیا۔ اس پر یہ لوگ تیرے آگے

۹۹ **إِلَيْكُمْ سَوْسَدًا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝۱۰۳**

سر ہلانے لگیں گے اور پوچھیں گے کہ بھلا قیامت کب آئے گی تو ان سے کہہ دے کہ مجھ نہیں کہ قیامت قریب آگئی

۱۰۰ **ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوَلَمْ نَكُنْ نَوْنًا خَلَقْنَا جَدِيدًا ۝۱۰۴**

جہنم ان کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم (مرکز) ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھا کھڑے کئے جائیں گے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ

۱۰۱ **خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا سَآئِبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۝۱۰۵**

جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے آدمی دو بارہ پیدا کر دے اور اُس نے ان کیلئے ایک مہلک و مقرر کر رکھی ہے جس میں کسی طرح کا شک ہی نہیں اس پر بھی یہ ظالم انکار کئے بدوں نہ رہے

۱۰۲ **وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ اِذَا مَاتَ لَسُوْفٌ اٰخِرٌ حَيًّا ۝۱۰۶** **اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنْ اَخْلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۱۰۷**

اور انسان کہتا ہے کہ بھلا جب میں مر گیا تو کیا میں (قبر سے) زندہ نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے پہلے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ چیز نہ تھا۔

۱۰۳ **قَالُوْا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝۱۰۸** **لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝۱۰۹**

کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور سٹی ہو جائیں گے اور صرف ہڈیاں تو کیا ہم (دو بارہ) اٹھا کھڑے کئے جائیں گے ہم سے اور پہلے ہمارے بڑوں سے اس کا وعدہ ہونا چاہا آیا ہے ہونہ ہو، صرف اگلے لوگوں کے دھکے سے ہیں تو ان

۱۱۰ **قُلْ لِمَنْ اَلْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۱۰** **۝۱۱۱** **سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۝۱۱۲**

تیرے بچے اگر تم سمجھو گے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اُس میں ہے وہ کس کا ہے وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کا۔

۲۰ حشرِ منکروں کا استہجاب اور اُس کا جواب

لِلَّهِ قُلُّ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

پوچھ کر پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ پوچھ کر سات آسمانوں کا مالک کون ہے اور عظیم الشان وحش کا مالک کون ہے؟
الْعَرَضِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ

وہ تو بلا جواب دیں گے کہ اللہ۔ پوچھ کر پھر کیا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تو ان سے کہہ دے کہ تم بھیدار ہو۔
مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

ترتیباً ڈر کرے۔ کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور وہ پناہ دیتا اور اس کے مقابلے
تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝ بَلْ آتَيْنَا

عما کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ وہ تو برا جواب دیں گے کہ اللہ اب ان سے کہہ دے تم پر کیسی جلی
هُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ بَشَرٌ

پر مبنی ہے حق۔ ہے کہ یہی بات ہم نے ان کو پہنچا دی ہے اور بے شک یہ جھوٹے ہیں
أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝

کیا آدمی کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا یاں ہم وہ کلمہ کھلا مقابل بن کر بھگڑنے لگا۔
وَضَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَلَيْسَ خَلْقُهُ أَقَالَ مِنْ يَحْيَى الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝

اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی امالت کو بھول گیا کہتا ہے کہ کون ہے کہ ہڈیاں گل کرناک ہو گئی ہوں
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

تو وہ بن کر زندہ کر کے کھڑا کرے۔ تو کہہ دے کہ میں نے ہڈیوں کو اول بار پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا اور وہ ب
نَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِنُونَ ۝

کا پیدا کرنا جانتا ہے وہی ہے کہ بعض ہرے درختوں سے تمہارے لئے آگ پیدا کرتا ہے پھر تم اس سے آگ سلگالیتے
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ

ہو۔ کیا جس نے آسمان و زمین پیدا کئے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کرے؟ اس سے
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ قَدْ خَلَقْنَا الْعِلْمِ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا

اور وہ بڑا پیدا کرنے والا ماہر ہے۔ اس کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ

سے اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو سو وہ ہو جاتی ہے پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار
كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

ہے اور تم مگر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ۝ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ
اور کافر سب جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک (لوگوں) کو پاک (لوگوں) سے الگ کر دے اور ناپاک

الطَّيِّبُ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي
 جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

(لوگوں) کو ایک دوسرے پر رکھ کر ان سب کا (ایک) ڈھیر بنائے پھر اسی ڈھیر کے ڈھیر کو جہنم
 میں جھونک دے۔

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۝

زندہ کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے انصاف کے ساتھ ان کو بدل دے

يَوْمَ تَبْدَأُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

ہوں گے اس غرض سے کہ خدا ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دے بے شک اللہ کو حساب لینے کچھ بھی دیر نہیں لگتی

وَأَتَسَمَوْا بِاللَّهِ جَهْدًا أَيْمَانِهِمْ ۚ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعَدَّ عَلَيْنَا
 حَقًّا وَلٰكِنَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَكْثَرِ الْغٰفِلِينَ ۝

اور یہ منکر خدا کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسکو خدا نہیں اٹھا کھڑا کرے گا ضرور وعدہ برحق ہے

حَقًّا وَلٰكِنَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَكْثَرِ الْغٰفِلِينَ ۝

اس پر مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے اس لئے کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں خدا ان پر ظاہر کرنے

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كٰذِبِينَ ۝

اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہی غلطی پر تھے

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝

قیامت آنے والی ہے ہم اس کو پوشیدہ رکھنے کو ہیں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ لے

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ
 يَوْمَئِذٍ يُصَدِّقُونَ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تو اس سے پہلے کہ خدا کی طرف سے وہ دن آجود ہو جو نہیں ٹل سکتا سیدھے دین پر اپنا رخ کئے رہو

مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۝

اس دن جہاں ہو جائیں گے۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کو اللہ اپنے فضل

سے عوض دے کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَ سَأْتِيكُمْ

اور منکر کہتے ہیں کہ ہم کو تو قیامت آنی نہیں۔ کہو ہاں ہاں مجھکو اپنے پروردگار کی قسم جو عالم غیب ہے۔

۳۰ حشر سے غرض جزا و سزا

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

عَلِمِ الْغَيْبِ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ أُولَٰئِكَ

تیاست تو تم کو ضرور پیش آکر رہے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کو بدلہ دے یہی وہ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

۲۱ ۝ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جو لوگ بکر دہریوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں کیا انہوں نے یہ سبھا۔ اچھے کہ ہم ان کو ان ہی لوگوں جیسا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ نَحْيَاهُمْ وَمَا نُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ ۲۲ ۝ وَخَلَقَ

کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے کہ ان کا مرنا اور ان کا جینا ایک ہی طرح کا ہو یہ
اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ۝ وَنَجْرُكُمْ ۝ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

بڑے ظلم نگاتے ہیں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو صحت سے پیدا کیا ہے اور تم سب کو یہ ہے کہ ہر نفس
لَا يُظْلَمُونَ ۝

کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے اور لوگوں کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۲۳ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ مَرْحَمَتِهِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ

اور وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت کے آگے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل
سَحَابًا نَقَالًا ۝ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ ۝ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ۝ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ

اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مُردہ بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر اس سے بارش نازل کرتے ہیں پھر ہم اس سے ہر
الشَّجَرَاتِ ۝ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

قسم کے پھل نکالتے ہیں ہیں ہی ہم مُردوں کو نکالیں گے تاکہ تم سمجھو

۲۴ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ

کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کرے اور
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۝ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّأَسْرَبَ فِيهِ ۝ قَابِ الظَّالِمُونَ ۝ ۲۵ ۝ الْكَافِرُونَ ۝

اس نے ان کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں شک نہیں ہے اس پر بھی ظالموں نے ناشکری کے سوا ہر بات
وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ۝ إِذَا مَا مِثْتُ لَسَوْفَ أَخْرِجُهُ حَيًّا ۝ ۲۶ ۝ أَوَلَا يَذَكَّرُ

اور انسان کہتا ہے کہ جبلا جب میں مرتیا تو کیا میں پھر زندہ (زمین سے) نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان یہ یاد نہیں
الْإِنْسَانُ ۝ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ ۝ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝

کرتا کہ پہلے ہم نے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ چیز نہ تھا۔

۲۷ ۝ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ ۝ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۝ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

جیسا ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہم اسے دوبارہ کریں گے یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں

۳۴ دلائل حشر

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي سَرِيبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاثَا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ

لوگو! اگر تم جی اٹھنے سے شک میں ہو تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر خون کی
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

پہلی سے پھر تمام اور نام تمام گوشت کے دو تھپے سے تاکہ ہم تم سے بیان کریں۔
لِّبَيِّنٍ لَّكُمْ وَنَقَرْنَا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

اور ایک وقت مقرر تک جتنا ہم چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر ہم تمہیں بچہ بنا
طِفْلًا ثُمَّ لِيَتَّبِعُوا أَسْدًا كَرُمًا مِّن مِّن يُّتَوَفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتْرَدُّ إِلَىٰ

کر نکالتے ہیں پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور کوئی تم میں سے مار دیا جاتا ہے اور کوئی تم سے ناکار
أَرْضًا زِلَّ الْعُمُرِ كَيْلًا يَعْلَمُ مِّن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتُرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً

مگر طرف لٹایا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو خشک دیکھتا ہے جب ہم اس پر مینہ
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيّجٍ

برساتے ہیں تو وہ بہتی اور پھولیں سہا اور ہر قسم کا خوش نما سبزہ اگاتی ہے یہ اس لئے ہے کہ اللہ جو ہے
ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وہی حق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِّن فِي الْقُبُورِ

آنے والی ہے اس میں شک نہیں ہے اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ

کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں ڈالی کہ اللہ کس طرح خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ کرتا ہے بے شک
لَيْسِيرٍ ۚ فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

یہ اللہ پر آسان ہے (اے نبی) کہہ دے کہ ملک کی سیر کرو پھر غور کرو کہ اس نے خلق کو کس طرح پہلی بار پیدا کیا
ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

پھر اللہ ہی دوسری پیدائش پیدا کرے گا بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مرے
مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ نَخْرُجُكُم ۚ

ہمیں زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے
وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا

اور اللہ وہ ہے جو ہوا میں بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک مردہ بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝

پھر ہم اس سے زمین کو اس کے مرے ہیچے زندہ کرتے ہیں یوں ہی جی اٹھتا ہے

۳۶ ۱۱ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝

اور اس نے ہمارے لئے کہاوت بیان کی تو اپنی پیدائش کو بھول گیا کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب وہ گل لگیں کون زندہ

۳۶ ۱۲ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

(اے نبی اکہ رے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ تمام مخلوق کو جانتا ہے وہ جس نے

۳۶ ۱۳ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ نُجِدُونَ ۝

تہارے لئے ہنزدخت سے آگ پیدا کی کہ تم اس سے نور ہی جلا لیتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور

۳۶ ۱۴ أُولَئِكَ بِالذِّمَىٰ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۝

زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ انہیں سے اور پیدا کرے کیوں نہیں حال آنکہ وہی بڑا پیدا کرنے

۳۶ ۱۵ بَلَىٰ وَهُوَ خَلَقَ الْعِلْمِمْ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

والا جانے والا ہے۔ اس کا کام تو جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے صرف یہ ہے کہ اس سے کہہ

۳۶ ۱۶ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

دے کہ ہو جا سورد ہو جاتا ہے۔ سورد ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے اور تم اسی کی طرف

۳۶ ۱۷ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

بے شک تمہارا مبود ایک ہی ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار اور مشرقوں کا

۳۶ ۱۸ الْمَشَارِقِ ۝ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَ

پروردگار بے شک ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں کی ایک طرح کی زینت سے سجایا۔ اور ہر ایک

۳۶ ۱۹ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَ

سرسن شیطان سے محفوظ رکھا۔ وہ (فرشتوں کی) اعلیٰ جماعت کی طرف کان نہیں لگا سکتے

۳۶ ۲۰ يُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ۝

اور ہر طرف سے انکارے پھینکے جاتے ہیں بھگانے کے لئے اور ان کے لئے پھیننے والا عذاب ہے

۳۶ ۲۱ إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ أَنشَأَ مِن تَارِبٍ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ

مگر جو کوئی ایک ایک ایک لے گیا تو چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ تو (اے نبی) تو ان سے پوچھ گیا

۳۶ ۲۲ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝

وہ پیدا کرنے میں زیادہ سخت ہیں یا وہ جو ہم نے پیدا کئے ہیں بے شک ہم نے انہیں چمکتے گارے سے پیدا کیا ہے

۳۶ ۲۳ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَمِيسِرٌ

اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت مار دیتا ہے اور جو نہیں مریں انہیں ان کی نیند میں پس ہر اس نے موت کا

۱/ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝ اَلْاِحْسَابُ

میں تیاست کے دن کی قسم کیا تاہوں اور (جی ہر) طاقت کرنے والے نفس کی قسم کیا تاہوں کیا انسان یہ گمان
اَلْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلَى قَدِ اَرْبَابِن عَلٰى اَنْ نُّسْوٰى بِنَا لَللّٰحِی

۲/ کرتلہ کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم اس بات پر تاد میں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو
فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝ وَلٰكِنْ كَذَابٌ وَتَوَلٰى ۝ ثُمَّ تَمَّ ذَهَبٌ

سو اس نے زتصدق کی اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور نہ سوڑا پھر اکرٹا ہوا اپنے گھر کو
اِلٰى اَهْلِهٖ يَمْطِئُ ۝ اَوَّلٰى لَكَ فَاوَّلٰى ۝ ثُمَّ اَوَّلٰى لَكَ فَاوَّلٰى ۝

۳/ چلے یا
ثُمَّ اَجِبْ اِلٰى اَهْلِهٖ يَمْطِئُ ۝ اَوَّلٰى لَكَ فَاوَّلٰى ۝ ثُمَّ اَوَّلٰى لَكَ فَاوَّلٰى ۝

کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو چھکا یا گیا تھا
مَنْ يُّمِنْنِى ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتُهُ فِى الْاٰخِرِ ۝ فَبِعَلِّ مِنْهُ

۴/ پھر وہ جہا ہوا خون تھا پھر اسے پیدا کیا اور تندرست کیا
الرُّوْحٰىنِ الذَّاكِرٰتِ وَالْاُنثٰى ۝ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدِيْرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى

۵/ مادہ دو جوڑے پیدا کئے کیا یہ خدا اس پر تاد نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے
عَمَّ يَتَسَاوٰنَ ۝ عَنِ التَّبٰ الْعَظِيْمِ ۝ الَّذِى هُمْ فِيْهِ

۶/ وہ کس بات کی بابت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اس بڑی خبر کی بابت جس میں وہ ایک دوسرے سے
مُخْتَلِفُوْنَ ۝ كَلَّا سَبِعَلٰوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَبِعَلٰوْنَ ۝ اَلَمْ

۷/ اختلاف کر رہے ہیں ہرگز نہیں ہے وہ فقرب ہی معلوم کریں گے پھر ہرگز نہیں ہے وہ فقرب ہی معلوم کریں
يَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝ وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا

۸/ گئے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو سیخ اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا الْيَلَّ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا

۹/ اور تمہاری نیند کو ہم نے آرام بنایا اور رات کو ہم نے پردہ پوش بنایا اور دن کو ہم نے زریہ
الْمَسَامِعَ مَعٰشًا ۝ وَيَبْنٰى فَوْقَكُمْ سَبْعًا سَبْعًا دَا ۝ وَجَعَلْنَا

۱۰/ معاش بنایا اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے اور ہم نے
سِرَاجًا وَّهٰلِحَا ۝ وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً مُّتَجٰجًا ۝

۱۱/ ایک چمکتا چراغ بنایا اور پھونکنے والی ہریوں سے ہم نے سوسلا دھار پانی اتارا
لِيُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝ وَجَنَّتْ الْاَفَا فَا ۝ اِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ

۱۲/ تاکہ ہم اس سے زمین سے آناج اور بوٹیاں نکالیں اور گھن کے باغ بے شک فیصلے

كَانَ مِيقَاتًا ۝

۲۷ ۝ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بِنَاءٍ ۝ سَرَّعَ سَمَكُهَا فَسَوَّيَهَا ۝
 کا دن وقت مقرر کیا ہوا ہے
 کی تم پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان جسے اس نے بنایا۔ اس کا اونچان بلند کیا۔ پھر اسے

۲۸ ۝ وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝
 ٹھیک کیا اور اس کی رات ڈھانک دی اور اس کا دن نکالا اور اس کے بعد زمین بچھالی

۲۹ ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝ مَتْنَعًا ۝
 اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑ گاڑے تمہارے اور تمہارے

لَكُمْ وَلَا تَعْمَلُونَ

چو پاؤں کے ناندھے کے لئے

۳۰ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ

انسان کو اس پر نظر کرنی چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ پیدا کیا گیا ہے کودنے والے پانی
 مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے

۳۱ ۝ فَمَا يَكْفُرُ بِكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝
 سو اس کے بعد تجھے قیامت کے بارے میں کیا چیز جھٹلاتی ہے کیا اللہ سب مالکوں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟

قیامت

۳۲ ۝ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ قُلْ لَيْقَوْمٍ أَعْمَلُوا

بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے
 عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِنِّي عَامِلٌ ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ

نئی کہہ دے کہ بھائیو! تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ میں بھی عمل کرتا ہوں غنقریب ہی تم جان لو گے کہ عاقبت کا
 الدَّارِ بِرِإْتَانِهِ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

گھر کس کیلئے ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ظالم نجات نہیں پاتے

۳۳ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ

اور تم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بے شک قیامت
 لَأَتِيَةٌ ۝ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝
 آنے والی ہے تو (اے نبی) تو خوبی کے ساتھ (ان سے) درگزر کر

ای قیامت ضرور آئے گی

۲۹ مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ

جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا عہد یا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے۔

۳۰ مَن قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمَكَ لَمْرَدًا لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدَّقُ عَمَلُ

اس سے پہلے (نیک عمل کر لو) کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آجود ہو جو مل نہیں سکتا اُس دن وہ ایک دوسرے سے

۳۱ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَأَيْتُمُ عَمَلَكُمْ

اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئی (اے نبی) کہہ دے کہ کیوں نہیں آئی اپنے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آئیگی

الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مَن قَالُوكَ ذُرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا

وہ غیب کا جاننے والا ہے اُس سے ایک ذرہ بھر چیز بھی نہیں ہوتی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں

أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

اور نہ ذرہ سے چھوٹی اور نہ بڑی سب ہی کھول کر بیان کرنے والی کتاب میں مندرج ہے

۳۲ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ قُلْ أَوَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یا ہمارے اگلے باپ و دادا

۳۳ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝

(اے نبی) کہہ دے ہاں۔ اور تم ذلیل ہو گے

۳۴ اسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّ كَمَا مَن قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمَكَ لَمْرَدًا لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ

لوگو! اپنے پروردگار کو قبول کرو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آجود ہو جسے تمنا نہیں ہے اُس دن

مِن مَّجِبًا يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ تُكْبِرٍ ۝

تمہارے نہ کرنے والے پناہ ہے اور نہ تمہارے لئے انکار ہی کی گنجائش ہے۔

۳۵ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

بے شک فیصلہ کا دن ان سب کے لئے مقرر و وقت ہے۔

۳۶ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَنَجْزِيَنَّ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۝ فَلَا

بے شک قیامت آتی ہے اور ہم اُس کا وقت چھپانے والے ہیں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے سو

يَصُدُّ نَفْسًا عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرْدَى ۝

کیسے رہنمائی ہے اُس سے فائل نہ کرے جو اُس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفسانی پر چلتا ہے کہ پھر توبہ نہ ہو جائے

۳۷ أَرَأَيْتَ الْأَرْزَاقَ ۝ لَبِيسًا لِّبَسَ هَٰؤُلَاءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاثِفَةٌ ۝ هَٰؤُلَاءِ أَمِنُوا هَٰذَا

زیب آنے والی تزیین آگئی اللہ کے سوا کون کون سے ٹالنے والا نہیں تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے

الْحَدِيثَ بَيْنًا تَعْجَبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَتَكُونُونَ ۝ وَأَنْتُمْ سَاهِلُونَ ۝

ہو اور ہنستے ہو اور روکتے نہیں اور تم فائل ہو۔

وَأَنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝

اور بے شک انصاف کا دن ضرور آنے والا ہے۔

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝ لَجُمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

راے نبی اکبر دے کہ سب اگلے اور پچھلے ایک مترادف دن کے وقت پر جمع کئے جائیں گے۔

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۝

بے شک قیامت آنے والی ہے

كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

اُس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

وَيَسْتَدِينُكَ أَحَقُّ هُوَ ۝ قُلْ إِيَّيَّيْنَا إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

۲۔ قیامت حق ہے

اور (اے نبی) وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے کہ دے ہاں مجھے اپنے پروردگار کی قسم بے شک وہ حق ہے اور تم

ذَلِكَ الْيَوْمَ لَحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اخْتِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءَ ۝

یہ (قیامت کا) دن ہے توجو پا ہے اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو۔

وَالذَّارِبَاتِ ذُرُورًا ۝ فَاحْمِلْتِ وَقْرًا ۝ فَاجْرِيَّتِ يَسْرًا ۝

۳۔ قیامت کا وعدہ سچا ہے

تسم ہے (بادلوں کو) اڑانے والیوں کی پھر (سینہ کا) بوجھ اٹھانے والیوں کی پھر آہستہ آہستہ چلنے والیوں کی

فَالْمُقْتِمَاتِ أَمْرًا ۝ إِنَّمَا نُوْعِدُ وَنَاصِدِقٌ ۝

پھر ایک چیز (یعنی بارش) کو بانٹنے والیوں کی بے شک وہ (قیامت) جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سچ ہے

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِمَنْ لَوْ فَعَتَهَا كَاذِبَةٌ ۝

جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اُس کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے

وَالهَرَسَاتِ عُرْفًا ۝ فَالْعَصِيفَاتِ عَصْفًا ۝ وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ۝

تسم ہے آہستگی سے چھوڑی ہوئی ہواؤں کی۔ پھر زور بانڈھ کر چلنے والیوں کی اور بادل کو پھیلنے والیوں کی

فَالْفَرَقَاتِ فَرَقًا ۝ فَالْمُكْفِيَاتِ ذِكْرًا ۝ عُدْرًا أَوْدَارًا ۝

پھر (اُس سے سینہ کو) جدا کرنے والیوں کی پھر (لوگوں کے دلوں میں خدا کی) یاد ڈالنے والیوں کی الزام دینے

إِنَّمَا نُوْعِدُ وَنَاصِدِقٌ ۝

یا ڈرانے کے لئے بے شک وہ (قیامت) جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سچ ہے۔

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۝

سو اُس وقت اُن کا کیا حال ہو گا جب تم انہیں اُس دن جمع کرینگے جس کے آنے میں کچھ شک نہیں

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۝ الَّذِينَ خَيْرًا وَأَنْفُسَهُمْ فَمَنْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

۴۔ قیامت کے آنے میں

وہ نہیں قیامت کے دن جس میں شک نہیں ضرور جمع کرے گا اور جو لوگ گھائٹے میں ہیں وہی ایمان نہیں لاتے

کچھ شک نہیں۔

۹۹ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيبَ فِيهِ

اور اس نے ان کے لئے ایک وقت مقرر کیا جس میں شک نہیں ہے۔

۱۰۰ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ

اور ہوں ہم نے (لوگوں کو) ان پر مطلع کیا تاکہ جان لیں کہ اس کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے لَّا رَيبَ فِيهَا

میں شک نہیں

۱۰۱ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

اسیہ قیامت ضرور آئیالی ہے اس میں شک نہیں اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں اٹھائے گا

۱۰۲ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَّا رَيبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

بے شک قیامت ضرور آنے والی اس کے آنے میں شک نہیں لیکن اکثر آدمی اس پر ایمان نہیں لاتے

۱۰۳ وَتَشِينِ رَأيُومَ الْجُمُعِ لَّا رَيبَ فِيهِ

اور تاکہ اکٹھا ہونے کے دن سے جس میں شک نہیں ہے ڈرائے

۱۰۴ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُمَبِّتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَّا

راہے نبی کہہ دے کہ اللہ ہی نہیں زندہ رکھتا ہے پھر وہ تمہیں مارے گا۔ پھر تمہیں قیامت کے دن جس میں

۱۰۵ رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

شک نہیں ہے جمع کرے گا لیکن اکثر آدمی (اس بات کو) نہیں جانتے

۱۰۶ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ

تسم ہے آسمان میں برسانے والے کی اور وہ انہاں گاتے رت) پھٹنے والی زمین کی

۱۰۷ لَقَوْلٍ فَصْلٍ ۝ وَمَا هُوَ بِأَهْرَاقٍ ۝

وہ ایک تعلق بات ہے اور وہ ہنسی کی بات نہیں ہے

۱۰۸ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لئے وقت مقرر ہے۔

۱۰۹ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝

بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر ہے۔

۱۱۰ لِيَسْأَلُوكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي

لوگ تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار

۱۱۱ لَا يُجَلِّئُهَا لِيَوْمٍ مَّيْمَنٍ وَلَا يُؤَخِّرُهَا لِيَوْمٍ شَمَالٍ ۝

ہی کے پاس ہے وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری چیز ہے۔ تم پر

۵۔ قیامت ہنسی کی بات نہیں ہے۔

۶۔ قیامت کا وقت مقرر ہے۔

۷۔ کفار کا سوال کہ قیامت کب ہوگی جواب کہ خدا کو ہی علم ہے

إِلَّا بَعَثَهُ لِيَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُ عِنْدَ اللَّهِ

اپنا تک ہی آجائے گی وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سرخ میں لگا ہوا ہے۔ کہہ دے کہ اس کا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

علم تو اسد ہی کو ہے لیکن اکثر آدمی اس بات کو نہیں جانتے
۱۴ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ○

اور وہ کہتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ تو کہہ دے کہ مجب نہیں قریب ہی آگئی ہو

۱۵ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا

بے شک قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں اس کے وقت کو چھپائے رکھوں

۱۶ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ○ بَلْ إِذْ أَسْرَأْتُمْ فِي الْأَخْرَةِ

اور وہ (بت) نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ○

ہے بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہیں

۱۷ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ قُلْ عَسَى أَنْ

اور وہ کہتے ہیں کہ تم سچے ہو تو یہ (قیامت کا) وعدہ کب پورا ہوگا (اے نبی) کہہ دے کہ جس کے لئے

يَكُونُ رَدْفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ○

تم جلدی بچار ہے ہو سو شاید اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آگیا ہو

۱۸ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور وہی بارش اتارنا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَاتُكَ تُكْسِبُ عَدَاوَةً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے

تَمُوتُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

گا بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

۱۹ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ

(اے نبی) لوگ تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہہ دے کہ اس کے وقت کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ○

تجھے کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو

۲۰ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ قُلْ لَكُمْ

اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ (اے نبی) کہہ دے کہ تمہارے لئے ایک

مَبْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

دن مقرر ہے اس سے نہ ایک گھڑی تم پیچھے نہ ہو اور نہ آگے بڑھو۔

۲۴ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا وہ تو بس ایک چنگاڑا ہی کے منتظر ہیں جو

الْأَصْحَابُ وَالْحِدَاةُ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝

انہیں ایسی حالت میں آکرے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں پھر نہ وصیت ہی کر سکیں اور نہ اپنے

تَوْصِيَةٍ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝

گھر والوں ہی کی طرف لوٹ سکیں۔

۲۵ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۝

قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹا یا جاتا ہے

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۝

اور قیامت کا علم اُس کے پاس ہے

۲۶ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۝

پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب ہوگا۔ جس روز یہ لوگ آگ پر بھونے جائیں گے۔

۲۷ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ (قیامت کا) وعدہ کب پورا ہوگا؟ (اے نبی) کہہ دے کہ علم تو اللہ ہی

الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

کے پاس ہے۔ اور میں تو ایک کھول کر ڈالنے والا ہوں اور بس

۲۸ بَلْ يَرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝

بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے گناہ کرے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا

۲۹ عَمَّا بَيَّنَّاهُ لَكَ مِنْ نَبَأِ الْعَظِيمِ ۝

وہ کس چیز کی بابت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اس بڑی جھڑکی بابت جس میں وہ باہم مختلف ہو رہے ہیں

۳۰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۝

(اے نبی) لوگ تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اُس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ تو

۳۱ إِلَىٰ سَرَابٍ مُّنتَهَاهَا ۝

اُس کے کس خیال میں ہے اُس کی انتہا تیرے بعد وہ دگڑا ہی کی طرف ہے

۳۲ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

(اے نبی) کہہ دے شاید وہ قریب ہی ہو۔

۸۔ قیامت قریب ہے

۳۳ وَمَا يُدَارِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝

اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔

۳۴ وَمَا يُدَارِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

اور تجھے کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔

۳۵ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشْقُ الْقَمَرُ ۝

قیامت قریب آگئی اور چاند بھٹ گیا

۳۶ اَلْهَمُّ بِرُؤْيَاهُ بَعِيدًا ۝ وَشِرَاهُ قَرِيبًا ۝

وہ اُسے دور خیال کرتے ہیں اور ہم اُسے قریب ہی دیکھتے ہیں

۳۷ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصِيرَاتِ ۝ وَهُوَ أَقْرَبُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور قیامت کا ہونا تو اتنا جھپکنے کی طرح ہے یا اُس سے بھی زیادہ قریب بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے

۳۸ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ۝ كَلِمَةٍ بِالْبَصَرِ ۝

اور ہمارا کام تو یکبارگی ہی ہو جائے گا جیسے آنکھ جھپکتا

۳۹ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَةٌ ۝

وہ تم پر اپانک ہی آجائے گی۔

۴۰ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْتَةٌ فَبَهُتَ ۝ فَمَا لَيْسَتْ طَبِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

بلکہ وہ اُن پر اپانک آئیگی اور اُنہیں بھونچکا بنا دیگی پھر وہ نہ اُس کو ٹال سکیں گے اور نہ اُنہیں نہلت ہی دی جائیگی

۴۱ هَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ۝ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةٌ ۝ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

کیا وہ قیامت ہی کا انتظار کرتے ہیں کہ اُن پر اپانک آجائے اور اُنہیں خبر بھی نہ ہو

۴۲ فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ۝ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةٌ ۝ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا ۝

کیا وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اُن پر اپانک آ موجود ہو۔ سو اُس کی علامتیں تو آچکی ہیں پھر یہ

۴۳ نَأْتِيَهُمْ اِذَا جَاءَ تَهُمْ ذِكْرُهَا ۝

وہ اُن پر آجائے گی تو اُنہیں ان کا نصیحت پکڑنا کہاں سفید ہوگا۔

۴۴ مَا يُنظَرُونَ إِلَّا صَيْحَةً ۝ وَاحِدَةً ۝ تَأْخُذُهُمْ ۝ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝ فَلَا

وہ تو بس ایک جگھاڑ ہی کے منتظر ہیں کہ اُنہیں ایسے وقت آ پکڑے کہ وہ باہم جھگڑ رہے ہوں پھر وہ

۴۵ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ۝ وَلَا اِلٰى اٰهْلِئِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝

نہ وصیت ہی کر سکیں اور نہ اپنے گھروں ہی کو لوٹ سکیں

۴۶ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً ۝ وَاحِدَةً ۝ فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ ۝ لَدَيْنَا ۝ حٰضِرُونَ ۝

وہ قیامت تو صرف ایک جگھاڑ ہوگی اس کے ہوتے ہی وہ سب ہمارے پاس حاضر کئے جائیں گے

۹۔ قیامت طرقتہ العین میں آجائے گی۔

۱۰۔ قیامت اپانک آجائے گی۔

۱۱۔ قیامت ایک ڈانٹ یا جگھاڑ سے قائم ہوگی۔

۱۹
۳۷
فَاتِمَاهِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ قَالَ أَوَلَمْ يَلِنَا

سو وہ قیامت تو ایک ڈانٹ ہے اس کے ہوتے ہی وہ (اور اور) ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ اور کہیں گے ہائے ہماری
ہَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ۝
نرابی۔ انصاف کا دن ہے۔ یہ وہ نیکے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

۱۵
۳۸
وَمَا يَنْظُرُهُمْ إِلَّا عَذَابٌ صَيَّحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا هُمْ مِنْ قَوَّاقٍ ۝

اور یہ تو بس ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جس کے لئے کوئی وقفہ نہیں ہے۔

۱۱
۳۹
يَوْمَ لِيَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝

جس دن وہ چنگھاڑ جوڑتی ہے نہیں گئے ہی قبروں سے نکلنے کا دن ہے

۱۱
۴۰
فَاتِمَاهِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

وہ تو بس ایک ڈانٹ ہے سو اس کے ہوتے ہی وہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔

۱۱
۴۱
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَصَيْتُ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ ۝

اور اگر اللہ لوگوں کو جلد بانی پہنچائے بیجا کہ وہ جلد بھلائی مانگتے ہیں تو ان کی سزا دوزخ پر ہی کر دی جائے گی مگر ہم ان

فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کی گریہی میں پھوڑ دیتے ہیں کہ پڑے جھٹکتے رہیں۔

۱۱
۴۲
وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاؤَهُ بِالْخَيْرِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

اور انسان اسی طرح بڑائی مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز ہے۔

۱۱
۴۳
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ

اس کے لئے وہی جلدی بہاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے

۱۱
۴۴
ذُو تَوَلَّى فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝

اب اپنی مینگ کے مزے چکھو یہ ہے وہ جس کے لئے تم جلدی بہا یا کرتے تھے

۱
۴۵
الْحَاقَّةُ ۝ ۚ مَا الْحَاقَّةُ ۝ ۚ وَمَا أُدْرِكُ مَا الْحَاقَّةُ ۝

آپڑنے والی کیا ہے آپڑنے والی اور تو کیا جانے کیا ہے آپڑنے والی

۱۱
۴۶
وَمَا أُدْرِكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ ۚ ثُمَّ مَا أُدْرِكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝

اور تو کیا جانے کیا ہے دن نیکے کا۔ پھر تو کیا جانے کیا ہے دن نیکے کا

۱
۴۷
الْقَارِعَةُ ۝ ۚ مَا الْقَارِعَةُ ۝ ۚ وَمَا أُدْرِكُ مَا الْقَارِعَةُ ۝

کشمکشانے والی کیا ہے کشمکشانے والی اور تو کیا جانے کیا ہے کشمکشانے والی

۱۱
۴۸
بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُ هُمْ وَالسَّاعَةَ أَذْهَبُ وَأَمْرُ ۝

بلکہ قیامت ان کے وعدہ کا وقت ہے اور قیامت بڑی آفت اور بڑی کرہوسی ہے

۱۲۔ کا قیامت کے لئے
جلدی بہاتے ہیں

۱۳۔ قیامت کی حقیقت
کوئی کیا جانے

۱۴۔ قیامت بڑی آفت
ہے۔

۲۲ ۴۹ **فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ** ○

پھر جب وہ بڑی آفت آ موجود ہوگی

۲۳ ۵۰ **تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ** ○

اُس کی طرف فرشتے اور روح (جبریل) اُس دن چڑھیں گے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی

۲۴ ۵۱ **وَإِذْ رَأَوْهُمُ الْحَسْرَةَ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** ○

اور (اسے نبی) انہیں حسرت کے دن سے ڈرا جب کہ کام ختم کیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے

۲۵ ۵۲ **يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ النَّعَابِ** ○

میں دن وہ نہیں جمع کرنے کے دن جمع کرے گا یہ ہار جیت کا دن ہے۔

۲۶ ۵۳ **أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ** ○ **لِيَوْمٍ عَظِيمٍ** ○ **يَوْمَ**

کیا یہ لوگ یہ نہیں نہیں کرتے کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ایک بڑے دن میں۔ جس دن سب لوگ

يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے

۲۷ ۵۴ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا أَنْتُمْ رَٰزِقُونَ** ○ **إِنْ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ** ○

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ بے شک قیامت کا بھونچال ایک بڑی بھاری بات ہے

۲۸ ۵۵ **خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ** ○

قیامت بعض کو (پست) اور بعض کو (بلند کرنے والی ہے۔

۲۹ ۵۶ **فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا** ○

پھر اگر تم نے کفر کیا تو اُس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا

۳۰ ۵۷ **ثَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** ○

قیامت آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے۔

۳۱ ۵۸ **يَوْمَ تَرَوْهُنَّ أَهْلًا كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ**

جس دن تم اُسے دیکھو گے ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے بچے کو جسے وہ دودھ پلاتی ہے بھول جائے گی اور ہر ایک

۳۲ ۵۹ **حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ**

عاطل اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھے گا حال آنکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ مگر وہ ہے

اللَّهِ شَدِيدُ

اللہ کا عذاب سخت ہے۔

۳۳ ۶۰ **يَوْمَ يَدْعُ الْمُتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ**

اس دن وہ بلائے والے کے پیچھے لگ جائیں گے اُس سے کجروی نہیں کریں گے اور زمین کے آگے آوازیں دب

۱۵۔ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا
۱۶۔ قیامت حسرت کا دن ہے۔
۱۷۔ قیامت ہار جیت کا دن ہے۔
۱۸۔ قیامت عظیم الشان دن ہے۔
۱۹۔ قیامت کا زلزلہ عظیم ہے۔
۲۰۔ قیامت بعض کو پست اور بعض کو بلند کرے گی
۲۱۔ ہول قیامت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے
۲۲۔ قیامت آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے
۲۳۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور لوگ نشے کی سی حالت میں ہوں گے
۲۴۔ قیامت کو آوازیں دب جائیں گی

فَلَا تَسْمَعُوا لَهُمْ مَسَاءً

جالیں گی سو تو سوائے آہستہ آواز کے نہ سنے گا

يَوْمَ يَكْتُفُ عَنِ سَائِقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَنْطِيعُونَ لَا

۲۵- پنڈلی کھول جائے اور لوگوں کو سجدے کا حکم

ہر دن پنڈلی کھولی جائیگی اور وہ سجدے کے لئے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔

خَائِشَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ دَلِيلًا وَكُنَّا نَدْعُوا إِلَى الشُّجُودِ

ان کی آنکھیں خمی ہوگی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے

وَهُمْ سَائِمُونَ

اور صبیح سلامت تھے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ

۲۶- قیامت فیصلے کا دن ہے۔

کچھ شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور بے دین اور نصاریٰ اور آتش

وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

پرست اور وہ جنہوں نے شرک کیا قیامت کے دن اللہ ضرور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

بادشاہت اس دن اللہ کی ہے وہی ان کے لئے حکم کرے گا۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا۔ جن میں تم باہم اختلاف رکھتے تھے

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ

اور (کافر) کہیں گے ہائے ہماری خرابی یہ ہے دن انصاف کا۔ یہ وہ نیکے کا دن ہے جسے

كُنْتُمْ فِيهِ تَنكَرُونَ

تم جھٹلایا کرتے تھے۔

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لئے مقررہ وقت ہے

وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتَتْ

اور جب رسول وقت مقررہ پر لے جائیں گے انہیں کس دن کے لئے بہت دی گئی ہے فیصلے کے دن کیلئے

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ

اور تو کیا جانے فیصلے کا دن کیا ہے

هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَىٰ إِن

فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کیا

۴۸ اِنَّ يَوْمَ الْفِصْلِ كَانَ مِيقَانًا ۝

بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا یا ہوا وقت ہے

۴۹ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا

۴۸۔ قیامت کو لوگوں کے درمیان فیصلہ

۵۰ اِنَّ سَاءَ لِكُلِّ قَوْمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

(اے نبی) بے شک تیرا ہر درد گزار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے

۵۱ وَكَلِمَاتٍ لَّكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

اور تاکہ وہ تم سے قیامت کے دن وہ باتیں بیان کرے جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے

۵۲ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَاِنَّ سَاءَ لِكُلِّ قَوْمٍ

ہفتے کا دن (عبادت کے لئے) صرف انہیں لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور (اے نبی)

۵۳ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

بے شک تیرا ہر درد گزار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ (دنیا میں) باہم اختلاف

۵۴ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائیگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔

۵۵ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائیگا اور کہا جائیگا کہ سب تعریف اللہ کیلئے جو پروردگار ہے

۵۶ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ جو تم کرتے

قیامت کی نشانیاں

۵۷ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجَ وَمَا جُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝

پہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دئے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے

۵۸ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

اور جب ان پر بات اچڑے گی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کہے گا کہ لوگ

۵۹ اِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝

ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے

۶۰ وَإِنَّ لَعَلَّكُمْ لَلشَّاعِرِينَ فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور بے شک وہ شاعروں کی نشانی ہے تو تم اس میں شک نہ کرو اور میرا کہا مانو یہی سیدھی راہ ہے۔

۵۷۔ یاجوج ماجوج

۵۸۔ قیامت سے پہلے دابہ زمین سے نکلیگا جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔

۶۰۔ یہی قیامت کی نشانی ہے

۳۔ آسمان سے دُھواں آئے گا

۱۳۳

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا

سورہ سے یہی تو اس دن کا انتظار کر کہ آسمان ایک کھلم کھلا دُھواں لے کر جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ دردناک عذابِ الیم ۝ رَبَّنَا كَشِفْنَا عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝

عذاب ہے رکھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو مٹا دے یا ہم ایمان لائے اس وقت ان ہُمُ الَّذِي كُرِّهَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝

کے لئے نصیحت کہاں ہے حال آنکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آچکا تھا پھر انہوں نے اسے نہ مانا۔ وَقَالُوا مَعَلْمُ فَجُنُونٌ ۝

اِنَّا كَا شِفْوَا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۝

ہم تمہیں پھر اور رکھا کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تمہارا عذاب ہٹا دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم بدل لینے والے ہیں

۳۔ قیامت کی سب سے پہلی علامتیں آئیں گی۔

۱۳۴

فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۝ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا ۝

تو کیا یہ لوگ قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر پانک آمو جو ہو۔ تو اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں اُن فَا تَى لَهُمْ اِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُنَا ۝

کے لئے کہاں راسن ہو گا جب ان کے پاس ان کی نصیحت آئے گی۔

۴۔ قیامت سے پہلے ہر بستی کا ہلاک ہونا

۱۳۵

وَ اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَنَحْنُ بِهَا مُنْقِذِيهَا ۝ اَوْ مَكْنُزٍ اَوْ مَعَدْبُوهَا ۝

اور کوئی بستی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے یا اسے سخت عذاب دینے والے عَذَابًا اَشَدَّ بَدَا ۝ اِنْ كَانَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

نہ ہوں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے

۵۔ چاند شق ہوا

۱۳۶

اِنَّا تَرَبَّتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۝

قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

نسخ صور

۱۔ پہلی بار کا صور

۱۳۷

قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۝

اس کا فرمودہ سچا ہے اور جس دن صور پھونکا جائے گا اسی کی حکومت ہوگی

۱۳۸

فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

پھر جب صور میں ایک دفعہ ہی ایک پھونک پھونک دی جائے گی۔

۸۷ ۶۷ وَ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

اور جس دن صور پھونکا جائے گا۔ تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سوائے اُس کے جسے اللہ
مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۙ

چاہے سب گھبرا جائیں گے

۸۸ ۶۸ وَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَرَخَتْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ

اور صور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ سوائے اُس کے جسے اللہ
شَاءَ اللَّهُ ۙ

چاہے سب بے ہوش ہو جائیں گے

کائنات میں تبدیلیاں

۸۹ ۶۹ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۙ

جب زمین خوب زور سے ہلائی جائے گی

۹۰ ۷۰ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۙ

جس دن زمین اور پہاڑ کپکپائیں گے اور پہاڑ پھیر پھیرے ٹیلے ہو جائیں گے۔

۹۱ ۷۱ وَالنَّارُ عِزْقًا ۙ وَالنَّشِيطُ نَشْطًا ۙ وَالسَّيِّدُ سَيْدًا ۙ

قسم ہے ڈوب ڈوب کر جان کھینچنے والوں کی اور جان کا بند کھول دینے والوں کی اور ہوا میں تیزنے والوں

۹۲ ۷۲ وَالسَّبِقُ سَبَقًا ۙ فَاُمْدَاتُ أَمْرًا ۙ يَوْمَ تَرْجُفُ

کی اور تیزی سے آئے نکل جانے والوں کی پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی جس دن کپکپانے والی

الزَّاجِفَةُ ۙ تَتَّبِعُهَا الزَّادِفَةُ ۙ

کپکپانے والی اور پیچھے آنے والی (حکرت) اُس کے پیچھے آئیگی

۹۳ ۷۳ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ

جب زمین اپنا ہلایا جانا ہلائی جائے گی

۹۴ ۷۴ وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبَّاهَا ۙ

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اُٹھے گی

۹۵ ۷۵ وَآتَاكَ الْجَا عِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۙ

اور بے شک ہم اُس چیز کو جو زمین پر ہے بجز زمین بنانے والے ہیں۔

۲۔ صور کی آواز سے
گھبراہٹ اور بے ہوشی

۱۔ قیامت کو زمین لرزے
گی۔

۳۔ زمین منور ہو جائے
گی

۴۔ زمین اُجڑا کر ٹپٹپٹیں
بن جائے گی

۳- زمین پھیلائی جائیگی

۳۳ وَلَا ذَا الْأَرْضُ مَدَّتْ ۝

اور جب زمین پھیلائی جائے گی

۳۴ وَالْقَتُّ مَا فِيهَا وَنَخَلَتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

اور جو اُس میں ہے اُس کو باہر ڈال دے گی۔ اور خالی ہو جائیگی اور اپنے پروردگار کے لئے کان کھلے گی اور وہ

۵- زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال دے گی

۳۵ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

اور زمین اپنے (اندر کے) بوجھ باہر نکال دے گی

۶- زمین کی حالت پر انسان کا تعجب۔

۳۶ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

جب زمین اپنا ہلایا جانا ہلانی جائے گی اور زمین اپنے (اندر کے) بوجھ باہر نکال دے گی۔ اور انسان

۳۷ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَآءِهِ ۝

کہے گا۔ کہ اُس کو کیا ہوا۔

۷- خدا کے حکم سے زمین داستان سناے گی
۸- زمین اٹھا کر ٹپک دی جائے گی۔

۳۸ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

اس دن وہ اپنی باتیں بیان کرے گی اس لئے کہ اُس کے پروردگار نے اُس کی طرف وحی کی ہوگی

۳۹ فَاذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَهُ وَاحِدَةً ۝ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ

پھر جب ایک دفعہ ہی صور پھونکا دیا جائیگا اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دفعہ ہی ٹپک دئے جائیں

۴۰ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

گے۔ تو اُس دن آپڑنے وال آپڑے گی۔

۴۱ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

یوں ہرگز نہیں جب زمین ٹپک کر ریزہ ریزہ کر دی جائے

۹- زمین آسمان بدل دیے جائیں گے

۴۲ يَوْمَ نُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

جس دن زمین دوسری زمین سے اور نیز آسمان بدلے جائیں گے اور وہ لوگ اکیلے زبردست اللہ کے آگے میدان میں

۱۰- زمین خدا کی مٹھی میں دنگی

۴۳ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

اور انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا اُس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور قیامت کے دن ساری زمین اُس کی مٹھی

۱۱- پہاڑ چٹنے لگیں گے

۴۴ وَيَوْمَ نَسِفُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشْرًا ظُهُمًا فَالْمُتَعَادِرُ

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف نکلی ہوئی دیکھے گا۔ اور انہیں ہم اکٹھا کریں گے

۴۵ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

تو ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے

۴۶ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادًا ۝ وَهِيَ تَهْرُمُ مَرَّ السَّحَابِ ۝ صُنِعَ اللَّهُ الْذِيحَى

اور تو پہاڑوں کو دیکھیگا تو انہیں ایک جگہ جما ہوا خیال رہے گا۔ حال آنکہ بادلوں کی رفتار کی طرح چل رہے ہوں گے

أَلْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِتَانَهُ خَيْرٌ لِّمَا تَفْعَلُونَ ۝

یہ اشک کارگیری ہے جس نے ہر شے کو مضبوطی عطا کی ہے بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے

۵۶ ۝ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

اور پہاڑ چلیں گے اپنی چال

۵۷ ۝ وَتَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

اور پہاڑ چلانے جائیں گے تو وہ ریت ہو جائیں گے

۵۸ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

اور جب پہاڑ چلانے جائیں گے۔

۵۹ ۝ يَوْمَ تَرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

جس دن زمین اور پہاڑ کھپکھپائیں گے۔

۶۰ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

اور پہاڑ مثل اُون کے ہوں گے۔

۶۱ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۝

اور پہاڑ مثل دھنکی ہوئی اُون کے ہوں گے

۶۲ ۝ يَوْمَ تَرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝

جس دن زمین اور پہاڑ کھپکھپائیں گے اور پہاڑ بھڑبھڑے ٹیلے ہو جائیں گے

۶۳ ۝ وَتَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

اور پہاڑ چلانے جائیں گے۔ تو وہ ریت ہو جائیں گے۔

۶۴ ۝ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا

اور (اے نبی) تم سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں تو کہہ دے کہ اُنہیں میرا پروردگار چورا چورا کر کے اڑا دیگا تو وہ

۶۵ ۝ نَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝

اُس (زمین) کو صاف چیل میدان بنا چھوڑے گا تو اس میں نہ کہیں خم دیکھے گا اور نہ اُچان

۶۶ ۝ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ۝

اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑائے جائیں گے سو وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔

۶۷ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝

اور جب پہاڑ اڑائے جائیں

۶۸ ۝ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

اور زمین اور پہاڑ اوپر اٹھا کر ایک دفعہ ہی چک دیئے جائیں گے۔

۱۲ پہاڑ لڑیں گے

۱۳ پہاڑ دھنکی ہوئی اُون کی مانند ہوں گے

۱۴ پہاڑ ریت ہو جائیں گے

۱۵ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے

۱۶ پہاڑ اوپر اٹھا کر نیچے چلے جائیں گے

۱۷- سمندر ابل پڑیں گے

۸۱ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجُوتًا ۝

اور جب سمندر جھونکے جائیں

۱۸- دس ماہ کی مساط اور مٹنیاں چھٹی پھریں گی

۸۲ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

اور جب سمندر چیرے جائیں

۸۳ وَإِذَا لُعُشْنَا عُظِّلَتْ ۝

اور جب دس ماہ کی گیا مٹن اور مٹنیاں بیکار چھٹی پھریں

اجرام سماوی میں انقلاب

۱- چاند پھٹ گیا

۱/۳۱ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقَّ الْقَمَرُ ۝

تیاست پاس آئی اور چاند پھٹا

۲ چاند سورج دونوں کو اکٹھا کرہن

۵۵ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ۝

پھر جب آنکھیں پتھر جائیں

اور چاند کو گہن لگے اور سورج اور چاند اکٹھے کئے جائیں

۳ سورج پھٹا جائے گا

۸۱ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

جب سورج پھٹا جائے

۴- ستارے بے نور ہو جائیں گے۔

۵۴ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝

اور جب ستارے بے نور کئے جائیں

۸۱ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَّرَتْ ۝

اور جب ستارے ماند پڑ جائیں

۵- ستارے آسمان سے جھڑکیں گے

۸۲ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝

اور جب ستارے جھڑنے لگیں

۵۴ وَالظُّوْرُ ۝ وَكَيْتٌ مِّنْ سَطُوْرٍ ۝ فِي سَاقٍ مَّنشُوْرٍ ۝ وَالْبَيْتُ

بھیلی ہوئی جھلی میں اور بیت المعمور کی

قسم بے طور کی اور رکھی ہوئی کتاب کی

۵۴ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝ إِنَّ

اور ابلنے والے سمندر کی بے شک تیرے

اور (آسمان کی) اونچی چھت کی

عَذَابٍ سَابِغٍ لِّوَاقِعٍ ۝ مِّثْلَ مَثَلِهِ ۝ مِنْ دَافِعٍ ۝ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرٍ ۝

پہرہ در دھار کا عذاب واقع ہونے والا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے جس دن آسمان کپکپا کرے گا

۷- آسمان پھٹ جائیگا

۲۵
۲۵ وَيَوْمَ نَشَقُّ السَّمَاءَ بِالْغَمَامِ وَنُنزِلُ الْمَلَكَةَ تَنْزِيلًا ۝

اور جس دن برلی کے نیچے سے آسمان پھینگا اور فرشتے اُتارے جائیں گے

۲۶
۵۵ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كاللِّهَانِ ۝

پھر جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور سرخ زری کی مانند ہو جائیگا

۱۷
۶۹ وَانشقت السماء فهي يومئذٍ واهية ۝

اور آسمان پھٹ جائے گا سو وہ اُس دن کمزور ہوگا۔

۱۸
۶۳ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

آسمان پھیلا جائے گا یہ اُس کا وعدہ ہو کر رہے گا۔

۹
۲۷ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرُجَتْ ۝

اور جب آسمان میں شکاف کیا جائے

۱۹
۲۸ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

اور آسمان کھولا جائے سو اُس میں دروازے ہو جائیں گے۔

۱۱
۸۱ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝

اور جب آسمان کی کھال کھینچی جائے

۱
۸۲ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝

جب آسمان چیر جائے

۱
۸۳ إِذَا السَّمَاءُ انشقت ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

جب آسمان پھٹ جائے اور اپنے پروردگار کے لئے کان لگائے اور وہ اسی لائق ہے

۳۶
۵۵ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كاللِّهَانِ ۝

پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ زری کی مانند ہو جائے گا

۱۷
۶۹ وَانشقت السماء فهي يومئذٍ واهية ۝

اور آسمان پھٹ جائیگا سو وہ اُس دن کمزور ہوگا۔

۵
۸۴ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝

جس دن آسمان گھسے تانبے کی طرح (سرخ) ہو جائیگا۔

۱۰
۲۱ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِيُكْتَبَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ

جس دن ہم آسمان کو اس طرح پیٹ لیں گے جس طرح طومار خطوں کو پیٹ لیتا ہے جس طرح ہم نے پہلی بار

نُعِيدُهَا وَوَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

پیدا نش شروع کی تھی اسی طرح ہم اُسے دہرائیں گے یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں

۸- آسمان پھٹ کر سرخ

۹- آسمان پھٹ کر کمزور

۱۰- آسمان گھسے تانبے کی طرح

۱۱- آسمان پیٹا جائیگا

۳۹ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور انہوں نے اللہ کی رسی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور قیامت کے دن ساری زمین اس

وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

کاٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے رہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ ان کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے

۲۵ وَيَوْمَ لَنَسْفُنَّ السَّمَاءَ بِالسَّمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا

اور جس دن آسمان بدل کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتے (زہن پر) اس کے بائیں گے

۴۸ وَيَوْمَ نُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

جس دن ہم زمین دوسری زمین سے اور (نیز) آسمان بدلے جائیں گے اور وہ ایک لے زبردست اللہ کے آگے میدان میں

۴۵ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

اور تو فرشتوں کو عرش کے گرد ملتے باندھے دیکھے گا اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ (اٹکن) پاک بیان کر رہے ہوں

وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

گے اور ان کے درمیان حق حق فیصلہ کیا جائے گا کسب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے

۶۶ نَعْرُجُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ الْيُسْرَىٰ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

اور اس کی طرف فرشتے اور روح (جبریل) اس دن جڑیں گے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی

۲۴ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

اور تیرا پروردگار اور فرشتے سفوں کی صفیں آسجود ہوں گے

۳۸ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ

جس دن روح (جبریل) اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے کچھ نہ بولیں گے مگر وہی جس کو اجازت

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

اجازت دے اور وہ راہ کی بات کہے گا۔

۶۹ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ سُرْبٍ مَّاءٍ وَبِحَمْدِ عَرْشِ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ

اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن تیرے پروردگار کے تخت کو آٹھ فرشتے اپنے پر اٹھائے

ہوں گے۔

۱۱۔ آسمان سے فرشتے اتریں

۱۲۔ آسمان تبدیل کئے جائیں گے

۱۳۔ فرشتے عرش کے گرد خدا کی تسبیح و تحمید کریں گے

۱۴۔ فرشتے اور روح خدا کی طرف چڑھیں گے

۱۵۔ خدا اور فرشتے صف باندھ کر آئیں گے

۱۶۔ روح اور فرشتے کلام شکر کریں گے

۱۷۔ آٹھ فرشتے ممالکین عرش

نسخ صور دوبارہ

<p>۱۸ ۹۹ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجًا فِي بَعْضٍ وَنَفَخْنَا فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا</p>	<p>۱۸ ۹۹ اور ہم اُس دن اُن کے بعض کو بعض میں موجیں مارتا چھوڑیں گے اور صور پھونکا جائیگا پھر ہم اُن کو اکٹھا کریں گے</p>
<p>۲۰ ۱۰۰ يَوْمَ نُنْفِخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْفًا</p>	<p>۲۰ ۱۰۰ ہوں گے</p>
<p>۲۲ ۱۰۲ وَكُلُّ اَنْتَوٰهٖ دَاخِرِيْنَ</p>	<p>۲۲ ۱۰۲ جس دن صور پھونکا جائیگا اور ہم گنہگاروں کو اُس دن نیلی آنکھوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے۔</p>
<p>۳۴ ۱۱۴ وَنَفِخْ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ</p>	<p>۳۴ ۱۱۴ اور سب اُس کے پاس ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے۔</p>
<p>۳۶ ۱۱۶ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ</p>	<p>۳۶ ۱۱۶ اور صور پھونکا جائے گا تو اُسی دم وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔</p>
<p>۳۸ ۱۱۸ ثُمَّ نَفِخْ فِيْهِ اٰخِرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ</p>	<p>۳۸ ۱۱۸ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی۔ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہ ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا۔ اور رسولوں نے سچ کہا تھا</p>
<p>۴۰ ۱۲۰ وَنَفِخْ فِي الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ</p>	<p>۴۰ ۱۲۰ پھر اُس میں دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو اُسی دم وہ کھڑے ہو کر رہے ہوں گے۔</p>
<p>۴۲ ۱۲۲ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ</p>	<p>۴۲ ۱۲۲ اور صور پھونکا جائیگا یہ عذاب کے وعدہ کا دن ہے</p>
<p>۴۴ ۱۲۴ فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ</p>	<p>۴۴ ۱۲۴ اور جب آسمان پھٹ جائے اور پھس پھسا ہوگا</p>
<p>۴۶ ۱۲۶ يَوْمَ نُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا</p>	<p>۴۶ ۱۲۶ پھر جب صور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے</p>
<p>۴۸ ۱۲۸ فَاِذَا نَفِخْنَا فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ</p>	<p>۴۸ ۱۲۸ پھر جب صور پھونکا جائیگا تو اُس دن اُن کے درمیان نہ رشتہ ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ پچھ سکیں گے</p>
<p>۴۹ ۱۲۹</p>	<p>۴۹ ۱۲۹ ۲ نسخ صور ہوتے ہی رشتے ٹاٹے ختم</p>

۳۔ زمین میں ریزہ سے
تبریز سے نکل پڑیں گے

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكُمْ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَا أَيُّهَا

میں دن ان سے زمین بھٹے گی جلدی کریں گے یہ اکٹھا کرنا ہے جو ہم پر آسان ہے

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ تُكْرَهُمْ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ

تو (اے نبی) تو ان سے سوزہ پھیر لے جس دن پکارنے والا ایک بن دیکھی چیز کی طرف پکارے گا۔

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرُونَ كَأَنَّهُمْ كَهَشِيِّ

اپنی آنکھیں نیچی کئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ پریشان مڑیاں ہیں پکارنے والے کی طرف

الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

دور پڑتے ہوئے کا فر کہیں گے کہ یہ ایک سخت دن ہے۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

جس دن وہ جلدی کرتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ تھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا

پھر وہ تمہیں اسی زمین میں لوٹائے گا اور تمہیں ایک ہی دند نکال لے گا

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا

جس دن صور بھونکا جائیگا تم فوج در فوج آ موجود ہو گے

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

اور جب قبروں والے اٹھائے جائیں گے۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں والے اٹھائے جائیں گے۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ هُمْ زُرِقُوا بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ

جس دن صور بھونکا جائیگا اور ہم اس دن گنہگاروں کو نیچے آنکھوں کے ساتھ اکٹھا کرینگے آپس میں چٹکے چٹکے کہتے

بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ

ہوں گے کہ تم تو اس دن سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں سے

أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

زیادہ رو بہ راہ شخص کے گا کہ تم تو ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَدَرٍ مَّا بَدَّ سِينِينَ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا

اٹھ کئے گا کہ تم زمین میں اگنتی کے کتنے سال رہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تو

بَعْضُ يَوْمٍ فَاسْئَلِ الْعَادِيْنَ ۚ قَالُوا إِنْ لَبِثْنَا إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُم تَعْلَمُونَ

تو گنتے والوں سے پوچھ لے فرمائے گا کہ تم تو بہت ہی تھوڑا رہے کاش تم جانتے ہوئے

۴۔ حشر کے دن بعض لوگ
کہیں گے کہ ہم دنیا میں کل
اس روز رہے اور بعض کہیں
گے کہ ایک روز رہے۔

۵۔ حشر کے دن قبر میں رہنا
ایک دن یا آدمی اور معلوم
ہوگا۔

۴۹ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ۝

جس دن وہ اُسے دیکھیں گے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک شام یا اُس کی صبح سے زیادہ نہیں رہے تھے۔

۵۰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَان لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ ۝

اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ ایک گھنٹی دن سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے آپس میں

۵۱ بَيِّنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

پہچانتے ہوں گے بے شک وہ لوگ گھٹانے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ جانا اور راہ پائیولے نہ

۵۲ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا ابْتِغَوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ ۝

اور جس دن قیامت قائم ہوگی گنہگار قسم کھائیں گے کہ وہ ایک گھنٹی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے اسی طرح وہ

۵۳ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا

(حق سے) پھیرے جلتے تھے اور جو لوگ علم اور ایمان دیئے گئے تھے وہ کہیں گے کہ بیشک تم اللہ کی کتاب کے مطابق

۵۴ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک رہے سو یہ زندہ ہو کر اٹھنے کا دن ہے لیکن تم نہیں جانتے تھے

۵۵ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ

تو اسے نبی (نبی) صبر کر اور اولوالعزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر اور ان کے (غدا کے) نئے جلدی نہ کر جس دن وہ

۵۶ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ نَّهَارٍ بَلْغَاءً فَمَلَّ

اُس وعدہ کو بولتے دیکھیں گے جو ان سے کیا جاتا ہے انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ ایک گھنٹی دن سے زیادہ

۵۷ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

(دنیا میں) نہیں ٹھہرے۔ یہ پیغام پہنچانا ہے تو کیا سوائے برکار لوگوں کے اور کوئی بھی ہلاک کیا جائے گا۔

۵۸ وَاسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝

اور اُس دن سننا جس دن پکارنے والا قریب جگہ سے پکارے گا

۵۹ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ۝

تو (اسے نبی) تو ان کے موہنے پھیرے جس دن پکارنے والا ایک بن کر کسی چیز کی طرف پکارے گا ان کی آنکھیں

۶۰ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرُونَ ۝

نیچے ہوں گی۔ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ پریشان مڈیاں ہیں پکارنے والے کی طرف دوڑیں

۶۱ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمَ عِسْرٍ ۝

گے۔ کافر کہیں گے کہ یہ ایک سخت دن ہے۔

۶۲ دیکھو قیامت کو آوازوں رب جاٹینگے۔ (عدد۔ ۲۲) صفحہ ۳۷

۵۔ حشر کے دن قبر میں رہنا
ایک ساعت معلوم ہوگا

۶۔ حشر کے لئے منادی
پکارے گا

۸۔ لوگ پر دانوں کی طرح پھیل جائیں گے	۵۴	دیکھو حشر کے لئے منادی پکارے گا۔ (عدد ۷) صفحہ ۲۹
۹۔ لوگ پکانوں کی طرح پھیل جائیں گے	۵۴	یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ ○
۱۰۔ گنہگار نبی انکھوں کے ساتھ محسوس ہوں گے	۵۴	جس دن آدمی پر آگندہ پروانوں کی طرح ہوں گے
۱۱۔ اندھا بہرا اور گونگا محسوس ہونا۔	۵۴	دیکھو حشر کے لئے منادی پکارے گا۔ بچنا دیکھو قیامت کو آواز میں دب جائیں گی۔ (عدد ۲۴) صفحہ ۲۹
۱۲۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	یَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْجَحْرِمَ يَوْمَئِذٍ أَعْرَابٌ
۱۳۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	جس دن مورچوں کا جائیگا اور اس دن ہم گنہگاروں کو نبی انکھوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے
۱۴۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ○
۱۵۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	اور جو اس (دنیا میں راہ حق سے) اندھا ہے وہی آخرت میں اندھا ہے اور زیادہ گمراہ ہے
۱۶۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَيُكْمَأُؤُا مُثَلًّا
۱۷۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھا گو لگا اور بہرا بنا کر اکٹھا کریں گے
۱۸۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ○
۱۹۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	اور وہ سب اللہ کے آگے میدان میں حاضر ہوں گے
۲۰۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○
۲۱۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	اور وہ لیکے زبردست اللہ کے آگے میدان میں حاضر ہوں گے
۲۲۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	يَوْمَئِذٍ تَعْرِفُونَ لَا تُخْفِي مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ○
۲۳۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	اس دن تم (سب اللہ کے آگے) پیش کئے جاؤ گے تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔
۲۴۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	الْأَبْطُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ○ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ○ يَوْمَئِذٍ
۲۵۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	کیا یہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ایک بڑے دن کیلئے۔ جس دن
۲۶۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○
۲۷۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	لوگ جہان کے پروردگار کے آگے کھڑے ہوں گے
۲۸۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ○
۲۹۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	اور تیرے پروردگار کے دربر و تقابل میں پیش کئے جائیں گے۔ (اور ہم کہیں گے کہ) بے شک تم ہمارے
۳۰۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ كُنْ يَجْعَلْ لَكُمْ مَوْعِدًا ○
۳۱۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	پاس اسی طرح آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تمہارے تو یہ خیال جبار کا تھا کہ ہم تمہارے لئے
۳۲۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ○ وَتَرَكْتُمْ مَا
۳۳۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	اور بے شک تم ہمارے پاس تنہا آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور ہم نے تمہیں جو کچھ دیا تھا اسے تم
۳۴۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	خَوَّلْتُمْ ○ وَرَأَيْتُمْ ظُهُورَكُمْ ○ وَمَا سَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَاءُ كَوْمَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ
۳۵۔ قیامت کے دن سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے	۵۴	اپنی بیٹھی بیٹھی چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم یہ دعویٰ رکھتے تھے

اَلْهَمَّ فَبِكُمْ شَرَكُوا ۗ لَقَدْ لَقِطْنَا لِقَطْعَ بَيْنِكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ تَاكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

کہ وہ تم میں (ہمارے) شریک ہیں بے شک تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور جو دعویٰ تم کرتے تھے تم سے جانا رہا۔

۱۹ ۝ وَنَزَّلْنَا مَا يَفُوقُ وَيَا رَبَّنَا فَرُدَّا ۝

اور جو کہتا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا

۱۹ ۝ وَكَلِمَاتُ رَبِّهِ يُومُ الْقِيَامَةِ فَرُدَّا ۝

اور قیامت کے دن وہ سب اُس کے پاس تنہا آنے والے ہیں

۱۵ ۝ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَافِيَيْنَ ۝

۱۴۔ قیامت کو دل گلے میں بیچ جائیں گے

اور (اے نبی) تو انہیں نزدیک آئیوںے دن سے ڈرا۔ جب دل حلق کے نزدیک ہوں گے غم سے بھرے ہوں

۲۴ ۝ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِيَ ۝ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝ وَظَنَّ أَنَّهُ

ہرگز یوں نہیں ہے جب جان گلے میں آجائے گی اور کہا جائیگا کہ کون ہے جھاڑ بھونک کرنے والا اور وہ

۲۹ ۝ الْفِرَاقُ ۝ وَالتَّنْفِثِ السَّاقِ بِالسَّاقِ ۝ إِلَىٰ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ

گمان کرے گا کہ وہ جدائی کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے اُس دن

۹ ۝ الْمَسَاقِ ۝

روانگی تیرے پروردگار ہی کی طرف ہے۔

۲۴ ۝ رَجَاكَ لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

۱۵۔ دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔

وہ آدمی جن کو اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرے اور نہ خرید و فروخت

۱۳ ۝ وَإِبْتِئِ الزَّكَاةَ يَجَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

وہ اُس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں

۲۹ ۝ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝

۱۶۔ دل دھڑک رہے ہوں گے۔

کتے ہی دل اُس دن دھڑک رہے ہوں گے۔

۱۳ ۝ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّ الْمَائِدَةَ يَدْرُسُهُمْ

۱۷۔ کافروں کی آنکھیں اوپر دیکھتی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

اور (اے نبی) تو اللہ کو ظالموں کے عملوں سے غافل نہ خیال کر وہ تو ان کو اُس دن کے لئے ہلت دیتا ہے

۱۳ ۝ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۗ ۝ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءُوسِهِمْ

جس میں آنکھیں اوپر کو دیکھتی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اپنے سراویچے کئے دوڑ رہے ہوں گے ان کی نظریں

۱۳ ۝ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْبِدًا تَدْمُهُمْ ۝

ان کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل گرے ہوئے ہوں گے

۹۴ ۝ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ ۗ إِذْ أَهَىٰ شَاحِصَةَ الْأَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور سچا وعدہ نزدیک آگے تو اسی وقت ان لوگوں کی آنکھیں جو کافر ہوئے ہیں اوپر چڑھی ہوئی ہوں گی

يَوْمَ لَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

دیکھیں گے، اے ہماری خواہی بے شک ہم اس کی طرف سے غفلت میں تھے نہیں بلکہ ظالم تھے

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ۝ خُشِعَ الْبَصَارُ هُمْ

تو (اے نبی) تو ان کی طرف سے اس دن تک سو نہ پھیرے رکھو جب ہلانے والا ایک ان دیکھی چیز کی طرف

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝

بلائیگا۔ ان کی آنکھیں بھی ہوں گی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ پراگندہ مڈیاں ہیں۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ

ان کی آنکھیں بھی ہوں گی

أَبْصَارُهُمْ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝

ان کی آنکھیں بھی ہوں گی

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝

پھر جب آنکھیں تھرا جائیں گی۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُجُ ۝ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝

اُس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز وہ نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے

۝ إِلَىٰ سَرَابٍ مُّوْتَدٍ ۝ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ لَبَدٌ لِّمِائِمْ رَابِعَةٍ ۝

اُس دن تیرے پروردگار ہی کی طرف قرار گاہ ہے

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝

میں دن آدمی پراگندہ پروانوں کی طرح ہوں گے۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْتَةٌ بَئِئْرًا لَّا يَسْتَنصِفُونَ ۝ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

بلکہ وہ ان پر آجائے گی تو انہیں بھونچکا بنا دے گی۔ پھر نہ وہ اُسے ٹال ہی سکیں گے اور

يَنْظُرُونَ ۝

نہ انہیں ہمت ہی دی جائے گی۔

فَإِذَا هُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝

سو اے نبی (تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیاں تک کہ وہ اپنے اُس دن سے آئیں جس دن وہ بہیوش

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝

اور ہر شخص آئے گا اُس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی (تو) ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔

۱۸۔ کافروں کی نظریں بھی ہوں گی

۱۹۔ آنکھیں تھرا جائیں گی

۲۰۔ انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا پناہ نہ ملے گی

۲۱۔ لوگ پروانوں کی طرح پھیل پھریں گے

۲۲۔ ہوش جاتے رہیں گے

۲۳۔ ہر شخص کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا

۲۴۔ ہر فرقہ سے ایک گواہ

۲۵۔ ہر شخص کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا

۲۶۔ ہر فرقہ سے ایک گواہ

۲۷۔ ہر فرقہ سے ایک گواہ

۲۸۔ ہر فرقہ سے ایک گواہ

۸۲
۱۴ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا

اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر ان لوگوں کو جو کافر ہیں نہ اجازت ہی دی
ہم لیتے ہیں ○

۸۹
۱۴ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

اور جس دن ہم ہر امت میں ان ہی میں سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان پر
شہیداً علیٰ ہر لاکھ ○
گواہ لائیں گے۔

۹۵
۲۸ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ

اور ہم ہر امت سے ایک گواہ کھینچ لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی سند لاؤ اس وقت وہ جانیں گے کہ حق و عبادت
الحق لله وصل عنہم ما كانوا يفترون ○

۹۹
۳۹ وَأَشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِرُءُوسِ رَبِّهَا وَأَوْضَعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ بِالنَّبِيِّينَ

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نارہ اعمال رکھے جائیں گے اور نبیوں اور
والشہداء
شہداء کو لا کر موجود کیا جائے گا۔

۱۸
۱۱ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ

یہی لوگ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کئے جائیں گے اور گواہ گواہی دینگے کہ یہی ہیں جنہوں
كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ
نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔

۱۵۱
۲۱ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ

ہم دنیا کی زندگی میں بھی اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی جب
الْأَشْهَادُ ○

۸۲
۲ وَيَوْمَ الْمَوْعُودِ ○ ۳ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ○

اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے اور گواہ کی اور جس کے مقابلے میں گواہی دیتا ہے اس کی
وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عَقِبِهِ وَنُخْرِجُهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا

ہم نے اکثر آدمی کی برائی بھلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ قیامت کے

يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

۴۱ دن نامہ اعمال نکال کر پیش کر دیکھو اور وہ اس کو اپنے رو برد کھلا ہوگا اور پھر لکھا اپنا نامہ اعمال پڑھے آج اپنا حساب لینے کے
یَوْمَ نَدُّ عَوَاكِلَ اُنَاسٍ بِمَا جَرَّمْتُمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُولَٰئِكَ

۴۲ جب ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں سمیت بلا کر لڑا کریں گے تو جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائیگا وہ اپنے
يَقْرَءُوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

۴۳ نامے کو پڑھنے لگیں گے اور ان پر ایک ٹس برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔

۴۴ وَوَضِعَ الْكِتَابُ وَجَاحِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ ۝ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ

۴۵ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور پیغمبر اور گواہ حاضر کئے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

۴۶ فیصلہ کر دیا جائے گا۔

۴۷ وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ جَائِثَةً ۝ كُلُّ اُمَّةٍ تَدْعِي اِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

۴۸ اور تو دیکھے گا کہ ہر ایک امت روزانہ ہمیشی ہوگی ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال دیکھنے کے لئے بلائی جائے گی۔

۴۹ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هٰذَا كِتَابُنَا يُطِيقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا

۵۰ کرتے ہوئے ایسے مل کرتے رہے ہو آج تم کو ان کا عوض دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے مقابلہ میں حق

نَسْتَسْخِرُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

۵۱ حق بول رہی ہے جسے تم عمل کرتے تھے ہم ان کو لکھواتے جاتے تھے۔

۵۲ وَقَالَ قَرِيبُهُ هٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ۝

۵۳ اور اُس کا ساتھی عرض کرے گا کہ جو میرے پاس لکھا موجود ہے وہ تو یہ ہے۔

۵۴ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هٰذَا وَمَا اَقْرَعُ وَاِكْتِيبُهُ ۝ اِنِّي

۵۵ ترسوں کہ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائیگا تو وہ کہے گا کہ لوجی یہ میرا نامہ اعمال تو پڑھو

ظَنَنْتُ اَنِّي مُلِقٌ حِسَابِيهِ ۝ ثُمَّ وُفِيَ عِيشَةً رَّاضِيَةً ۝

۵۶ مجھ کو تو یقین تھا کہ میرا حساب مجھ کو ملے گا۔ تو وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا۔

۵۷ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْبِثُنِي لَمْ اُوْتِ كِتَابِيهِ ۝

۵۸ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیگا اے کاش مجھ کو میرا نامہ نہ ملا ہوتا اور

۵۹ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيهِ ۝

۶۰ مجھ کو اپنے حساب کی خبر ہی نہ ہوئی ہوتی۔

۶۱ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

۶۲ اور جس وقت نامہ اعمال لکھوے جائیں۔

۸۴ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝ فَسَوْفَ يُجَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝

جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دل سے دیا جائیگا تو اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔

۸۵ ﴿وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ ۸۶ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝

اور وہ خوش خوش اپنے اہل میں واپس آئے گا۔ اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے

۸۷ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝ ۸۸ ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝

دیا جائیگا۔ تو وہ موت کی دعا مانگے گا۔ اور جہنم میں داخل ہوگا۔

۸۹ ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

وہ کیسے کچھ سننے اور دیکھنے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے لیکن آج تو ظالم کھلی گراہی میں ہیں

۹۰ ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

بے شک تو اس (دن) کی طرف سے غفلت میں تھا سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا سو آج تیری بینائی بڑی تیز ہے

حساب

۹۱ ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْنَ بِهَا حِسَابَ اللَّهِ ۝

اور جو تمہارے دل میں ہے اگر اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

۹۲ ﴿وَيَوْمَ يُجْزَىٰ كُلُّهُم بِمَا كَانُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ أَزْوَاجٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا کہے گا کہ گروہ جن تم نے بہت سے آدمی اپنے تابع کر لئے اور انسانوں میں

۹۳ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاءُ لَهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ رَبَّنَا اسْمِنِعْ لَنَا بَعْضًا مِّنْ بَعْضٍ وَبَلِّغْنَا

سے ان کے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم

۹۴ ﴿أَجَلَنَا الَّذِينَ أَجَلْتُمُنَا لَنَاءَ قَالَ أَلَمْ نَسْأَلْكُمْ خَلِيفِينَ فِي مَآرِئِنَا ۝

اپنی اس سعادت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی اللہ فرمائے گا کہ تمہارا تمھارا انا گ ہے تم

سَاءَ اللَّهُ ذُلٌّ مِّنْ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو مگر جننا اللہ چاہے بے شک تیرا پروردگار حکمت والا جاننے والا ہے

۹۵ ﴿وَكَذَلِكَ نُؤْتِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بناتے ہیں بسبب ان اعمال کے جو وہ کماتے تھے۔

۹۶ ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَتَلَاَّهُمْ وَنَسُوا حَتَّىٰ إِذَا تَوَلَّوْا يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَفِيضُونَ عَلَيْهِمْ

سے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم سے میری آیتیں بیان کرتے اور تمہیں

۹۷ ﴿الْبَيْتِ وَيُبْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا

تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی

۲۵۔ اُس دن سماعت اور بصارت بہت تیز ہو جائے گی۔

احساب یعنی قیامت کو باز پرس اور سوال جواب

وَعَزَّزْنَاهُمْ بِالنَّبِيَّةِ وَالنَّبِيَّاتِ وَاعْلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ اور انہوں نے اپنے اور ہر گواہی دی کہ وہ کافر تھے

۲۱ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۚ فَلَنَقْضَنَّ

تو ہم ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ضرور پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے

عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

پھر ہم ان پر علم سے بیان کریں گے اور ہم غائب نہیں تھے

۲۲ وَإِنَّمَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

اور (اے نبی) اگر تم نے بعض وہ غدا جب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی

الْبَلَّغُ وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ ۝

تجھے مار دیں تو تیرا ذمہ تو مرتبہ بنیادینا ہے اور ہمارا ذمہ حساب لینا ہے

۲۳ فَوَسِّرْ لَكَ لِنَسْأَلَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

سو (اے نبی) تیرے پروردگار کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے

۲۴ وَلَنَسْأَلَنَّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور جو تم کیا کرتے تھے اس کی بابت تم سے ضرور پوچھا جائیگا

۲۵ تَاللَّهِ لَنَسْأَلَنَّ بِمَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝

خدا کی قسم تم سے اس افتراء کی بابت ضرور پوچھا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے

۲۶ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب ہی سے پوچھا جائیگا

۲۷ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ۝

اور حساب کے لئے ہم کافی ہیں

۲۸ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يَكْتُمُونَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے

۲۹ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالُوا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ يُحِطُوا بِهَا عُلَمَاءُ مَنَا

تھے۔ پھر ان کی صف بندی کی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب وہ آسودہ ہوں گے پوچھے گا کہ کیا تم

۳۰ ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۳۱ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا

نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے علم کا تم نے اعطاف نہیں کیا تھا یا تم کیا کرتے تھے اور

يَنْطِقُونَ ۝

ان کے ظلم کے سبب ان پر قول ثابت ہو جائیگا سو وہ بول نہ سکیں گے

۱۹
۳۳ سَتُكْتَبُ شَهَادَاتُكُمْ وَيُسْأَلُونَ
اُن کی گواہی لکھی جائے گی اور اُن سے پوچھا جائے گا

۲۰
۳۴ وَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ
اور مقرب تم سے پوچھا جائے گا۔

۲۱
۳۵ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدُنِ الْجَبَرُوتُ
اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہیں

۲۲
۳۶ الْمُبِطُونَ ۝ وَ تَرٰے كُلَّ اُمَّةٍ جَارِثِيَةً ۝ تَدْعُو كُلَّ اُمَّةٍ نَدْعًا عَلٰی اِلٰهٍ
دن جموتے گھاٹے میں رہیں گے اور تو ہر امت کو گھٹنوں پر گرا دیکھے گا۔ ہر امت اپنے اعمال نامے

۲۳
۳۷ كِتَابٍ بِهَادٍ الْيَوْمَ تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
کی طرف بلانی جائے گی۔ آج تمہیں اسی کا عوض دیا جائے گا۔ جو تم کرتے تھے

۲۴
۳۸ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوْا ۝ اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَ تَسْوَدُ وُجُوْهُ
جس دن اللہ اُن سب کو اُٹھائے گا پھر جو اعمال انہوں نے کئے ہیں اُن سے انہیں خبردار کرے گا۔

۲۵
۳۹ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اللہ نے اُن کو گن رکھا ہے۔ اور وہ انہیں بھول گئے اور اللہ ہر شے پر موجود ہے پھر قیامت کے دن

۲۶
۴۰ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
وہ انہیں اُن کے اعمال سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔

۲۷
۴۱ ثُمَّ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۝ وَ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ لَيْسِرٌ
پھر تم اُس سے خبردار کئے جاؤ گے جو تم نے کیا ہے اور یہ اللہ پر آسان ہے

۲۸
۴۲ وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقْتَتَتْ ۝ اِلَّا لِمَنْ اٰتٰنَا مِنْ قَبْلِهَا سِيقًا ۝ وَ يَوْمَ نَخْتَلُفُ
اور جب پیغمبروت مقررہ پر لانے ہائیں کس دن کے لئے وعدہ دیئے گئے ہیں ؟ فیصلہ کے دن کے لئے۔

۲۹
۴۳ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابٌ
پھر بے شک ہمارا ذمہ اُن کا حساب لینا ہے

۳۰
۴۴ وَ نَخْتَلِفُ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝
اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے حاصل کیا جائے گا

۳۱
۴۵ ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ
پھر اُس دن تم سے نعمتوں کی بابت پوچھا جائے گا۔

۳۲
۴۶ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ
اور آخر کار خدا اُن کو بتا دے گا کہ وہ (دنیا میں) کیا کرتے رہے۔

۲۔ نعمتوں کی بابت

سوال

۳۔ ہر شخص کو اُس کے

اعمال سے آگاہ کیا جائیگا

۴۸
۵ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن میں باتوں میں تم لوگ اختلاف کرتے رہے ہو وہ تم کو (سب) بتا دے گا۔

۴۹
۶ ثُمَّ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تم کو بتا دے گا

۱۰۹
۶ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جیسے ایسے اعمال کر رہے تھے وہ ان کو بتا دے گا

۱۵۹
۶ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کرتے تھے

۱۶۵
۶ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

پھر تم کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو وہ (سب) تم کو بتا دے گا

۳۴
۹ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَاَسْأَلُكُمْ عَنْ سِرِّكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

اور ابھی تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے کردار کو دیکھیں گے پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر و غائب

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(ردہ زوں) کو بتاتا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ (سب) تم کو بتا دے گا۔

۱۰۹
۹ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَيَسِيرَ اِلَى اللّٰهِ عَمَلِكُمْ وَاَسْأَلُكُمْ عَنْ سِرِّكُمْ وَتُرَدُّونَ

اور (اے نبی) کہہ دے کہ تم عمل کے باوا لہ اس کا رسول اور مومن تمہارے عملوں کو دیکھیں گے پھر پھینچے اور رکھے

اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے سو وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے

۲۲
۱۰ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

آخر کار تم کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ ہم تم کو بتا دیں گے۔

۳۲
۱۱ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَى اللّٰهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اور جس روز خدا کی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے تو جیسے عمل کرتے رہے ہیں خدا ان کو بتا دے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے

۱۵
۱۱ ثُمَّ اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جیسے عمل تم لوگ کرتے رہے وہ ہم تم کو بتا دیں گے

۲۳
۱۱ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کچھ کرتے رہے وہ ہم ان کو بتا دیں گے اللہ اولی خیالات سے واقف ہے

۴
۱۱ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جیسے عمل تم لوگ کرتے رہے ہو وہ تم کو بتا دے گا۔

۵۰ فَكُنْتُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا

سو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے

۵۱ وَإِنَّ سَعْيَهُ لَسَوْفَ يُرَىٰ

اور یہ کہ اس کی کوشش اُس کو دکھائی جائے گی

۵۲ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا

جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا

۵۳ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

پھر نیا ستائے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے

۵۴ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

پھر تم اُس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر (سب کچھ) جانتا ہے پھر مجھے علم تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا

۵۵ فَلْيَلْمُوا يَوْمَئِذٍ أَنفُسَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

کہہ دے۔ کہ ہاں مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ ضرور تم کو بتا دے گا

۵۶ يُنَبِّئُكَ إِلَّا نَسَانَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ

اُس دن انسان کو بتا دے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیسے آثار وہ تجھے چھوڑ آیا

۵۷ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا

اور جب وحش جانور اکٹھے کئے جائیں گے اور جب سمندر خمیوں کے جائیں۔ اور جب جانیں

۵۸ النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّئَتْ ۝ وَإِذَا ذُنُوبُ

رہسوں سے ملائی جائیں گی۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائیگا کہ وہ کس گناہ میں تھیں

۵۹ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝

کی گئی۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچی جائے

۶۰ وَإِذَا الْكُتُبُ سُعِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْجُنُودُ أُرْفِلَتْ ۝ وَإِذَا عِلْمٌ

گی اور جب دوزخ بھڑکایا جائے گا۔ اور جب جنت (متقیوں کے) قریب کی جائے گی۔ ہر جی

۶۱ نَفْسٍ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

جان لے گا جو اُس نے حاضر کیا ہے۔

۶۲ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَضَرَتْ ۝ وَإِذَا

جب آسمان پھٹ جائے اور جب ستارے جھڑ جائیں اور جب

۶۳ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝ وَإِذَا نَفْسٌ مَّا

سمندر بھاڑے جائیں اور جب قبروں والے اٹھائے جائیں اُس وقت ہر شخص جان لے گا

قَدَّ مَتَّ وَأَخْرَتْ ۝

جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑا ہے

۹۶ یَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝

اس روز لوگ متفرق پیش ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔

۹۷ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

سو جس نے ذرہ نیکی کی ہے وہ اُسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھری کبی

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

وہ بھی اُسے دیکھ لے گا۔

۹۸ يَوْمَ يُجَادُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ

جس روز ہر شخص جو کچھ بھلائی کر گیا ہے اس کو موجود پائے گا۔ اور جو کچھ بُرائی کر گیا ہے اس کو بھی۔

سُوءٍ نُوذِرًا لَوْ أَنَّ بَيْنَهُمَا ابْنُ ابْنِ آدَمَ ۝

آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس دن میں زمانہ دراز مائل ہوتا

۹۹ وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يهْتَكِرُونَ ۝

اور جیسے جیسے عمل یہ کرتے رہے ہیں ان کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی تہی ہوا ہے وہ ان پر آج

۱۰۰ وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يهْتَكِرُونَ ۝

اور جیسے جیسے عمل یہ کرتے رہے ہیں ان کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی تہی ہوا ہے وہ ان پر آنازل ہوگا

۱۰۱ وَمَا تَقَدَّرُ مِنْهُ إِلَّا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۝

اور جو نیکی اپنی جانوں کے لئے تم آگے بھیجو گے۔ وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے۔

۱۰۲ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَسْرَابُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جس دن ان ہمان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو جو عمل وہ کرتے تھے۔

۱۰۳ يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ وَلِلَّهِ الْاٰخِرَةُ ۝ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

اس دن اللہ ان کو ٹک کی پوری جزا جو واجب ہے پوری دیکھا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ جو ہے وہی کلمہ کھلا برحق ہے

۱۰۴ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ وَكُلْمَتَا اَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ اَرْجُلَهُمْ

آج ہم ان کے سونہوں پر پھر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ اور ان کے پاؤں گواہی

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

دیں گے جو جو عمل وہ کیا کرتے تھے

۱۰۵ وَيَوْمَ يُنْفَخُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ ۝ ۱۱۱ حَتَّىٰ

اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرٹ اکٹھے کئے جائیں گے پھر ان کی صف بندی کی جائیگی بیان تک کی جب

۴۔ قیامت کو ذرہ ذرہ نیکی بدی دکھلائی جائیگی

۵۔ قیامت کو ہاتھ پاؤں آنکھ کان اور کھال گواہی دیں گے

إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا
 کہ اس آگ کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو عمل وہ
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَقَالُوا لَوْلَا جُودُهُمْ لَمَّ شَهِدْنَا عَلَىٰ سِنَانٍ وَقَالُوا
 کیا کرتے تھے اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہم پر کیوں گواہی دی وہ کہیں گی کہ ہم کو اس اللہ نے
 أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْبَيْتُ
 گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے اور اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم
 تُرْجَعُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْشِدُونَ أَنْ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ
 لوٹنے جاؤ گے اور تم اس خیال سے رہنا کہ تمہیں چاہیے تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری
 وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا
 آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اکثر ان باتوں کو نہیں جانتا
 مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۵﴾

جو تم کرتے تھے

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿۳۶﴾

بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے پوچھے کچھ ہونی ہے۔

میزان

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۷﴾

۱- وزن اور میزان حق ہے

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
 اور وزن اس دن حق ہے سو جس کی تول بھاری ہوگی وہی فلاح پانے والے ہیں

بِأَيِّتِنَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَشَيْئًا وَإِنْ
 اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ سو کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی

كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَاحِيسِينَ ﴿۳۹﴾

مل رانی کے دانے کی برابر بھی ہوگا۔ تو ہم اسے لا موجود کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں

۱۰۲
۲۳
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ

تو جس کی تول بھاری ہوگی وہی نفع پانے والے ہیں اور جس کی تول ہلکی ہوگی وہ وہ میں جنہوں
مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝
نے اپنی جانوں کو گھائے میں رکھا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں

۶
۱۱
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وَ

۲۔ بھاری تول والے
خوش ہلکی تول والے
آگ میں۔

لیکن جس کی تول بھاری ہوگی وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔
أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ

لیکن جس کی تول ہلکی ہوگی اس کی مادر (مہربان) ہاویہ ہے اور تو کیا جانے وہ
مَا هِيَ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝
کیا ہے گرم آگ ہے۔

۹۱
۲۴
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوَّينَ ۝

۳۔ دوزخ میدانِ حشر میں

اور دوزخ نکال کر گراہوں کے سامنے کر دی جائیگی۔

۲۵
۲۵
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ ۝

اور دوزخ سب دیکھنے والوں کے سامنے باہر نکال کر رکھی جائے گی۔

۲۶
۲۶
وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ كُنَّا لَلسَّانِ وَأَنَّىٰ لَكَ الْكُلَّةُ

اور اُس دن جہنم (سب کے روبرو) لا حاضر کی جائیگی اس دن انسان چیتے گا۔ مگر (سوت) چیتے سے کیا فائدہ

۲۷
۲۷
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝

۴۔ دوزخ بھڑکا جا جائیگا

اور اس وقت دوزخ دھکانی جائے گی

۲۸
۲۸
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

۵۔ جنت قریب لائی جائے گی۔

اور جنت پر سبز گاروں کے قریب لائی جائے گی۔

۲۹
۲۹
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝

اور بہشت پر سبز گاروں کے قریب لائی جائے گی (کہ کچھ بھی) فاصلہ نہ ہوگا۔

۳۰
۳۰
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝

اور جس وقت بہشت قریب لائی جائے گی۔

۳۱
۳۱
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ۝

اور جس دن قیامت قائم ہوگی اُس دن وہ ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے

۳۲
۳۲
وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝

اور اسے گنہگاروں آج تم (نیکیوں سے) علیحدہ ہو جاؤ۔

۶۔ قیامت کو کافر سونوں
سے علیحدہ کئے جائیں گے

۷۔ قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہے

۲۶ ۲۵ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

اور وہ کافروں پر سخت دن ہوگا

۲۷ ۵۴ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ

کافر کہیں گے کہ یہ سخت دن ہے۔

۲۸ ۵۴ فَإِذَا نَقَرْنَا فِي السَّاقُورِ ۝ ۹ ۲۸ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ

پھر جب سور بھونکا جائے گا۔ تو یہ دن اُس دن سخت دن ہوگا

۲۹ ۱۴ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ لَيْسِيرٍ

کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔

۳۰ ۶۶ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُونَ

۸۔ کافروں کے چہرے بھونٹے

پھر جب وہ اُس (قیامت) کو نزدیک دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے ہر شکل ہو جائیں گے اور

کہا جائے گا۔ کہ یہ وہی ہے جسے تم مانگا کرتے تھے

۳۱ ۳۹ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

پھر کچھ شک نہیں کہ قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے ہاں باہم جھگڑو گے

۹۔ کافروں میں جھگڑیں گے

۳۲ ۵۰ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

تاریخی تھا

اُس کا رفیق (شیطان) کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اسکو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ آپ ہی پر لے درجے کی

۳۳ ۵۱ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ

خدا فرمائے گا میرے پاس جھگڑا نہ کرو میں نے تو تمہاری طرف پہلے ہی ڈراوا بھجوا دیا تھا۔

۳۴ ۶۹ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدِي وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

ہمارے ہاں بات نہیں بدلی جا یا کرتی۔ اور ہم تو بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتے

۳۵ ۶۴ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا

۱۰۔ کافروں کی حسرت اور ندامت

اور وہ جنہوں نے (بتوں کی) پیروی کی تھی نہیں کے کہ کاش ہم (دنیا میں) پھر جائیں کہ ان سے بیزار ہوں جیسا

۳۶ ۶۵ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ

کہ وہ ہم سے بیزار ہوئے۔ یوں اللہ ان کے اعمال ان پر حسرت کر دکھلائے گا

۳۷ ۶۶ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً

بے شک وہ لوگ گھٹائے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھوٹ جانا یا ہاں تک کہ جب قیامت

۳۸ ۶۷ قَالُوا بِجَسْرٍ تَنَا عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ

ان پر اچانک آجائے گی تو کہیں گے ہاں ہماری حسرت اس پر کہ ہم نے اُس کے بارے میں کوتاہی کی ہاں وہ اپنے

عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝

۲۳ رگنا ہوں کے (لوہہ اپنی پیٹھوں پر لادے ہونگے۔ سن لو کیا ہی بڑا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھاتے ہیں
وَلَوَاقٍ لِّكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فِتْنَةٌ لِّهٖ وَأَسْرُوٰ

اور اگر ہر ایک اس جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ بھی ہو جو زمین میں ہے تو وہ ضرور اس کو اپنے ذریعے سے
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقَفِيٓ بِدِيْنِهِمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

۲۴ رہے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے دل ہی دل میں نادام ہوں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائیگا اور ان پر ظلم نہیں
وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ لِأُولَٰئِكَ ۚ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا

۲۵ وہ سچا وعدہ قریب الگ ہے اس کے آتے ہی کافروں کی آنکھیں بھی ہوں گی۔ (دیکھیں گے) ہٹے ہماری
يَوْمَئِذٍ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ ۝

۲۶ خرابی بے شک اس کی طرف سے غفلت میں تھے نہیں بلکہ ہم ظالم تھے۔
وَيَوْمَ يَعْصُرُ السَّمَاءُ لِمُجِئِ الْوَعْدِ ۚ يَوْمَئِذٍ يَخْتَلِفُ أَعْيُنُ النَّاسِ لِمِمَّا كَانُوا

۲۷ اور جس دن عالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راہ بگرداتا۔
سَبِيْلًا ۝ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُ الْمَكِّيُّ لِمِمَّا كَانُوا فِي السَّيْلِ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ

۲۸ ہٹے افسوس کاش میں فلاںے (گمراہ) کو دوست نہ بناتا۔ بے شک اس نے مجھے نصیحت سے
عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَتْهُ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَدُوْلًا ۝

۲۹ اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آچکی تھی بزرگھا۔ اور شیطان انسان کو (دقت پر) چھوڑنے والا ہے
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرُ ۚ يَوْمَئِذٍ يَلْبَسُ

۳۰ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا۔ اور اُس دن اُس کے لئے نصیحت کہاں ہے کہے گا کاش میں
قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۝

۳۱ اپنی (ہمیشگی) زندگی کے لئے کچھ توشہ آگے بھیجتا سو اُس دن اُس کے ساعذاب کوئی نہیں دیکھا
وَلَا يُؤْتِقُ وَنَاقَهُ أَحَدًا ۝

۳۲ اور نہ اُس کے ساتھ کرنا کوئی قید کرے گا۔
فَلَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لَّشَهِيدٌ ۚ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هٰذَا شَهِيدًا ۚ

۳۳ سو اے نبی! اُس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لا موجود کریں گے اور تجھے ان پر گواہ لائیں گے
يَوْمَئِذٍ يُوَدِّعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَسْوَسَىٰ بِهِمُ الْأَرْضِيْنَ وَلَا

۳۴ اُس دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین کا پیوند بنا دیئے جائیں اور وہ اللہ سے کوئی
يَكْتُمُونَ ۚ اللَّهُ خَدِيْبُهُمْ ۝

۳۵ بات نہ چھپائیں گے۔

۱۱۔ کافر اپنے نصیحت و
ناپود ہونے کی تمنا
کریں گے

۴۸ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلِيَّتِي كُنْتُ تُرَابًا ۝

۱۲۔ کافر دنیا میں لوٹنے کی تباہی کریں گے

اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا
۴۹ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۝
اور جنہوں نے (تجوں کی) پیروی کی ہے کہیں گے کہ کاش ہم (دنیا میں) پھر جائیں کہ ہم بھی ان سے اسی
کذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم ۝

۵۰ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
اور (اے نبی) تو اللہ کو ان باتوں سے جو ظالم کرتے ہیں غافل نہ جان۔ وہ تو ان کو اس دن کے لئے
۵۱ تَشْخِصُ فِيهِ إِلَّا بَصَاصًا ۝ ۵۲ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ
ڈھیل دیتا ہے۔ جس میں آنکھیں اب کو چڑھ جائیں گی۔ اپنے سرواچھے کئے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے ان
۵۳ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْبِدًا لَّهُمْ هَوَاءٌ ۝ ۵۴ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
کی نظریں ان کی طرف واپس نہ آئیں گی اور ان کے دل گرے ہوئے ہوں گے۔ اور (اے نبی) لوگوں کو اس
۵۵ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ لَّحَبِ
دن سے ڈرا کہ ان پر عذاب آسوجو د ہو۔ پھر ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں کچھ عرصہ تک مہلت
۵۶ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا أَقْسَمًا مِّن قَبْلِ مَا لَكُم مِّن
دے ہم تیرا بلاوا قبول کریں اور رسولوں کا اتباع کریں (خدا کہے گا) کیا تم پہلے اقسیم نہیں لکھایا کرتے تھے کہ تمہارا
۵۷ زَوَالٍ ۝ ۵۸ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
لئے (دنیا سے) زوال نہیں ہے۔ اور تم لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر ظاہر ہو چکا
۵۹ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمْتَالَ ۝ ۶۰ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ
تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور ہم نے تمہارے (بجھانے کے) لئے کہا تم میں بیان کر دی تھیں اور وہ اپنا ایک
۶۱ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِيَنْزُولٍ مِّنْهُ لَاجِبًا ۝
طرح کا داؤ کھیلے اور ان کا داؤ اللہ کے علم میں ہے اگرچہ ان کا داؤ ایسا مضبوط ہو کہ اس سے پہاڑ (اپنی جگہ سے) ٹل جائیں
۶۲ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ ۶۳ لَعَلِّي أَعْمَلُ
یہاں تک جب ان میں سے کسی کی موت آسوجو ہوگی تو دعائیں مانگے گا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے پھر الٹا بھیج دے
۶۴ صَاحِبًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ
تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں پھر جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں۔ یہ ایک بات بکتا ہے
۶۵ فَمَا لَتَأْتِيَ مِنْ شَافِعِينَ ۝ ۶۶ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ۝ ۶۷ وَلَوْ أَنَّ لَنَا
گنہگاروں نے گمراہ کیا تو اب نہ تو کوئی ہماری سفارش کرنے والے ہیں اور نہ کوئی دلسوز دوست۔ پس کاش

Marfat.com

كَرَّةً فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ہم کو پھر لوٹ کر مانا لے تو ہم ایمان والوں میں رہیں

۱۲ ۳۲ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ

اور کاش تو مجرموں کو دیکھے کہ اپنے پروردگار کے رو برو سر جھکائے کھڑے ہیں اسے ہمارے پروردگار اب

سَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا لَعْمَلٍ صَالِحٍ إِنَّا مُوقِنُونَ ۝

ہماری آنکھیں اور کان کھلے تو ہم کو پھر واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں اب ہم کو یقین ہے۔

۵۸ ۳۴ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

یا عذاب سامنے دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش میں پھر لوٹ جا سکوں تو میں نیکو کاروں میں رہوں

۵۹ ۳۵ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ

۱۱ ہمارے احکام تم کو پہنچنے اور تو نے ان کو جھٹلایا۔ اور اگر بیٹھا۔ اور کافر بن گیا۔

الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرٰ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلٰى اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ

اور قیامت کو تو دیکھے گا۔ کہ جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا ان کے سونہ کالے ہوں گے

مُسْوَدَّةً ۝ اَلْبَسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَتَوٰى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

کیا سکبروں کا ٹھکانا دوزخ میں نہیں ہے؟

۲۹ ۳۶ يَوْمَ يَخْدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۝ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ

۱۲ ہر شخص اس دن ہر شے کو جو اس نے کی ہے موجود پائے گا اور نیز اس بدی کو بھی جو اس نے کی ہے۔

سُوْرَةٍ تَوْذٰى لَوْ اَنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهَا اَمَدًا اَبْعَدًا ۝

چاہے گا۔ کہ کاش اس بدی اور اس کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہو۔

۲۴ ۳۷ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۝ وَوَقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

سو اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم انہیں اس دن جمع کر سگے جس کے ہونے میں شک نہیں ہے

وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۱۵۵ ۳۸ وَالْمَالُ لَوْ قُوْنَ اٰجُوْرًا كُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝

اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے۔

۱۱۱ ۳۹ يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ نُّجَادَ لِّهَا عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوْفٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے اس کا عوض پورا دیا

۱۲ قیامت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا عوض ملے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔

Marfat.com

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

یَوْمَئِذٍ يُوقِفُ اللَّهُ دِينَهُمْ بِالْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

اس دن اللہ ان کی جڑا جوتی ہے پوری دے گا۔ اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی کے لئے کھلا حق ہے۔

فَالْيَوْمَ لَا تظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

سو آج کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائیگا جو تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

جس دن وہ کھلے میدان میں ہوں گے اللہ پر ان سے کوئی چیز چھپی نہ رہے گی۔ آج بادشاہت کس

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ الْيَوْمَ تَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ

کی ہے۔ اس کی جو اکیلا زبردست ہے آج ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائیگا۔ آج ظلم نہیں ہے

الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے

إِنَّمَا أَنْذَرْتُكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا لَهُ ۝

بے شک ہم نے تمہیں ایک تریب ہی آنے والے عذاب سے ڈرا دیا جس دن انسان دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کیا

۱۳۱ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا

یہ ایک امت ہے جو گزر گئی اس کے لئے ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لئے جو تم نے کیا یا۔ اور

تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جو وہ کرتے تھے اس کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا

۱۳۲ قُلْ إِنَّمَا جُؤِنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ

(اے نبی) کہہ دے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارہ میں جھگڑتے ہو حال آنکہ وہی ہمارا پروردگار اور تمہارا پروردگار

أَعْمَالِكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

ہے اور ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمل اور ہم خالص اسی کو ملتے ہیں

۱۳۳ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرًا

اور جو ڈرتے ہیں ان پر ان کا خوفوں کے حساب کی بابت کچھ مواخذہ نہیں لیکن ان کا کام نصیحت کر دینا ہے

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۝

شاید وہ ڈریں

۱۳۱- ہر شخص کے اپنے ہی اعمال کا کام آئیں گے

۱۶۱ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ

رؤيًا ما اتبنا به پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے سوجھ کر باتیں آچکی ہیں تو جو بینا ہو اور اپنے نفع کے لئے اور جو اندھا

۱۶۲ فَعَلَيْمَاءَ وَمَا آتَانَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ۝ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ وَ

رہا اس کا وبال اسی پر ہے اور میں تم پر گنہگار نہیں ہوں اور میں تم پر پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں اور اس کے

۱۶۳ لَيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلَنْبِئِنَّهٗ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ۝

کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھ لیا اور تاکہ ہم اس کو ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں بیان کریں

۱۶۴ وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا سَرَّ بَكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

اور سب کے لئے ان کے کاموں کے مطابق درجے مقرر ہیں اور جو وہ کرتے ہیں تیزا بد و گار اس سے غافل نہیں ہے

۱۶۵ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ

اور جو شمس بڑا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیگا پھر تمہیں

۱۶۶ إِلَىٰ سَائِرَاتِكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهٖ تَخْتَلِفُونَ ۝

اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سو وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کر دیگا جن میں تم اختلاف کرتے تھے

۱۶۷ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ

سو جو راہ پاتا ہے وہ اپنے ہی لئے راہ پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو تو کہہ دے کہ میں ایک ڈرانے والوں

۱۶۸ الْمُنذِرِينَ ۝

میں سے ہوں

۱۶۹ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۝

ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمل

۱۷۰ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝

اور جو شمس بھی بڑا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیگا

۱۷۱ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۝

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیگا اور ہم جب تک ایک رسول نہ بھیجیں (کسی کو) عذاب دینے والے نہیں ہیں

۱۷۲ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلٍ

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیگا اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے تو اس

۱۷۳ يَجْمَلُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ ذَا قُرْبَىٰ ۝

کی طرف سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ وہ (جسے بلایا جائے) رشتہ دار ہی ہو

۱۷۴ وَلَا يَحْبِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۝

اور بڑی تدبیر اپنے کرنے والے ہی کو گھیر لیتی ہے۔

۱۵- کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائیگا

۳۹ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا

۳۳ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَدْعُو ۖ وَاعْتَدَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۖ ۳۴ أَعِنْدَكَ

بھلا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے حق سے سونہ پھیل اور غمگینا دیکر سخت دل ہو گیا کیا اسے قیامت کا علم ہے

۳۵ عِلْمُ الْغَيْبِ هُوَ بَرَاءِي ۖ ۳۶ أَمْ لَمْ يَنْبَأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۖ

کہ وہ دیکھ رہا ہے کیا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور (نیز) ابراہیم کے

۳۷ وَلَا يَرَاهِمْ اللَّهُ وَفِي ۖ ۳۸ أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ

جس اللہ کا پورا حق ادا کیا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا

۳۹ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ

اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا

۴۰ فَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا اجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ ۖ

(اے نبی) کہہ دے کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے اس کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور جو تم کرتے ہو اس کی بابت ہم سے نہیں

۴۱ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ۖ

سو اس دن اس کے گناہ کی بابت نہ کسی انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے

۴۲ وَإِنْ نَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا

اور اگر وہ سارے عوض بھی دے گا تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا

۴۳ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ۖ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَمَا أَلَكُمُ

سو آج نہ تم (منافقوں) ہی سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے

۴۴ النَّاسُ مَا هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۖ

وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بُری جگہ ہے

۴۵ يَوْمَ الْمَجْزِئِمْ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۖ ۴۶ وَصَاحِبَتِهِ

گنہگار چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے دے اور اپنی

۴۷ وَأَخِيهِ ۖ ۴۸ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۖ ۴۹ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

بیوی اور بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے جگہ دیتا تھا اور ان سب کو جو زمین میں ہیں۔

۵۰ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۖ

پھر یہ فدیہ دینا اُس کو (عذاب سے) چھڑا دے

۵۱ فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۖ ۵۲ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ ۵۳ وَ

پھر جب کان پھوڑنے والی آئے گی۔ جس دن مرد بھاگے گا اپنے بھائی سے

اور

۱۶۔ کسی سے دوسرے کے اعمال کی بازپرس نہ ہوگی

۱۷۔ قیامت کو فدیہ نہیں لیا جائے گا

۱۸۔ مجرم اپنے بیٹے بیوی بھائی وغیرہ کو بے فائدہ فدیہ میں دینا چاہے گا

۱۹۔ شخص اپنے ماں باپ بھائی بیٹوں بیوی

دو فرسے بھاگے گا۔

أُمَّهُ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِنْهُمْ
اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے اس دن ان میں سے ہر مرد کی
يَوْمَئِذٍ نَشَأَنُ يُغْنِيهِ ۝

ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے پروا کرے گی۔

۲۰۔ قیامت کو خرید و فروخت
دوستی سفارش نہ ہوگی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
سلمانو! جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے ہی خرچ کرو۔
لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۝

کہ جس میں نہ بیع ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش

۲۱

فَلِتَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا زَكَاةً
اور نبی! میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں
سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ ۝

سے چپکاً اور علانیہ خرچ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آسجود ہو جس میں نہ بیع ہوگی اور نہ دوستی

۲۲

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۝

ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا جس کا کہا مانا جائے

۲۳

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هِمْنَا حَمِيمٌ ۝

سو آج یہاں اس کے لئے کوئی دوست نہیں۔

۲۴

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

جس دن کسی شخص کو کسی کے لئے کچھ اختیار نہ ہوگا اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔

۲۱۔ کوئی کسی کے کام نہ
آئے گا

هَآأَنْتُمْ هُوَ لَا رَجَاءَ لَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَسَنُجَادِلُ اللَّهَ
خبردار ہو تم وہ لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی میں تم سنا فتون کی طرف سے جھگڑے۔ تو قیامت کے دن کون ان

۲۵

عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۝

کی طرف سے جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا

۲۲۔ دوست دوست
کے کام نہ آئے گا۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُبْصَرُونَ ۝

جس دن نہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام آئے گا۔ اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ مگر جس پر اللہ

۲۶

مَنْ رَحِمَ اللَّهُ فَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ہی رحم کرے ہے شک وہ غالب ہے رحم والا

وَلَا يَسْتَعْلَمُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝

اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پہچانے گا۔

۲۷

۹۷
۳۳
الْأَخْلَاءِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ○

۲۳۳- متقیوں کے سوا دوست بھی دشمن بن جائیں گے

۹۸
۳۴
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○ ۹۹
الْأَمِنَ آتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ○

۲۳۴- مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا

۱۰۰
۳۵
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ

۱۰۱
۳۶
وَلَا مَوْلُوهُ هُوَ جَارٌ مِنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَتَذَكَّرُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ○

۱۰۲
۳۷
لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ فِي شَأْنِ النَّارِ ○

۱۰۳
۳۸
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○

۱۰۴
۳۹
يَوْمَ تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ○

۱۰۵
۴۰
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ○

۱۰۶
۴۱
يَوْمَ تَبْيَضُّ بَيَاضُ الْأَعْيُنِ ○

۱۰۷
۴۲
وَالْأَعْيُنُ حَمِيقٌ وَنَارٌ كَرِيمٌ ○

۱۰۸
۴۳
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَفْرُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

۱۰۹
۴۴
يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ مِنْ أَيْنَ لَا تَحْسَبُ ○

۱۱۰
۴۵
رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ○

۲۵- بے زور اور بے پروا

۲۶- کافروں کو عذر کرنے اور بولنے کی اجازت نہ ہوگی

۲۷- بغیر خدا کی اجازت کے کوئی نہیں بول سکے گا

۱۱۱
۴۶
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَفْرُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

۱۱۲
۴۷
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَفْرُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ

جس دن روح (جبریل) اور سب فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے بول نہ سکیں گے مگر وہی

أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ

جسے رحمن اجازت دے اور وہ راہ کی بات کہے یہ دن برحق ہے توجو پا ہے

اتَّخَذَ إِلَىٰ سَائِبِهِ مَا يَأْتِ ۚ

اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو۔

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۚ

سو آج ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے نہ ان کا عذر ہی کچھ نفع دے گا اور نہ ان کی توبہ ہی قبول کی جائے گی

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ الْآخِرَةِ ۚ

جس دن ظالموں کو ان کا عذر نفع نہ دے گا اور ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے

شفاعت

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ

اے نبی! کہہ دے کہ شفاعت اللہ ہی کے لئے ہے

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا حَتَّىٰ رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ

مسلمان جو مال تم نے تمہیں دیا ہے اُس میں سے اُس دن کے آنے سے پہلے ہی خرچ کرو

لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ

جس میں نہ بیع ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

بجلا وہ کون ہے کہ اُس کے ہاں بغیر اُس کی اجازت کے شفاعت کرے

لَا يَلِيكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ

وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر ہاں وہ جس نے اللہ سے قول و قرار لے لیا ہے

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۚ

اُس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر ہاں اُسے جس کے لئے رحمن نے اجازت دی ہے اور اُس کا قول پسند کیا ہے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَ

وہ جاننے والا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اُسی کی شفاعت کریں گے جس سے

هُمْ مِّنْ حَسْبِهِ مُشْفِقُونَ ۚ

وہ راضی ہے اور وہ اُس کے ڈر سے کانپتے ہیں۔

۲۸۔ ظالموں کا عذر بیکار اور لعنت اور برا گھر

۲۹۔ شفاعت اللہ ہی کے لئے ہے

۳۰۔ بیعت کو کوئی شفاعت نہ ہوگی۔

۳۱۔ شفاعت اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی

۳۲۔ وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر ہاں وہ جس نے اللہ سے قول و قرار لے لیا ہے

۳۳۔ اُس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر ہاں اُسے جس کے لئے رحمن نے اجازت دی ہے اور اُس کا قول پسند کیا ہے

۳۴۔ وہ جاننے والا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اُسی کی شفاعت کریں گے جس سے

۳۵۔ وہ راضی ہے اور وہ اُس کے ڈر سے کانپتے ہیں۔

۳۶۔ وہ شفاعت نفع نہ دے گی مگر ہاں اُسے جس کے لئے رحمن نے اجازت دی ہے اور اُس کا قول پسند کیا ہے

۳۷۔ وہ جاننے والا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اُسی کی شفاعت کریں گے جس سے

۳۸۔ وہ راضی ہے اور وہ اُس کے ڈر سے کانپتے ہیں۔

۲۲
۲۲ وَلَا تَتَفَعَّلُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَدِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ

اور اُس کے ہاں شفاعت صرف اسی کو تفع دے گی جس کے لئے وہ اجازت دے یہاں تک کہ جب اُن (فرشتوں) کے دل

۲۳
۲۳ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں کہ حق

۲۴
۲۴ وَكَمْ مِنْ مَلَائِكَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تَعْنِي شَفَاعَةُكُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَعَدَ أَنْ

اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ نفع نہ دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لئے

يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۝

چاہے اجازت دے اور راضی ہو جائے۔

۲۵
۲۵ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۝

ان کے لئے اُس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ شفاعت کرنے والا

۲۶
۲۶ وَذِكْرُ يَهُوذاَ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور دے نبی) اس قرآن کے ذریعے سمجھا لیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کئے کے سبب مبتلائے نبیت

۲۷
۲۷ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۝

ہو جائے اُس کے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ شفاعت کرنے والا

۲۸
۲۸ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۝

سو ہمارے لئے نہ کوئی شفاعت کر لے والا ہے اور نہ کوئی خالص دوست۔

۲۹
۲۹ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝

اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی اُن کا سفارشی نہ ہوگا۔ اور وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے

۳۰
۳۰ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۝ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

اُس (اللہ) کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ سفارشی۔ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

۳۱
۳۱ وَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدُّنَ الرَّحْمَنُ بِصُرَّةٍ لَنْعُنَّ عَنِ

کیا میں اُس (اللہ) کے سوا وہ معبود اختیار کروں کہ اگر رحمن مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ اُن کی

۳۲
۳۲ شَفَاعَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون ۝

سفارشی ہی میرے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں

۳۳
۳۳ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۝

ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے

۳۴
۳۴ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

اور جنہیں وہ اُس کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ مگر وہ شخص جو حق حق

۴۴-۴۷ کا فرقوں کے لئے شفاعت نہیں۔

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

تو ای دے اور دہانتے ہیں۔

۸۴ ﴿۸۴﴾ فَاسْتَفْعِمُوهُمْ شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ ○ ﴿۸۵﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ

سو انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے منع نہ کیے سو انہیں کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت سے
معرضین ○ ﴿۸۵﴾ كَانَتْهُمْ حُجْرًا مُسْتَنْفِرَةً ○ ﴿۸۶﴾ فَفَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ○
سو نہ سوڑتے ہیں گویا وہ بے کئے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں۔

۸۵ ﴿۸۵﴾ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا وُكِّلَ مِنْ شَفَاعَةِ

جو نیکی کی سفارش کرے گا اس کے لئے اس نیکی میں ایک حصہ ہے اور جو بدی کی سفارش کرے گا اس کو اس
سِئْرَةٍ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا وُكِّلَ ○ ﴿۸۶﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ○
بدی سے حصہ ملے گا۔ اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔

۵ ساتھی سفارش کا اچھا
عوض یا درجہ کی بڑا۔

حساب کے بعد فیصلہ

۸۶ ﴿۸۶﴾ وَكُلٌّ أُمَمٌ رَأْسُؤُهُمْ فَبِأَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ فَهُمْ بِالْقِسْطِ

اور ہر امت کا ایک رسول ہوا ہے تو جب ان کا رسول حاضر ہوگا تو امت میں اور رسول میں انصاف
وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ○

کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا

۸۷ ﴿۸۷﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ○

اور جس جس شخص نے مافزمانی کی ہے اگر تمام خزانے جو زمین میں ہیں اس کے تپنے میں ہوں تو وہ ضرور
أَسْرًا لَدَامَةً لَمَّا سَرَا ○ ﴿۸۸﴾ وَالْعَذَابُ وَفِيهِمْ بِالْقِسْطِ ○
ان کو جان کے بدلے میں دے نکلے اور جب لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اظہارِ ندامت کریں گے
هُمُ لَا يَظْلَمُونَ ○

اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

۸۸ ﴿۸۸﴾ إِنَّ سَرَابًا يُقْضَىٰ بِئَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

جن جن باتوں پر یہ اختلاف کرتے رہے ہیں ان میں تیرا ہر درو گار قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا
وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ ○ ﴿۸۹﴾ وَعَدَ الْحَقُّ ○ ﴿۹۰﴾ وَوَعَدَ اللَّهُ
اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ اور وعدہ تم سے میں نے

فَاَخْلَقْتُمْكُمْ ط

۳۸
۱۹
بھی کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔
اَسْمِعْ لَهُمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتُ اَللَّيْنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلٰلٍ

جس دن یہ لوگ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے کیسے کچھ سنتے دیکھتے ہوں گے مگر اس وقت تو یہ ظالم کھلی
مُبِينٌ ۱۹ ۳۹ ۱۹ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِي
گراہی میں پڑے ہیں اور (اسے نبی) ان لوگوں کو اس انوس کے دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائیگا
غَفَلَةً وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۱۹

اور اب تو یہ لوگ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔

۱۷
۲۳
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِغِيْنَ وَالنّٰصِرِيْنَ وَالْمَجُوسَ

جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور صابئی اور نصاریٰ اور مجوس اور مشرکین قیامت کے دن
وَالَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط
ان سب کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا۔

۲۵
۲۴
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۱۹

کچھ شک نہیں کہ جن جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں ان میں تیرا بے دردگار قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا
وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ مِنْ بُوْرٍ رَّبَّهَا وَوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالْبَيِّنٰتِ
اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائیگی اور پیغمبر اور گواہ حاضر

وَالشّٰهَدٰءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۱۹

کئے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائیگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا

۲۶
۲۵
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَيِّنٰتِ وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَنْفَعُهُمْ اَبْوَابُ

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے انکار ہیٹھے تو ان کے لئے نہ تو آسمان کے

السَّمٰوٰتِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی يَخْرُجُوْا مِنْهَا فِيْ سَمِّ الْحَيٰطِ ط

دروازے کھولے جائیں گے اور نہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے

وَكٰذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ۱۹

میں سے نہ گزر جائے اور مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

۲۷
۲۶
لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِّنْ نُّوْقِهِمْ عَوَاشٍ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي

ان کے لئے آگ کا بچھونا ہوگا۔ اور ان کے اوپر آگ (آگ) ہی کا اوڑھنا اور سرکش لوگوں کو ہم ایسی

الظّٰلِمِيْنَ ۱۹

ہی سزا دیا کرتے ہیں

۱- آیات کو جھٹلانا ہوا ہے
مجرم داخل جنت نہ ہونگے

۲۔ مجرمین میں مقید
گنہگاروں کے کرتے پینے
ہوں گے

۸۹
وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَّابِهِمْ
اور اُس دن تو گنہگاروں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھے گا اُن کے کرتے گنہگاروں کے ہونے کے
مِنْ قِطْرَانٍ وَتَعْتَشِي وَجُوهُهُمْ النَّارُ ۝ لِيُحْزِنَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ

اور اُن کے مونہوں پر آگ جھا جائے گی تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے
مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَاغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا
بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ لوگوں کو پہنچا دینا ہے اور اس لئے ہے کہ وہ اُس سے ڈرنے
بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ الْوَاحِدُ وَلِيُنذِرُوا أُولَئِكَ الْبَابِ ۝

۸۸
وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا
اور گنہگار (آتش) دوزخ کو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ وہ اُس میں گرے والے ہیں اور اُن کو اس سے کوئی راہ گریز نہیں ملے گی
وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا ۝
اور ہم گنہگاروں کو پیا سا دوزخ کی طرف دیکھیں گے۔

۸۷
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝
گنہگار نہیں کہ جو اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا اُس کے لئے دوزخ ہے اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا
يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمَجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ
جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اُس دن گنہگاروں کے لئے بشارت نہیں ہے اور وہ کہیں گے کہ ہم سے مضبوط
حِجْرًا مَجْجُورًا ۝ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ مَقْرَنَاتِنَا
آڑ میں رہو۔ اور ہم اُس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کیلئے تو ہم اُسے پر اگندہ غبار بنا دیں گے۔

۳۔ مجرموں کے مل جاک
کی طرح اڑیں گے۔

۸۶
وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبَلِّسُ الْمُجْرِمُونَ ۝
اور جس دن قیامت قائم ہوگی گنہگار نا امید ہوں گے

۴۔ مجرموں کی ناامیدی

۸۵
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا
اور (اے نبی) کاش تو دیکھے کہ جب گنہگار اپنے پروردگار کے آگے اپنے سر اُتار دے کئے ہوں گے کہیں گے کہ
وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝

۸۴
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِنَا فَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ أُعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ
اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اُس کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ اُن سے منہ پھیر
الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۝
لے ہم بے شک گنہگاروں سے بدلہ لیں گے۔

۵۔ مجرموں کو عذاب

۵۹

وَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۝ أَلَمْ أَعْمِدْ إِلَيْكُمْ يَبْنِيَّ إِدْمَ

اور اے گنہگارو! آج تم (نیکوں سے) علیحدہ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو
ان کے تعبد و الشیطان اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَإِنْ اَعْبُدُوْنِي ۝
نہ پوجنا۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيْرًا ۝ اَفَلَمْ

یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ اُس نے تم میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر دیا تو کیا تم
تَكُوْنُوْنَ تَعْقِلُوْنَ ۝ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝
سمجھتے نہیں تھے۔ یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا

۶۰ اَصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

آج اس میں داخل ہو بد اس بات کا کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔

۶۱

۶۱ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ جَهَنَّمُ خَالِدُوْنَ ۝ لَا يُفْتَرُ عَنْكُمْ

بے شک گنہگار دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ان پر سے نافرمان نہ ہوگا

وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمْ

اور وہ اس میں ناپسندیدہ رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہی ظلم

الظٰلِمِيْنَ ۝

کرتے رہے

۶۲ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَسُعُرٍ ۝ يَوْمَ يَجْعَلُوْنَ فِي النَّارِ

بے شک گنہگار گمراہی اور جہنم میں ہیں جس دن وہ اپنے سونہرے کپڑوں میں گھسٹے جائیں گے۔

عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُقُوْا مَسَّ سَقَرٍ ۝

(کہا جائیگا کہ) دوزخ کا لگنا چکھو۔

۶۳

۶۳ يٰعَرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ ۝

گنہگار اپنی صورت سے پہچان لئے جائیں گے پھر ان کے پٹھے اور پاؤں پکڑے جائیں گے x x

۶۴ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝ يَطُوْفُوْنَ

یہ ہے وہ جہنم جس کو گنہگار لوگ جھٹلاتے ہیں اس میں اور کھولتے

بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اِنَّ ۝

ہوئے پانی میں پڑے پھریں گے۔

۶۵ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝ فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ مَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

اور (قیامت کو) تم تین فریق ہو جاؤ گے۔ سو دہنی جانب والے کیا ہی اچھے ہیں واہنی جانب والے

۶۶

۶۔ قیامت کو مخلوق کے تین گروہ ہونگے اصحاب

الیمین۔ اموات الشمال۔
سابقون۔

۹/۳۴ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ وَالشُّبَّانُ

اور بائیں جانب والے کیا ہی بڑے ہیں بائیں جانب والے۔ اور آگے بڑھنے والے تو ہیں ہی۔

الشُّبَّانُ ۝ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

آگے بڑھنے والے وہی مقرب (بارگاہ) ہیں۔ نعت کے باغوں میں

۳۴/۳۵ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ ۝ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝

گروہ کے گروہ پہلوں میں سے اور تھوڑے سے کچھلوں میں سے

۳۸/۳۸ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝ وَيَوْمَئِذٍ

۸۔ بیت سے چہرے
خوش اور بیت سے سیاہ
دگر آلود۔

کتے ہی چہرے اس دن چمکتے ہوں گے ہنسنے والے خوش حال

يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ غَبْرَةٌ ۝ تَرَاهُمْ قَاتِرَةٌ ۝ أُولَئِكَ هُمُ

اور کتے ہی چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔ ان پر کلوس چھائی ہوگی۔ یہ وہ جماعت

الْكُفْرَةِ الْفَجْرَةِ ۝

ہے جو کافر بدکار ہیں۔

۱/۸۸ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ۝ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝

اے نبی! بھلا تیرے پاس چھا جانے والی کئی خبر بھی نہیں ہے کتے ہی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے

۲/۸۸ عَامِلَةٌ تَأْصِبَةٌ ۝ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً ۝ تَسْقَى مِنْ عَيْنٍ

مل کر بنوالے سمت کرنے والے جنتی آگ میں داخل ہوں گے کھولتے چشے سے پانی پلائے

النَّبِيَّةِ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ۝ لَا يُبْمَنُونَ وَلَا

جاہل ہیں۔ ان کے لئے کھانا سوائے کانٹے دار تھوڑی کے نہ ہوگا۔ جو نہ سوٹا کرے گی اور نہ

يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ۝ لِسَعِيرٍ أَرْضِيَةٌ ۝

تھوک سے بے پردا کرے گی۔ کتے ہی چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنی کوشش پر خوش

۱۸/۸۸ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةِ ۝

اعلیٰ جنت میں۔ وہ اس میں بہو وہ بات نہیں سنیں گے۔

۳۳/۳۳ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِ بِهِ

جو بڑا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی

۵۱/۳۹ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا

اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے ہدکاسوں کی برائیاں انہیں پہنچیں گی اور وہ ہمیں عاجز کرنے والے

هُمْ مِمَّا كَسَبُوا ۝

نہیں ہیں۔

۲۷۷ وَ لَيَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور ہم ان کے برے کاموں پر جو وہ کرتے تھے ضرور سزا دیں گے

۲۷۸ لَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ اَسَاءُوا وَاِمْاَعْمَلُوا ۝

تاکہ وہ انہیں جنہوں نے بدیاں کی ہیں ان کے اعمال کی سزا دے

۹۹ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

اور جو شخص ذرہ بھر بھی بدی کرے گا وہ اُسے دیکھ لے گا

۱۶۱ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ فَلَا يَجْزِي اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور جو شخص بُرائی لیکر آئے گا تو اُس کو اُس کی برابر ہی سزا دی جائیگی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۲۷۹ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سِیِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۝

اور جنہوں نے بدیاں کمائی ہیں تو بدی کی سزا اُسی کی برابر ہے۔

۸۲۸ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ فَلَا يَجْزِيَنَّ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور جو بدی لے کر آئے گا تو جو بدیاں کرتے ہیں انہیں اُسی کی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔

۲۸۰ مَنْ عَمِلَ سِیِّئَةً فَلَا يَجْزِي اِلَّا مِثْلَهَا ۝

اور جس نے بدی کی اُسے اُس کی برابر ہی سزا دی جائے گی

دوزخ

۲۰۶ وَلَيْسَ الْمَيَادُ ۝

اور بے شک وہ بُرا بچھوٹا ہے۔

۱۹۶ وَيَسَّ الْمَيَادُ ۝

اور وہ بُرا بچھوٹا ہے

۱۸ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَيَادُ ۝

اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بُرا بچھوٹا ہے

۵۶ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيَسَّ الْمَيَادُ ۝

(یعنی) جہنم جہنم میں وہ داخل ہوں گے سو وہ بُرا بچھوٹا ہے

۱۲۶ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ۝ ۱۰ ۹ ۴۲ ۴۳ ۱۲۶ ۲ ۴۶ ۶۶ ۴۳ ۲۲ ۹

اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔

۱۱۔ بدی کی جزا بدی کے برابر ہی ملے گی

۱۔ دوزخ بُری جگہ ہے

۱۴۱ ۱۸ وَمَا وَهُمْ جَاهِمٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بڑا ٹھکانا ہے۔

۱۴۲ ۱۹ جَاهِمٌ يَصْلُونَ نَهَاؤَ بَيْتِ الْقَرَارِ

(یعنی) دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بڑی قرار گاہ ہے

۱۴۳ ۲۰ وَمَا وَهُمْ النَّاسُ وَلِبِئْسَ الْمَصِيرُ

اور ان کا ٹھکانا آگ ہے اور بے شک وہ بڑا ٹھکانا ہے

۱۴۴ ۲۱ اِنْفِاسَاتٍ مُّسْتَفْرَاةٍ وَمَقَامًا

بے شک وہ بڑی قرار گاہ اور قیام گاہ ہے

۱۴۵ ۲۲ فَيْئِسَ الْقَرَارُ

سو وہ بڑی قرار گاہ ہے۔

۱۴۶ ۲۳ وَسَاوَتْ مَصِيرًا

اور وہ بڑا ٹھکانا ہے

۱۴۷ ۲۴ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

وہ (دوزخ) تمہاری رہنمائی ہے اور وہ بڑا ٹھکانا ہے۔

۱۴۸ ۲۵ فَيْئِسَ الْمَصِيرُ

سو وہ بڑا ٹھکانا ہے۔

۱۴۹ ۲۶ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اشَدُّ حَرًّا

(اے نبی) کہہ دے کہ دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے

۱۵۰ ۲۷ كَلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

جب وہ بجھنے لگے تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے

۱۵۱ ۲۸ كَلَّا اِنَّهَا لَظَىٰ ۗ اَلَمْ نَرَاكَ اِلَّا تَدْعُو اَمِنْ اَدْبُرِنَا ۗ

یہ ہرگز نہیں ہو گا وہ شعلے والی آگ ہے توہم کی کھال اور میٹرنے والی ہے اُسے بلائی ہے جس نے پیٹھ پھیری اور نہ سوڑا

۱۵۲ ۲۹ لَا يَدُّ وَفُوقَ فِيمَا بَرَدًا ۗ اَوَّلًا شَرَابًا

وہ اُس میں نہ ٹنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کا۔

۱۵۳ ۳۰ اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۗ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَصْرًا

بے شک وہ حملوں کی مانند چنگاریاں بھیجتی ہے گویا وہ چنگاریاں زر وادنت ہیں۔

۱۵۴ ۳۱ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّهُ فِي الْحُطَمَةِ ۗ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ

ہرگز نہیں ہے وہ ضرور حمل میں ڈالا جائے گا اور (اے نبی) تو کیا جانے کہ حمل کیا ہے

۲۔ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے کسی وقت بجھنے نہیں پاتی

۳۔ دوزخ میں ٹنڈک کا مزہ نہیں۔

۴۔ چنگاریاں اتنی بڑی بنتا اورنت

۵۔ دوزخ کی آگ لمبے تنوں کی شکل میں

۱۱۳ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ۝۱۳۳ التِّي تَطْلِعُ عَلَى الْأَقْيَدَةِ ۝۱۳۴ اِنَّهَا

اللہ کی بھڑکانی ہوئی آگ ہے وہ جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے۔ بے شک وہ ان

عَلَيْهِمْ مَوْصِدَةٌ ۝۱۳۵ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝

پر دروازہ بند کی ہوئی ہے لمبے ستونوں کی شکل میں

۱۲۵ اِذَا سَأَلْتَهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۝

جب وہ انہیں دُور کے فاصلے سے دیکھے گی تو وہ اُس کا چیخنا اور چنگھاڑنا سنیں گے

۱۲۶ اِذَا الْقَوَائِمُ سَمِعُوا لَهَا شَيْفًا وَهِيَ تَفُورُ ۝۱۲۷ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ

جب وہ اُس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اُس کا بھٹانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی قریب ہے کہ نعتے سے پھٹ

الغَيْظِ ۝۱۲۸ كَلَّمَا لَقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمَا لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

جلئے جب اُس میں کوئی جماعت ڈالی جائیگی تو اُس کے محافظ اُن سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا

۱۲۹ سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا ۝

ہم اُسے ایک چڑھائی پر چڑھائیں گے

۱۳۰ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝۱۳۱ لَا يُبْقِي وَلَا تَذَكَّرٌ ۝۱۳۲ لَوْ أَنَّ لِلْبَشَرِ

اور (اے نبی) تو کیا جانے کہ دوزخ کیسے نہ کچھ باقی رکھے اور نہ چھوڑے چہرے کو ٹھنسنے والی ہے

۱۳۳ عَلَيْهِمُ السَّعَةُ عَشْرٌ ۝۱۳۴ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً

اُس پر انیس فرشتے تعینات ہیں۔ اور ہم نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے ہیں اور ہم

۱۳۵ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ

نے اُن کی تعداد محض کافروں کی آزمائش کا ذریعہ بنائی ہے۔ تاکہ وہ لوگ یقین کریں

۱۳۶ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا

جہنم کتاب دی گئی ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے ایمان میں اور بڑھ جائیں اور اہل کتاب اور مومن

۱۳۷ تُوُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

شک نہ کریں اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں (لفاق کا) روگ ہے اور نیز کا فر کہیں کہ اللہ نے اس مثال

۱۳۸ وَالْكَافِرُونَ مَا إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا هَذَا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

سے کیا ارادہ کیا ہے یوں اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور

۱۳۹ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۝

(اے نبی) تیرے پروردگار کے لشکروں کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ قیامت کو آدمی کے یاد رکھنے کے لئے ہے

۱۴۰ كَلَّا وَالْفَهْرُ ۝۱۴۱ وَالْيَلِيلُ إِذَا أَدْبَرَ ۝۱۴۲ وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ ۝

اور بس۔ ہرگز یوں نہیں ہے قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب وہ نمودار ہو

۶۔ دوزخ چنگھاڑتی اور جوش مارتی ہے

۷۔ دوزخ میں پہاڑ

۸۔ انیس فرشتے مقرر ہیں

۶۳ ﴿۶۳﴾ إِنَّمَا لِاحِدَى الْكُبْرَى ۖ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۖ ﴿۶۴﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
بے شک وہ تیات ایک بڑی چیز ہے آدمی کو ڈرانے والی ہے (یعنی) اس کو جو تم میں سے بہشت
اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرَ ۝

کی طرف) آگے بڑھے یا (اس سے) پیچھے رہے۔

۶۴ ﴿۶۴﴾ عَلِيمًا مَّا لِكُمْ غِلَظٌ شِدَادًا ۖ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
اس پر تند خوئی فرشتے تعینات ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور لگ ہی کرتے ہیں
مَا يُؤْمَرُونَ ۝

جو انہیں حکم دیا جاتا ہے

۶۵ ﴿۶۵﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۖ ﴿۶۶﴾ لِلظَّالِمِينَ مَا بَأْسٌ ۖ ﴿۶۷﴾ لِيَبَيِّنَ
بے شک دوزخ گھات میں ہے
فِيهَا أَحْقَابًا ۖ

سرسخوں کا ٹھکانا ہے وہ اسی میں

بے شمار قرن رہیں گے۔

۶۶ ﴿۶۶﴾ فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ ﴿۶۷﴾

تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں

۶۷ ﴿۶۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نَعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ
بے شک جنہوں نے کفر کیا اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد ہی
شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ۝

اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں

۶۸ ﴿۶۸﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۖ ﴿۶۹﴾

بے شک تم اور جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔

۶۹ ﴿۶۹﴾ لَوْ كَانَ هُوَ اللَّهُ لَإِلهَةٌ مَّا وَسَّوَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ ﴿۷۰﴾

اگر یہ (بت) سبود ہوتے تو اس دوزخ پر وارد نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے

۷۰ ﴿۷۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
مسلمانو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پر

وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلِيمًا مَّا لِكُمْ غِلَظٌ شِدَادًا ۖ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
تند خوئی فرشتے تعینات ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے

۹- نہایت سخت اور زبردست فرشتے۔

۱۰- دوزخ سرکشوں کی تاک میں

۱۱- آدمی اور پتھر ایندھن

۱۵ ۲۶ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝

لیکن جو ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں

۱۲- بہت جن داس دوزخ
بھرنے کو پیدا ہوئے

۱۷ ۲۷ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ

اور کچھ شک نہیں کہ ہم نے دوزخ کے لئے بہت سے جن اور انسان پیدا کئے ہیں ان کے دل ہیں جن سے وہ

بہاؤں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ مثل

۱۸ ۲۸ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغُوا أَمْرًا ۚ وَاللَّيْلُ أَسْوَأُ أَهْلًا مِّنَ النَّهَارِ ۚ وَكَانُوا مُخْلِطِينَ

چوپایوں کی ہیں بلکہ وہ ان سے گئے گزرے ہیں اور وہی اگر فائل ہیں

۱۹ ۲۹ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

۱۰ (اے نبی) اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پر کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں

۲۰ ۳۰ إِلَّا مَن شَاءَ رَبُّكَ لَيُعَذِّبَهُ ۚ إِنَّكَ عَلِيمٌ

گئے مگر ان میں سے جو تیرا پروردگار چاہے اور اسی اختیارات کے لئے اُس نے اُنہیں پیدا کیا اور تیرے پروردگار

۲۱ ۳۱ لَا مَلَأَتْ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

کا قول پورا ہوا کہ میں ضرور دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا

۲۲ ۳۲ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

لیکن میری طرف سے یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ میں ضرور دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ہی سے بھر دوں گا

۲۳ ۳۳ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ مِتَلَّتْ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝

جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی اور کہنے لگی کہ کچھ اور بھی ہے؟

۲۴ ۳۴ إِنَّكَ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝

کچھ شک نہیں کہ جو جنس اپنے پروردگار کے ہاں گنہگار ہو کر حاضر ہوگا اس کیلئے دوزخ ہے نہ وہ اُس میں مرے گا اور نہ زندہ

۲۵ ۳۵ تَهُمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝

بھرنے اُس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا

۲۶ ۳۶ هَآءِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُم جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

اُس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لئے ان میں سے بانٹا ہوا ایک حصہ ہے

۲۷ ۳۷ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس پر نہ گزرے اور یہ تیرے پروردگار پر لازم اور فیصل شدہ ہے

۲۸ ۳۸ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝

بے شک وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے نیکی کا وعدہ ہو چکا ہے وہی اس سے دور رکھے جائیں گے

۱۳- دوزخیوں کی مانگ

۱۴- دوزخ میں نہ موت
بے نہ حیات

۱۵- دوزخ کے سات دروازے

۱۶- دوزخ پر ہر کسی کا گند

۱۷- بزرگیہ گان خدا دوزخ
سے دور رہیں گے

۱۹۔ دوزخوں کے لئے
طوق زنجیر

۱۹ وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

اور تو اُس دن گنہگاروں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھے گا۔

۲۰ وَإِذَا الْفُؤَادُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّنِينَ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝

اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اُس کے کسی تنگ گوشے میں ڈالے جائیں گے تو اُس موقع پر وہ موت مانگیں گے

۲۱ وَأَسْرُ وَاللَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلُلَ فِي أَعْنَاقِ

اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں نادم ہوں گے اور جو لوگ کافر ہیں اُن کی گردنوں میں ہم طوق

الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَهْلًا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ڈالیں گے۔ اُن کو مرت اُسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے

۲۲ وَأُولَئِكَ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۝

اور یہی وہ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے

۲۳ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ۝ فِي الْحَمِيمِ ۝

جب اُن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں تو وہ گھسیٹے جائیں گے۔ گرم پانی میں

ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝

پھر آگ میں جھونک دئے جائیں گے

۲۴ خَذُوهُ فَعَلُوهُ ۝ اِثْمًا اِثْمًا صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ

اُسے پکڑو اور اُسے طوق پہناؤ پھر اُسے دوزخ میں داخل کرو پھر اُسے ایک زنجیر میں جس کا طول

ذُرْعًا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

گردن کی ناپ سے ستر گز ہے بندہ لو۔

۲۵ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝

بے شک ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور آگ تیار کر رکھی ہے

۲۶ تَلْفَهُمْ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحِوْنِ ۝

آگ اُن کے موہنہ بولس دے گی اور وہ اُس میں بد شکل ہوں گے

۲۷ وَبُرْزَاتٍ اِجْحِمٍ لِلنُّعُورِ ۝ وَقَبِيلٌ لَهُمْ آيَاتُهُمْ تَعْبُدُونَ ۝

اور گمراہوں کے لئے دوزخ میدان میں لائی جائے گی اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے وہ

۲۸ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَ ۝

کہاں ہیں (یعنی اللہ کے سوا) کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں۔

۲۹ فَلْيَكْبُرُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُنُ ۝ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝

پھر اُس میں وہ سب گمراہ اور مدد سے ڈال دئے جائیں گے اور شیطان کے سارے لشکر بھی

۲۰۔ دوزخی بد شکل

۲۱۔ دوزخیوں کی حسرت
اور ندامت

۹۶
۲۶ قَالُوا وَهُمْ فِي مَا يَخْتَصِمُونَ ۝ تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

کہیں گے اور وہ اس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے خدا کی قسم بے شک ہم کھل کر اسی میں تھے

۹۸
۲۶ اِذْ نَسُوا بَرِّتَ الْعَالَمِينَ ۝ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْأَجْرُ مَوْنٌ ۝

جب ہم تہیں جہان کے پروردگار کی برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں تو تمہنگاروں ہی نے گمراہ کیا

۱۰۰
۲۶ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ۝ فَلَوْ أَنَّ

سو ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ فالس دوست سوا گرہیں دنیا میں پھر لوٹنا ہو تو ہم ایمان لانے

لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

والوں میں ہوں بے شک اس میں (توحید کی) نشانی ہے۔ اور ان میں اکثر ایمان لانے

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

والے نہیں ہیں۔ اور بے شک تیرا پروردگار وہی غالب مہربان ہے۔

۱۰۲
۲۶ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

اور (دوزخی) کہیں گے کہ اگر ہم (سنتے یا سمجھتے) ہوتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے

۱۰۴
۲۶ هَذَا مَا وَدَّ الَّذِينَ لِلطَّغْيِينِ لَشَرِّ مَا أَب ۝ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَنَفَسُ

یہ بات ہے اور بے شک سرکشوں کے لئے برا ٹھکانا ہے (یعنی) دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے سو وہ

الْمِهَادُ ۝ هَذَا أَقْلَبُ وَفَوْهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝ وَأَخْرَجْنَا مِنْ

برا کھونٹا ہے یہ ہے تم بے چکھو گرم پانی اور پیپ اور اسی قسم کے

شُكْلِهِ أَرْوَاجٌ ۝ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَضٍ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ أَهْلُ

اور طرح طرح کے (غذاب) یہ ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ داخل ہونے کی انہیں خوشی نہ ہو بے شک

صَالُوا النَّارِ ۝ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمَّوْا

وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں وہ (عابد) کہیں گے بلکہ تمہیں ہی خوشی نہ ہو تم نے ہی اس کو ہمارے

لَنَا فَنَفَسْنَا نَقْرَاسُ ۝ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدُةٌ

لے آگے تمہارا کیا ہے سو وہ بڑی قرار گا۔ ہے کہیں گے کہ لے ہمارے پروردگار جس نے ہمارے لئے

هَذَا بَأْسٌ صَاعِقَا فِي النَّارِ ۝ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا

یہ غذاب آگے تیار کیا ہے اُسے تو آگ میں بڑھلا غذاب ہے۔ اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا اگر ہم ان آدمیوں کو

نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝ أَتُحَدِّثُهُمْ سِحْرًا بَيِّنًا أَمْ زَاغَتْ عَنَّهُمْ

نہیں دیکھتے جنہیں ہم شریر گنا کرتے تھے کیا ہم ان سے ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں

الْأَبْصَارُ ۝ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝

بہک گئیں۔ بے شک یہ حق ہے دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا

۲۲۔ دوزخیوں کا آپس

میں جھگڑنا۔

۳۳ وَإِذْ يَتَجَافَوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُورُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا

اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑائیں گے تو نالواں اُن لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے
 لَكُمْ تَبَعًا هَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۝ ۳۳ قَالَ الَّذِينَ
 کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھے تو کیا تم ہمارے لئے آگ کے ایک حصے سے کفایت کرنے والے ہو۔ وہ جو بڑے
 اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ تم سب اسی میں ہیں اور اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔

۳۴ قَالَ تَرَبُّيْتُمْ رَبَّنَا مَا آطَعْتُمْهُ وَلَكِنْ كَانُوا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ ۳۴ قَالَ

اور اس کا سامتی کیسا کاراے ہمارے پروردگار میں نے اُسے گمراہ نہیں کیا تھا لیکن وہ آپ ہی پر لے درجے کی گمراہی
 لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝ ۳۴ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ
 میں تھا اللہ کہے گا کہ میرے پاس جھگڑا نہ کرو۔ میں نے پہلے تمہاری طرف ڈراوا بھیج دیا تھا۔ میرے ہاں بات بدلی
 لَدُنِّي وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝

نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔

۳۵ فَأَمَّا الَّذِينَ يَنْشَقُّونَ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ ۳۵ خَلِدِينَ

لیکن جو لوگ بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے اُن کے لئے اُس میں دہڑانا اور چلانا ہے
 فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ
 وہ ہمیشہ اُسی میں رہیں گے۔ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جس قدر تیرا پروردگار چاہے ہے
 لِمَا يُرِيدُ ۝

شک تیرا پروردگار جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔

۳۶ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ نَارًا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝ ۳۶ أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تَسْتَلِ

آگ اُن کے مونہہ مجلس رہی اور وہ اُس میں بہ شکل ہوں گے کیا یہ نہیں تھا کہ میری آیتیں تم پر پڑ ہی جاتی تھیں
 عَلَيْكُمْ ذُنُوبَكُمْ بِمَا كَذَّبْتُمْ بِئُونِ ۝ ۳۶ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
 تو تم انہیں جھٹلاتے تھے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بد نصیبی غالب آگئی تھی اور ہم گمراہ
 وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ ۳۶ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝

لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال اگر ہم بڑے کام کریں۔ تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ خدا

۳۷ قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝ ۳۷ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٍ مِّنْ

فرشتے گا کہ اسی میں خوار پڑے رہو۔ اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں سے ایک فریق کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے
 عِبَادِ مَن يَقُولُونَ رَبَّنَا آمِنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝
 پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

۳۳ دوزخیوں کی دادیلا
 و فریاد۔

۳۴

۳۵

۱۱۳ فَاتَّخَذُوا لَهُمْ سِحْرًا بِأَحْسَنِ الْأَنْسُو كَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْهُمْ تَعْطِفُونَ

ترجمہ: ان کا سٹھٹا بنا لیا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔

۱۱۴ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيْمَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَادِحًا غَيْرَ الَّذِي

اور وہ اس میں پلتائیں گے کہ ہم سے پروردگار ہمیں نکال تاکہ ہم ان عملوں کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے نیک عمل

کُنتَا نَعْمَلُ، أَوَلَمْ نَعْبُدْكُمْ مَّا بَيْنَ كُرْفِيهِ مِنْ تَدَاكُرٍ وَجَاءَكُمْ بِالْبَدِيحِ

کریں کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑتا اور تمہارے پاس ڈرنے والا نبی،

فَدَا وَتَوَافَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَصْبِيرٍ

آیا تھا۔ تو اب تم مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی مردگار نہیں ہے

۱۱۵ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمَ الشُّوْبَا مِنْ حَمِيمٍ ۝ ۶۸ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَكَا

پھر بنا شبہ ان کے لئے اس کمانے پر گرم پانی سے ملتی ہے۔ پھر بلا شبہ ان کا لوٹنا دوزخ

إِلَى الْحَمِيمِ ۝ ۶۹ إِنَّهُمْ الْفَوَا بَاءُ هُمْ ضَالِّينَ ۝ ۷۰ فَهُمْ عَلَى الشَّرِّ

کی طرف ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا سو وہ انہیں کے نقش قدم پر دوڑے

هُمْ يَجْرَعُونَ

پلے بارے ہیں

۱۱۶ هَذَا قَلِيلٌ وَقُوَّةٌ حَمِيمٍ وَعَسَافٍ

یہ ہے عذاب پس اسے چکھو گرم پانی ہے اور پیپ

۱۱۷ ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝ ۷۱ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ

پھر اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب الٹ دو۔

الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝ ۷۲ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝

عزت والا ہے۔ بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔

۱۱۸ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

اور انہیں کھولتا پانی پلا یا جلے گا۔ سو وہ ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔

۱۱۹ يَبْطُلُونَ بِهِنَّ وَأَبْيَنَ حَمِيمٍ ۝

وہ (مجرم) اس (دوزخ) کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گشت کرتے پھریں گے

۱۲۰ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۝

لو اور گرم پانی میں ہوں گے۔

۱۲۱ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝ ۷۴ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْطَبِيْمِ ۝

پھر اے مجرمو! تم اس کمانے پر کھولتا پانی پینے والے ہو پھر تو نے ہوئے آدمیوں کا پینا پینے والے ہو

۲۳- دوزخیوں کو کھولتا پانی۔

لَجَجِيمٍ ۝ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيمِ ۝

بیچ گسیلو۔ پھر اُس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب چھوڑ دو۔

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ

کچھ بے شک تو ہی عزت والا بزدگی والا ہے بے شک یہ وہ ہے جس میں تم

تَمْتَرُونَ ۝

شکرتے تھے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ۝ لَا كَلْبُونَ مِنْ ثَجَرٍ

پھر اُسے جہانے والے گرا ہو کچھ شک نہیں کرتے سینڈھ کے درخت سے

مَنْ زَقَوْمِهِ ۝ فَمَا لِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝

خوراک کھانے والے ہو پھر اُسی سے پیٹ بھرنے والے ہو

لَيْسَ لَكُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرْبِ ۝

ان کا کھانا بجز کانٹے دار جھاڑی کے اور کچھ نہ ہوگا

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِ ۝ لَا يَأْكُلُهَا إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

اور ان کے لئے کھانا زخموں کا دھوون ہی ہوگا جسے وہی کھائیں گے جو گنہگار ہیں

لَا يُبْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝

وہ کانٹے دار جھاڑی نہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک سے کفایت کرے گی

وَطَعَامًا ذَا عَصَا وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا اور دردناک عذاب ہے۔

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۝ كَلَّمَ الْقَلْبَ فِيمَا فَوْجَهُمْ سَاهِمٌ خَرْنَمَا

دو بخ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائیگی تو اُس کے داروغے اُن سے

الْمَبِيَّاتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَ

پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا

فَلَنَّا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝ وَ

آیا تو ہم نے اُسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ اور

قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَأَعْرَضُوا

کہیں گے کہ اگر ہم (نذیر کی) سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ سو وہ اپنے گناہ

بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

کا اقرار کریں گے بس دوزخیوں کے لئے پھٹکار ہے

۲۷- کانٹے دار جھاڑیوں

کی خوراک

۲۸- زخموں کے دھوون

خوراک کو

۲۹- نہ موٹے ہوں

نہ بھوک جائے

۳۰- کھانا گلے میں اٹکے

گا۔

۳۱- دوزخیوں کا اعتراف

گناہ

۳۲۔ دوزخ میں دو زخیوں کی کھال بدلتی رہے گی

۲۶۔ دوزخ میں دو زخیوں کی کھال بدلتی رہے گی

۳۳۔ آگ کے کپڑے

۳۴۔ آگ کے کپڑے جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔

۳۵۔ لہے کے ہتھوڑے

۳۶۔ دوزخی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے مگر اسی میں لوٹا دئے جائیں گے

۳۷۔ اہل اعراف دوزخیوں سے پناہ مانگیں گے۔

۳۸۔ اہل اعراف کا دوزخیوں سے سوال

۳۹۔ اہل اعراف کا دوزخیوں سے سوال

۴۰۔ اہل اعراف کا دوزخیوں سے سوال

۴۱۔ اہل اعراف کا دوزخیوں سے سوال

۴۲۔ اہل اعراف کا دوزخیوں سے سوال

۴۳۔ اہل اعراف کا دوزخیوں سے سوال

وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

تم پر کچھ غم ہے اور تم تمکین ہو گے

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ۝

پھر بعض بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے اُن میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ (دنیائیں)

إِنِّي كَان لِّي قَرِينٌ ۝ يَقُولُ إِنَّكَ بَلَدٌ آثِنٌ ۝

میرا ایک ساتھی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں ہے۔

عَازًا مِّنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظًا مَّا أَتَانَا مَدِينُونَ ۝ قَالَ هَلْ

ملا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم جزا دیئے جائیں گے۔ فرمائے گا کیا تم

أَنْتُمْ مُّظْلِعُونَ ۝ فَاطَّلَعَ قَرَآءُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ۝ قَالَ

تجانبک کر دیکھو گے وہ جہانک کر دیکھے گا تو اُسے دوزخ کی تلی میں دیکھے گا کہے گا

تَاللَّيْلِ إِنْ كِدَّتْ لَنُرْدِيَن ۝ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ

خدا کی قسم تو تو قریب ہی تھا کہ مجھے ہاک کر دے اور مار میرے پروردگار کی مہربانی ہوتی تو میں بھی ضرور عذاب

الْمُحْضَرِّينَ ۝ أَنَا لَنْ بَمَيِّتِينَ ۝ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَ

میں حاضر کئے ہوؤں میں ہوتا۔ تو کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں ہاں اپنی پہلی

مَاتُن بَمُعَدِّينَ ۝ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ لِلرَّسُولِ

سوت (جو دنیا میں مر چکے) اور ہم عذاب نہیں دیئے جائیں گے بے شک یہ جو ہے یہی بڑی مراد پانا ہے

هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۝

یسی ہی چیز کے لئے عمل کرنے والوں کو مل کرنا چاہیئے۔

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝

مگر دہنی طرف والے باغوں میں پوچھتے ہوں گے گنہگاروں سے

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝

کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں نہ تھے اور محتاج کو کھانا نہیں

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ۝ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝

دیتے تھے اور بیہودہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے اور انصاف کے

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ ۝

دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا

اور جو دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ایک

۳۹- دوزخیوں سے
جنتیوں کی بات چیت

۴۰- دوزخ کے داروغوں سے
عذاب کی تخفیف کے لئے

بے فائدہ درخواست

يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۝ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلِكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

دن ہم سے عذاب ہلکا کر دے وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی دلیلیں لے کر
قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَالُوا فَأَدْعُوا ۚ وَمَا دَعُوا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝

نہیں آئے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے
وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اِنَّ اَفِيضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ

۴۱- جنتیوں سے کھانا پانی مانگنا۔

اور دوزخ والے بہشت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر پانی سے یا اس نعمت سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے
اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۗ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَمَ مَا عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ ۝ اِلٰى الَّذِيْنَ

کچھ فیض کرو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ جنہوں نے اپنا
اِتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ هٰٓؤُلَآءِ وَكُفُوْا عَنَّا ۗ وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ فَاَلْيَوْمِ نَسْتَمُ

دین کیل تماشنا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں وہو کے میں ڈال رکھا ہے سو آج ہمیں انہیں بھول
كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَحْتَدُوْنَ ۝

جائینگے جیسا کہ وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے
وَإِذَا الْفَوَاقِرُ مِنْهَا مُسَاكِنًا ۚ صٰفِيٰتٌ مُّقْرَّبٰتٍ ۚ دَعُوْا هٰنَا لِكُتُبٰٓءِكُمْ ۗ

۴۲- دوزخی موت مانگیں گے۔

اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اُس میں کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو اُس موقع پر وہ موت
لَا تَدْعُوْا الْيَوْمَ نُبُوْرًا وَّاحِدًا ۗ وَاَدْعُوْا نُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝

آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو
وَنَادٰوْا يَا مٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رٰبِكَ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ۝

۴۳- بعض دوزخی ہمیشہ دوزخ میں۔

اور (دوزخی) پکاریں گے کہ اے مالک تیرا پروردگار ہم پر موت بھیج دے وہ کہیں گے کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو
اَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

وہ ہمیشہ اُسی میں رہیں گے

وَنَادٰوْا يَا مٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رٰبِكَ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ۝ اَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

وہ ہمیشہ اُسی میں رہیں گے۔ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

وَنَادٰوْا يَا مٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رٰبِكَ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ۝ اَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

وہ ہمیشہ اُسی میں رہیں گے۔ اور آج میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

لَوْ كٰنَ هٰؤُلَآءِ اِلٰهًا مَا وَّرَدُوْهَا وَاَكْلُ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

اگر یہ (جنت) معبود ہوتے تو اُس دوزخ پر وارد نہ ہوتے اور وہ سب ہمیشہ اُسی میں رہیں گے۔

۵۰ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے

۵۱ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے

۵۲ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝

وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے

۵۳ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخَالِدِينَ ۝

اُن کے لئے اُس (دوزخ) میں ہمیشگی کا گھر ہے

۵۴ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ ۝

بے شک گنہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔

دوزخ میں کون جائیں گے؟

۵۵ قَالَ اخْرِجُوهُمْ مِّنْهَا مَذْمُومًا مَّا مَدَّ حُورًا لَّمَنْ يَتَّبِعْكَ مِنْهُمْ لَوْلَا مَلَكٌ

اشیاء طہین اور اُس کے متبعین۔

فرمایا (اے شیطان) راندہ ہوا بُرے مال کے ساتھ اُس سے نکل ذرا شک نہیں کہ جو اُن میں

جہنم میں اجمعین ۝

سے تیرا تابع ہوگا تو میں بھی تم سب ہی سے دوزخ کو بھر دوں گا

۵۶ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنْ يَتَّبِعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

کچھ شک نہیں کہ جو میرے بندے ہیں اُن پر تیرا اثر نہیں چلیگا مگر ہاں جو گمراہوں میں سے تیرا پیروں ہو

۵۷ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ لَّهُمْ اَجْمَعِينَ ۝

اور بے شک دوزخ ان سب کی دعوہ گاہ ہے

۵۸ قَالَ اِذْ هَبْ فَمَنْ يَتَّبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً تَوْفُوْرًا ۝

فرمایا جو کوئی بھی ان میں سے تیری تابع ہوگا تو بے شک دوزخ تمہارا پورا عوض ہے

۵۹ فَوَسِّرْ لَكَ لِكُنُزِهِمْ وَالشَّيْطٰنِ لَنُحُضِرْ لَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ

سوزاے نبی (تیرے پروردگار کی قسم ہم ضرور اُنہیں اور شیاطین کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ضرور ہی اُنہیں

جنتیوں

گھٹنوں پر گرا ہوا دوزخ کے گرد حاضر کریں گے۔

۹۵
۳۶
وَجُودِ ابْلِیٰبِیْنَ اَجْمَعُوْنَ ۝

اور شیطان کے سارے لشکر دوزخ میں جائیں گے

۹۶
۳۸
لَا مَلٰٓئِیْنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝

میں ضرور ہی تجھ سے اور جو ان میں سے تیرے تابع ہوں گے ان سے سب ہی دوزخ کو بھردوں گا

۹۷
۴۰
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا لَنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقُوا النَّاسَ الَّذِیْنَ وَفُوْدَهَا النَّاسُ

پس اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں وہ آگ کافروں

۹۸
۴۲
وَالْحِجَارٰۃُ الَّتِیْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِیْنَ ۝

کے لئے تیار کی گئی ہے

۹۹
۴۴
وَمَنْ یَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِیْنِہٖ فَبِمَتْ وَاُوْلٰیئِكَ حَبِطَتْ

اور جو تم میں اپنے دین سے برگشتہ ہو گا۔ اور کفر کی ہی حالت میں مرجائیگا تو ایسے لوگوں کا کیا کرایا دنیا

۱۰۰
۴۶
اَعْمَالُہُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ۝ وَاُوْلٰیئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ

اور آخرت میں اکارت کیا اور یہی ہیں دوزخی وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے

۱۰۱
۴۸
وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اُوْلٰیئِہُمْ السَّعٰتُ یُخْرِجُوْنَ ہُمْ مِّنَ النَّوْرِ اِلٰی

اور جو لوگ منکر ہیں ان کے حایتی شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں دھکیلتے ہیں یہی

۱۰۲
۵۰
الظُّلُمٰتِ ۝ وَاُوْلٰیئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ۝

لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

۱۰۳
۵۲
۱۰۳
۵۲
فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

جیسا تم کفر کرتے رہے اب اس کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

۱۰۴
۵۴
اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَنْ تَغْنِیَ عَنْہُمْ اَمْوَالُہُمْ وَلَا اَوْلَادُہُمْ مِّنَ اللّٰہِ

جو لوگ منکر ہیں اللہ کے ہاں نہ تو ان کے مال ہی ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد ہی

۱۰۵
۵۶
شَیْءًا ۝ وَاُوْلٰیئِكَ ہُمْ وَفُوْدُ النَّاسِ ۝

اور یہی ہیں دوزخ کے ایندھن

۱۰۶
۵۸
اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَنْ تَغْنِیَ عَنْہُمْ اَمْوَالُہُمْ وَلَا اَوْلَادُہُمْ مِّنَ اللّٰہِ

جو لوگ منکر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے

۱۰۷
۶۰
شَیْءًا ۝ وَاُوْلٰیئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ۝

اور یہی لوگ دوزخی ہیں یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

۱۰۸
۶۲
وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّذِیْنَ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِیْنَ ۝

اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے

۱۹۵ لا يُعْرَتَاكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا أُورِثُوا

شہروں میں کافروں کا پلٹنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈالے یہ ممتوڑے سے قائم رہے ہیں پھر ان کا ٹھکانا و دوزخ
جہنم کا و بئس المهاد ○

سے اور وہ بڑی جگہ ہے

۱۹۶ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا نُصَلِّتُ جُلُودَهُمْ

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم ان کو دوزخ میں داخل کریں گے جیسا کہ ان کی کھالیں گل جائیں
هُمُ بَدَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا
کی تو ہم اس غرض سے کہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ گلی کھالوں کی جگہ دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے اللہ
حَكِيمًا ○

زبردست صاحب تدبیر ہے

۱۹۷ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ○

بیشک اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ○

کافروں کے لئے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے

۱۹۸ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ

جو بگ کفر اور ظلم کرتے رہے ان کو خدا نہ بخشے ہی گا اور نہ تو ان کو راہ دکھائے گا بلکہ جہنم کا راستہ
طَرِيقًا ○ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ عَلَى اللَّهِ سَيِّئُونَ
جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے نزدیک یہ آسان ہے۔

۱۹۹ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔

۲۰۰ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ هُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اُس کے
لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابُكَ
ساتھ اور بھی تاکو روز قیامت کے عذاب کے بدلے میں اس کو دے نکلیں ان سے قبول نہیں
الْبِيمَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا
کیا جائے گا اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے پائیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر وہاں
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○

سے نہیں نکلنے پائیں گے اور ان کے لئے عذاب ہے جان کا لاگو

۵۲ ذٰلِكُمْ فَذُووْهُ وَاِنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ

یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو اور کافروں کو دوزخ کا عذاب ہے

۵۳ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ يَجْشُرُوْنَ

اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے

۵۴ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ

اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

۵۵ وَعَدَّ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَاتِ وَالْكٰفِرَاتِ نَاسًا جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفاروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ

۵۶ هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ

۵۷ رَہیں گے وہی انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے پابدار عذاب ہے

۵۸ اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُوْلٰٓئِكَ الْاَعْلٰٓى فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَاُوْلٰٓئِكَ

۵۹ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔

۶۰ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

۶۱ اور یہی لوگ ہیں دوزخی یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

۶۲ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا

۶۳ اور ہم نے دوزخ کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے۔

۶۴ وَعَرْضُنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِيْنَ عَرْضًا

۶۵ اور اس دن ہم دوزخ ان کا ذوں پر پیش کریں گے۔ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا۔

۶۶ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غَطَاۗءٍ عَن ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا

۶۷ اور سننے کی تاب نہ لاتے تھے

۶۸ اَفْحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِىْ اَوْلِيَاۗءَ

۶۹ تو کیا جو کافر ہوئے ہیں انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کار ساز بنائیں

۷۰ اِنَّا اَعْتَدْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نُزُلًا

۷۱ بے شک ہم نے دوزخ کو کافروں کی نہانی کے لئے تیار کیا ہے۔

۷۲ ذٰلِكَ جَزَاۗءُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَاَتَّخَذُوْا اٰلِهٰتِيْ وَرَسُوْلِيْ هٰزُوًا

۷۳ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری بتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔

۷۴ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكْفُوْنَ عَنْ وُجُوْهِمُ النَّارِ وَلَا

۷۵ کاش منکر اس وقت کو جانیں جب کہ آگ کو نہ اپنے مونہہ پر سے روک سکیں گے اور نہ

عَنْ ظُهُورِهِمْ هَدًى وَلَا هُمْ يَبْصُرُونَ ۝

اپنی پیٹھ پر سے اور نہ ان کو مدد ملے گی۔

۱۹
۲۲ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِطْرَتُهُمْ نَسِيَابٌ مِّنْ قَائِرٍ يَّصَّبُ مِنْ فَوْقِ

ترجمہ لوگ (مذاکو) نہیں مانتے ان کے لئے آگ کے کپڑے قطع کرائے گئے ہیں ان کے سروں
سُورَتِهِمْ الْحَمِيمُ ۝

پر کھوتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔

۲۰
۲۲ كَلَّ أَفَانَيْتِكُمْ بِشَرِّ مَن ذَلِكُمُ النَّاسُ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

کہہ دے کہ اس سے بہتر نہیں (ایک چیز) بتاؤں وہ دوزخ ہے جس کا وعدہ خدا منکروں سے کرتا ہے
وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ۝

اور وہ (بیت) بُرا ٹھکانا ہے۔

۲۱
۲۲ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّاسُ

ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر ملک میں (ہیں) ہر ادریں گے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور بے شک
وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ۝

بُرا ٹھکانا ہے

۲۲
۲۹ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْسِبُونَ سُوءَ

اور جو لوگ خدا کی آیتوں کو حضور میں حاضر ہونے کو نہیں مانتے یہی لوگ ہماری رحمت سے ناامید
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ہو بیٹھے ہیں اور یہی ہیں جن کو عذاب دردناک ہونا ہے

۲۳
۲۹ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝

کیا کافروں کا ٹھکانا دوزخ میں نہیں ہے؟

۲۴
۳۳ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا

بے شک اللہ نے کافروں کو پھٹکار دیا ہے اور ان کے لئے دھکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے اس میں
أَبَدًا لَا يَخْرُجُونَ وَلِيَأْذَنَّا نَصِيرًا ۝

سدا کو ہمیشہ رہیں گے نہ حاجتی پائیں گے اور نہ مددگار

۲۵
۳۴ وَجَعَلْنَا الْأَعْمَالُ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا

اور جو لوگ کفر کرتے رہے ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈلوادیں گے جیسے جیسے عمل یہ لوگ کرتے رہے
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ان کا ہی بدلہ تو ان کو مل رہا ہے۔

۳۵ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

جو لوگ منکر ہیں ان کو سخت سزا ہوتی ہے

۳۶ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ

اور جو لوگ منکر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کو قضا آتی ہے کہ مر رہیں اور نہ دوزخ کا عذاب

عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ كَفُورٍ ۝

ہی ان سے ہلکا کیا جاتا ہے ہم ہر ایک ناشکر کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں

۳۷ وَسَيُقَالُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۝

اور جنہوں نے کفر کیا وہ غول کے غول دوزخ کی طرف لانکے جائیں گے

۳۸ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّهُمْ اَصْحَابُ النَّارِ

اور اسی طرح کافروں پر تمہارے پروردگار کا فرسودہ صادق آپکلمہ ہے کہ یہ دوزخی ہیں

۳۹ فَلَنْ يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا

تو جو لوگ منکر ہیں ہم ان کو ضرور عذاب سخت کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔

۴۰ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَا ذُهِبَتْكُمْ طَبِيبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ

اور جب کافروں کے سامنے لائے جائیں گے (تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے

الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۗ فَايَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ

مزے اڑا چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو تو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی یہ اس کا بدلہ ہے) کہ تم

تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝

ناحق زمین میں اڑا کرتے تھے اور اس کا بدلہ کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔

۴۱ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَعُونَ وَيَا كَاوُنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًىٰ

اور جو لوگ منکر ہیں (دنیا میں) رستے بستے اور جس طرح چار پائے کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں اور

لَهُمْ ۝

ان کا ٹھکانا دوزخ ہے

۴۲ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا ۝

اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے منکروں کے لئے دھکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے

۴۳ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝

جتنے کافر سرکش ہیں (اب سب کو) جہنم میں جھونک دو

۴۴ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ۗ

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے یہی لوگ دوزخی ہوں گے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے

وَرَبُّنَا الْمَصِيرُ

اور وہ بڑی جگہ ہے

۶۴ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
اور جو لوگ اپنے پروردگار کو نہیں مانتے ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بڑی جگہ ہے

۶۵ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلِيلًا وَأَعْلًا وَسَعِيرًا
ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور دھکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

۶۶ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ
ہاں جو روگردانی اور انکار کرے تو خدا اس کو بڑا عذاب سے گا

۶۷ بَشِيرٍ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
منافقوں کو خوشخبری سنا دو۔ کہ ان کو دردناک عذاب ہونا ہے۔

۲۔ منافقین کو عذاب

۶۸ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا
بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔

۶۹ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ نُصِيرًا
کچھ شک نہیں کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہونگے اور تو کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پائے گا

۷۰ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ
منافق مرد اور منافق عورتیں ایک کے ہم جنس ایک۔ بڑے کام کی صلاح دیں اور بھلے کاموں سے منع کریں (اور راہ خدا میں

عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ
خبر کرتے وقت) اپنی ٹھیاں بھیج بھیج لیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا کچھ شک نہیں کہ منافق

هُدًى الْفَاسِقُونَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَاسًا
سکڑھیں ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے حق میں خدا نے دوزخ کی آگ کا قرار دیا کر لیا ہے کہ یہ لوگ

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَبِئْسَ الْمَقِيمُ
ہمیشہ اس میں رہیں وہی ان کو بس کرتی ہے اور خدا نے ان کو پھینکا دیا ہے۔ اور ان کے لئے عذاب دائمی ہے

۷۱ وَمِمَّنْ حَوْلَ لَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا
اور تمہارے آس پاس کے رہنماؤں میں بعض منافق ہیں اور مدینہ کے رہنے والوں میں بھی جو نفاق پر

عَلَى التَّفَاقُحِ تَعْلَمُهُمْ تَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ
اڑے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں جانتا ہم ان کو جانتے ہیں سو ہم ان کو دو ہری ماریں گے۔ پھر وہ

يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ
بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

۱۴
۵۴ یَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ

اُس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو کہ تمہارے نور سے ہم میں کچھ فائدہ لیں کہا جائیگا
لَوْرَاكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
کہہ دیجیے کہ طرف لوٹ جاؤ اور کوئی اور روشنی تلاش کر لو اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی
سُوْرَالِهٖ بَابٌ مَّا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

اس میں ایک دروازہ ہوگا اور دروازہ کے اندر دینی طرف رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی طرف عذاب ہوگا۔ یہ مسلمانوں سے
۱۵ یُنَادُوْنَهُمْ الْمَلَائِكَةُ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكُمْ فِتْنَةٌ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ
سے پکار کر کہیں گے۔ کہ کیا تم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے تھے تو یہی مگر آپ اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور منتظر رہے کہ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَاسْرَبْتُمْ وَخَرْتُمْ الْأَمْثَالَ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَنْتُمْ كُرْهُ

مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور شک میں رہے اور ان ہی خیالات نے تم کو دوہو کے میں رکھا یہاں تک کہ تم خدا آپہنچا
بِاللَّهِ الْعَرُّوسُ ۝ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ
اور شیطان وغیرا باز اللہ کے بارہ میں تم کو دوہو کے دیتا رہا تو آج تم سے کچھ معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں
كُفْرُوا بِمَا وَكَلَّمْتُمْ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

سے جو انکار کرتے رہے تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بڑا ٹھکانا ہے
فَدَخَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ ۝

جن لوگوں نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کو جھوٹ جانا بلاشبہ وہ لوگ گھائے میں رہے یہاں تک کہ جب ایک
بَعَثَتْهُ قَالُوا يَجْسُرُ تَتَّعَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ
ہم قیامت ان پر آ موجود ہوگی تو جیلا اٹھیں گے کہ انسوس ہماری کوتاہی پر جو قیامت کے بارہ میں ہم سے ہوئی
عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءٌ مَا يَرْسُونَ ۝

اور وہ اپنے بوجھ اپنی بیٹیوں پر لادے ہوں گے دیکھو کیا بڑا بوجھ ہے جو یہ لادے ہوں گے
۱۶ بِمَعْشَرَ الْكٰفِرِيْنَ وَالْاِنْسِ الْمٰبِيَاتِكُمْ مِّنْكُمْ يَفْقَهُونَ عَلَيْكُمْ
اے گروہ جن وانس کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے کہ تم سے ہمارے احکام بیان کریں اور تمہارے اس
اٰیاتی و بیذرتوںکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا

روز کے پیش آنے سے تم کو ڈرائیں وہ عرض کریں گے کہ ہم اپنے اور آپ ہی گواہی دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی نے
وَعَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَنْهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ
ان کو دوہو کے میں رکھا اور اب انہوں نے آپ ہی اپنے اور گواہی دی کہ بے شک وہ کافر تھے
۱۷ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَزَمَ مَا عَلٰی الْكٰفِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ
وہ کہیں گے خدا نے جنت کا دانہ پانی کافروں پر حرام کر دیا ہے ان لوگوں نے اپنے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا تھا

۳۔ منکرین قیامت

هَؤُلَاءِ لَعِبَاءٌ وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فَالْيَوْمَ نَنسُوهُمْ كَمَا نَسُوا الْفُقَاءَ

دنیا کی زندگی ان کو دبوکے میں ڈالے ہوئے تھی تو آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اپنے اس
یَوْمِهِمْ هَذَا، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

دن کے پیش آنے کو بھولے اور ہماری آیتوں کا انظار کرتے رہے

۱۳۴ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو نہ مانا ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے

۱۳۵ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا

جن لوگوں کو ہم سے ملنے کا یقین ہی نہیں وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور باطمینان زندگی بسر کرتے

بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ۝۶۰ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّاسِ

ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کریمت کا بدلہ ہو گا کہ ان کا

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

ٹھکانا دوزخ ہے

۱۳۶ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ

اور جس دن خدا لوگوں کو جمع کرے گا تو ان کو ایسا سا عام ہو گا کہ دن میں سے بہت رہے ہوں گے گھڑی بھر آپس میں

بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

ایک دوسرے کو پہچانیٹے ہیں جن لوگوں نے خدا کے حضور میں حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ بڑے ہی ٹوٹے میں آگئے

۱۳۷ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ كُنَّا رَبًّا عِرَاتًا لِّفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

اور (اے نبی) اگر تو (کسی بات سے) تعجب کرے تو ان کا یہ قول عجیب ہے کہ بھلا جب ہم مگر مٹی ہو گئے تو کیا ہم پھر نئی

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْتَابِهِمْ وَأُولَٰئِكَ

پیدائش میں (پیدا) ہوئے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا اور یہی وہ ہیں جن کی گردنوں میں طوق

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ہیں اور یہی دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اُسی دوزخ میں رہیں گے

۱۳۸ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے

۱۳۹ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ كَمَا خَبِتْ زُذْنَهُمْ سَعِيرًا ۝۶۱ ذٰلِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ

ان کا ٹھکانا دوزخ ہے جب وہ بجھنے کے قریب ہو گئے ہم اُسے اور بھڑکادیں گے یہ ان کی سزا ہے اس لئے

بِآيَاتِنَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذْ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا

کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ بھلا جب ہم (مگر) ہڈیاں اور چورا ہو گئے تو کیا ہم پھر نئی

۱۳۴ - قیامت کے مشکروں
کو عذاب۔

لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝

پیدائش میں اٹھائے جائیں گے۔

۱۰۳ وَمَا أَى الْمَجْرِمُونَ النَّاسَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا

اور گنہگار آگ دیکھیں گے تو گمان کریں گے کہ وہ اُس میں گرنے والے ہیں اور اُس سے ہٹنے

مَصْرَفًا ۝

کی جگہ نہ پائیں گے۔

۱۰۴ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

ہی وہ لوگ ہیں جنہوں کے اپنے پروردگار کی آیتوں کو اور اُس کے حضور میں حاضر ہونے کو مانا۔ اُن کے

نَقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرُنَا ۝

عمل اکارت گئے تو قیامت کے دن اُن کا وزن بھی قائم نہیں رکھیں گے۔

۱۰۵ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝

بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور جو قیامت کو جھٹلائے گا اُس کے لئے ہم نے آگ تیار کی ہے۔

۱۰۶ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّبْنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝

بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اُن کے اعمال ہم نے اُن کی نظر میں اچھے کر دکھلائے ہیں اور وہ

۱۰۷ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ ۝

(راہ راست سے) بھٹکتے پھرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بُرا عذاب ہے اور وہی آخرت میں گم ٹاٹھا ٹھانیولے ہیں

۱۰۸ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِرَحْمَتِي وَأُولَئِكَ

اور جو لوگ خدا کی آیتوں کو اور اُس کے حضور میں حاضر ہونے کو نہیں مانتے یہی لوگ ہماری رحمت سے ناامید

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ہو بیٹھے ہیں اور یہی ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے

۱۰۹ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي

الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ۝

عذاب میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔

۱۱۰ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا

تو جیسے تم اپنے اس دن کے پیش آنے کو بھولے رہے اس کا مزد چکھو۔ ہم نے بھی تم کو بھلا دیا اور جیسے

عَذَابِ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

جیسے تم عمل کرتے رہے اس کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو

۳۹ وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّامًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

اور جو لوگ کفر کرتے رہے ہیں جہنم کی طرف لڑکیاں بنا بنا کر ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب جہنم کے پاس
 وَقَالَ لَهُمْ خُزِّنْتُمْ هَٰذَا بِمَا تَكْفُرُونَ فَسُيِّرَ إِلَيْكُمُ الْمَوْتُ وَبُيِّنَ لَكُمْ أَيَّامَ رَجْعِكُمْ
 پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دئے جائیں گے اور دوزخ کے سوکل ہان سے کہیں گے کہ کیا تم میں سے
 وَبُيِّنَ لَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ
 رسول تمہارے پاس نہیں آئے جب وہ تمہارے پروردگار کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس روز کے
 الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ۝

پیش آنے سے تم کو ڈرنے یہ جواب دیجئے کہ ہاں۔ مگر عذاب کا وعدہ کافروں کے حق میں پورا ہو کر رہا۔
 ۴۰ وَبَدَأَ لَهُمْ فِيهَا سَيِّئَاتٍ مَّا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَمِرُّونَ

اور جیسے جیسے ملے لوگ کرتے رہے ان کی بُرائیاں اُن پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی ہنسی اڑا رہے ہیں وہ
 ۴۱ وَقِيلَ لِلْيَوْمِ نَسِئِكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَا كُنتُمْ
 اُن پر آنازل ہو گا اور کہہ دیا جائے گا کہ جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلائے رکھا آج ہم
 النَّاسُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ لَّصِيرِينَ ۝

بھی تم کو بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔
 ۴۲ وَلَوْ يَرَىٰ الَّذِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

اور جو بہت ان ظالموں کو عذاب کے دیکھنے پر سوچ پڑے گی۔ اے کاش اب سوچ پڑتی۔ ہر طرح کی قوت
 ۴۳ وَإِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اشد تعالیٰ کا عذاب سخت ہے

۴۴ وَمَا لَهُمْ فِي النَّاسِ وَلَا فِي بَيْتِ مَثْوًى الظَّالِمِينَ ۝

اور ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا بُرا ٹھکانا ہے۔

۴۵ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَلَا بَيْتٌ مَّصِيرٌ ۝

اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔

۴۶ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا لِّأَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا

جو لوگ اپنے اور آپ ظلم کر رہے ہیں فرشتے ان کی جان قبض کے پیچھے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے رہے تو
 ۴۷ كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لِمَ تَكُنَّ أَرْضًا لِلَّهِ وَأَسَعَتْ فَمَا جُرُؤُكُمْ
 وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو وہاں بے بس تھے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین اتنی گنہگار نہیں رکھتی تھی کہ تم اس
 فِيمَا قَالُوا لَيْكَ مَا وَهَمُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

میں ہجرت کر کے چلے جاتے غرض یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بڑی جاگ ہے

۱۶۸ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَعْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا**
جو لوگ کفر اور ظلم کرتے رہے ان کو خدا نہ تو بخشے ہی گا۔ اور نہ ان کو راہ ہی دکھائے گا۔ بلکہ جہنم کا راستہ جس

۱۶۹ **إِلَّا طَرِيقًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا**

ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

۱۷۰ **إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْعَزِيْرِي وَرَأَيْتَكَ فَتَكُوْنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّآرِ ۚ وَذَلِكَ**
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سمیٹے اور دونوں میں شامل ہو
جزآء الظالمين ۝
کی بھی ہی سزا ہے۔

۱۷۱ **إِنَّهُ مِنْ كَثِيرٍ بِأَلْفٍ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَبَهُ النَّآرُ وَمَا**
اس میں شک نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک گردانے تو اللہ کی طرف سے ہیشت اس پر حرام ہو
لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّصَآرِ ۝
پکلی۔ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

۱۷۲ **وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَآئِكَةُ بَاسِطُوْا**
اور کاش تو ظالموں کو اس وقت دیکھے کہ موت کی بے ہوشیوں میں پڑے ہیں۔ اور فرشتے دست درازیاں
أَيْدِيْهِمْ أَخْرَجُوْا أَنفُسَهُمْ ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ
کر رہے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ اب تم کو ذات کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لئے کہ تم خدا پر ناحق جھوٹ
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝
بولتے اور اس کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

۱۷۳ **لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِمَّا لَدُوْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝**
ان کے لئے آگ کا بھوننا ہوگا اور ان کے اوپر سے اور ہٹا اور سرکش لوگوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں
۱۷۴ **ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا**
پھر نافرمان لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اب ہمیشگی کے عذاب چکھو۔ یہ جو سزا دی جا رہی ہے تمہاری
بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝
اپنی ہی کرتوت کا بدلہ ہے۔

۱۷۵ **وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قَضَىٰ ٱلْأَمْرَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ**
اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور وعدہ تم سے میں نے بھی
فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ
کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور تم پر میری زبردستی تو تھی نہیں بات تو اتنی ہی تھی کہ میں نے

لِي ۚ فَلَا تَلْمُزُوْنِي وَلَوْ مَوْنِي وَلَوْ مَوْنِي أَنْفُسِكُمْ مَا آذَانُكُمْ بِمُصْرِحِي

تم کو بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا تو اب مجھے الزام نہ دو دہلکا ہے آپ کو الزام دو نہ تو میں تمہاری فریاد کو بیخ سکتا ہوں اور نہ

رَأَيْتُ كَفْرَتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُوْنَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

تم میری فریاد کو بیخ سکتے ہو میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم مجھ کو پہلے شریک بناتے تھے اس میں شک نہیں کہ جو لوگ نافرمان ہیں

الَّذِيْنَ تَتَوَفَّىٰ هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الْاَنْفُسِهِمْ فَالْقَوَالُ السَّامَّةُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۝

جس رات فرشتوں نے ان کو رو میں قبض کیا تو یہ لوگ آپ اپنے اور تم کو کہتے تھے تو پیغام صلح ڈال ملیں گے

مِنْ سُوْرٍ اٰتٰى اِنْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَاَدْخَلُوْا

کہہ لائی تم کی برائی نہیں کیا کرتے تھے ہاں جو کہ تم کرتے تھے انہیں اس سے خوب واقف ہے تو جہنم

اَبْوَابٍ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَتْوٰى الْمُتَكَبِرِيْنَ ۝

کے دروازوں میں جا داخل ہو اسی میں سدا رہتے غرض غرور کرنے والوں کا بڑا ٹھکانا ہے

وَمَا ظَلَمْتُمْ اللّٰهَ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَكُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ فَاَصَابَهُمْ

اور نہ ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اور آپ ظلم کرتے رہے، انجام یہ ہوا کہ ان کے عملوں کے برے

سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوْا وَاَحَاقَ بِهُمْ مَا كَانُوْا يَسْتَمْتِرُوْنَ ۝

نہیے ان کو ملے اور جس عذاب کی ہنسی اڑا یا کرتے تھے وہ ان پر نازل ہو کر رہا۔

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهَمُ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَعِيْنُوْا

مکڑوں کے لئے تو ہم نے ایسی لگ تیار کر رکھی ہے جس کی ننا میں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور فریاد کرنے کے لیے پانی سے ان

يُعَاتُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوُوْنَ الْوُجُوْهَ وَيَنْسُوْنَ الشَّرَابَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

کی فریاد میں کی بیٹگی جو گھیلے ہوئے تانبے کی طرح ہو گا وہ موہوں کو بخوبی ڈالیں گے پانی ہے اور آرام کے محانا سے کیا ہی

اَسْمِعُ بِهِمْ وَالْبَصِيْرُ يَوْمَ يَأْتُوْنَ لَكِنِ الظَّالِمُوْنَ الْيَوْمَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

جس دن یہ لوگ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے کیسے کچھ سنتے دیکھتے ہوں گے مگر اس وقت یہ ظالم

۝ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ

کھل گرا ہی میں پڑے ہیں اور ان لوگوں کو انوس کے دن سے ڈرا۔ جب یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور

لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

یہ لوگ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔

۝ ثُمَّ لَنَحْنِيْ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْ مَا جِئْتُمْ ۝

پھر ہم پر بھیزنگوں کو بجا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھسنوں کے بل چھوڑ دینگے۔

۝ وَعَسَتْ الْوُجُوْهُ لَلْحٰجِي الْقِيَوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

اور نہ لے زندہ دیا زندہ کے رہبر موندہ ٹھیکے ہوئے ہوں گے اور جس شخص پر ظلم کا راجہ لدا ہوا ہو گا اسی کی تباہی ہے

Marfat.com

۱۲
قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ
تکے کہنے ہائے ہماری کہنتی بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ پس وہ لوگ برابر ہی پڑے پکارا کئے یہاں تک کہ
حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۝

ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے ایک کئے ہوئے کھیت یا بکھے ہوئے انگارے

۲۹
وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي
اور جو ان میں سے یہ دعوائے کرے کہ خدا نہیں میں معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دینگے۔ سرکشوں
الظَّالِمِينَ ۝

کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

۹۴
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدَ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا
اور وعدہ برحق نزدیک آئی تو ایک دم سے کافروں کی آنکھیں کھان کی کھان رہ جائیں ہئے ہماری کہنتی ہم تو اس
فَدَكَّنَا فِي غَفْلَةٍ كُنَّا بِلَهَا بَلُوكَا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
سے غفلت ہی میں رہے۔ بلکہ ہم ہی قصودار تھے تم اور جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے تھے سب
مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ هَآءَا وَإِذَا دُونَ ۝

دوزخ کا ایندھن بنو گئے ان سب کو دوزخ میں جانا ہو گا۔

۲۴
وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
اور جس دن نافرمان اپنے ہاتھ کائے گا کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ رستے لگ
سَبِيلًا ۝

پتا

۳۵
وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ بَوَا الرَّسُولِ أَخْرَفْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۝
اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اور ان کو لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا
وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور ہم نے نافرمان لوگوں کے لئے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے

۳۱
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ
کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے حضور میں ٹھہرائے جائیں گے اور ایک کی بات ایک رد کر رہا
إِلَى بَعْضٍ مِنَ الْقَوْلِ ۝ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
ہو گا۔ جو کمزور ہیں وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے
لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝

آئے ہوتے۔

۳۳
وَجَعَلْنَا الْأَعْتَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا

اور جو لوگ کفر کرتے رہے ہم ان کی گردنوں میں طوق پہنوادیں گے۔ جیسے جیسے لوگ عمل کرتے
گاتوا یعملون ○

رہے انہیں کا ہر لہ ان کو بل رہا ہے

۳۴
فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنُقُولُ الَّذِينَ

تو آج تم میں سے نہ تو کوئی کسی کو نفع ہی پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نقصان پہنچانے پر اور ہم سرکش لوگوں
ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ○

سے کہیں گے کہ عذاب دروغ پکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

۳۵
أَفَسَنْ يَتَّقِي بَوجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ

تو کیا جو نفس قیامت کے دن اپنے سونہرے بدترین سزا کی سپر بنا لایا ہے (وہ پیشیتوں جیسا ہو سکتا ہے)
ذوقوا ما كنتم تكذبون ○

اور نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ جیسا کہہ کرتے رہے ہو اس کے مزے چکھو

۳۶
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا

اگر نافرمانوں کے پاس روئے زمین کی ساری کائنات ہو اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور ہو تو قیامت کے دن
بِهِ مِنْ سَوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ اللَّهُ مِنَ الْمَلِكِ يُوقِنُوا

عذاب سخت کے عوض میں اس کو دے نکلیں اور ان کو خدا کی طرف سے ایسا پیش آئے گا۔ جس کا ان کو
يَكْتَسِبُونَ ○ وَيَدَأُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ قَا

گمان ہی نہ تھا۔ اور جیسے لوگ عمل کرتے رہے ہیں ان کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس
گاتوا به يستمرون ○

عذاب کی ہنسی اڑاتے رہے وہ ان پر اتارل ہوگا۔

۳۷
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا

اور ان میں سے جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کے نتیجے عنقریب پہنچتے ولے
هُم بِمَعْزَمِينَ ○

ہیں اور یہ لوگ (خدا) کو نہیں ہرا سکتے۔

۳۸
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

جس دن نافرمانوں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور ان پر پھینکا رہو گی اور انہیں برا گھر ملے گا
وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

اور جو نافرمان ہیں ان کو آخرت میں ضرور عذاب دردناک ہونا ہے۔ تو نافرمانوں کو دیکھئے گا کہ انہوں نے

مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ

جیسے عمل کئے ان سے ڈر رہے ہوں گے

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِمَّنْ بَعْدَهُ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا سَرَا أَوَّالِعَذَابِ

۲۲

اور جس کو خدا گمراہ کرے تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں اور تو ظالموں کو دیکھے گا اور جب عذاب کو دیکھو لیں گے تو

يَقُولُونَ هَذَا لِي مِمَّا كَسَبْنَا سَبِيلًا وَتَرَى هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا

کہیں گے کہ بھلا پھر لڑ چلنے کے بھی کوئی سبیل ہے۔ اور تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ دوزخ کے روبرو لالے جائینگے

خَائِبِينَ مِنَ النَّارِ يُنظَرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا

مارے ذلت کے جبکہ ہوئے کن آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے اور ایمان والے کہیں گے کہ حقیقت میں

إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا

ہر ضعیف تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو تباہ کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ سنو

إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ

ظلم کرنے والے ضرور ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

اور جب تم نے نافرمانیاں کیں تو آج یہ بات تمہارے کچھ بکار آمد نہ ہوگی کہ تم (اور شیالین) ایک ساتھ عذاب میں ہو۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ

تو جو لوگ نافرمان کرتے ہیں روز قیامت کے عذاب دردناک کے اعتبار سے ان پر سخت انوس ہے

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ

پھر ان دونوں کا انجام یہی ہونا ہے کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اسی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اور

الظَّالِمِينَ

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

قیامت کو سبب و ان
باطل کا اپنے عاہدوں
سے بیزار ہونا

وَمَا هُمْ بِجَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

کے اعمال ان پر حسرت کر کے دکھائے گا۔ اور وہ (کبھی) آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں

۲۱
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ

اور وہ سب میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہونگے تو سفیہ لوگ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے

تَبَعًا هَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَوْ

کہ تم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کسی چیز سے ہمیں بے پروا کر سکتے ہو وہ کہیں گے

هَذَا نَا اللَّهُ هَذَا يَنْتَعِمُونَ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْضٍ

کہ اگر اللہ میں ہدایت کرتا۔ تو تم تمہیں ہدایت کرتے ہمارے لئے برابر ہے خواہ ہم بیقراری ظاہر کریں یا ہم صبر کریں ہمیں عذاب

۲۲
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا

اور جس دن خدا کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کے تم مدعی تھے وہ انہیں پکاریں گے تو وہ ان کو کچھ جواب

لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝

نہیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی آڑ کر دیں گے۔

۲۳
وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدَدْتُكُمْ

اور جب فیصلہ کیا جائیگا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ اور میں نے بھی تم سے وعدہ

فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي

کیا تھا سو میں نے تم سے وعدہ فلائی کی اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا۔ مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان

فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا الْفَسَادُ فِيكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي

یا سو تم مجھے ممت نہ کرو اور اپنے آپ کو ممت نہ کرو نہیں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس میں اس

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

بات کا کہ تم نے پہلے مجھے (مذاکا) شریک کیا تھا انکار کرتا ہوں۔ کچھ شک نہیں کہ جو ظالم ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے

۲۴
وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اور ان کو ان کے جھوٹ بولنے کی سزا میں عذاب دردناک ہونا ہے

۲۵
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جو لوگ کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائی گئے وہی دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے

۲۶
۱۹
۱۸
۱۷
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔

۲۷
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائی گئے اور ان سے انکار بیٹھیں گے وہی دوزخی ہوں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے

قیامت کو شیطان اپنے متبعین سے بیزار ہوگا

۱۔ جھوٹ بولنے والوں کو عذاب دردناک

۲۔ تکذیب آیات کرنے والوں کے لئے دوزخ

۵۷ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

اور جو انکار کرتے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان ہی کو ذلت کا عذاب ہوگا

۵۸ وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ۝

اور جن کا پتہ ہلکا ٹھہریگا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں آپ برباد کر لیا کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے

۵۹ تَلَعُوا نَجْمَهُمْ فِي سَمَاءِ لَا تُحِطُّ بِهَا لِيَوْمٍ هُمْ فِيهَا كَافِرُونَ ۝ هَلْ يَكْفُرُونَ لِحَدِيثِ

آگ کی پٹ ان کے سونہوں کو جھلستی ہوگی اور وہ وہاں بڑے سُنہ بنائے ہوں گے کیا ہماری آیتیں تم کو

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ لَكُمْ

پڑھ کر نہیں سناؤ باقی تمہیں اور تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری کبھی نے

وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝

ہیں آدبایا اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال اگر ہم پھر دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک

۶۰ قَالَ أَلَمْ نُنزِلْ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ وَتَعْلَمُونَ ۝

تصور وار میں خدا فرمائے گا کہ دُور ہو اسی میں رہو اور ہم سے بات نہ کرو۔

۶۱ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مَّمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝

جبکہ ہم ہر ایک امت میں سے اس گروہ کو جمع کرینگے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کو ترتیب وار کھڑا کیا

۶۲ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ إِذْ يَخْرُجُونَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيهَا

جائیں گے یہاں تک کہ جب حاضر ہوں گے تو خدا پوچھے گا کہ باوجودیکہ تم نے ہماری آیتوں کو چھی طرح سمجھا بھی نہ تھا کیا تم نے ان کو

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيهَا كَافِرِينَ ۝

جھٹلایا کیا کرتے یہی چونکہ یہ لوگ سرکشی کیا کرتے تھے تو خداوندی ان پر پورا ہوا سو یہ لوگ بات نہ کر سکیں گے

۶۳ وَأَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنُوا يُرْسِلُونَ إِلَيْنَا آيَاتِنَا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيهَا كَافِرِينَ ۝

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور روزِ آخرت کے پیش آنے کو جھٹلاتے رہے تو یہی لوگ

مُخَضَّرُونَ ۝

عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے

۱۹ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

اور جو لوگ ہماری آیتوں سے انکار کرتے اور جھٹلایا کرتے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں

۲۰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۝

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے یہی لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ

وَرَبِّسَ الْمَصِيرُ ۝

میں رہیں گے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے۔

۲۸ اِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلظَّالِمِينَ مَا بَاءَ ۝ لِيَبْشُرَ فِيهَا الْمُخَلَّبِينَ

بے شک دوزخ گھات میں مکی ہے سرکشوں کا ٹھکانا اسی میں قرون بڑے رہیں گے۔

۲۹ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

وہاں نہ ٹنڈک کا مزہ چکھیں گے اور گرم پانی اور پیپ کے سوا ان کو کچھ پینے کو نہیں ملے گا۔

۳۰ جَزَاءُ وِفَاقًا ۝ اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوا

بورا بدل کہ یہ لوگ حسابِ آخرت سے نہیں ڈرتے تھے اور ہماری

پايتنا كذا ابا ۝ آیتوں کو بڑی بے باکی سے جھٹلایا کرتے تھے۔

۳۱ قَدْ جَاءَتْكَ اَيَّتِي فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاَسْتَكْبَرَتْ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

ان ہمارے احکام تم کو پہنچے اور تو نے ان کو جھٹلایا اور اگر بیٹھا اور تکبروں میں سے تھا۔

۳۲ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلٰى اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مَسْوُودَةٌ ۝

اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہے ان کے مونہہ کالے ہوں

۳۳ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّمُنْكَرِيْنَ ۝

گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

۳۴ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاَسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے اگرچہ بیٹھے نہ تو ان کے لئے آسمان

۳۵ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا بِسَبْحٍ مُّجْتَمِعِيْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ نُجَزِّئُ

کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ

۳۶ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ لَہُمْ فِيْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۝ وَكَذٰلِكَ

سوں کے ناکے ہیں سے نہ گزر جائیں اور مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں کہ ان کے لئے آگ کا بھونا

۳۷ نُجَزِّئُ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ہوگا۔ اور ان کے اوپر اورڑ ہٹا اور سرکش لوگوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں

۳۸ وَلَوْ تَرَى اِذْ وَقَفُوْا عَلٰى النَّارِ فَقَالُوْا اٰلَيْتِنَا مَرَدُوْا لَا تُكٰذِبُ بِآيٰتِ رَبِّنَا

اور کاش تو ایسی حالت میں دیکھے کہ وہ دوزخ پر لا کھڑے کئے جائیں اور کہنے لگیں اے کاش ہم واپس بھیج دیئے

۳۹ وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ بَلْ بَدَّلُوْهُمْ مَا كَانُوْا يَحْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ

جائیں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہوں بلکہ جس بات کو وہ پہلے چھپاتے

۳۳۔ تکذیب آیات کرنے والوں کے سزا کالے

۳۴۔ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے۔ ناو تھیکہ اونٹ سوں کے ناکے میں سے نہ گزرے

۳۵۔ یہاں تک کہ دنیا میں واپس بھیج دینے جائیں

۳۶۔ ان کے آگے آئی اور اگر وہ واپس بھیج دئے جائیں تو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا اس کو پھر دوبارہ ضرور کریں کہ کچھ شکست

۱۔ رسولوں کے منکروں کو عذاب

۱۳۸ **إِنْ كُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أَعْتَدْنَا عَذَابًا عَظِيمًا**

سبھی نے تو پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو وہ ہمارا عذاب آنازل ہوا

۱۳۹ **فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَهُوَ كَالْبَيْسِ فِي**

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات اس کو پہنچے اور وہ اس کو جھٹلائے

۱۴۰ **جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ**

کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔

۲۔ گردنوں میں طوق اور زنجیریں۔

۱۴۱ **الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ**

یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور ان کتابوں کو بھی جو ہم نے اپنے پیغمبروں کی معرفت بھیجی

۱۴۲ **إِذَا الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُحْبَبُونَ**

ہیں۔ سو آخر کار حقیقت معلوم ہو جائے گی جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے۔ اور زنجیریں گھسیٹنے

۱۴۳ **ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ**

ہوئے پانی میں لے جائیں گے پھر آگ میں جھونکے جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ خدا کے

۱۴۴ **مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا**

سوا تم جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں وہ کہیں گے وہ ہم سے کھوے گئے۔ بلکہ ہم تو پہلے کسی اور چیز کی

۱۴۵ **كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ**

پریش کرتے ہی نہ تھے اور کافروں کو اسی طرح بدحواس کر دے گا۔ یہ تمہاری باتوں کی سزا ہے کہ تم دنیا میں

۱۴۶ **الْأَرْضَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ**

ناحق کی خوشیاں منایا کرتے تھے اور اس کی سزا ہے کہ تم اترا یا کرتے تھے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو

۱۴۷ **جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ**

ہمیشہ اسی میں رہو غرض تکبر کرنے والوں کا بڑا ٹھکانا ہے۔

۳۔ منکروں کو دوزخ کو عذاب

۱۴۸ **بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا**

ہاں بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور جو لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھیں ان کیلئے ہم نے دوزخ

۱۴۹ **وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْتُمُونَ**

اور ہم سرکش لوگوں سے کہیں گے کہ عذاب دوزخ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو

۲۲ تا ۳۹ بھی دیکھو ۳۷

۱۵۰ **يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ جَهَنَّمَ دَعَاً**

جبکہ ان لوگوں کو آتش دوزخ کی طرف زبردستی دھکے دے دے کر لے جائیں گے یہی وہ دوزخ

بِهَانِكذِبُونَ ○

جسے تم جھٹلایا کرتے تھے

۱۵
۵۲ اَفَسِحْرُ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تَبْصِرُونَ ○ اِضْلَوْهَا فَاَصْبِرُوا وَاُولٰٓئِ

تو کیا یہ لفظ بندی ہے یا تم کو انہیں سوچہ پڑتا۔ اس میں کسو پیر مبر کر دیا ہے سب سے سب سے کہہ کر تمہارے
تَصْبِرُوا وَاَسْوَأُ عَلَيكُمْ اِنَّمَا تَجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

تو میں برابر۔ جیسے عمل تم کرتے رہے ویسے ہی بدل دیا جائے گا

۱۶
۵۵ هٰذَا هِجْتُمْ الَّتِي يَكْتِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ○ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا

یہ ہے وہ جہنم جس کو گنہگار لوگ جھٹلاتے ہیں۔

اس میں اور کھولتے

وَبَيْنَ حَمِيمٍ اِن ○

ہوئے پانی میں پھر میں گے

۱۷
۶۲ كَلَّا اِنَّ هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ مَّحْجُوبُونَ ○ ثُمَّ اِنَّ هُمْ

سنو جی رہی اس دن اپنے پروردگار کے سامنے نہیں آنے پائیں گے پھر یہ لوگ ضرور جہنم میں

لَمَّا لَوْ الْجَحِيمِ ○ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ○

داخل ہوں گے پھر کہا جائے گا یہی وہ ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے

۱۸
۶۹ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبُ لَا يُفْلِحُوْنَ ○ بِمِ مَّتَاعٍ

کہہ دے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ بتانے باندھتے ہیں ان کو فلاح ہونی نہیں۔ دنیا کے

فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَفْقَهُمُ الْعَذَابُ الشَّدِيدِ بِمَا

عارضی فائدے ہیں۔ پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تاکہ ہم ان کو ان کے کفر کی

كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

سزا میں سخت عذاب دکھائیں

۱۹
۷۲ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْفُرُوْنَ وَتَصِفُ السِّنَّةُ الْكٰذِبَ اَنَّ لَهُمْ

اور جن چیزوں کو یہ آپ نہیں پسند کرتے ان کو اللہ کے لئے ٹھہراتے ہیں اور اپنی زبان سے جھوٹ

لِحُسْنٰى اِلَّا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّاسُ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ○

دعویٰ بھی کرتے جاتے ہیں۔ کہ ان کے لئے جھٹلائی ہے البتہ ان کے لئے دوزخ ہے بلکہ یہ اس کے پیشرو ہیں

۲۰
۷۴ اللّٰهُ سَابِقُكُمْ وَاَبَاكُمْ اِلَّا وَاِلٰئِئِن ○ فَكَيْفَ بُوَا قَاتِهِمْ لِحَضْرُوْنَ

اللہ تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا سو یہ لوگ ضرور گرفتار

۲۱
۷۶ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ○ وَكُنَّا نَكْتِبُ بِسُوْمِ الدِّيٰنِ ○

کون چیز تم کو دوزخ میں لے آئی بولے ہم روز جزا کو نہیں مانتے تھے

۹۔ اللہ پر جھوٹ بتانے
باندھنے کی سزا۔

۲۷ حَتَّىٰ آتَا الْبِقَيْنَ ۝

یہاں تک کہ ہم کو یقین آیا۔

۲۸ وَلَٰكِن كَذَابٌ وَتَوَلَّىٰ ۝ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِمِصْرٍ ۝

بلکہ جھٹلایا اور موہنہ موڑا پھر اڑتا ہوا اکر کر بنی گھر کی طرف چلتا بنا تو اسے شخص تجھ

۲۹ لَكَ فَأُولَىٰ ۝ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۝

پرتف ہے پرتف ہے پرتف ہے پرتف ہے پرتف ہے پرتف ہے

۳۰ اِنطَلِفُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكذِبُونَ ۝ اِنطَلِفُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي

جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔ سائبان کی طرف چلو جس کے تین

۳۱ ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝ لَا ظَلِيلٌ وَلَا بُعْثِي مِنَ اللَّهَبِ ۝ اِنهَآ

حصے ہیں۔ اس میں ٹھنڈک نہیں۔ اور نہ اس میں آگ کی گرمی سے بچاؤ

۳۲ تَرْمِي بِشَرِّرٍ كَالْقَصْرِ ۝ كَا تَاةٍ جَمَلَتْ صُقُورٌ ۝ وَيَلِيَوْمِئِذٍ

ہے۔ اس سائبان میں سے انگارے پڑے برس رہے ہیں ایسے بڑے جیسے محل۔ وہ ایسے

۳۳ لِمُكِّنٍ بَيْنَ ۝

دکھائی دیں گے جیسے زرورنگ کے اونٹ تیاست کے دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے

۳۴ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں اور جیسے جیسے خیالات دلوں میں رکھتے ہیں خدا کو خوب معلوم ہے

۳۵ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

تو ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دے

۳۶ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ۝ فَسَنِيئَةٌ

اور جس نے دینے سے مضائقہ کیا اور پرواہ نہ کی اور عمدہ بات کو تھوٹ جانا۔ تو ہم مشکل جگہ اس کے

۳۷ لِلْعُسْرَىٰ ۝

لئے آسان کر دیں گے۔

۳۸ فَإِنذَّرْتَكُمْ تَارًا تَلَطَّىٰ ۝ لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ ۝ الَّذِي

تو ہم نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے کہ اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا۔ جو جھٹلاتا

۳۹ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

اور روگردانی کرتا رہا۔

۴۰ وَمَنْ يَسْتَكْفِرْ عَنْ عِبَادَاتِهِ وَيَسْتَدِرْ فَيَسْخَرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝

اور جو خدا کی بندگی سے عار رکھتے اور بڑائی کی لینے تھے تو عنقریب خدا ان سب کو اپنے پاس کھینچ بلائیگا

۱۰۔ مکذبین کو عذاب

۱۰۔ متکبرین کا حشر و عذاب

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَسَيَكْفُرُونَ وَيَسْتَكْبِرُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَدَاوَةِ وَالْإِثْمِ وَيَأْتُونَ اللَّهَ بِكَذِبٍ وَأَعْتَدُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

اور جو لوگ بندگی سے غار ملتے اور تکبر کرتے تھے خدا ان کو عذاب دردناک کی سزا دے گا۔

وَإِذَا نُتِلِّي عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ آلَاتٌ

اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اچھٹ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں

وَقَرَأَ فَبِشْرَاهُ يُعَذِّبُ آلِيَهُمْ

گویا اس کے کانوں میں گرائی ہے تو (اے نبی) اُسے دردناک عذاب کی بشارت دے

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

یہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی سبود نہیں تو یہ اگر کہہ بیٹھے

الْيَوْمَ نَجْزِيكَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اس لئے کہ تم خدا پر ناحق جھوٹ بولتے اور

وَكُنتُمْ دَعَوْنَنَا إِلَهُ تَسْتَكْبِرُونَ

اس کی آیتوں سے اگر اکر کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان سے اگر کہہ بیٹھیں گے وہی دوزخی ہیں کہ وہ دوزخ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

میں ہمیشہ رہیں گے

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ لَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ

اور جب کافر دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائیگا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے

الدُّنْيَا وَأَسْمَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ نَجْزِيكَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ

منزے اڑا چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو تو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس کا بدلہ ہے کہ تم

تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

ناحق دنیا میں اکر اکر کرتے تھے اور اس کا بدلہ ہے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قُلُوبُ الْمُتَكَبِّرِينَ

سو جہنم کے دروازے سے جا داخل ہو۔ اور اس میں سدا رہو فرض غرور کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قُلُوبُ الْمُتَكَبِّرِينَ

پھر کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں جا داخل ہو۔ اور ہمیشہ اس میں رہو فرض تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے

وَقَالَ سِرُّكُمْ مَا دَعَوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

اور تمہارا یہ مددگار فرماتا ہے کہ تم سے دعا میں ملتے رہو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے جو لوگ ہماری عبادت

۲۔ ذلت کا عذاب

۳۔ آگ میں ہمیشہ

۴۔ داخل جہنم

عِبَادَتِي سَيِّدًا خُلِقُوا جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝

۱۱۷ سے سرتابی کرتے ہیں مغرب ذیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے
 ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۸ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو۔ ہمیشہ اسی میں رہو۔ غرض تکبر کرنے والوں کا بڑا ٹھکانا ہے
 وَمَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْرَقْنَاكُمْ تَكُنْ اِيْتِي تَتْلُو عَلَيْكُمْ فَاَسْتَكْبِرْتُمْ وَكُنْتُمْ
 اور جو لوگ کفر کرتے رہے ہم ان سے کہیں گے کیا تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں مگر
 قَوْمًا مَّجْرُمِيْنَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ

تم نے غرور کیا اور تم نافرمان لوگ تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ برحق ہے۔ اور قیامت آنے میں
 فِيْهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرٰى مَا السَّاعَةُ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَاَنْحُنَّ بِمُسْتَبْقِيْنَ

۱۱۸ کچھ شبہ نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے۔ ہاں کچھ ہم سا تو ہم کو بھی گذرتا ہے
 وَيَدَّاهُمْ سَيِّئَاتٌ مَّا عَمِلُوْا وَاَحَاقَ بِهُمْ مَّا كَانُوْا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

۱۱۸ مگر یقین نہیں اور جیسے جیسے عمل یہ لوگ کرتے رہے ان کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اور جس عذاب کی
 وَيَقِيْلُ الْيَوْمَ نَسْتَكْفُرُ كَمَا نَسِيْنٰمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اَوْ مَا وَاكُمُ النَّارُ

۱۱۸ ہنسی اڑاتے رہے وہ ان پر انازل ہو گا۔ اور کہہ دیا جائے گا کہ جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو
 وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيْرِيْنَ ۝ ذٰلِكُمْ بِاَنكُمْ اَتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

۱۱۸ جھٹلے رکھا آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں یہ اس کی سزا
 هٰذَا وَاَوْعَدْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَاَلَا هُمْ

۱۱۸ ہے۔ کہ تم نے خدا کی آیتوں کی ہنسی بنائی اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا غرض آج
 يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

۱۱۸ ذہنی لوگ دوزخ سے نکلے جائیں گے۔ نہ ان کو معذرت کرنے کا موقعہ دیا جائے گا۔

۱۱۸ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مَّسْوُوْدَةٌ
 اور تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ان کے مونہہ کالے ہوں گے۔

۱۱۸ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝
 کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

۱۱۸ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَفْعَلُوْهُمْ اَبْوَابَ
 بے شک ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے اگر بیٹھے نہ تو ان کے لئے آسمان کے دروازے

۱۱۸ السَّمٰوٰتِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ سَمِّ الْحَيٰطِطِ وَ
 کھولنے جائیں گے اور نہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نہ

۱۱۸ ۵۔ دوزخ میں کالے منہ

۱۱۸ ۶۔ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نہ گزر جائے

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

۱۴؎ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَا لًا يَعْرِفُونَ هُمْ سِيمَهُم قَالُوا مَا
اور اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے کہ تمہارے
أَعْتَى عَنْكُمْ جَمْعَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ۝

۱۵؎ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ
سو عادلے ناحق ملک میں تکبر کرنے اور بولے کہ قوت میں ہم سے بڑھ کر اور کون ہے کیا ان کو اتنا
مِنَّا قُوَّةً أَمْ آوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا

سو جا۔ کہ جس اضر نے ان کو پیدا کیا وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر اور کبھی غرض وہ لوگ ہماری
بِأَلْبِنَا يَجْحَدُونَ ۝ ۱۶؎ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِجَاصًا رِجَاصًا فِي أَيَّامِ
آپتوں سے انکار کرتے رہے۔ تو ہم نے نجومست کے دنوں میں ان پر بڑے زور کی آندھی
مِحْسَاتٍ لِّنُنذِرَ قَوْمَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
پلائی تاکہ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے
أَخْرَجِي وَهُمْ لَا يَنْصُرُونَ ۝
والا ہو گا اور ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔

۱۵؎ - عاد کو عذاب آخرت

دوزخیوں کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور
معبودان باطل کی اپنے پرستاروں سے

۱۷؎ وَيَوْمَ يَجْزِيهِمْ جَزَاءَهُمْ جَمِيعًا قَالُوا لِمَ لَمْ يَأْتِنَا بِالْحُكْمِ قَالُوا لَمْ يَأْتِنَا بِالْحُكْمِ
اور جب کہ عذاب لوگوں کو جمع کر کے فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ تمہاری ہی پرستش کیا کرتے
يَعْبُدُونَ ۝ ۱۸؎ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا
تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے ہم کو تجھ سے سروکار ہے نہ ان سے یہ لوگ تو
يَعْبُدُونَ وَالْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنُونَ ۝ ۱۹؎ فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْتِيكَ
شیاطین کی پرستش کرتے تھے ان میں اکثر انہیں کے معتقد تھے۔ تو آج تم میں سے نہ تو

۱۷؎ - ملائکہ سے جواب طلب
کیا جائے گا

بَعْضُكُمْ بَعْضًا نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

کوئی کسی کو نفع ہی پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نقصان پہنچانے پر۔ اور ہم سرکش لوگوں سے کہیں گے

النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝

کہ عذاب و دوزخ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے

يَمَعْشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ

۱۱۴ بدجن و انس سے جواب
علی

اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے کہ تم سے ہمارے احکام بیان کریں

الَّتِي وَبُيِّنَّا لَكُمْ دُفْعًا يَوْمَ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا

اور تمہارے اس روز کے پیش آنے سے تم کو ڈرائیں۔ وہ عرض کریں گے ہم اپنے آپ ہی کو اہی دیتے

وَغَرَّبْنَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَشَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

ہیں اور دنیا کی زندگی نے ہم کو دھوکے میں رکھا اور انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر گواہی دی کہ بے شک وہ کافر تھے

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ

۱۱۵ عیسیٰ علیہ السلام سے

اور اُس دن اللہ پوچھے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ خدا کے علاوہ مجھ کو اور

أَهْلِي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا

سیری والدہ کو دو خدا مانوں۔ عرض کریں گے کہ تیری ذات پاک ہے مجھ سے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں

لَيْسَ لِي بِحَقِّ ط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا

جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہو گا تو میرا کہنا تجھ کو ضرور ہی معلوم ہوا ہو گا کیونکہ تو میرے

أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ ط مَا قُلْتَ لَهُمْ

دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا غیب کی باتیں تو تو ہی خوب جانتا ہے تو نے جو مجھ

إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ وَرَسُولُهُ ۝ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ

کو حکم دیا تھا بس وہی میں نے لوگوں کو کہہ سنا یا تھا کہ اللہ جو میرا پروردگار ہے اسی کی عبادت کرو تو جب

شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ط فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ط

تک میں ان لوگوں میں رہا میں ان کا نگران رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو وفات دی تو تو ہی ان کا نگہبان

وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ ط إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۝ وَ

تھا۔ اور تو تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اور

إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اگر تو ان کو معاف کرے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سَازِغُوا

۱۱۶ اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان لوگوں سے جو ہمارے شریک کرتے تھے پوچھیں گے کہ

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ثُمَّ لَوْنَكُمْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا

کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم شریک خدا سمجھتے تھے۔ پھر اس سے براہ کرا ان کا اور جھوٹ
وَاللَّهُ سَرِيبًا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝

کیا ہو گا کہ کہیں گے ہم کو پتا ہی کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے کہ ہم تو شریک نہیں بناتے تھے
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو

کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھے کہ موت کی بے بد شیوں میں پڑے ہیں اور فرشتے دست
أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَهُمْ الْيَوْمَ تُجْرُونَ ۝ عَذَابِ أَظْهَبُ بِمَا كُنْتُمْ

درازیں کر رہے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ اب تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

لئے کہ تم خدا پر ناحق جھوٹ بولتے اور اس کی آیتوں سے اکرنا کرتے تھے۔
۝ وَأَقْدُ جَلْمًا نَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ أَوْلَٰ مَرَّةٍ وَتَكْتُمُ مَا

اور یہی بارے بیابان نے تم کو پیدا کیا تھا یہی ہی اکیلے تم ہمارے حضور میں آئے اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ اپنی
خَوَلْتُمْ وَسَاءَ ظَمِيرًا كُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ

پہنچے تھے پھر اسے اور تمہاری سفارش کرنے والوں کو ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ تم میں
أَنْبِيَاءٌ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۝ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

شریک ہیں اب سب تمہارے رابطے ٹوٹ گئے اور جو دعویٰ تم کیا کرتے تھے تم سے گئے گزرے ہوئے
وَالْيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین کو حکم دیں گے کہ تم اور جن کو تم نے شریک خدا بنا دیا تھا وہ ذرا
وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَاتِنَا نَاعْبُدُونَ

اپنی بدیہیں پھر ہم ان کے آپس میں بھٹوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ ہماری پرستش
۝ فَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ

تم کرتے نہیں تھے پس ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی شاہد ہے ہم کو تمہاری پرستش کی مطلق خبر نہ تھی
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ

اور سب لوگ خدا کے رو برو نکل کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑی عورت رکھتے تھے کہیں
تَبَعًا فَمَا هَلْ أَنْتُمْ مَعْنُونَ ۝ عَنَّا مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَقَالُوا

گے کہ ہم تو تمہارے قدم قدم چلنے والے تھے تو عذاب خدا میں سے کچھ ہم سے ہٹا سکتے ہو وہ کہیں گے
لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ سَابَرْنَا مَا لَنَا مِنَ

کہ اگر خدا ہم کو کوئی طریقہ دکھاتا تو ہم بھی تم کو دکھا دیتے اب تو بے صبری کریں تو اور مہر کریں تمہارے لئے

۳۴
ہم۔ اکیلے ہوں گے۔
شرکاء ساتھ نہیں۔

۳۵
۵۔ معبودان باطل اور
ان کے پرستاروں کے
سوال و جواب۔

۳۶

تَحِيصٍ ۝ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ

برابر ہے ہم کو کسی طرح چھٹکارا نہیں اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ
وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ

کیا تھا۔ اور وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ غلامی کی اور تم
إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ وَمَا

پر میری پیروی زبردستی تو تھی نہیں۔ بات اتنی ہی تھی کہ میں نے تم کو بلایا سو تم نے میرا کہا مان لیا۔
أَنَا بِمُصْرٍ خَافَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرٍ خَافِي ۚ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ

تو اب مجھے الزام نہ دو نہ تو میں نہ ہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو مانتا ہی
إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

نہیں کہ تم مجھ کو اپنے شرکاء بنا تے تھے اس میں شک نہیں کہ جو لوگ نافرمان ہیں ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا
وَإِذْ أَسْرَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا سَرَبْنَا هُنَا كَأَشْرِكِائِنَا الَّذِينَ

اور جو لوگ شرکاء بنائے رہے جب وہ اپنے شرکیوں کو دیکھیں گے تو بولیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی ہیں وہ ہمارے
كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ۚ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكِن بُؤْسٌ ۝

ذیک جگہ ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے تو وہ شرکاء ان کی بات انہیں کی طرف پھینک ماریں گے کہ تم سنا سنا سہ جھوٹے ہو
أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّكْمَ ۚ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعُرُونَ ۝

اور وہ لوگ اُس دن خدا کے آگے سر تسلیم خم کریں گے اور جو بتان بنیادیں کیا کرتے تھے وہ ان سے گئی گزری ہو جائیگی
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا

اور جس دن خدا حکم دے گا کہ جن کو تم ہمارا شرکاء سمجھتے تھے ان کو بلاؤ تو یہ ان کو بلائیں گے مردہ ان کو
لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَإِلَى الْمُجْرِمُونَ النَّاسَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ

جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں آڑ مائل کر دیں گے ہلک۔ اور گنہگار لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ
مُؤَاقِعُواهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور ان کو اس سے کوئی راہ گریز نہیں ملے گی
وَالَّذِينَ دُونَهُمْ يَلْعَنُونَ اللَّهُ إِلَهُةً لَيْكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ

اور مشرکوں نے جو خدا کے سوا معبود بنا رکھے ہیں کہ ان کے حامی اور مددگار ہوں گے۔ ہرگز نہیں یہ معبود ان
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

کی عبادت کا انکار کریں گے اور لٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے
وَيَوْمَ يَجْحَرُهُمْ وَيَا بَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ

اور جس دن خدا کافروں کو اور جن کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا پھر پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں

عِبَادِي هَذَا أَمَّهُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ قَالَ لَوْ اسْتَجَنَّاكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ

کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ آپ راستے سے ہٹ گئے ومن کریں گے کہ تو پاک ہے ہم کہہ بات کسی طرح
تَخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا
زیبا ہی نہ تھی مگر تیرے سوا دوسرے کا رسناز بناتے بلکہ تو نے ان کو اور ان کے بڑوں کو آسودگیاں دیں۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝ ۱۹ ۝ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا

یہاں تک کہ تیری بلو کو بھلا بیٹھے اور ہٹا کر ہونے والے لوگ تھے۔ تمہارے ان مسبودوں نے تمہاری باتوں میں
تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يُظْلِمُ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝

تم کو بھلا یا تو تم نہ تو مال سکتے ہو اور نہ مدد دے سکتے ہو۔ اور جو تم میں سے ظالم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

۱۸ ۝ اور جس دن مذاکافروں کو بلا کر پوچھے گا کہ جن لوگوں کو تم شریک سمجھتے تھے وہ تمہارے شریک کہاں ہیں تو وہ فرمودہ خدا کے
قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا عَوْنِنَا غُورًا ۝

ستو بیٹھ کر بولیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا جس طرح ہم خود بیکے تھے
كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝ ۲۰ ۝ وَقِيلَ ادْعُوا

اسی طرح تم نے ان کو بھی بہکایا ہم تیرے حضور میں دست برداری کرتے ہیں یہ لوگ ہم کو نہیں پوجتے تھے۔ اور کہا
شُرَكَاءَ كُمْ فَادْعُواهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا

بائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ بلائیں گے اور وہ ان کو جواب تک بھی نہ دیں گے اور وہ عذاب کو
يَهْتَدُونَ ۝ ۲۱ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝

دیکھ لیں گے اے کاش یہ لوگ راہ راست پر ہوتے اور جس دن مذاکافروں کو بلا کر پوچھے گا کہ پیغمبروں کو تم نے
۲۲ ۝ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْآبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝

کیا جواب دیا تو اس دن ان کو کوئی بات نہ سوج پڑے گی اور وہ آپس میں پوچھ گچھ بھی نہ کر سکیں گے۔
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدًى وَلَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ ۲۳ ۝ وَإِذَا نَادَى السُّعُودُ

اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے حضور میں ٹھہرائے جائیں گے ایک کی بات
إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ

ایک رو کر رہا ہوگا۔ جو کزور میں وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور
لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝ ۲۴ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا

ایمان لے آتے۔ بڑے لوگ کزوروں سے کہیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آئی
أَخْبَرُ صِدْقًا فَكُنَّا مِنَ الْمَدَائِدِ أَعْيُنًا وَمِنْ عَمَلِكُمْ بِرَبِّكُمْ أَعْيُنًا ۝ ۲۵ ۝

تو کیا اس لئے آئے تھے ہم نے تم کو روکا، بلکہ تم خود خطاوار تھے۔
وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ ۝ ۲۶ ۝ وَإِذَا نَادَى السُّعُودُ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ

۲۷ ۝ وَإِذَا نَادَى السُّعُودُ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ

۲۸ ۝ وَإِذَا نَادَى السُّعُودُ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ

۲۹ ۝ وَإِذَا نَادَى السُّعُودُ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ

۳۰ ۝ وَإِذَا نَادَى السُّعُودُ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ

۳۱ ۝ وَإِذَا نَادَى السُّعُودُ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ

۳۳ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرٌ وَإِيلٌ وَالتَّهَارُ
 اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے مگر رات دن کی تہ بیروں نے رد کیا کہ تم برابر ہم سے خدا
 إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُ وَالنَّدَامَةَ لَمَّا
 کو نہ ماننے اور اس کے ساتھ شریک ٹھیرانے کو کہتے رہے اور جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو
 سَأَوِ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْآغْلَلُ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ
 انہار نہاست کریں گے اور جو لوگ کفر کرتے رہے ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈلوادیں گے۔
 يَجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

جیسے جیسے یہ لوگ عمل کرتے رہے انہیں کا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔

۳۴ أَحْسَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ○ ۳۴ مِنْ

اور جو لوگ نافرمانیاں کرتے رہے ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کے سوا
 دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ○ ۳۴ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ
 جن کو پوجتے رہے ہیں۔ سب کو اکٹھا کر دو۔ پھر ان کو دوزخ کے رستے لے چلو۔ اور ان کو

مَسْئُولُونَ ○ ۳۵ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ○ ۳۵ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ

ٹھیراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ یہ تو اس دن نبی
 مُسْتَسْلِمُونَ ○ ۳۶ وَأَقْبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ○
 گردن کئے کھڑے ہوں گے اور ایک کی طرف ایک متوجہ ہو کر پوچھا پوچھی کرے گا۔

۳۷ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْبَيْتِ ○ ۳۷ قَالُوا بَلْ لَمْ

ایک فریق کہے گا کہ تمہی ہم پر بل بل کر آتے تھے
 تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○ ۳۷ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا
 ہی ایمان نہیں لائے اور تم پر ہمارا کچھ زور تو تھا ہی نہیں بلکہ تم سرکش

طَغِينَ ○ ۳۸ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنْ كُنَّا لَأَقْوَمُونَ ○ ۳۸ فَاغْوَيْنَاكُمْ

لوگ تھے پس ہمارے پروردگار کا وعدہ ہمارے حق میں پورا ہوا تو ہم کو عذاب
 إِنْ كُنَّا غَوِينَ ○ ۳۹ فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ○
 کے مزہ چکھنے ہونگے ہم خود بیکے ہونے تھے سو ہم نے تم کو بھی بہکا دیا۔

۳۹ إِنْ كُنَّا لَأَقْوَمُونَ ○ ۳۹ إِنْ كُنَّا لَأَقْوَمُونَ ○ ۳۹ إِنْ كُنَّا لَأَقْوَمُونَ ○ ۳۹

الغرض اس دن سب شریک عذاب ہوں گے۔ گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی بڑا دکھا کرتے
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَسْتَكْبِرُونَ ○ ۳۹ وَيَقُولُونَ آيَاتُنَا كَوْنًا أَوْ هَيْئًا
 ہیں۔ یہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو ان کو بیٹھتے تھے اور کہتے ہیں

لِنَشَاعِرِ مُجْتَنُونَ ۝ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝

کہ ہم اپنے سیدوں کو ایک بڑا شاعر کی خاطر تھوڑے دیتے ہیں۔ بلکہ وہ حق کے کراہے اور
 ۝ اتکرو لئلا یفوق العذاب الالیم ۝ ۝ وما تجزون الا ما
 پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے۔ تم سرور عذاب دردناک کے مزے چکھو۔ اور جیسے جیسے عمل کرتے
 کتم تعملون ۝

رہے ہو انہیں کا بدلہ پاؤ گے

و یوم یجشرا عذاب اللہ الی النار فم یوزعون ۝ حتی اذا

اور جس دن دشمنان فرادوزخ کی طرف انکے جائیں گے پھر راہ میں روکے جائیں گے یہاں تک کہ سب دوزخ پر جمع ہوں
 ما جاء و ہا شہد علیہم سماعہم و ابصارہم و جلودہم بما
 گئے جیسے جیسے عمل کرتے رہے ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے گوشت پوست ان کے مقابلہ میں گواہی دینگے
 کانوا یعملون ۝ وقالوا لجلودہم لمرشدنہم علیما قالوا

۱۹
۳۱
۴۔ دشمنان عذاب کے خلاف
 ان کے کان آنکھیں اور
 گوشت پوست شہادت
 دیں گے۔

اور یہ لوگ اپنے گوشت پوست سے پچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دینگے کہ جس ذہن نے ہر
 انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء و هو خالقکم اول مرۃ و الیہ

پیغمبروں کو کیا ہے اسی نے ہم کو بھی گواہی کیا اور اسی نے تم کو اول بار پیدا کیا اور اب تم لوگ اسی کی طرف لوٹنا کرنا ہے جو
 تریجعون ۝ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سماعکم

اور تم پر وہ داری کرتے تھے تو اس خیال سے نہیں کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے گوشت پوست تمہارے خلاف
 ولا ابصارکم ولا جلودکم و لکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما

گواہی دینے کو کرے ہو جائیں گے بلکہ تم کو تو یہ خیال تھا کہ تمہارے بہت سے عملوں سے خدا واقف نہیں اور تم نے جو بیگانی
 تعملون ۝ و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم اسرادکم

میں پر وہ کار کے حق میں کی تھیں اس بیگانی نے تم کو تباہ کیا اور تم گمراہے میں آگئے۔ اگر یہ لوگ سبر کر رہیں تو بھی ان کا
 فاصبحتم من الخسیرین ۝ فان یصبروا قالنا من ثویٰ لهم

نمکانا دوزخ ہے اور اگر سمانی جائیں تو ان کو معافی بھی نہیں دی جائیگی اور ہم نے ان کیساتھ ہمیشہ تعینات کر دئے تھے
 و ان یتعلبوا فما ہم من المعتبین ۝ و قبضنا لهم قرناء

تو انہوں نے ان کے اٹھ اور پکھیلے تمام حالات ان کی نظر میں اچھے کر دکھائے اور ان سے پہلے جنات کی اور آدمیوں کی
 فزیبوا لهم ما بین یدیہم و ما خلفہم و حق علیہم القول فی

بیت سے اٹھیں ہو گزری تھیں ان کے شمول میں وعدہ عذاب ان کے حق میں بھی پورا ہو کر پابے
 اہم قد خلت من قبلہم من الجن و الانس انہم کانوا خسیرین ۝

شک یہ لوگ اپنے نقصان کے در پے تھے۔

۷۔ دنیا میں دوبارہ واپس
جانے کی تمنا

۱۳۷. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُمْ مِمَّا كَانُوا
اور چلے بول اٹھیں گے کہ اے کاش ہم کو پھر لوٹ کر جاننا ملے تو جیسے یہ ہم سے دست بردار
کُنَّا لَكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَاءًا لَمْ تُحْسَبِ لَهُمْ سَرَابٍ مِمَّا جَحَدُوا بِهَا وَهُمْ يَقْنَبُ
ہو گئے ہم بھیدان سے دست بردار ہو جائیں۔ یوں اللہ ان کے اعمال ان کے آگے لائے
مِنَ النَّارِ ۝

۱۳۸. وَلَوْ تَرَىٰ إِذُ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ
کاش تو اس حال میں دیکھے کہ جب وہ دوزخ پر لاکھڑے کئے جائیں اور کہنے لگیں کہ اے کاش ہم پھر واپس بھیج دیئے
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَّلْنَا مَا كَانُوا
جائیں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہوں بلکہ جسکو پہلے جھپاتے تھے وہ ان کے
يُحْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ سُرُدُ وَالْعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
آگے آئی اور اگر واپس بھیج دئے جائیں تو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا ہے پھر دوبارہ ضرور کریں اور کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مَهْطِعِينَ

۱۳۹. وَإِن يَرَوْا غُزَابًا نَّازِلًا يَنسِفُ بِهِ سُلُوكَهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مَهْطِعِينَ
اور ان پر غراب نازل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ خدا ان کو اُس دن تک کی ہمت سے رہا ہے جب کہ
مُفْتِنِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِيَوْمٍ لَا يُرِيدُ اللَّهُ لِإِنَّهُمْ ظَرَفَهُمْ وَأَقْبَدَهُمْ هَوَاءً ۝
انہیں بھٹی کی بھٹی رہ جائیں گی اپنے سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں نگاہ پھران کی طرف لوٹ کر نہیں آتی اور ان کے
۱۴۰. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
دل ہوا ہونے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا۔ جب کہ ان پر غراب آنا نازل ہوگا۔ اور جو لوگ نافرمانی کرتے
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَّجِبْ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ
رہتے ہیں کہنے لگیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو تھوڑی سی مدت کی ہمت اور دے تو ہم تیرے بلانے پر اٹھ کھڑے
أَوَلَمْ نَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۝ وَسَكَنْتُمْ
ہوں گے اور یہ غیروں کے پیچھے ہو لیں گے کیا تم وہی نہیں ہو جو پہلے تمہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو کسی طرح
فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
کا زوال نہیں اور جن لوگوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کئے تھے انہیں کے گھروں میں تم بھی رہے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا
وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۝

۱۴۱. وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
اور جن کا پتہ ہلکا ٹھہرے گا تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں آپ پر یاد کر لیا۔ کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے
۱۴۲. وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ

خَلِدُونَ ۝ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَارِحُونَ ۝

اُن کے مونہوں کو جھلستی ہوگی اور وہ وہاں بڑے مونہہ بنائے

۱۲۳ ۝ اَلَمْ تَكُنْ اَيَّتِي تُشَالِي عَلَيْهِمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ ۝ اِنَّا قَالُوْا

ہوں گے کیا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے

سَرَبْنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا سِفُوْتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ اِنَّا رَبَّنَا اخْرَجْنَا

کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری کبنتی نے آدبایا اور ہم گمراہ تھے اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں

مِنْهَا فَاِنِ عَدُوْنَا اِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اِنْحَسِبُوْا فِيْهَا وَاَلَا تَكْتُمُوْنَ

سے نکال پھر اگر تم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک قصور دار ہیں۔ خدا فرمائیں گا اور ہو اور ہم سے بات نہ کرو

۱۲۴ ۝ وَلَوْ نَشِئُوْا لَجَعَلْنٰكُمْ اَسْمٰكُ مِثْلَ السَّمٰكِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحٰنٍ مُّسْوِيٍّ ۝ اِنَّا نَسُوْا

اور کاش تو مجھوں کو دیکھے کہ اپنے پروردگار کے روبرو سر جھکائے کھڑے ہیں اے ہمارے

اَبْصٰرِنَا وَ سَمِعْنَا فَا مَرْجِعُنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا اِنَّا مَوْقِنُونَ ۝ وَلَوْ

پیر و دیگار اب ہماری آنکھیں اور کان کھلے تو ہم کو پھر واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں۔ ہم کو اب یقین ہے

شِئْنَا لَا تَتِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هٰذَا هَا وَاَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلِكَنَّ

ہم چاہتے تو ہر شخص کو سو جہ عنایت کرتے مگر ہماری بات پوری ہو کر رہی کہ جنات اور

۱۲۵ ۝ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ فَاذُوْا قَوْلًا مَّا نَسِيْتُمْ

آدمی سب سے ہم دوزخ کو بھر کر رہیں گے تو جیسے تم اپنے اس دن کے

لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْا قَوْلًا مَّا نَسِيْتُمْ

پیش آنے کو بھولے رہے اس کا مزہ چکھو۔ کہ ہم نے بھی نہیں بھلا دیا اور جیسے جیسے

تَعْمَلُوْنَ ۝

تم مل کرتے رہے اس کے بدلہ میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔

۱۲۶ ۝ اَوْ تَقُوْلُ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةٌ فَاَكُوْنُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

یا جب عذاب کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش مجھ کو پھر لوٹ جانا ملے تو میں نیکوں سے رہوں

۱۲۷ ۝ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اَيَّتِي فَكذَّبْتَ بِهَا وَاَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ ۝

ہاں ہمارے احکام تمہے کو پہنچے اور تو نے ان کو جھٹلایا اور اگر بیٹھا اور منکروں میں سے تھا

۱۲۸ ۝ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَشْرَعُ لِّلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلٰى اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مَّسْوُوْدَةٌ

اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ان کے مونہہ کالے

اَلْبَيْسِ فِيْ جَهَنَّمَ مَثُوْمٌ لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا دوزخ میں نہیں ہے؟

۱۰۔ کافروں کی نوبیوں سے
جنم کے دروازے کھلتے
سکھین دوزخ کی گفتگو

۴۱ **وَسَبِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا**
اور جو لوگ کفر کرتے رہے جنم کی طرف ڈریاں بنا بنا کر ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب جنم کے
وَقَالَ لَهُمْ خُزْنُهَا الْمُرِيَاتُ كُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ
پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دوزخ کے موکل ان سے کہیں گے کہ
رَبِّكُمْ وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ
کیا تم میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے کہ وہ تمہارے پروردگار کی آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے۔
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ **قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ**
اور تمہارے اس مفذ کے پیش آنے سے تم کو ڈرتے یہ جواب دیں گے کہ ہاں مگر عذاب کا وعدہ کافروں کے حق میں
خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

پورا ہو کر ہاں کیا جائیگا کہ جنم کے دروازوں میں داخل ہو ہمیشہ اس میں رہو غرض کبر کر نیوالوں کا برا ٹھکانا ہے
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لَهُمْ لِمَا كُنُوا يَكْسِبُونَ ۝ **فَأَسْتَدْبِرْتُمْ**
اور جو لوگ کفر کرتے رہے کیا تم کو پہلے ہی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں کہ تم غرور کیا کرتے اور
وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ **وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ**
نازبان تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کچھ

۱۱۔ منکر کی قیامت سے
سوال وجواب

لَا رَيْبَ فِيهَا فُلَنْتُمْ مَا نَدَّ رِجَالُهُمْ السَّاعَةَ إِنْ نُنْظِرُ الْإِنْسَانَ وَ
بھی شبہ نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ ہاں کچھ یوں سادہم تو تم کو بھی گذرتا
مَا خُنُّوا بِمُتَّقِينَ ۝ **وَبَدَّالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ**
نہے۔ مگر بتین ہم لو نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے لوگ مل کرتے رہے ان کی بڑیاں
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمِزُّونَ ۝ **وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسُكُكُمْ**
ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی ہنسی اور اتارے رہے وہ ان پر آنازل ہوگا اور کہہ دیا جائے
كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا كُنتُمْ بِبَالِغِي أَعْيُنِكُمْ قَوْمًا
گامس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلائے رکھا آج ہم بھی تم کو بھلا دیئے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ
نَجِسِينَ ۝ **ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَ**
ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم نے خدا کی آیتوں کی ہنسی بنائی اور دنیا کی
عَمَّرْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ
زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ غرض آج نہ تو یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے
يَسْتَعْتَبُونَ ۝

اور نہ ان کو معذرت کا موقع دیا جائے گا۔

۱۲۔ مشرک کے یثیق کے سوال و جواب جہنم میں

۲۵

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ۝

جتنے کافر سرکش نیکی سے روکنے والے مد سے بڑھے ہوئے دین میں شلوک پیدا کرنے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ

۲۶ ۝ يَا دَايِي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اٰمًا اٰخَرًا لِّقِيٰهٖ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۝

دوسرے عبود ٹھیکر ایک کرتے تھے اب سب کو جہنم میں جھونک دو۔ اور اس کو بھی سخت عذاب میں ڈال دو پھر اس کا ساتھی

۲۷ ۝ قَالَ قَرِيْبُهُ رَا بَنًا مَا اَطْعَمْتُهُ وَّلٰكِنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝

من کرے گا کہ لے ہمارے پروردگار میرے تو اس کو سرکش نہیں بنایا لیکن یہ خود پر لے درجے کی گمراہی میں تھا

۲۸ ۝ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لِدَايِيْ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْيِدِ ۝

خدا فرمائے گا ہمارے حضور میں جھگڑے نہ کرو۔ اور ہم تو تم کو پہلے ہی ڈر سنا چکے تھے۔ ہمارے ہاں بات

۲۹ ۝ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيِّ وَمَا اَنَا بِظَلٰمٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

نہیں بدلی جا یا کرتی۔ اور ہم تو بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتے

۳۰ ۝ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبًا بِشِمٰلِهٖ هٖ يَقُوْلُ بَلِيْتَنِيْ لَمَّا وُتَّ كِتٰبِيْهٖ ۝

اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ ملا ہوتا

۳۱ ۝ وَلَمَّا اَدْرِى مَا حِسَابِيْهٖ ۝ ۳۲ ۝ يَلِيْتُمَا كَانَتِ الْفَاضِيْهٖ ۝ ۳۳ ۝ مَا

اور مجھ کو اپنے حساب کی خبر ہی نہ ہوئی ہوتی کہ کیلے۔ اے کاش مرنے سے میرا فاتر ہو گیا ہوتا۔ میرا مال

۳۴ ۝ اٰخْتٰنِيْ مَالِيْهٖ ۝ ۳۵ ۝ هَلٰكٌ عَنِّيْ سُلْطٰنِيْهٖ ۝ ۳۶ ۝ خُدُوْا ۝

میرے کام نہ آیا۔ مجھ سے میری بادشاہت لٹ گئی۔ اس کو پکڑو اور اس

۳۷ ۝ فَعَلُوْا ۝ ۳۸ ۝ ثُمَّ اٰجِبِيْمْ صَلُوْا ۝ ۳۹ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذُرْعٰمًا

کے گلے میں طوق ڈالو۔ پھر اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ پھر زنجیر سے جس کی ناپ گزروں میں ستر گز

۴۰ ۝ سَبْعُوْنَ ذِرْعًا فَاَسٰكُوْا ۝ ۴۱ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝

یہ خدائے بزرگ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔

۴۲ ۝ وَلَا يَجُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمُسْكِيْنَ ۝ ۴۳ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هِمٰنًا

اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ تو آج یہاں کوئی بھی اس کا

۴۴ ۝ حَمِيْمٌ ۝ ۴۵ ۝ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ عَسَلِيْنَ ۝ ۴۶ ۝ لَا يَأْكُلُهٗ اِلَّا

دستدار نہیں۔ اور زنجیروں کے دھودن کے سوا کھانے کو بھی نہیں یہ کھانا بس گنہگار

الْخٰطُوْنَ ۝

جس کھائیں گے۔

۴۷ ۝ هٰذَا اٰهْوٰنٌ لِّلطٰغِيْنَ لَشَرِّ مَا بُدِ ۝ ۴۸ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا ۝

یہ تو ایک بات ہوئی اور بے شک سرکشوں کے لئے ٹھکانا ہے یعنی اور زنج جس میں وہ داخل ہوں گے

۳۱

۳۱۔ سرکشوں، طاغیوں کو گرم پانی بہا اور طرح طرح کے عذاب

فَيْسَ الْمَهَادُ ۝ هَذَا أَفْلَيْدٌ وَقُوَّةٌ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ۝ ۵۸ ۝ وَآخِرُ

سو وہ بڑا بھوننا ہے۔ یہ عذاب ہے اس کو چکھو کھوت پانی اور پیپ۔ اور اسی قسم کا

مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاجٌ ۝ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ

لرح طرح کا۔ یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ (دوزخ میں) داخل ہونے والی ان کو خوشی

أَنْتُمْ صَالُوا النَّارِ ۝ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْحَبُّونَا بِكُمْ أَنْتُمْ

نہ ہو بے شک وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو۔ تمہیں خوشی نہ ہو جیو۔ تم نے ہی

قَدْ مَقَمُوا لَنَا، فَيْسَ الْقَرَارُ ۝ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا

یہ عذاب ہمارے لئے آگے بھیجا سو وہ بڑی ترادگاہ ہے کہیں گے کہ لے ہمارے پروردگار جس نے یہ عذاب

هَذَا فَرَدَّكَ عِنْدَ آبَا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى

ہمارے لئے آگے بھیجا ہے اُسے آگ میں دُگنا عذاب سے اور کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان آدمیوں

رَأَجَا لَا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝ أَخَذْنَا مِنْهُمُ الْيَمِينِ

کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم شریر گنا کرتے تھے کیا ہم نے انہیں سٹھا ٹھہرایا تھا یا ان کی طرف سے

زَاعَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۝ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلَ النَّارِ ۝

آنکھیں ہی ٹیڑھی ہو گئیں۔ بے شک یہ دوزخیوں کا ہا ہم جھگڑنا حق ہے۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلظَّالِمِينَ مَا بَأْسًا ۝ لِبِئْسَ فِيهَا

بے شک دوزخ گھات میں لگی ہے اور وہی سرکشوں کا ٹھکانا ہے۔ اسی میں ترنوں پڑے

أَحْقَابًا ۝ لَا يَدْخُلُ فِيهَا بَرٌّ وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا

رہیں گے۔ وہاں نہ ٹنڈک کا مزہ چکھیں گے اور گرم پانی اور پیپ کے سوا ان کو کچھ بھی

وَغَسَاقًا ۝ جَزَاءُ رِجْوَانًا ۝ أَنْتُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

نہیں ٹے گا۔ پورا بدلہ یہ لوگ حساب سے نہیں ڈرتے تھے۔

۝ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝

اور ہماری آیتوں کو بڑی بے ہاکی سے جھٹلایا کرتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو قلم بند کر رکھا ہے

۝ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

تو مزہ چکھو اور ہم تو تمہارے لئے عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے

۝ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ

سو جس نے سرکشی کی۔ اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا۔ تو اُس کا ٹھکانا

هِيَ الْمَأْوَى ۝ بس دوزخ ہے۔

۵۸

۵۹

وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَاكَ هُوَ الصَّلُّ الْبَعِيدُ ۝ ۲۲ يَدْعُو مَنْ ضَرُّهُ

اور نہ نفع ہی پہنچائے یہی پرے درجے کی گمراہی ہے اُسے پکارتا ہے جس کا

أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝

نفسان اُس کے نفع سے زیادہ قریب ہے البتہ وہ بڑا دوست ہے اور بڑا ساتھی

۲۱ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

اور آدمیوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور ہدایت اور چمکتی کتاب کے جھگڑاتا

مُنِيرٌ ۝ ۲۲ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا

بے اپنے شانے موڑتا ہے تاکہ اللہ کی راہ سے (لوگوں کو) گمراہ کرے اس کے لئے دنیا میں ہدائی

خُرْمِي وَنَذِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ ۲۳ ذَاكَ بِمَا

ہے اور قیامت کے دن ہم اُسے جلن کا عذاب دکھائیں گے یہ اُس کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے

قَدَّامَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

آگے بھیجا تھا۔ اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

۲۴ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوًّا خَدِيثًا يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو فاضل کرنے والی بات سول لیتا ہے تاکہ بغیر علم کے (لوگوں کو) اللہ

عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ ۲۵ وَإِذَا نُنَادَىٰ

کی راہ سے گمراہ کرے۔ اور اُسے ٹھٹھا بنائے یہی ہیں جن کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے

عَلَيْهِ ائْتِنَا وَتِلْكَ مُسْتَكْبِرًا كَانُوا لَمْ يَسْمَعُوا كَانُوا فِي أذُنَيْهِ وَقَرَّاهُ

اور جب اُس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے گویا اُس نے انہیں سنا ہی

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

نہیں گویا اُس کے کانوں میں گرانی ہے۔ (تو اے نبی) تو اُسے دردناک عذاب کی بشارت دے

۲۶ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ

بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو مبتلائے عیبت کیا پھر توبہ نہ کی ان

عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

کے لئے دوزخ کا عذاب ہے۔ اور ان کے لئے جلن کا عذاب ہے۔

۲۷ آفَتُوا مِمَّنْ بَعْضُ الْكُتُبِ وَتَكَفَرُونَ بِبَعْضِ مَا جَاءَ مِنْ

تو کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو تو جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے اس کی

يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خُرْمًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ

سزا اُس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے

۱۷۔ اللہ کی راہ سے بہکانے والوں کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب۔

۱۸۔ ایمان سے بچلانے والوں کو جہنم۔

۱۹۔ اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کو عذاب جہنم۔

إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ ۱۳

جائیں گے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔
الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ
وَلَكِنَّ هُنَّ لَمَنَ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ۱۴
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝
کیا جائے گا اور نہ وہ مدد ہی کئے جائیں گے۔

۱۳
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ
جہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ان کے لئے نیک ہے اور جنہوں نے اس کی بات نہ مانی ان کے پاس اگر وہ

لَهُمْ مَتَّافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا قِتْدًا وَابَهُ ۝ ۱۴
سارا مال بھی ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی تو وہ ضرور اُسے فدیہ میں دے لیں یہی ہیں جن
لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۝ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝
کے لئے بُرا حساب ہے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بُرا بچھونا ہے۔

۱۴
وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذْرُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝
اور جو ہمارے حکم سے منحرف ہوگا۔ اُسے ہم دوزخ کا عذاب دکھائیں گے۔

۱۵
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَهُمْ عَذَابٌ
بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ انہیں ہدایت نہیں کرے گا۔ اور ان
الْبِيمِ ۝
کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۱۶
ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ النَّارُ ۝ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْآخِرَةِ جَزَاءُ بِمَا
یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے یعنی دوزخ اُس میں ان کے لئے ہمیشہ کا گھر ہے۔ اس کی سزا

كَانُوا يَا بَلِيتْنَا يَجْدُونَ ۝
ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے

۱۷
۸ ۹ ۱۰
۲۲ ۲۲ ۲۲
وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ جَحْتَهُمْ دَاخِرَةً
اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کے بعد بھی کفر کیا گیا جھگڑتے ہیں ان کی دلیل ان کے

۱۸
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝
پروردگار کے پاس کرا رہے ہیں اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے

۲۰۔ اللہ کی آیتوں میں
جھگڑنے والوں کو سخت
عذاب

۲۵

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصْبٍ ۝

اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں جان لیں گے کہ ان کے لئے کہیں جھنکارا نہیں ہے۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يَلْقَى فِي النَّارِ بَئِشَ الْوَجْهِ يُسْتَعْتَبُ مِنْ شَرِّهِمْ فَلْيَسْئَلْهُمْ عَنِ الْجَهَنَّمَ اِنَّهُمْ كَانُوْنَ فِيْهَا رِجَالًا مُّدْبِرِيْنَ عِزَّةً ۝
 بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھے ملتے ہیں وہ ہم پر ٹیڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کیا وہ شخص
 خَيْرًا اَمْ مَنْ يَأْتِي الْاِمْنَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر یا وہ جو نیاست کے دن اس سے آئے گا۔ کافر و اتم جو پہا ہو کر۔ بیشک
 بَصِيْرٌ ۝

۲۱۔ اللہ کی آیتوں میں ٹیڑھا چلنے والوں کو نارا

جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے

۲۶

وَذُرُوا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيْ اَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھے ملتے ہیں۔ انہیں وہ جو کرتے ہیں اس کی سزا دی جائے گی۔
 اِنَّ رَجُلًا مِّنْهُمْ خَلَفْنَا اُمَّةً يُّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَيَكْتُمُوْنَ ۝

۲۲ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا چلنے کی سزا

۲۳

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيْا عَنْهُ

اور ہمیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو حق کی طرف راہ دکھلاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انسان کرتے
 بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم
 سَتَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَتَنَالُهُمُ الْاَنْبِيَاۗءُ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُوْلُ ذُوْ قُوَّةٍ
 اس کو جو انہوں نے کہا اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے لکھ لیتے ہیں اور ان سے ہم کہیں
 عَذَابَ الْحَرِيْبِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَيَكْفُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ
 گئے کہ جن کا خدا اب چکھو۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے

۲۳ اللہ پر اعتراض کرنے والوں اور انبیاء کے قاتلین کو سخت عذاب

لَيْسَ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

اور نیز یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

۲۴

وَاصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ فِيْ سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ ۝

اور بائیں طرف والے کیا ہیں بائیں طرف والے؟ تو اور کھوٹتے پانی میں
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَيَكْفُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ
 اور دھوئیں کے سایہ میں نہ ٹھنڈا ہے اور نہ عورت والا بے شک وہ

۲۴ اصحاب الشمال

۲۵

كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحَبِيْثِ الْعَظِيْمِ

اس سے پہلے خوش میثی میں تھے اور (شکر کے) بڑے گنہگار اور اصرار کیا کرتے تھے
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَيَكْفُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ
 اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے۔ تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے

لَمَبْعُوثُونَ ۝ آوَابًا وَّنَا الْاَوَّلُونَ ۝

جائیں گے؟ یا ہمارے اگلے باپ دادا

۲۵- اللہ اور رسول کی نافرمانی (معیان) کی سزا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے بڑھ چلے تو اللہ اس کو

۲۵- اللہ اور رسول کی نافرمانی (معیان) کی سزا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

دوزخ میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کی مار دی جائے گی۔

۲۶- وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَاتِلْ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝

جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے

۲۷- وَأَمَّا الَّذِينَ نَسَقُوا فَمَا وَهُمْ نَارًا كَلَّمَا أَسْرَأُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا

اور جو لوگ نافرمانی کرتے رہے ان کا ٹککانا دوزخ ہو گا جب اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا

مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِينَ

رہے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس عذاب کو تم جھٹلاتے رہے اب اس

كُنْتُمْ بِهِ تَكذِبُونَ ۝

کے مزے چکھو۔

۲۸- مِمَّا خَطَبْتُمْ أَعْرَقْتُمْ فَأَدْخَلُوا نَارًا هَلْ يَجِدُونَ لِمَنْ قَاتَلَهُمْ مِنْ

اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے غرق کر دیئے گئے پھر دوزخ میں ڈال دیئے گئے۔ اور خدا کے

دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝

سوا کوئی بھی ان کو مددگار نہ پہنچے۔

۲۹- وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝

اور کچھ شک نہیں کہ ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ حد سے بڑھے ہوئے ہیں وہی دوزخی

۳۰- وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝ ۳۱- يَصْلَوْنَ نَارًا يَوْمَ الدِّينِ ۝ ۳۲- وَ

اور بے شک بدکار دوزخی ہیں قیامت کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور

مَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں۔

۳۳- وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سِيعَةٍ مِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۝

اور جنہوں نے بدیاں کیں تو ہدی کی سزا اسی کی برابر ہے۔ اور ذلت ان پر سوار ہوگی اللہ

مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَلْمَاءِ أُعْشِيَتٍ وَجُوهُهُمْ قُطَعَاءٌ مِنَ

سے کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہے گویا ان کے چہرے رات کے کالے ٹکڑوں سے ڈھانپ دئے گئے ہیں

۳۴- وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سِيعَةٍ مِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۝

اور جنہوں نے بدیاں کیں تو ہدی کی سزا اسی کی برابر ہے۔ اور ذلت ان پر سوار ہوگی اللہ

مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَلْمَاءِ أُعْشِيَتٍ وَجُوهُهُمْ قُطَعَاءٌ مِنَ

سے کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہے گویا ان کے چہرے رات کے کالے ٹکڑوں سے ڈھانپ دئے گئے ہیں

۳۵- وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سِيعَةٍ مِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۝

اور جنہوں نے بدیاں کیں تو ہدی کی سزا اسی کی برابر ہے۔ اور ذلت ان پر سوار ہوگی اللہ

اَتَيْلٍ مُّظْلَمًا ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝

وہی دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اسی دوزخ میں رہیں گے

۹۰ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيحَةِ فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تَجْزُونَ اِلَّا

۹۰۔ اور نہ سے سوہنہ ہو کر

۹۰ جو بدی نہیں گئے ان کے سوہنہ آگ میں اور نہ سے گئے جائیں گے تم کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا
مَا كُنْتُمْ لَعْمَلُوْنَ ۝

جو تم کرتے تھے

۱۰۰ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ

۱۰۰۔ سخت عذاب

اور جو لوگ بڑی پامیں چلتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

۱۰۱ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّآحَاطَتْ بِهَا حَبِيْبَتُهُ فَاُوَلِّكَ اَصْحَابُ النَّارِ

۱۰۱ البتہ جس نے بدی کمانی اور اس کی غطاؤں نے ہر طرف سے اُسے گھیر لیا وہی دوزخی ہیں

هُم فِيهَا خٰلِدُونَ ۝

وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے

۱۰۲ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنٰهَا لَوْفَ اَلَيْسَ لَهُمْ فِيْمَا وُودُوْا

۱۰۲۔ اس لئے دنیاں دنیا کو تار

۱۰۲ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا عومن دیں گے۔ اور

۱۰۲ هُمْ فِيْمَا لَا يُخْسِرُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

۱۰۲ اس میں ان سے کسی نہیں کی جائے گی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ

۱۰۲ اِلَّا النَّارُ ۙ وَحَبِيْطٌ مَّا صَنَعُوْا فِيْمَا وُوبِلُوْا كَاٰنُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

نہیں ہے اور جو انہوں نے اس میں کیا ہے وہ اکارت کیا۔ اور جو عمل وہ کرتے تھے رائیگاں ہیں

۱۰۳ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعٰجِلَةَ جَعَلْنَا لَهَا فِيْمَا مَآنَشَا وَاٰلِمٰنٌ تَرْوِيْدُ نَسْمٌ

۱۰۳ اور جو دنیا چاہتا ہے اسے ہم دنیا ہی میں جو چاہتے ہیں جلد سے دیتے ہیں جس کے لئے ہم چاہتے ہیں

۱۰۳ جَعَلْنَا لَهَا جَهَنَّمَ يَغْلِبُهَا مِمَّا مَدَّ حُوْرًا ۝

۱۰۳ ہم اُس کے لئے دوزخ بیکر کرتے ہیں جس میں وہ بڑے مال سے لاندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔

۱۰۴ فَلَا تَلْعَفْ فِيْ مَرْيٰةٍ هٰذَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُوْنَ

۱۰۴۔ مشرکوں کو شرک کی

پوری سزا۔

۱۰۴ تو (اے نبی) ان کی نظر سے نہیں یہ لوگ پوجتے ہیں نہ ہو ان کا پوجنا ویسا ہی ہے جیسے ان

۱۰۴ اٰبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۙ وَاِنَّا لَمَوْقُوْهُمُ نَعِيْبِهِمْ غَيْرَ مُنْقُوْصِيْنَ ۝

۱۰۴ کے اگلے باپ دادا پوجتے تھے اور بے شک ہم انہیں ان کا قصہ بغیر کم کرنے کے پورا دیں گے۔

۱۰۵ وَالَّذِيْنَ تَالَىٰ لِيٰ وَاٰلِدِيْهِ اُوْفٍ تَكْمَلُ اِنْعِدَا اِنِّيْ اَنْ اُخْرِجَ وَقَدْ خَلَقْتُ

۱۰۵۔ ۳۳ قیامت کے مشرکوں

کو پوری جزا۔

۱۰۵ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں تم سے نکالا جاؤں گا

۳۵۔ الدار عیب بین کا انجام

۱/۳۱ و بیل لكل همزة ثمزة ○ ۱/۳۲ ن الذی جمع ما لا وعدده ○

خزالی ہے ہر ایک طند دینے والے نہیں مارنے والے کی۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر

۱/۳۲ یحسب ان ماله اخلده ○ ۱/۳۳ کلا یبندن فی الحظمة

گن کر رکھا۔ جانتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں وہ تو روندنے والی

۱/۳۴ وما ادرک ما الحظمة ○ ۱/۳۵ ناس الله الموقدة ○

میں پھینکا جانے گا۔ اور تو کیا جانے روندنے والی کیا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ

۱/۳۶ التي تظلم علی الاقیدة ○ ۱/۳۷ ائها علیہم موصدة ○

جو دلوں پر جڑ ہتی ہے۔ بے شک ان پر اس کا دروازہ بند کیا گیا

۱/۳۸ فی عمدا مئدة ○

ہے بے ستونوں کی شکل میں

۳۶۔ بے نماز اور نیک ۲۳/۲۴ دیکھو صفحہ ۱۰۷ جلد دوم

قیامت میں نیکی کا بدلہ

۱۔ ہر نیکی کا عوض ملے گا

۱/۳۹ وما نقصدوا لا نفسکم من خیر تجدوا عند الله ان الله

اور جو نیکی اپنی جانوں کے لئے تم آگے بھیجو گے اس کے ثواب کو اللہ کے ہاں پاؤ گے

بما تعملون بصیر ○

بے شک جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے

۱/۴۰ وما یفعلوا من خیر فلن یكفروا ووالله علیہم بالمتقین ○

اور جو نیکی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی اور اللہ متقیوں کو جانتا ہے

۱/۴۱ وما نقصدوا لا نفسکم من خیر تجدوا عند الله هو خیر و

اور جو نیکی تم اپنی جانوں کے لئے آگے بھیجو گے اس کے ثواب کو اللہ کے ہاں اس قدر

اعظم اجرا

پاؤ گے جو بلحاظ اجر بہتر اور بڑھ کر ہے

۱/۴۲ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ○

جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا

۱/۴۳ لیجزیہم الله احسن ما عملوا ویزیدہم من فضله ووالله

تاکر اللہ انہیں ان کے اچھے کاموں کی جزا دے اور اپنے نفل سے انہیں زیادہ دے

۲۔ نیکی کا عوض مقدار مقرر سے زیادہ ملے گا

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

مسا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے

۹۲۸ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا

اور جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس سے بہتر (عوض) ہے۔

۹۲۹ وَمَنْ يَفْزِفْ حَسَنَةً تَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

اور جو نیکی کرے گا اس کو ہم اس نیکی میں خوبی بڑھا دیں گے بے شک اللہ بخشتے والا قدر دان ہے۔

۹۳۰ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

اور اگر وہ نیکی ہے۔ اسے وہ دو چند کر دے گا اور اسے پاس سے بڑا بھاری اجر دے گا۔

۹۳۱ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۝

جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس کا دس گنا (ثواب) ہے

۹۳۲ الْآيَاتُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

مَنْ لَوْ كَرِهَ اللَّهُ لَفَسَدَتِ أُولَئِكَ يَرْزُقُهُمْ مِنْ لَدُنْهُ وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ وَإِنَّهُ يَظُنُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ بِصِيرٌ

۹۳۳ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝

جس دن ہم پر ہمیں گزاروں کو ہمان بنا کر رحمن کی طرف اکٹھا کریں گے

۹۳۴ لَكِنِ ابْنُ اسْتِجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَىٰ ط

اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے پروردگار کو قبول کیا بھلائی ہے

۹۳۵ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ

۔ اُن کی بہت سی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے مگر وہ جس نے صدقہ یا نیکی یا لوگوں کے

أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

درمیان اصلاح کرنے کا مشورہ دیا اور جو اللہ کی رضا چاہنے کے لئے یہ کام کرے گا

۹۳۶ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

اسے ہم بڑا بھاری اجر دیں گے

۹۳۷ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

اور اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔

۹۳۸ وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝

اور ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے

۹۳۹ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْ يُخِزَّ الَّذِينَ آمَنُوا

جو تمہارے پاس ہے نہ بٹ جائے گا اور جو (اجر) اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے اور ہم نہیں

۱۔ نیکی کا اجر دو چہلے گا

۲۔ بعض نیکیوں کا اجر دس گنا ملے گا

۳۔ اولیا کو نہ خوف ہے

۴۔ شقی اللہ کے ہمارے ہیں

۵۔ اللہ کو ملنے والوں کے لئے بھلائی۔

۶۔ خیرات اور نیکی کی اصلاح دینے والوں کو اجر عظیم

۷۔ اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا

۸۔ اصابوں کو اجر

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

مہر کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں کا اجر دیں گے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۝

اور جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم اپنے رستوں پر لگا دیں گے

وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ خَزَائِنُ الْحُسْنَىٰ ۝

لیکن جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کئے اس کے لئے اچھی جزا ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَدْ ذَكَرْنَا وَأَنْتَ وَهُوَ مَوْءُودٌ ۝

اور جس نے نیک کام کئے اور وہ سو من ہے مرد ہو یا عورت۔ ہم اسے ضرور اچھی زندگی دیں

طَيِّبَةً ۝ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

گئے اور انہیں ان کے اچھے کاموں کا ضرور عوض دیں گے

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے انہیں وہ ان کے پورے اجر دے گا

بِزَيْدٍ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۝

اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۝

تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے انصاف سے بدلہ دے

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اپنے فضل سے بدلہ دے

الْكٰفِرِيْنَ ۝

شک و کافروں کو درست نہیں رکھتا۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۝

تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے بدی کی ہے ان کے ملوں کی جزا دے اور جنہوں نے نیکی کی ہے ان کو نیک جزا دے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور نصاریٰ اور بے دین جو بھی ان میں سے اشارہ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

قیامت پر ایمان لائے گا۔ اور نیک کام کرے گا ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ہے اور ان پر نہ خوف ہی ہے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے

۱۱۔ راہ خدا میں محنت کرنے

واپس کی جزا۔

۱۲۔ ایماندار اور نیکوں کو

نیک بدلہ

۱۳۔ ایمان و اہل اور نیکوں

کو عمدہ زندگی۔

۱۴۔ ایماندار اور نیکوں کو

انصاف کے ساتھ پورا

اجرا دے گا۔

۱۵۔ ایماندار نیکو کار بے

خوف و غم ہوں گے

۱۹
۵
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالتَّوَّابُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور بے دین اور نصاریٰ جو کوئی بھی اللہ اور قیامت پر ایمان
باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون

ہائے گا اور نیک کام کرے گا ان پر نہ خوف ہی ہے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے

۱۹
۱۲
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لئے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے کوشش کی اور وہ ایماندار

سَعِيَهُمْ مَّشْكُورًا ۝

ہے ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

۸
۶۶
يَوْمَ لَا يُجْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ

جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ہو کر ایمان لانے والوں کو ذلیل نہیں کرے گا

۸
۶۶
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِنْ قَرَعِ يَوْمِئِذٍ الْمُنُونِ

جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس سے بہتر اجر ہے اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے اس میں ہونگے

۳۷
۲۳
يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

وہ دنیکہ (بے) اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی

۱۸
۴۲
وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔

الْأَعْرَافُ

۱۱
۷۱
وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ

اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اس اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو دونوں کو ان کی صورتوں سے پہچان

وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَكُمُ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ

لینگے اور جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو وہ خود جنت میں نہیں گئے ہوں گے مگر وہ اس کی توقع رکھتے ہوں

يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ

گئے اور جب ان کی نظر دوزخ والوں کی طرف جا پڑے گی تو وہ دہما مٹنے لگیں گے۔ کہ اے ہمارے

قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَى أَصْحَابُ

پروردگار تو ان ظالموں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کیجیو۔ اور اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں ان

الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا آغْنَىٰ عَنْكُمْ

کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں آئے کہ نہ تو تمہارے جتنے ہی کچھ تمہارے کام آئے

۱۴ ایمانداروں کی سعی
آخرت میں ان کے کام
آئے گی

۷ اقیامت میں نبی اور
مومنوں کو ذلت نہ ہوگی
۸ اقیامت میں نیکیوں
کو اس
۱۹ قیامت سے مومن
ڈرتے ہیں۔

۱۱- دوزخ اور جنت کے
درمیان۔ اعراف۔ دہان
سے دونوں طرف کا نظارہ اور
اہل اعراف کی اہل جنت
سے بات چیت

جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ۝ اَهْلُوا الَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا

اور نہ بنائیاں ہی جو تم مارا کرتے تھے۔ اور کیا یہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم نے
 بِنَا لَهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ
 تَحْزَنُونَ ۝

(یہاں) تم پر نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ تمہیں کوئی رنج پہنچے گا۔

جنت

۲۱ ۵۱ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝

تہا را رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمانوں میں ہے

۲۲ ۵۲ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۝ عِنْدَ هَآجِنَةِ الْمَاوٰی ۝

(جنتی نے جبزل کو) سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا جس کے پاس رہنے کی بہشت ہے

۲۳ ۵۳ وَسَآرِعُوآلِی مَعْفَرٰتٍ مِّنْ سَرٰیكُمْ وَجَنَّٰتٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ

اور (تم) اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمانوں اور

وَالْاَرْضُ ۝

زمین کی چوڑائی کی برابر ہے۔

۲۴ ۵۴ وَجَنَّٰتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۝

اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی برابر ہے

۲۵ ۵۵ وَاِذَا سَرَّحْتُمْ سَرَّحْتُمْ نَعِيْمًا وَّمَلَكًا كَبِيْرًا ۝

اور جب تو وہاں نظر ڈالے گا تو نعمت اور ایک بڑی بادشاہت دیکھے گا۔

۲۶ ۵۶ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقْرَرًا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ۝

جنتی اُس دن اچھی قرار گاہ اور بہتر خواب گاہ میں ہوں گے

۲۷ ۵۷ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسْبَتْ مُسْتَقْرَرًا وَّمَقَامًا ۝

بیشک اُسی میں رہیں گے وہ کیا ہی اچھی قرار گاہ اور قیام گاہ ہے۔

۲۸ ۵۸ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ بِمُخْرَجِيْنَ ۝

نہ اُس میں انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ وہ اُس سے باہر نکالے جائیں گے

۲۹ ۵۹ وَذٰلِكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَلَأَ هٰذِهِ الْجَنَّةَ الْخٰزِنَةَ اِنَّ سَآئِلَ الْعٰقِلِيْنَ

اور (جنتی) کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے غم کو دُور کیا ہے شک ہمارا

۲۔ جنت سدرۃ المنتہی

کے پاس ہے۔

۳۔ جنت کی چوڑائی آسمانوں

اور زمین کی برابر ہے

۴۔ جنت میں بڑی

سلطنت ہے

۵۔ جنت آرام کی جگہ ہے

۶۔ جنت میں کسی قسم

کی تکلیف نہیں۔

سُكُوْرًا ۝ ۳۵ ۝ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا

پہرہ و گار بخشنے والا قدر دان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے رہنے کے گھر میں اتارا۔ نہ اُس میں ہیں

فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ۝

کوئی تکلیف چھوتی ہے اور نہ اُس میں ہیں کوئی ماندگی چھوتی ہے۔

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝

نہ اُس میں سورج (کی تپش) دکھیں گے اور نہ کڑا کے کی سردی

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۝

وہ اُس میں سوائے سلام کے اور کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا

وہ اُس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كُنَّا يَا ۝

وہ اُس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھٹلانا

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝

وہ اُس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ

وہ اُس میں سوائے (دنیائی) پہل موت کے اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں

الْجَحِيمِ ۝

دوزخ کے عذاب سے بچائے گا

وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۝

اور رہنے کے باغوں میں ستم سے مکانات

وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۝

اور رہنے کے باغوں میں ستم سے مکانات یہی بڑی کامیابی ہے

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَةً ۝

یہی ہیں جنہیں اُن کے مبر کرنے کے صلے میں بالاخانے دیئے جائیں گے اور اُس میں اُن پر

وَسَلَامًا ۝

دعائے حیات اور سلام ڈالا جائے گا

لَنَبُوْنَهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ عُزُفًا يَّجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۝

بے شک ہم انہیں جنت کے بالاخانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے۔

۷۔ جنت میں گرمی سردی

نہیں۔

۸۔ جنت میں لغو اور بیہودہ

کلمے نہیں۔

۹۔ جنت میں موت نہیں

۱۰۔ جنت میں مکانات

طیبہ

۱۱۔ جنت میں بالاخانے

۱۲۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

۱۳۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

۱۴۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

۱۵۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

۱۶۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

۱۷۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

۱۸۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

۱۹۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

۲۰۔ جنت میں باغوں میں ستم سے مکانات

لَعْمًا أَجْرُ الْعَمَلِينَ ○

مل کرنے والوں کا اجر (کیا ہی) اچھا ہے

وَهُمْ فِي الْعُرْفِ أَعْيُنٌ ○

اور وہ بالا خالوں میں اسن سے ہیں گے

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا سَاءَ لَهُمْ لَهْمٌ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّيْبُتَةٌ ○

لیکن جو اپنے پروردگار سے ڈرے ان کے لئے بالا خانے میں جن کے اوپر اور بالا خانے

بُخْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ○

بے ہوئے ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہیں

عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ○

تختوں پر آٹے سامنے (بیٹھے ہونگے)

مُتَكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَسْرَابِ ○

اس میں تختوں پر تکیے لگائے (بیٹھے) ہوں گے

هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَسْرَابِ مُتَكِسُونَ ○

وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے (بیٹھے) ہوں گے

مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ○

ترتیب سے بیٹھے ہونے تختوں پر تکیے لگائے (بیٹھے) ہوں گے اور ہم انہیں گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ○ مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ○

سونے کے تاروں سے بے ہوئے تختوں پر ہوں گے ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے (بیٹھے) ہوں گے

عَلَى الْأَسْرَابِ يَنْظُرُونَ ○

تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ○

اس میں اونچے تخت ہیں

مُتَكِبِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ دَائِرِينَ ○

ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استبرق تافتے کے ہوں گے اور دونوں باغوں کا پھل ٹھیکاً ہوا ہوگا

مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ خُضْرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ ○

سبز قالینوں اور نفیس چاندنیوں پر تکیے لگائے ہونے ہوں گے

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ○ اور اونچے اونچے فرشوں پر ہوں گے

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ○ اور اونچے اونچے فرشوں پر ہوں گے

۱۲۔ جنت میں تخت

۱۳۔ جنت میں فرش

بیاہریوں کے

۱۵/۸۸ وَ تَسَارِقٌ مَّصْفُوفَةٌ ۝ ۱۶/۸۸ وَ زَكَرَاتٍ مُّبَشَّرَةٌ ۝

اور تکیے میں صف لگائے ہوئے اور سزائیں بچھائی ہوئی

۳۱/۱۸ ۱۳/۲۶ ۵۴/۳۶ ۲۰/۵۲ ۴۱/۵۴ دیکھو جنت میں تخت (عدو-۱۲)

۱۴- جنت میں قالین اور گدے

۱۵- جنت میں تکیے

۵۱/۳۸ مُتَكِبِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ ۝

اس میں تکیے لگائے ہوں گے (اور) اُس میں میوہ اور شربت منگوار ہے ہوں گے

۲۲/۳۲ وَاللَّيْثُكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے

۵۰/۳۸ جَنَّتِ عَدْنُ مَفْتَحَةٌ لَهَا الْبُوابُ ۝

رہنے کے باغ میں جن کے دروازے اُن کے لئے کھلے ہوئے ہیں

۴۲/۳۹ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

یہاں تک کہ جب وہ اُن کے پاس آئیں گے اور اُس کے دروازے کھولے جائیں گے

۳۲/۳۳ ۱۳۵/۳۳ ۱۹۴/۳۳ ۱۱۹/۳۳ ۱۲/۵۴ ۱۱/۸۵ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

باغ میں جن کے (درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہیں

۱۷- جنت میں نہریں

۲۵/۲۲ ۱۹۲/۲۲ ۱۳/۲۲ ۵۴/۲۲ ۱۲/۲۲ ۸۵/۲۲ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

باغ میں جن کے (درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہیں

۲۲/۲۲ ۱۶/۲۲ ۲۲/۲۲ ۱۲/۲۲ ۲۲/۲۲ ۱۶/۲۲ ۵/۲۲ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور جو کچھ کہ دہت اُن کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے ہوگی ہم اسے نکال لیں گے اُن کے نیچے نہریں

۱۰/۱۰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ التَّعِيمِ ۝

نعت کے باغوں میں ان کے (مکانات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی

۲۵/۱۳ مِثْلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۝ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اس جنت کی مہفت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اُس کے (درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہیں

۳۱/۱۶ جَنَّتِ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

رہنے کے باغ میں جن میں وہ داخل ہوں گے اُن کے (درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہیں

۳۱/۱۸ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وہ لوگ ہیں کہ اُن کے لئے رہنے کے باغ ہیں اُن کے (مکانات کے) نیچے نہریں جاری ہیں

۴۶/۲۲ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝

رہنے کے باغ میں اُن کے (درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہیں

نیچے نہریں جاری ہیں

۳۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے بالا خانوں میں جگہ

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ریں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی

۴۰ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَكُفْرًا

بے شک متقی باغوں اور نہریں ہوں گے

۴۱ وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ

اور اُٹھلتے ہوئے پانی میں ہوں گے

۴۲ جَزَاءُ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے ہاں رہنے کے باغ ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں

۴۳ مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

اُس جنت کی مثل جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اُس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں بد نہیں

۴۴ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّوٍ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرَابِ

اور دھکی نہریں ہیں جس کا ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہے اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت

۴۵ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

دینے والی ہیں اور صاف کئے ہوئے شہد کی نہریں ہیں

۴۶ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَكُفْرًا

بے شک متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے

۴۷ فِي جَهَنَّمَ وَكُفْرًا

باغوں اور چشموں میں

۴۸ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

ان دونوں جنتوں میں دو چشمے جاری ہیں

۴۹ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَاتٍ

ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ابل رہے ہیں

۵۰ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے کہ اُسے پالے جائیں گے

۵۱ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا

وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے

۱۸۔ جنت میں پانی کے

غدادہ دودھ - مزیدار

شراب اور صاف شہد

کی نہریں -

۱۹۔ جنت میں چشمے

۲۱ ۲۷ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝	
۲۲ ۲۸ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝	
۲۳ ۲۹ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝	۲۰۔ جنت کے پانی میں کا نور پلا ہوگا
۲۴ ۳۰ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝	۲۱۔ جنت کے پانی میں زنجبیل
۲۵ ۳۱ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝	۲۲۔ جنت کے پانی میں تسلیم
۲۶ ۳۲ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝	۲۳۔ جنت کی شراب پر مشک کی مہر
۲۷ ۳۳ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۝ خِتْمُهُ مِسْكَ ۝ وَفِي ذَلِكَ	
۲۸ ۳۴ فَلْيَتَنَفَّسِ الْمُتَنَفِّسُونَ ۝	
۲۹ ۳۵ كَلِمَاتٍ سُرَّتْ لِقَوْمِهِمْ مِنَ الْأَمْثَانِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ	۲۴۔ جنت میں ورق
۳۰ ۳۶ أَكْهَادًا لَكُمْ وَظِلْمًا ۝	
۳۱ ۳۷ وَلَهُمْ فِيهَا مِزَاجٌ بَدِيعٌ ۝	
۳۲ ۳۸ إِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ ۝	
۳۳ ۳۹ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا لَهُ مِنْ قَدَرٍ ۝	
۳۴ ۴۰ بِئْسَ مَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ مُنْقَلَبًا ۝	

۴۳ ۱۱۱ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

سو وہی جنت میں داخل ہوں گے اس میں وہ بے حساب روزی دیئے جائیں گے۔

۴۵ ۱۱۲ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ سِرًّا ۝

اللہ نے اس کے لئے اچھی روزی رکھی ہے۔

دیکھو جنت میں لذا یندرمانی۔

۴۶ ۱۱۳ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

کھاؤ اور پیو خوش گواریں اس کا جو تم کرتے تھے۔

۴۷ ۱۱۴ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

کھاؤ اور پیو خوش گواریں اس کا جو تم نے زمانہ گذشتہ میں آگے بھیجا ہے

۴۸ ۱۱۵ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

اور وہی طرف والے کیا ہی پیسے ہیں وہی طرف والے بغیر کانٹوں کی بیڑیوں میں۔

۴۹ ۱۱۶ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ

اور تہ برتہ کیلوں میں

۵۰ ۱۱۷ فِيهِمَا قَائِمَةٌ وَتَخُلُّ وَسْرْمَانٌ ۝

ان دونوں جنتوں میں میوہ ہے اور کھجور کے درخت اور انار

۵۱ ۱۱۸ حَدَائِقٍ وَأَعْنَابًا ۝

باغ ہیں اور انگور

۵۲ ۱۱۹ لَهُمْ فِيهَا قَائِمَةٌ وَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ۝

ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور نیز ان کے لئے جو وہ مانگیں گے

۵۳ ۱۲۰ قَوَائِمٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۝

میوہ ہے اور ان کی عزت کی جائے گی

۵۴ ۱۲۱ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

وہ اس میں تکبر لگانے ہوں گے اور اس میں میوے اور شربت منگاتے ہوں گے

۵۵ ۱۲۲ لَكُمْ فِيهَا قَائِمَةٌ كَثِيرَةٌ مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝

تمہارے لئے اس میں بہت قسم کا میوہ ہے جس میں سے تم کھاؤ گے

۵۶ ۱۲۳ يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۝

وہ اس میں امن و امان کے ساتھ ہر ایک قسم کا میوہ منگائیں گے

۵۷ ۱۲۴ وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۝ اور ان کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔

۲۵- جنت میں رزق کریم

۲۶- جنت میں اکل و شرب

۲۷- جنت میں بیڑیاں

۲۸- جنت میں کیلے

۲۹- جنت میں کھجوریں

اور انار

۳۰- جنت میں انگور

۳۱- جنت میں ہر قسم کا

میوہ

۱۸
۵۲ ۱۸
فَاَكِهِنَّ بِمَا اَتَاهُمْنَ وَاَوْقَاهُمْنَ سَرَابًا وَاَوْقَاهُمْنَ سَرَابًا وَاَوْقَاهُمْنَ سَرَابًا وَاَوْقَاهُمْنَ سَرَابًا

اس چیز کی جو ان کے پروردگار نے انہیں دی ہے اور نیز اس کی کہ انہیں ان کے پروردگار نے دوزخ کے عذاب سے

۲۲
۵۲ ۲۲
وَاَمَّا ذُنُوبُهُمْ فَاَكِهِنَّ وَاَكِهِنَّ وَاَكِهِنَّ وَاَكِهِنَّ وَاَكِهِنَّ وَاَكِهِنَّ

اور ہم انہیں سیودوں اور گوشت کے ساتھ جس قسم کا وہ چاہیں گے مدد دیں گے

۵۲
۵۲ ۵۲
فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاَكِهِنَّ زَوْجَانِ ۝

ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہیں

۶۱
۵۵ ۶۱
فِيهِمَا فَاَكِهِنَّ وَنَخْلٌ وَرَمَاطٌ ۝

ان دونوں جنتوں میں میوہ ہے اور کھجور کے درخت اور انار

۲۱
۵۶ ۲۱
وَفَاَكِهِنَّ وَمَا يَخْتَرُونَ ۝

اور سیودوں کے ساتھ جس قسم کے وہ پسند کریں گے

۲۲
۵۶ ۲۲
وَفَاَكِهِنَّ كَثِيرَةً ۝ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝

اور کثیر سیودوں میں ہوں گے جو نہ بند کئے گئے اور نہ روکے گئے

۲۲
۵۶ ۲۲
وَقَوَائِمٌ وَمَا يَشْتَرُونَ ۝

اور سیودوں میں ہوں گے جس قسم کے وہ چاہیں گے

۵۲
۵۵ ۵۲
وَجَنَّاتٍ دَانٍ ۝

اور دونوں جنتوں کا میوہ جھکا ہوا ہے

۲۲
۶۶ ۲۲
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝

اونچے باغ میں اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے

۱۴
۶۶ ۱۴
وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذَلَّتْ قَطُوفُهَا تَدْلِيلًا ۝

اور ان پر اس کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے نزدیک کئے ہوئے ہوں گے

۲۸
۵۵ ۲۸
ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۝

وہ دونوں جنتیں شاخوں والی ہیں

۶۲
۵۵ ۶۲
مُدَاهَا مَتْنٌ ۝

وہ دونوں جنتیں نہایت سبز ہیں

۵۴
۶۴ ۵۴
وَتَدْلِيلًا ظِلُّهَا ۝

اور ہم انہیں بسے گئے سایہ میں داخل کریں گے

۲۵
۱۳ ۲۵
أَكْلَاهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۝

اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے

۳۲ جنت کے میوے
جھکے ہوئے ہیں۔

۳۳ جنت کے درخت
گنجان ہیں

۳۴ جنت کے درخت
گہرے سبز ہیں

۳۵ جنت میں سایہ

۵۶
۳۶ ھُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَكِبُونَ ۝

وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے (بیٹھے) ہوں گے

۵۷
۳۷ وَظِلِّ مُدَوِّدٍ ۝

اور پھیلے ہوئے سایہ میں ہوں گے

۵۸
۳۸ وَذَانِبَةٍ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا

اور ان کے سائے ان کے قریب میں

۵۹
۳۹ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۝

بے شک متقی سایوں اور چشموں میں ہوں گے

۶۰
۴۰ وَأَمَّا دَرَاهِمُهُمْ بَعْدَ كَهْفِهِمْ ذُرَّاتُ الْحَبِّ ذُرًّا مِمَّا يَنتَهُونَ ۝

اور ہم انہیں سیوہ اور گوشت سے جس قسم کا درد چاہیں گے مدد دیں گے

۶۱
۴۱ وَحُكْمٍ ظَائِرٍ مِّمَّا يَنتَهُونَ ۝

اور بزدلوں کا گوشت جس قسم کا درد چاہیں گے

۶۲
۴۲ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝ بِبَيْضَاءَ لَدَّةٍ تَلْشُرِبِائِنَ ۝

ان پر تھمرے پانی کا پیالہ لگایا جائے گا جو سفید رنگ چینی والوں کو مزہ دینے والا ہوگا۔

۶۳
۴۳ مُتَكِبِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِعَافٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَّابٍ ۝

وہ اس میں تکیے لگائے (بیٹھے) ہوں گے اس میں سیوہ اور شربت منگاریے ہوں گے

۶۴
۴۴ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَعْوَفُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝

وہ اس میں ایک دوسرے سے پیالہ جھپٹ رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بیہودگی اور نہ کوئی گناہ

۶۵
۴۵ يَا كُوفٍ وَأَبَا رَيْثٍ ۝ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝

وہ (لڑکے ان پر) آنجورے اور تمٹیاں اور تھمرے پانی کے پیالے لئے پھر رہے ہوں گے

۶۶
۴۶ وَسَقَمُهُمْ سَرَابُهُمْ شَرَّابًا طَوْرًا ۝

اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ شربت پلانے گا۔

۶۷
۴۷ وَكَأْسٍ هَاقَا ۝

اور (ان کے لئے) چھلکتا پیالہ ہے

۶۸
۴۸ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۝

نہ اس (شراب) میں خرابی ہے اور نہ وہ اس سے بیہودہ کیس گے

۶۹
۴۹ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَعْوَفُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝

وہ اس میں ایک دوسرے سے پیالہ جھپٹ رہے ہوں گے جس میں نہ بیہودگی اور نہ کوئی گناہ کی بات

۳۸- جنت میں پرندوں کا گوشت

۳۹- جنت میں صاف شراب کا دور

۳۸- جنت کی شراب سے بیہوشی- پیکنا اور درد سر نہیں۔

۲۰
۵۶ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۝

اُس سے نہ انہیں درد سر ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ

اور وہ سبز پارک ریشم کے کپڑے پہنیں گے

۲۲
۳۵ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

اور اُس میں اُن کی پوشاک ریشمی ہوگی

۲۳
۳۴ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۝

وہ باریک اور دبیز ریشم پہنے آسنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

۲۴
۲۶ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ۝

اور اُن کے صبر کرنے کا صلہ انہیں بہشت اور ریشم ملے گا

۲۵
۲۷ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۝

اُن پر باریک سبز ریشم اور تانے کا لباس ہوگا

۲۶
۲۸ يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ آسَافِ مِسْكِ ذَهَبٍ

وہ اُس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے

۲۷
۲۹ يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ آسَافِ مِسْكِ ذَهَبٍ وَأَلْبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

وہ اُس میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اُس میں اُن کی پوشاک ریشمی ہوگی

۲۸
۳۰ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ آسَافِ مِسْكِ ذَهَبٍ وَأَلْوَانٍ ۝

رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے

۲۹
۳۱ وَحُلُوعًا مِنْ أَسَافِ مِسْكِ ۝

اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے

۳۰
۳۲ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۝

اُن پر سونے کی رکابیاں اور آبخورے گھمائے جائیں گے

۳۱
۳۳ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝

اور اُن پر چاندی کے برتن اور آبخورے گھمائے جائیں گے جو شیشے جیسے ہوں گے

۳۲
۳۴ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَامُهَا نَقَدِيرًا ۝

چاندی کے بنے ہوئے شیشے جیسے انہوں نے ان کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے

۳۳
۳۵ وَأَكْوَابٌ مُوَضَّعَةٌ ۝

اور آبخورے رکھے ہوئے ہیں

۳۳۔ جنت میں دبیز اور
بین ریشم کا سبز لباس

۳۴۔ جنت میں چاندی
سونے کے کنگن اور
موتیوں کے ہار

۳۵۔ جنت میں چاندی
سونے کے پیالے
اور رکابیاں

۲۵ ۲۴ لَمْ يَمْسَسْهُمُ مِنْهَا زَوْجٌ مُصْطَهَرَةٌ

اس میں ان کے لئے پاک بیویاں ہیں

۲۴ ۲۳ وَازْوَاجُهُمْ مُصْطَهَرَةٌ

اور پاک بیویاں ہیں

۳۸ ۳۷ وَعِنْدَهُمْ قِصِرَاتٌ الظَّرْفِ عَيْنٌ ۰ ۳۶ ۳۵ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ۰

اور ان کے پاس نیچی نظر رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی مہمٹی ہوں گی گویا وہ چھپائے ہوئے انگلیوں میں

۳۸ ۳۷ وَعِنْدَهُمْ قِصِرَاتٌ الظَّرْفِ اَنْزَابٌ ۰

اور ان کے پاس نیچی نظر رکھنے والی ہم عمر مہمٹی ہوں گی

۳۸ ۳۷ كَذَلِكَ تَنْزِيلُهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ۰

اسی طرح ہوں گے اور ہم ان کو گوری اجبی آنکھوں والیوں سے بیاہ دیں گے۔

۲۰ ۱۹ وَزَوْجُهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ۰

اور ان کو گوری اجبی آنکھوں والیوں سے بیاہ دیں گے

۵۶ ۵۵ فَمِنْ قِصِرَاتِ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۰

ان (جنٹیوں) میں نیچی نظر رکھنے والی ہیں ان سے پہلے ان کے نزدیک نہ کوئی انسان ہوا ہے اور نہ کوئی

۵۶ ۵۵ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۰

جن۔ گویا وہ یاقوت اور سوئے ہیں۔

۵۶ ۵۵ فَبَيْنَ خَيْرَاتِ حِسَانٍ ۰

ان میں اجبی خوبصورت عورتیں ہیں۔

۵۶ ۵۵ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْحَيَاةِ ۰ x x x ۵۴ ۵۳ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ ۰

ان سے پہلے ان کے

گورے رنگ والی خیموں میں بھیٹی ہیں

۵۶ ۵۵ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۰

نزدیک کوئی انسان ہوا ہے اور نہ کوئی جن

۲۳-۲۲ ۵۶ ۵۷ وَحُورٌ عَيْنٌ ۰ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۰

لہر گوری اجبی آنکھوں والی ہیں جیسے چھپائے ہوئی

۳۶ ۳۵ اِنَّا اَنْشَاْنَهُنَّ اِنْشَاءً ۰ ۳۴ ۳۳ فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا ۰ ۳۲ ۳۱ عُرُبًا

ہم ان کو ایک نئی پیدائش میں پیدا کریں گے۔ تو ہم انہیں کنواری بنادیں گے۔ سہاگ والی

۳۲ ۳۱ اَنْزَابًا ۰ ۳۰ ۲۹ لِاصْحَابِ الْيَمِينِ ۰ ۲۸ ۲۷ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاَوْلِيَيْنِ ۰

ہم عمر دہنی طرف والوں کے لئے۔ جماعت کثیر ہوگی پہلوں میں سے

۱۰ وَثَلَّةٌ مِّنَ الْأَخْرَبِ ۝

اور جماعت کثیر پھلوں میں سے

۱۱ وَكَوَاعِبٌ أَشْرَابًا ۝

اور اُبھری پستان والی ہم عمر ہیں

۱۲ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۝

اور اُن پر اُن کے خادم پھرتے ہونگے گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں

۱۳ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝

اُن پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے گشت کرتے ہوں گے

۱۴ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا سَأَلْتَهُمْ حَسِبْتُمْ لَوْ لُؤْلُؤًا

اور اُن پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے گشت کرتے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو تو انہیں

مَکْنُونًا ۝

بکمرے ہوئے موتی خیال کرے گا

۱۵ فِي جَنَّاتٍ التَّوَعِيمِ ۝

نست کے باغوں میں

۱۶ وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ سَأَلْتَهُمْ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝

اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعت اور بڑی بادشاہی دیکھے گا

۱۷ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

سو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔

۱۸ جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا

رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اُن کے (درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی اُن کے

يَشَاءُونَ ۝ كُنْ لَكَ يَجْرِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝

لئے اُس میں وہ جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ یوں اللہ متقیوں کو عوقص دیتا ہے۔

۱۹ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۝ كَانَ عَلَىٰ سُرَابٍ وَعَدًّا ۝

اُن کے لئے اُس میں جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا ہمیشہ اُسی میں رہیں گے یہ تیرے پروردگار کے ذمے وعدہ ہے جسے

۲۰ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۝ لَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۝

اُن کے لئے اُس میں سیوہ ہے اور نیز اُن کے لئے ہے جو وہ چاہیں گے۔

۲۱ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ۝ عِنْدَ سُرَابٍ ۝

اُن کے لئے جو وہ چاہیں گے اُن کے پروردگار کے ہاں موجود ہے

۲۲۔ جنت میں غلمان

۲۵۔ جنت میں نعت

۲۶۔ جنت میں پسندیدہ عیش۔

۲۷۔ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔

۲۸۔ جنت میں

۳۱ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

اور تمہارے لئے اُس میں وہ چیز ہے جس کو تمہارے دل چاہیں گے اور نیز تمہارے لئے اُس میں وہ چیز ہے جو تم مانگو گے

۳۲ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۝

اور اُس میں وہ چیز ہے جو دل چاہیں گے اور (جس سے) آنکھیں لذت پائیں گی۔

۳۵ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

اُس میں اُن کے لئے وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس زیادہ ہے۔

۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

۳۸۔ جنتیوں کو خلود۔

۱۳ خَلِيدِينَ فِيهَا ۝

ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۱۴ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۱۸ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اُس سے لٹکانہ چاہیں گے۔

۱۵ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ

(اے نبی) پوچھ بھلائیہ (عذاب) بہتر ہے۔ یا وہ ہمیشہ کا باغ جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ اُن کا صلہ

جزاؤ و مصیروا ۝ ۱۶ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِيدِينَ ۝

ہے اور بننے کی جگہ۔ اُن کے لئے اُس میں وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے۔ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۲۹ خَلِيدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ (بیزدیکھو ۱۳۵)

ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔

۳۹ فَادْخُلُوهَا خَلِيدِينَ ۝

سو تم اُس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو۔

۴۱ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور تم اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔

۴۵ إِنَّا دَخَلُوهَا بِسَلَامٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝

اُس میں اسن سے داخل ہو۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے۔

۱۰۸ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ

دلیکن جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جب تک آسمان اور زمین

۳۹ جنتیوں کو غیر منتقل

بخشش

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ دَعَاءٌ غَيْرُ مَجْدٍ وَذِي ۝

قائم ہیں۔ مگر جس قدر تیرا پروردگار چاہے۔ یہ بخشش ہے جو بند نہیں ہوگی۔

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۝

اُس میں سلامتی سے امن کے ساتھ داخل ہو۔

بِنِ اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝

اُس میں سلامتی سے داخل ہو۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے۔

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝

یہ اے دہنی طرف والے تیرے لئے سلامتی ہے۔

دَعَاؤُهُمْ فِيهَا بِنِعْمَتِكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

اُس میں اُن کا قول ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ اور اُس میں اُن کی دعا سلام ہوگی۔

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

اُن کی دعا اُس میں سلام ہوگی۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۝

وہ اُس میں سوائے سلام کے کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔

أُولَٰئِكَ يَجْزُونَ الْعَرْشَةَ بِصَابِرٍ وَأُولَٰئِكَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ ۝

یہی ہیں جنہیں اُنکے صبر کرنے کے بدلے بالا خالے دئے جائینگے اور وہاں اُنکو زندگی اور سلامتی کی دعا دی جائے گی۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۝

اُن کی دعا جس دن وہ اُس سے ملیں گے سلام ہوگی۔

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝

مگر سلام سلام کہا جائے گا۔

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَ

اور اُن دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اُن کی علامت سے

نَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمَّا دَخَلُواهَا وَهُمْ يُطْمَعُونَ ۝

پہچان لیں گے اور جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو وہ اُس میں داخل نہیں ہوئے ہونگے اور وہ طمع کرتے ہوئے

وَالْمَلَائِكَةُ يُدْخِلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ بِمَا

اور فرشتے اُن پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور (کہیں گے کہ) تم پر سلام ہو اس لئے

صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ الدَّارِ ۝

کہ تم نے صبر کیا تھا۔ سو آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔

۵۱۔ جنتیوں کو امن امان اور سلامتی۔

۵۲۔ جنتیوں کو باہم ایک دوسرے کا سلام۔

۵۲۔ جنتیوں کو اعراف والوں کا سلام۔

۵۳۔ جنتیوں کو فرشتوں کا سلام۔

۵۴ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُجِعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهَا مَخْرُجَاتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اسکے دروازے کھول دے جائیں گے اور اس کے مداخلت ان کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے تم خوشحال ہوئے

۵۵ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ

(انہیں اپنے دروازہ پر ہریان کی لڑت سے سلام کہا جائے گا۔

۵۶ وَمِنْ ضُحَاكٍ مِّنَ اللّٰهِ

اور اشد کی لڑت سے رضامندی ہے۔

۵۷ رَاضِي اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

الشد ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی۔

۵۸ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَبِحَضْرَتٍ مِّنْ جَنَّةٍ لَّهُمْ

ان کا پروردگار ان کو اپنی ہر بانی اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی خوش خبری دیتا ہے جن میں

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

ان کو دائمی ناستش ملے گی۔

۵۹ وَمِنْ ضُحَاكٍ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ

اور اشد کی لڑت سے رضامندی بڑی چیز ہے

۶۰ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْتٍ مِّنْ سَرَابٍ مِّمَّنْ زُيِّنَ لَهُ سُورَةُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا

نبلادہ شخص جو اپنے پروردگار کی لڑت سے سند پر ہے اس شخص کی برابر ہو سکتا ہے جس کو اس کے بڑے بل

أَهْوَأْتُهُمْ ۚ وَآمَنُوا بِمَا أُكْفِرُوا بِهِ وَهُمْ كَالْحَمَلِ الضَّالِّينَ ۚ وَآمَنُوا بِمَا أُكْفِرُوا بِهِ وَهُمْ كَالْحَمَلِ الضَّالِّينَ ۚ

پہچے کر کے دکھائے گئے وہ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس منت کی منت جس کا سقیوں

غَيْرِ اسِنَّةٍ وَأَنَّهُمْ كَالْحَمَلِ الضَّالِّينَ ۚ وَآمَنُوا بِمَا أُكْفِرُوا بِهِ وَهُمْ كَالْحَمَلِ الضَّالِّينَ ۚ

سے و گنہگاریا ہے۔ یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دینے والی ہیں مگر ان کے

لِلشَّرِيبِ ۚ وَآمَنُوا بِمَا أُكْفِرُوا بِهِ وَهُمْ كَالْحَمَلِ الضَّالِّينَ ۚ وَآمَنُوا بِمَا أُكْفِرُوا بِهِ وَهُمْ كَالْحَمَلِ الضَّالِّينَ ۚ

ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ اور ان کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے پروردگار کی لڑت

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا

سے مغفرت ہے تو کیا ایسے اشخاص ان لوگوں کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے

فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔

۶۱ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہیں جو جنتی ہیں وہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں

۵۷ جنتیوں کی ہونزخیں
سے بت چیت

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ إِنَّ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا

۵۷ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہم سے ہمارے پروردگار نے کیا تھا ہم نے اس کو سچ پایا
حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّ سُودَانَ
تھنے بھی اس وعدے کو سچ پایا جو تم سے تمہارے پروردگار نے کیا تھا وہ جواب دیں گے ہاں پھر ان کے مدعیان
بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
لیک پکارنے والا پکار لگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس
اللَّهُ وَيَبْغُونَ نَهَا عِوَجًا ۝ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۝

میں کبھی ڈھونڈتے ہیں۔ اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

۵۸ جنتیوں کی باہمی
گفتگو

أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ۝ إِنَّكَ

گھردلوں میں ڈرا کرتے تھے۔ سو اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور ہمیں گرم ٹوکے عذاب سے بچایا۔

كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

بے شک ہم پہلے (دنیا میں) اُس کو پکارا کرتے تھے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی احسان کرنے والا مہربان ہے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي وَيُخَيِّمُونَ الْأَنْهَارَ وَقَالُوا

اور جو کینہ ایک دوسرے کی طرف سے اُن کے دل میں ہو گا ہم اُس کو نکال دیں گے۔ اُن کے دمکانات کے پتے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا أَقْبَرُ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ

نہیں جاری ہوئی اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی اور ہم راہ پر نہیں آ

هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَتْلُوا

سکتے تھے۔ مگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرنا کچھ شک نہیں کہ ہمارے پروردگار کے رسول بھی بات لے کر آئے تھے۔ اور اُن

الْبَحْرَةَ أَوْ تَرْتَمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

کونادھی جانے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بدلہ اُس کا جو نیک کام تم کیا کرتے تھے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝

اور جو کینہ ایک دوسرے کی طرف سے اُن کے دلوں میں ہو گا ہم وہ نکال دیں گے تمہوں پر اتنے سلنے بجائی بنے بیٹھے ہوں گے۔

لَا يَبْشُرُهُمْ فِيهَا نُصَبٌ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

نہ انہیں اُس میں تکلیف چھوئے گی اور نہ وہ اُس سے باہر نکالے جائیں گے۔

وَنُودُوا أَنْ تَتْلُوا الْجَنَّةَ أَوْ تَرْتَمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور اُن کو نادھی جانے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بدلہ اُس کا جو نیک کام تم کیا کرتے تھے۔

بَدَلُ ۝ ۱۴ ۝ ۱۳ ۝ ۱۲ ۝ ۱۱ ۝ ۱۰ ۝ ۹ ۝ ۸ ۝ ۷ ۝ ۶ ۝ ۵ ۝ ۴ ۝ ۳ ۝ ۲ ۝ ۱ ۝

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝

اور یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بدلہ اُس کا جو نیک کام تم کیا کرتے تھے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

خوش گوار کھاؤ اور پیو۔ بدلہ اُس کا جو تم کیا کرتے تھے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

خوش گوار کھاؤ اور پیو۔ بدلہ اُس کا جو تم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیجا ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۝

کیا تم نے یہ خیال جہاں کھلے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حال انکا ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو ان پر آئی تھی جو

۵۹ جنتیوں کے دلوں

میں ایک دوسرے سے
کینہ نہ ہو گا۔

۲۴
۱۵

۶۰۔ جنت اعمال کے
عوض ملے گی۔

۶۱۔ بغیر امتحان میں پورا اترے
جنت کی طبع نہیں چاہتے

مَسْتَنَّمُ الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَرَزَقْنَاكَ يَوْمَكَ الْوَاخِتِ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اُن کو محتاجی اور تکلیف نے پکڑا تھا۔ اور وہ خوب ہلائے گئے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ

الْمُؤَامَعَةُ مَتَى نَصَرَ اللَّهُ الْآرَانَ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبًا ۝

وہ لوگ جو اُس کے ساتھ ہو کر ایمان لائے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے

جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟

۲۵ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اور جو لوگ ایمان لائے۔ اور انہوں نے نیک عمل کئے۔ اُن کو خوشخبری سنا دے کہ اُن کے لئے باغ ہیں تلے نہریں

الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ

بہر رہی ہوں گی جب ان کو وہاں کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہم کو پہلے بھی مل چکا ہے۔ اور اُن کو

قَبْلُ وَأُنُوبِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزَالٌ مُطَهَّرٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ایک ہی صورت سے ملا کریں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیاباں ہوں گی۔ اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

۲۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے۔ وہی لوگ جنتی ہیں۔ اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

۲۷ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ ان کا ثواب ان کے

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

پر مددگار کے ہاں ان کو ملے گا۔ اور اُن پر نہ خوف ہو گا۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

۲۸ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اور جو لوگ ایمان لائے۔ اور انہوں نے نیک کام کئے۔ ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَنْزَالٌ مُطَهَّرٌ وَهُمْ فِيهَا

جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ اُن میں رہیں گے۔ اُن کے لئے وہاں پاک بیاباں ہوں گی

ظِلًّا ظِلِيلًا ۝

اور ہم اُن کو گھنی گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔

۲۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم عنقریب ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے

۱۔ مومنین جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔

۲۹

الْأَنْبِيَاءِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا أَوْ عَدَلَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝

نہریں رہیں ہوں گی وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا ہکا دھدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سہا کرنا؟
 ۲۱۱
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
 اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو۔ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝

گے اور زبرد بھی ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔

۲۱۲
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور ہم کسی شخص کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف توڑتے
 أَهْلُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

نہیں یہی لوگ جنتی ہیں وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں پہنچ ہو گا وہ ہم نکال

هَمْرٍ مِنْ غُلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

دیں گے جان کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس کا رستہ

هَدَانَا لِهَذَا وَقَدْ كُنَّا لِنَمْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ

دکھایا۔ اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا۔ تو ہم راہ نہ پاتے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول

جَاءَتْ رُسُلًا رَبَّنَا بِالصَّحِّحِ وَتَوَدُّوا أَنْ تَلَكُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رِثْمَهَا

حق لے کر آئے تھے اور ان لوگوں کے پکار کر کہہ دیا جائے گا۔ یہی وہ جنت ہے کہ تم ان عملوں کی

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

بدولت جو تم کرتے تھے اس کے وارث قرار دئے گئے ہو۔

۲۱۳
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتَهُ

سچے مسلمان تو ہیں وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب آیت الہی

عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

ان کو بڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں۔ اور (بہر حال میں) اپنے پروردگار سے

يُتَّقُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے اور ہم نے جو ان کو معذی دی ہے اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَسِعْرَةٌ لِيُزَكَّيَ

جی ہیں سچے ایمانداران کیلئے ان کے پروردگار کے ہاں درجے ہیں اور (گنہوں کی معافی) اور عزت اور آبرو کی روزی ہے

وَعَدَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے اللہ نے باغوں کا دھدہ کر لیا ہے جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں

خَلِيدِينَ فِيهَا وَمَلَائِكَةٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَوْسَوَانِ مِنَ اللَّهِ

ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دائمی بہشت میں عمدہ عمدہ مکانوں کا۔ اور خدا کی خوشنودی سب سے
اکبراً ذلک هو الفوز العظيم ○

بڑا کر سہ۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔

۹
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِي يُهِيمُ رَبُّهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَجَرَّوْا

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے انہیں ان کے ایمان کے باعث ان کا پروردگار

۱۰
مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارِ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ○ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ

راہ دکھاے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ وہاں بول اٹھیں گے کہ بار خدایا تیری نعمت پاک ہے اور وہاں

اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأُخْرَدُ عُرْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

ان کی دعا خیر سلام ہوگی اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ہر طرح کی حمد خدا ہی کیلئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے

۱۱
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کرتے رہے ہیں یہی جنتی لوگ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

ہیں یہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔

۱۲
أَنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ○ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ

ہیں وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو سمجھ مار ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کر

لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ○ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن

لیا اس کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اقرار کو نہیں توڑتے۔ اور وہ لوگ کہ خدا نے جن تعلقات کے جوڑے رکھنے

يُؤْصَلُ وَيُجْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ○

کا علم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے اور قیامت کو بڑی طرح حساب لے جانے کا اندیشہ رکھتے

۱۳
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا

اور جنہوں نے اپنے پروردگار کا منہ کر کے صبر کیا۔ اور نمازیں پڑھیں اور تم نے جو ان کو رزق دیا تھا اس میں

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُورُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ

سے چپے اور ظاہر خرچ کیا۔ اور برائی کے مقابلے میں نیکی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کی دنیا

لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ○ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

کا انجام ہے۔ (یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ خود رہیں گے اور ان کے بڑوں

الْبَاءِ بِهِنَّ وَأَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ

اور ان کی بیٹیوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکی کارہوں گے (وہ بھی) اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے

بَاب ۱۳۳ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ التَّائِبِينَ ۝

پس اگر ان سے سلام علیکم کریں گے جو تم صبر کرتے رہے یہ اسی کا سلا ہے سو تمہاری دنیا کا بھی اچھا انجام ہوا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَا أَبَىٰ ۝

تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے۔ ان کے لئے خوش حالی ہے اور اچھا ٹھکانا۔

وَأُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے وہ باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے

الأنهار تجري من تحتها فيها يدازنون رزقهم يحيىٰ لهم فيها سلاٰم ۝

نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کی دعا سلام ہوگی

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً

جو شخص نیک عمل کرے مگر مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو۔ تو ہم اس کی زندگی بھی طرح بسر کرائیں

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّمَا لَنُصِيبَهُمْ أَجْرًا مِّنْ أَحْسَنِ عَمَلِهِمْ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے تو جو شخص نیک عمل کرے ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا

ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے رہنے کے لئے ہمیشگی کے باغ میں ان لوگوں کے مکانوں تلے نہریں

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَ

بہ رہی ہوں گی۔ اور ان کو وہاں سونے کے کٹن پہنائے جائیں گے اور وہ ہمیں اور دبیز ریشمی سبز کپڑے زیب

أَسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَسْرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسَنُ مَّرْتَفَقًا

تہ کریں گے۔ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے کیا اچھا بدلہ ہے اور اسائش کی مردہ جگہ ہے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أُولَٰئِكَ

البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کی ضیافت کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے

فِيهَا خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَبْغَوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے رحمان عنقریب ان کی محبت پیدا کر دے گا۔

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی

يُظَلَمُونَ شَيْئًا ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ

ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جن کا وعدہ غیب سے خدا نے اپنے بندوں

بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا

کے ساتھ کر رکھا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہاں کوئی بیہودہ بات کان میں نہیں

سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا ۝

پڑے گی سہ ماہی سلام کی آواز ہوگی۔ دنوں ان کا کھانا صبح و شام ان کو ملائے گا۔

وَمَنْ يَأْتِهِمْ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْقُرْآنُ سَرِيحًا ۝

اور جو با ایمان خدا کے حضور میں حاضر ہوگا اس نے نیک عمل بھی کئے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن

الْعُلَى ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

کے بڑے درجے ہوں گے۔ رہنے کے باغ جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ شَرِكِيَ ۝

ہیں گے۔ اور جو شتمس پاک رہے اس کا یہی صلہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے کچھ شک نہیں کہ ان کو اللہ ایسے باغوں میں داخل

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا۔

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ

جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سونے

لُؤْلُؤًا مَوْجِدًا وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعنابِ وَالْزَّيْتُونِ وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ

اور وہاں ان کا ریشمی لباس ہوگا۔ اور ان کو اچھی بات کی ہدایت کی گئی

الْقَوْلِ، وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

اور ان کو اسی کا راستہ دکھایا گیا تھا جو سزاوار حمد ہے

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے وہ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔

۱۳۳ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

بے شک مومنوں نے نفلح پائی وہ جو اپنی نماز میں دروتی کرتے ہیں۔

۱۳۴ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ النَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ

اور جو یہودہ بات سے موہد موڑتے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہتے

فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ

ہیں۔ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ

بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال پر کہ اس میں ان پر ملامت نہیں ہے۔ مگر جو کوئی سوائے

وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

اس کے چاہے تو وہ لوگ ہیں جو عد سے باہر ہونے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد

هُمْ سَاهُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ

کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی نمازوں پر حفاظت رکھتے ہیں یہی لوگ

هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وارث ہیں جو پست کے وارث ہوں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

۱۳۵ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ضرور ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے

أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کو ان کا بہتر سے بہتر بدل دیں گے۔

۱۳۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کو ہم ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے

۱۳۷ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُجْرُونَ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے پتے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

نہیں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ انہیں میں رہیں گے عمل کرنے والوں کا اجر کیا اچھا ہے۔

۱۳۸ فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کی باغ بہشت میں آؤ جگت کی ہلے گی۔

۱۳۹ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ خَالِدِينَ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے مزے کے باغ ہیں

فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

وہ ہمیشہ اُن میں رہیں گے خدا کا پکڑے وعدہ اور وہ زبردست حکمت والا ہے

۱۹ ۳۳ اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَاوٰی نُزُلًا

تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اُن کے لئے رہنے کو باغ ہوں گے۔

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ہاں وہی اُن کے عملوں کا بدلہ جو وہ کرتے رہے۔

۲۰ ۳۳ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ

قیامت ضرور آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اُن کو بدلہ دے یہی وہ

كَرِيمٌ ۝

لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت اور عروت کی روزی ہے۔

۲۱ ۳۵ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اُن کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے

۲۲ ۳۵ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَا ذٰنَ اللّٰهِ اذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝

اور اُن میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہی بڑا فضل

۲۳ ۳۵ جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا يُجَلُّونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ

ہے۔ (اُن کے لئے) ہمیشہ رہنے کے باغ یہ اُن میں جا داخل ہوں گے۔ وہاں ان کو سونے

۲۴ ۳۵ وَّلَوْلِيٍّ وَّاَدْوَابٍ سَاهِمٍ فِيهَا حَرِيْرٌ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور وہ کہیں گے کہ خدا

۲۵ ۳۵ اَدَّهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝ الَّذِي اٰحَلَّنَا

کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور بڑا قادر دان

۲۶ ۳۵ دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ اَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيهَا

ہے۔ کہ اُس نے ہم کو اپنے فضل سے بھرنے کے ایسے گھر میں لائے تاکہ یہاں ہم کو نہ تو

لَعُوْبٌ ۝

تکلیف پہنچی ہے۔ اور نہ ٹکان ہوتی ہے۔

۲۷ ۳۶ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَاكْمُوْنَ ۝ ۳۶ ۳۶ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ

بے شک جنتی لوگ اس دن مزے سے جی پہلا رہے ہوں گے۔ وہ اور اُن کی بیویاں پہلوں میں

۳۷ ۳۶ فِي ظِلِّ عَلٰى اَلْاَرَآءِكِ مُتَكِيُوْنَ ۝ ۳۷ ۳۶ لَهُمْ فِيهَا فَايِهَةٌ وَّلَهُمْ

سختوں پر لیگیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں اُن کے لئے میوے ہوں گے اور جو کچھ طلب کر سکیں

مَا يَدْعُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ ۝

وہ ان کے لئے حاضر پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام بھیجے گا۔

۳۱ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے بڑا اجر ہے جو موقوف ہونے والا نہیں۔

۳۲ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي بَرٍّ وَصَلَتْ الْجَنَّةُ لَهُمْ مَكَانًا

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے وہ باغہائے بہشت کے سبزہ زاروں میں ہوں گے

لِيَسْأَلُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝ ۳۳ ۝ ذَلِكَ الَّذِينَ

جو کچھ ان کو پکارا ہوگا ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لئے موجود ہوگا یہی بڑا فضل ہے یہی وہ چیز ہے

يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ

جس کی خوشخبری خدا اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو کہہ دے کہ میں

عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ

تمہ سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں۔ مگر رشتہ ناطقہ کی محبت۔ اور جو شمنس نیک کرے گا اس کے

فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

لئے ہم اور زیادہ خوبی پیدا کریں گے اللہ بخشنے والا قادران ہے

۳۴ ۝ يُعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْرَتُونَ ۝ ۳۵ ۝ الَّذِينَ

ہمارے بند آج تم کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم ٹھکنے ہو گے۔ جو ہماری آیتوں

الْمَنُورِ يَا بَنِي آدَمَ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

پر ایمان لائے اور فرما نبردوار رہے (ہم ان سے فرمائیں گے) کہ تم اور تمہاری بیبیاں عورت کے ساتھ جنت

تُخْبِرُونَ ۝ ۳۶ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَائٍ مِنْ ذَهَبٍ وَكُؤَابٍ وَ

میں داخل ہو۔ ان پر سونے کی رکابیاں اور پیالوں کا دور چلے گا۔ اور جس چیز کو جی چاہے

فِيهَا مَا نَشَاءُ فِيهِ إِلَّا نَفْسٌ وَتَلَاتُ الْأَعْيُنَ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

کا اور جس سے آنکھیں خوش ہوں گی۔ وہ وہاں موجود ہوگی۔ اور تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔

۳۷ ۝ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

یہ جنت کی میراث تم کو اس کے عوض میں ہے جو تم کرتے رہے

۳۸ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَا فَكَّهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝

یہاں تمہارے لئے کثرت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھا رہے ہو۔

۳۹ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي حَمِيمَةٍ

تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں لے لے گا

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝

یہی مرتبہ کامیابی ہے

۱۱۴۱ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا سُبْحٰنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقٰمُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر تہہ رہے نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا
يَجْرُؤْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا

اور نہ وہ فکین ہوں گے۔ یہی جنت والے ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ ان کے عملوں

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔

۱۱۴۲ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے بلاشبہ ان کو اللہ ایسے باغوں میں لے جا داخل

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۝

کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی۔

۱۱۴۳ هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَهٖ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَرَدُوْا اِيْمَانًا

وہی تو تھا جس نے مسلمانوں کے دلوں میں نخل ڈالا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ

مَعَ اِيْمَانِهِمْ وَرَلِّهٖ جُنُوْدَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

ہو۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اور اللہ جانتے والا کلمت

حَكِيْمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ

والا ہے کہ خدا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جا داخل

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكْفَرُ عَنْهُمْ سُبْحٰنَهُمْ ۝ وَ

کرے جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور ان پر سے ان کے

كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

گناہوں کو اتار دے گا۔ اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے

۱۱۴۴ يَوْمَ تَنزِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ لِيَسْعٰي نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

تو اس روز مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان

وَيَايْمٰنِهِمْ لَبَشْرٰكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

کے داہنی طرف چل رہا ہوگا۔ آج تم لوگوں کے لئے خوشی ہے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

ہیں انہیں میں ہمیشہ رہو گے یہ ہے بڑی کامیابی۔

۲۱
سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو اور بہشت کی طرف جس کا پھیلاؤ اتنا ہے جیسے آسمان
اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے عنایت کرے۔ اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔

۲۲
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

جو نبی اللہ اور روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو تم نہ دیکھو گے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے
وَرَسُولِهِ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
مخالفتوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ چاہے وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے
أَوْلِيَاءُ كَتَبْنَا فِي الْقُرْآنِ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِنَا وَمِنَّا وَيَدْخُلُونَ
کتبے ہی کے ہوں۔ میں وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر خدا نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اور اپنے فیضانِ نبوی
جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

سے تائید کی ہے اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشہ انہیں
عَنْهُ أَوْلِيَاءُ لَكَ حِزْبُ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ حَزَبُوا اللَّهَ هُمُ الْمَفْسُخُونَ

میں رہیں گے خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش۔ یہ خدائی گروہ ہے جان لو کہ خدائی گروہ ہی فلاح پائیگا
۲۳
يَوْمَ يَجْمَعُ كُلُّ لَبِيسٍ الْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ
نبی شکر کے دن وہ تم کو جمع کرے گا یہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا اور نیک عمل
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
کرتا ہے۔ خدا اس کے گناہ اس پر سے دور کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

تلے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں سدا کو ہمیشہ رہیں گے بڑی کامیابی یہی ہے۔

۲۴
رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّخُرُوجِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ایک پیغمبر کو تمہاری طرف بھیج دیا ہے جو تم کو خدا کی کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے
الضَّالِّحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
نیک عمل کئے ان کو ناریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ خدا اس
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ
کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں سدا کو ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے

إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

اور وہ کہ جب کوئی بڑا کلم یا اپنی بااثر بد عمل کر جیتے ہیں تو اسے یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ سَوَّلَ لِي بَصِيرَةٌ وَأَعْلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

اللہ کے سوائے ہوں کہ کون سا ن کر سکتا ہے اور وہ اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں

يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا بِهِمْ وَمَنْ يَكْفُرْ أَفَئِنَّ يَكْفُرًا يَكْفُرًا

ہیں وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے بدوردگار کی طرف سے معافی ہے اور ایسے باغ جن کے (درختوں کے)

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَا أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

نیچے نہیں جاتے ہیں وہ ہمیشہ انہیں باغوں میں رہیں گے اور کام کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا سَبَّاهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

لیکن جو لوگ اپنے بدوردگار سے ڈرتے رہے ان کے لئے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ

فِيهَا نَزَّالًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّالْبَرِّ ۝

ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے پاس سے یہ ہمانداری ہوگی اور جو خدا کے پاس ہے وہ نیکو کاروں کے حق میں کہیں

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكْلُهَا

اُس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اُس کے (درختوں کے) بیجے نہیں بدلی

دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝

ہیں اس کا میوہ اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کا انجام ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کافروں کے

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝

بہ ہیزگار بالوں اور چشموں میں ہوں گے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ باطمینان داخل ہو۔ اور ان کے

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝

دلوں میں کچھ رنجش رہی ہوگی تو ہم اس کو نکال دیں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر ہوں

لَا يَتَسَاءَلُونَ فِيهَا النَّاصِبَ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ مَخْرَجٍ ۝ نَبِيِّ عِبَادِي

گئے ہیں بھائی بھائی۔ ان کو پست میں کسی طرح کی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں۔ اور نہ یہ پست سے نکالے جائیں

أَنِّي أَنَا الْعَفْوُ الرَّحِيمُ ۝

مے ہمارے بندوں کو آگاہ کر دے کہ ہم بخشنے والے بہرہ بان ہیں

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَكُمْ قَالُوا خَيْرًا الَّذِينَ أَحْسَنُوا

اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا تو جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۝ وَالَّذِينَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ مَّا وَلِنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

جن لوگوں نے بھلائی کی ان کیلئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا ٹھکانا تو کہیں بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا گھر کیا

۳۱ جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَمُونَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ جاداخل ہونگے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جس چیز کو ان کا ہی چاہے
كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۰ ۳۱ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ

گاہ وہاں ان کے لئے سوچو۔ بدہیزگاروں کو اسدایسا ہی عوض دیتا ہے جن کی جانیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۰

ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں فرشتے سلام علیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے عمل کرتے رہے ہو ان کے صلے میں جنت
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۰ میں جاداخل ہو۔

یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہمارے بندوں میں سے اُس شخص کو کرتے ہیں جو (اللہ سے) ڈرتا ہے۔
قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ

لاے نبی ان سے) بوجھ بھلا یہ (عذاب) اچھا ہے یا وہ ہمیشہ کا باغ جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے
جَزَاءً وَمَصِيرًا ۰

وہ ان کا صلہ اور سزے کی جگہ ہے
وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ۰

اور جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی۔
وَأَنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُفْرًا مَائِبًا ۰ جَنَّاتٍ عَدْنٍ تُمْغَّتْ لَهُمُ الْآبَابُ

اور بے شک پر ہیزگاروں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لئے کھلے
مُتَّكِبِينَ فِيهَا يَدُوعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۰

ہوں گے ان میں تکیے لگا لگا کر بیٹھیں گے۔ وہاں پیت سے میوے اور شربت منگوائیں گے۔ اور ان کے پاس
وَعِنْدَهُمْ قُصِرَاتُ الْظَّرْفِ الْأَيْسَرِ ۰ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ

نیچی نظر والی بیبیاں ہوں گی ہم عمر۔
لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۰ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ تَفَادٍ ۰

لئے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک یہ ہماری روزی ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی
لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّفَقُوا رَبَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ قَوْمِهَا عَرَفَتْ مَبْنِيئَهُ

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لئے بالا خانے اور بالا خانوں کے اوپر بالا خانے بنے
يُجْرَمُونَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُجْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ ۰

ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ خدا کا وعدہ۔ خدا وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۰

اور جو سچی بات بیکر آیا اور اس کو سچ جانا یہی لوگ پر ہیزگار ہیں

۳۹ ﴿۳۹﴾ هُمْ مَقَائِلُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۰﴾ لِيُكَفِّرَ

جو پاپیں گے ان کے بد کردگار کے ہاں ان کے لئے سوچو ہوگا نیک کرنے والوں کا یہی ہلا
اللہ عنہم اسو الذی عملوا ویجزیہم أجرہم یا حسن الذی کانوا
ہے تاکہ خدا ان کے اعمال بدان پر سے اتار دے۔ اور ان کو ان کے نیک کاموں کے عوض
لِعَمَلُونَ ﴿۴۰﴾

میں اپنے سے اچھا اجر عطا فرمائے

۴۲ ﴿۴۱﴾ وَسَبِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَ

اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کو گولیاں بنا بنا کر بہشت کی درت لے جائیں گے
فَتَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخَلُوهَا
پہاں تک کہ جب وہ بہشت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور بہشت کے نکل
خَلِدِينَ ﴿۴۲﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ

ان سے سلام ملے گا کہیں گے کہ تم نے ہم سے رہے تو بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو اور یہ کہیں
نَبِئُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿۴۳﴾ وَتَرَى

گے خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہم کو سچ کر دکھایا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنایا۔ کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں
الْمَلَائِكَةَ حَافِئِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ

رہیں تو مل کر نیوالوں کا کیا اچھا اجر ہے۔ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ عرش کے گرد طوق باندھے اپنے پروردگار کی تعریف
قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۴﴾

کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ دیا جائے گا اور یہ صدق ہوگی کہ تب تعریفیں خدا کو سزا دیں
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿۴۵﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۴۶﴾

پرہیزگار اس کی جگہ یعنی باغوں اور چشموں میں ہوں گے
يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿۴۷﴾ كَذَلِكَ
ریشم کی مین اور دبیز پوشاکیں پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
ایسا ہی ہوگا۔ اور

وَأَزْوَاجُهُمْ يُجْوَرُونَ فِيهَا بِرَبِّهِمْ أَكْهَبُ الْأَمِينِينَ ﴿۴۸﴾

بڑی بڑی ٹانگوں والی حوروں سے ہم نے ان کے جوڑے لگا دیے ہوں گے وہاں امینان سے ہر طرح کے میوے
لَا يَدْخُلُ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ
ننگار ہے ہوں گے۔ پہل موت کے سوا وہاں ان کو موت چھینی ہی نہیں پڑے گی۔ اور خدا ان کو

التَّجْحِيمِ ﴿۴۹﴾ فَضْرًا مِّنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۰﴾
دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تیرے پروردگار کا فضل۔ یہی بڑی کامیابی ہے

جو تعریفیں خدا کو سزا دیں

۱۵
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ

جس بہشت کا وعدہ پر نیکو کاروں سے کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اُس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں
 أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ ○
 بونہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو خوش ذائقہ
 وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ ○
 معلوم ہوں گی۔ اور صاف شہد کی نہریں۔ اور اُن کے لئے دہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے
 مِنْ تَرْتِيبِهِمْ ط

اور اُن کے پروردگار کی طرف سے بخشش
 ۱۶
وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ○ بِهَذَا هَذَا مَا تَوَعَدُونَ

اور جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی۔ فاصلہ پر نہ ہوگی یہ وہ ہے جس کا تم نے وعدہ کیا جاتا ہے
 لِكُلِّ آوَابٍ حَفِيظٍ ○ بِهَذَا مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ وَحَبَاءِ
 ہر ایک خدا کی طرف رجوع ہونے والے اُس کے احکام کی حفاظت کرنے والے کے لئے جو نہ دیکھے زمین سے
 بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ○ بِهَذَا إِذْ خَلَوْهَا بِسَالِمٍ هَذَا ذَلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ ○
 ڈرا اور رجوع ہو نیوالا دل لے کر آیا۔ ہم فرمائیں گے کہ سلامتی کے ساتھ اس بہشت میں داخل ہو یہی ہمیشہ
 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ○

بننے کا دن ہے بہشت میں ان لوگوں کو جو چاہیں گے ملے گا۔ اور ہماری سرکار میں اس سے زیادہ ہے
 ۱۷
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○ ۱۸ إِخْدِيقٌ مِنْ مَاءٍ شَدِيدٍ ○ ۱۹

بے شک متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو انہیں اُن کا پروردگار دیکھا اُسے لے رہے ہوں گے
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ○ ۱۸ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْلِ مَا
 بے شک وہ اس سے پہلے نیکو کار تھے
 رات کے بہت ہی کم ہٹے میں سوتے

يَجْعَلُونَ ○ ۱۸ وَيَالِ الْأَعْيُنِ لِمَا يُسْتَفْعَرُونَ ○ ۱۹ وَفِي أَمْوَالِهِمْ
 اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگا کرتے تھے اور اُن کے

حَقِّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ○

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ مُتَكِبِينَ عَلَىٰ سُرُورٍ مَّصْفُوفَةً ۚ وَزَوْجَنَّهُمْ

تمہوں پر جو برابر بچھائے گئے ہیں۔ تکتے لگا لگا کر بیٹھو کھاؤ بیو۔ تم کو رچے تپتے ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں

يَحُورٍ مَّرْعِيْنَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

کو ان کی زوجیت میں دینگے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی ان

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ

کی اولاد کو ان کے ساتھ لے جا شامل کریں گے۔ اور ختیوں کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے ہر شخص

بِمَا كَسَبَ رَهِيْنًا ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَآلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ

اپنے عمل میں گروی ہے۔ اور جس بیوے اور گوشت کو جیتوں کا حق ہے گا ہم ان کے لئے اس کی پیل

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْنٌ فِيهَا وَلَا يَأْتِيهِمْ فِيهَا مِنَ الْمَالِ ۚ وَأُولَٰئِكَ

پیل کریں گے۔ وہ آپس میں وہاں جام کی چھینا جھپٹی بھی کویں گے۔ اس میں نہ کو اس لئے گی اور نہ کوئی نا

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۝ وَأَقْبَلُ

ثابستہ حرکت ہوگی اور ایسے لڑکے خدمت کیلئے ان پر آمد شد کریں گے کہ زیادہ امتیاء سے رکھے ہوئے منقہ میں

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا

اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں باتیں کریں گے۔ کہیں گے کہ تم پہلے ہی ڈرا کرتے

مُشْفِقِينَ ۝ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِنَا وَوَفَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ ۝ إِنَّا

تھے۔ تو خدا نے ہم پر فضل کیا اور ہم کو لو کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پہلے

كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

ہی اس سے دعا میں مانگا کرتے تھے۔ بے شک وہ محسن بہرہ بان ہے۔

۵۴ ۝ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ۝ ۵۵ ۝ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ

جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں۔ سچی عزت کی جگہ بادشاہ تادار کے

سَلِيلٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

مقرب ہوں گے۔

۵۶ ۝ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝ ۵۷ ۝ فِيهَا أَعْنَابٌ رَابِيَةٌ

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لئے وہ باغ ہوں گے۔ تو اسے گردہ جن دانس

تَكَدِّبِينَ ۝ ذَوَاتَا أَفْسَانٍ ۝ فِيهَا أَعْنَابٌ رَابِيَةٌ رَابِيَةٌ تَكَدِّبِينَ ۝

تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے وہ تو باغ ٹہلیوں والے تو اسے گردہ جن دانس تم اپنے پروردگار کی کن کن

۵۸ ۝ فِيهَا مَاعِينٌ نَّجْرِيْنَ ۝ فِيهَا أَعْنَابٌ رَابِيَةٌ رَابِيَةٌ تَكَدِّبِينَ ۝

نعمتوں سے انکار کرو گے دونوں میں درپٹے بہرہ ہوں گے تو اسے گردہ جن دانس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے

۵۲ فَبِمَا مِنْ كُلِّ نَكْهَةٍ زَوْجِنِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

دونوں میں ہر بیوی سے کی دو نسلیں ہوں گی۔ تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے

۵۳ مُتَكِبِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۗ وَجَنَّاتٍ يَدْخُلُ فِيهَا الْجَنَّةِيُّونَ ۚ

اپنے فرشوں پر تگئے لگائے ہوں گے کہ تانے کے ان کے استر ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل اٹھائے

دَانٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ فَبِأَيِّ نِعْمَةٍ كَفَرْتُمْ ۗ

ہوں گے تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ ان میں حوریں ہوں گی جو انکھ

الظُّرْفِ لَمْ يَطْمِثْ مِنْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہوں گی اور جنتیوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تو اے گروہ

رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝

جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ وہ ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور موتی ہیں تو اے گروہ

۵۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے بھلائی کے سوا نیکی کا بدلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟

الْإِحْسَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ وَمِنْ دُونِهَا

تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ اور ان دو کے علاوہ دو باغ اور

جَنَّاتٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ مَدَاهَاتٍ ۝

ہوں گے اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ دونوں گہرے جہز۔ تو اے

۵۵ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ فِيهَا عَيْنٌ مُضَاعَفَةٌ ۝

گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ ان دونوں میں دو چشمے اہل رب سے ہوں گے

۵۶ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالْأَنْجُمُ

تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ ان میں بیوی سے ہوں گے اور کھجوریں

رَمَّاتٌ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ فِيهَا خَيْرٌ مِّنْ

اور انار۔ تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے ان میں نیک اور خوبصورت عورتیں

حِسَانٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ

ہوں گی تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے وہ عورتیں حوریں ہوں گی جو خیموں

فِي الْحَيَاةِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ لَمْ يَطْمِثْ مِنْهُنَّ

کے اندر میٹھی ہوں گی۔ تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے جنتیوں سے پہلے

إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

نہ تو کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے

۳۷ مُتَكِبِينَ عَلَى رَأْفِ رَفِيفٍ خَضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ ۝ قِيَامِي

جنتی : ہاں ہیز کا لینوں اور عمدہ عمدہ نریشوں پر کیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو اسے کرو: جن و بیس
الاء سربکمما شکذ بن ۝ تبارک اسم ربک ذی الجلال والا کرام
تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ تیرے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے عظمت والا اور لوگوں پر احسان
ان للمتقین عند ربهم جنت النعیم ۝ م کرنے والا۔

۳۸ ان المتقین فی ظلل وعبیون ۝ فواکھة مما یشتمون ۝

بے شک پر ہیز نگاروں کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں نعمتوں کے باغ ہیں
بے شک بے ہیز نگار بچاؤں اور چشموں اور میوؤں میں جو ان کو بھاتے ہوں (اڑام کرتے
کلوا واشربوا هنیئاً بما کنتم تعملون ۝ انا کننا لک
ہوں گے تم جیسے جیسے مل کرتے رہے ہو ان کے بدلے میں کھاؤ پیو۔ تمہارے نیک لگے
نجزی المحسنین ۝

۳۹ ان للمتقین مفازا ۝ حدائق واعنابا ۝ وکواعب اثرا ۝

نیک بندوں کو ہم ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں
بے شک بے ہیز نگار لوگوں کے لئے کامیابی ہوگی باغ اور انگور اور جوان عورتیں ہم عمر
و کاسا دھاننا ۝ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کنابا ۝
اور چیلکتے ہوئے جام
و ہاں یہ لوگ نہ تو کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ
جزاؤ من ربک عطاء حسابا ۝

۴۰ واما من خاف مقام ربہ ونھی النفس عن الهوی ۝ فان الجنة هی الماوی ۝

کانی انعام بدلے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے
اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اور نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا تو
الجنة هی الماوی ۝
جنت ہی ٹھکانا ہے۔

۴۱ ام حسبتم ان تذلوا الجنة ولما یعلم الله الذین جاہدوا

کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے نہ ان کو ظاہر کیا
منکم و یعلم الصبرین ۝
جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہے اور نہ صابروں کو ظاہر کیا۔

۴۲ فالذین ہاجرنا و اخرجنا من ديارهم و اودوا فی سبیلنا و

تو جن لوگوں نے ہمارے لئے دیس چھوڑے اور اپنے گھروں سے نکالے اور تائے لگے اور لڑے اور

۳- مجاہدین

قَتَلُوا وَقَاتَلُوا وَلَا كُفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

ہر ہی ہوں گی۔ اللہ کے ہاں سے بدلا اور اچھا بدلا اللہ کے ہاں ہی ہے

۹۵ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِأَجْرٍ عَظِيمًا ۝

اور اللہ نے اجر عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر برتری دی ہے یہ باج ہیں خدا

مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَسَرْحَمَةٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

کے ہاں سے۔ اور اس کی بخشش اور بہرہ ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

۹۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَاؤُا

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کئے اور جنہوں نے ہجرت نہ کی اور جہاد کی

نَصْرًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَجَزَاءٌ كَرِيمٌ ۝

اور مدد دی یہی کئے مسلمان ہیں ان کے لئے معافی ہے اور عزت کی روزی

۹۷ لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنی جان و مال سے جہاد کیے

وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

یہ لوگ ہیں جن کے لئے سب خوبیاں ہیں اور یہی نفع پالے والے ہیں۔ ان کے لئے اللہ نے

جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

باغ تیار کر کے ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے

۹۸ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی۔ اور اپنے جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کیے۔ اللہ کے ہاں

أَعْظَمُ دَرَجَةً ۚ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں اور یہی ہیں جو منزل مقصود کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی ہرمانی

سَرَّحَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَسَوَّاهُمْ فِي رِضْوَانٍ ۚ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝

رفا مند ہی اور ایسے باغوں میں رہنے کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کو دائمی آسائش ملے گی

۹۹ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کے ہاں ثواب کا بڑا ذخیرہ موجود ہے

۱۰۰ وَالشَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا

اور ہاجرین اور انصار میں سے جو (اسلام میں) آگے بڑھنے والے اول رہنے والے ہیں اور وہ جنہوں نے

هُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

نیک باتوں میں ان کی پیروی کی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے اور اس نے ان کیلئے
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
یسے باغ تیار کیے ہیں جن کے (درختوں کے) پتے نہیں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے یہی بڑی کجی
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ

۱۱۹

اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دیکھا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تَدْعُوهُمُ إِلَى

یہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں یہ خدا کا پیکار دہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے
حَقًّا فِي الثَّوَابِ وَالْوَاعْدَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ مَا يُوعَدُ أُولَئِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ

اور لازم کر لیا ہے یہ تو رات اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون
اللَّهُ فَاسْتَبِشْرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ہو سکتا ہے۔ سو تم اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے
وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ سَمِيعٌ

۱۲۰

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو خدا ہرگز رائیگاں نہیں ہونے دے گا۔ انہیں
وَيُضِلُّهُمُ بِاللَّهِ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا اللَّهُ ۝

مفسود کو پیچھا دے گا اور ان کو خوشحال کر دیکھا۔ اور ان کو جنت میں داخل کریگا جس کا مال اس نے انہیں بتایا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ

۱۲۱

مسلمانوں میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو عذاب دردناک سے بچائے
عَذَابِ الْيَوْمِ ۝ تَوْصِيُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
اور اپنی جانیں لڑاؤ۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطیکہ تم میں سمجھ ہو

۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور تم کو ایسے باغوں میں لے جاوے گا جن کے تلے نہریں
وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۝ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۝ وَ

یہ رہی ہوں گی۔ اور مردہ مکانات میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے یہ بڑی کامیابی ہے
آخِرِي تَحِبُّونَهَا نَصْرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝
ایک اور بھی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو خدا کی طرف سے مدد اور مغرب نفع۔ اور مسلمانوں کو یہ خوشخبری سناؤ۔

۱۹

۱۹
 اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْمَّا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی

وکیا وہ شخص جو یہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ تیری طرف تیرے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے حق ہے اُس کی

۲۰
 اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا

برابر ہو جائیگا جو (راہ راست سے) اور ماہر بات یہ ہے کہ نصیحت تو عقلمندی پر کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے

۲۱
 يَبْقُضُوْنَ الْوَعْدَ الَّذِيْنَ بِيْنَهُمْ وَرَبُّهُمُ الرَّحْمٰنُ ۝ وَالَّذِيْنَ لِيْسُوْا مِنْكُمْ

ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے اور وہ جو اُس رشتہ کو مائے رکھتے ہیں جس کے طمانے کا اللہ نے حکم دیا

۲۲
 يُوْصِلُوْنَ وَيُحْشِرُوْنَ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ لِيْسُوْا مِنْكُمْ

ہے اور اپنے پروردگار سے ڈرنے اور بڑے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے پروردگار

۲۳
 صٰبِرُوْنَ وَابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ۝ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَانْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

کی خوشنودی پانہنے کے لئے مہر کرتے اور نماز پڑھتے اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اُس میں سے چھپا کر اور

۲۴
 سِرًّا وَّعَلٰنِيَةً وَيَسْرًا وَّوَدًّا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

علائیہ (راہ خدا میں) خچ کر تے اور نیکی کے ساتھ بدی کو دفع کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا

۲۵
 الدّٰر ۝ ۲۶ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَ

گھر ہے (یعنی رہنے کے باغ جن میں وہ خود اور جو ان کے باپوں اور بیویوں اور اولاد میں سے صالح ہوگا

۲۷
 اَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۝ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

داخل ہوں گے اور رشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔

۲۸
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبٰى الدّٰر ۝

کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا۔ سو آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے

۲۸

۲۵

۲۵

۲۵

۵۸
۲۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم انہیں منور جنت میں بالا خانوں میں جگہ دیں گے
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝
من کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے
۵۸
۲۹ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

جنہوں نے سبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں

۵۹
۳۰ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس قول پر جمے رہے (قیامت کے دن ان
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ۳۰ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً
پر نہ کچھ خوف ہی ہو گا اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے یہی لوگ جنت والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۳۱ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

ہاں اس کا جو نیک کام وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ

اُس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی اٹھا کر اسے جنا اور اُس کا پیٹ میں رکھنا
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اِسْتُدَّاهُ وَبَلَغَ اِسْرَ بَعِيْنٍ سَنَةً ۝ قَالَ رَبِّ اَوْ

اور اس کا دو ماہ چھڑانا تیس مہینے ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ گیا اور چالیس برس کی عمر کو پہنچ
رَبِّ عَنِّي اِنْ اَسْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ

گیا تو اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری اُس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور تیرے
اَعْمَلُ صَالِحًا شَرَفًا لِّوَالِدِي وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي نَبْتُ اِلَيْكَ وَ

ماں باپ پر کی ہے شکر ادا کروں اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو اور میرے لئے تیری
لَانِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ ۳۱ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَّبَلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا

اولاد میں اصلاح کر۔ میں تیری طرف رجوع ہوں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے
عَمِلُوا وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِيْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ

ان کے اچھے کام جو وہ کرتے ہیں قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں وہ بہشت کے
الَّذِيْ كَانُوا يُوعَدُوْنَ ۝

رہنے والوں میں ہیں یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔

۵۹
۳۱ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشَرُّوْنَ مِّنْ كَاْسٍ كَانَ مِرَا جُهَا كَا ثُوْرًا ۝ ۳۲ عَيْنًا

بے شک نیک لوگ اس پیالے سے پیش گئے جس کی طوئی کا ٹور ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے

يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝ ۱۸ وَيُفُونَ بِاللَّذِينَ هُمْ

جس سے اللہ کے بندے پینے کے لئے پھیر کر بہائے جائیں گے وہ نذر کو پورا کرتے ہیں اور اُس
يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شِرَاءَ مُسْتَضِيرًا ۝ ۱۹ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ

دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی وہ خدا کا کُھب کر کے محتاج اور یتیم اور

عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ ۲۰ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (اور کہتے ہیں کہ) ہم تو تم کو محض اللہ کی رضا مندی کے لئے کھلاتے ہیں

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ ۲۱ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا

ہم نیت سے بدلا چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کے اُس دن سے ڈرتے ہیں

عَبُوسًا مُظْتَرًّا ۝ ۲۲ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شِرْذِمَةً يَوْمَ الْقَوْمِ وَلَقَّبَهُمُ

جو موہبہ بگاڑنے والا تیوری بریل ڈالنے والا ہوگا۔ تو اللہ بھی اُن کو اُس دن کی برائی سے بچائیگا اور اُن پر

نَصْرَةً وَسُرُورًا ۝ ۲۳ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ۝

تازگی اور خوشی ڈالے گا اور سبب اُس کے کہ انہوں نے سبر کیا انہیں بدلے میں بہشت اور حریر دے گا

۲۴ مُتَّكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَسْرَائِلِ ۝ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا

اُس میں تختوں پر تکیہ لگانے بیٹھے ہوں گے نہ اس میں دُھوپ دیکھیں گے اور نہ جاڑا۔

زَمْهَرِيرًا ۝ ۲۵ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذَلَّاتٌ فَطُورُهُمْ آتِنَا لِيَالًا

اور اُس کے سائے اُن پر اچھکے ہوئے ہوں گے اور اُس کے خوشے نیچے رک

۲۶ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝

رہے ہوں گے اور اُن پر چاندی کے برتنوں اور آنسوؤں کو جو شیشے کی مانند ہوں گے گھمایا جائے گا۔

۲۷ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ ۲۸ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا

چاندی کے بنے ہوئے شیشے ہوں گے جن کا انہوں نے اندازہ کر رکھا ہوگا۔ اور انہیں اُس میں سے وہ

كَأْسًا كَانَتْ مِرْزَاجًا زَجْبِيلًا ۝ ۲۹ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝

پیالہ پلایا جائے گا جس کی بلوئی سونٹھ ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے

۳۰ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا سَأَلْتَهُمْ حَسِبْتُمْ

اور اُن پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے گشت کرتے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے تو انہیں کہے

لَوْ لَوْ آمَنْتُمْ ۝ ۳۱ وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ رَأَيْتُمْ نِعِيمًا وَمَلَاكِيَةً

ہوئے موتی خیال کرے۔ اور جب تو وہاں دیکھے گا تو ایک نعمت تو ایک بڑی بادشاہت دیکھے گا

۳۲ عَلَيْهِمْ نِيَابٌ مُسَدِّسٌ خُضْرٌ وَأَسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا وَأَسَاوِرًا

اُن پر سبز ہار ایک ریشم اور تانے کے کپڑے ہوں گے۔ اور انہیں چاندی کے کنگن پینائے جائیں گے

۱۱۰ من فضلة وسقماهم سرہم شراباً طهوراً ○ ۱۱۱ ان هذا كان لكم
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً ○
اور تہاری کوشش قابل قدر ہے

۱۱۲ والشيقون السيقون ○ ۱۱۳ اولئك المقربون ○ ۱۱۴ في جنات
النعيم ○ ۱۱۵ ثلثة من الاولين ○ ۱۱۶ وقليل من الاخرين ○
اور جو آئے ہیں یہ آگے ہی (بٹلے) کے قابل ہیں، بارگاہ خداوندی کے مقرب ہیں آرام کے باغوں
میں۔ بہت تو لگے لوگوں میں سے اور تھوڑے کچھلوں میں سے

۵۔ جنت میں آگے بیٹھے والے

۱۱۷ على سرر موصولة ○ ۱۱۸ متكبين عليهما متقيلين ○
۱۱۹ يطوف عليهم ولدان مخلدون ○ ۱۲۰ يا كواب وباريق
وگاس من معين ○ ۱۲۱ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ○
ایک دوسرے کے آنے سے۔ جزاؤں میں پرنگے لگائے ہوں گے

۱۲۲ وفا كهة مما يتخرون ○ ۱۲۳ وحكم طير مما ينتمون ○
۱۲۴ وحور عین ○ ۱۲۵ كالمثال اللؤلؤ المكنون ○ ۱۲۶ جزاء
اور جس قسم کا میوہ پسند کریں۔ اور جس قسم کے پرند کے گوشت کو ان کا ہی چاہے (وہی موجود)

۱۲۷ بما كانوا يعملون ○ ۱۲۸ لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً ○
۱۲۹ الا قيلاً سلاً ○
ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔

۱۳۰ فاما ان كان من المقربين ○ ۱۳۱ فروح وريحان وجنة نعيم ○
۱۳۲ واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ○ ۱۳۳ في سدري منضود ○
پس سلام سلام کی آوازیں (آ رہی ہوں گی)

۶۔ مقربین

۱۳۴ وظل منضود ○ ۱۳۵ واصل منضود ○ ۱۳۶ وما مسكوب ○
اور داہنے ہاتھ والے ان داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا۔ بے کانٹوں کی بیڑیوں
اور لدے ہوئے کیلیوں اور لمبی لمبی چھاؤں اور پانی کے بھرنوں

۷۔ اصحاب الیمین یعنی داہنی طرف والے

۳۳ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝ ۳۴ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝ ۳۵ وَفُرُشٍ

اور افزائے کے بیوہ میں۔ جو بے روک ٹوک ان کو ملا کریں گے اور اونچے اونچے فرشوں کی آسائش

مَرْفُوعَةٍ ۝ ۳۶ اِنَّا اَنْشَاْهُمْ اِنْشَاءً ۝ ۳۷ فَجَعَلْنَاهُمْ اَنْبَاْكَرًا ۝

میں پیش کر رہے ہوں گے ان جنوروں کو ہم نے ان کے لئے ایسا بنایا کہ وہ کوریاں ہیں

۳۸ عُرْبًا اَنْرَابًا ۝ ۳۹ لَا صَاحِبِ الْيَمِيْنِ ۝

پساریاں: اپنے ہاتھ والے جنتیوں کی ہم عمر

۹۱ ۝ ۳۱ وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ۝ ۳۲ فَسَلَامٌ تِلْكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ۝

دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو رکھا جائے گا اگر اے شمس جو داہنے ہاتھ والوں میں ہے تجھ پر سلامتی ہے

۱۹ ۝ ۳۳ فَاَمَّا مَنْ اَوْتِيَ كِتٰبًا بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هٰٓءِ هٰٓءِ هُمْ اٰثِرٌ وَّاٰ كِتٰبِيْهِ ۝

تو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑ ہو۔

۳۴ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰٓئِقٌ حِسَابِيْهِ ۝ ۳۵ فَمَوْتِيْ عَيْشَةٍ رَّاغِبِيْهِ ۝

مجھ کو تو یقین تھا کہ میرا حساب مجھ کو ملے گا تو وہ خاطر خواہ پیش میں ہوگا۔

۳۶ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ ۳۷ قُطُوْبُهُمْ دَانِيَةٌ ۝ ۳۸ كَلُوْا وَاشْرَبُوْا

بہشت میں جس کے پھل نیچے ہوں گے۔ ایام گزشتہ میں جو تم نے زاد آخرت بھیجا تھا اس کے

هٰنِيْٓءًا يَّمَا اَسَافْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

پہلے میں کھاؤ پیو۔ تمہارے نیک لگے۔

۵۲ ۝ ۳۹ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قٰنِيْنَۢيْنٌ وَّسُرُّهٖبَانًا وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

یہ اس سبب سے ہے کہ ان (پساری) میں علماء و رہبان ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ

۴۰ ۝ ۴۰ وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ شَرٰى اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضٌ

قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تو ان کی آنکھوں کو دیکھ گئے کہ ان سے آنسو جاری

مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۝ ۴۱ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَا كُنِّبْنَا

ہیں اس لئے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے وہ دعا مانگتے لگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار

مَعَ الشُّهِيْدِيْنَ ۝ ۴۲ ۝ ۴۲ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاؤَنَا مِنَ الْحَقِّ

ہم ایمان لے آئے تو تو ہم کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ لکھ رکھ۔ اور ہم کو کیا بنوا کہ اللہ پر اور جو حق بات ہمارے

وَنُظْمِعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ فَاِنَّا بِهٖمُ اللّٰهُ

پاس آئی ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور یہ توقع رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ داخل

بِمَا قَالُوْا اٰجِنْتِ بَجْرِيْ مِنْ سِحْرِ اِبْلِیْمَ رَحْمٰتِيْنَ نِيْمًا وَّذٰلِكَ

آرے گا تو ان کے اس کہنے کے صلے میں خدا نے ان کو ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلے نہیں بہتے ہیں

۸۔ جن کا نامہ اعمال داہنے

ہاتھ میں دیا جائے گا۔

۹۔ ایمان دار نصاریٰ

جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۱۱
 قال الله هذا يوم ينفع الصديقين صدقتم لهم جنت تجري من
 من تحتها الا نهر خلدین فیہما ابداء مرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
 تھے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ سدا کو ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش۔ اور

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

وہ اللہ سے خوش۔ یہ بے بری کامیابی۔

۱۱۰- ایان وار یہودی ۱۱۰
 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ

اور اللہ نے (میں) تم سے (میں) کے ساتھ ہیں اگر تم نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہمارے سینہوں
 پر سلی و عذر نہ تموہم و آقرضتم اللہ قرضاً حسناً لا کفرن

پر ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے اور خوش دلی سے خدا کو قرض دیتے رہو گے تو ہم ضرور تم پر سے تمہارے گناہ

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخِلَتْكُمْ جَهَنَّمَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

دور کر دیں گے۔ ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔

۱۱- وہ نمازی جو زکوٰۃ دیتے اور بدکاری سے بچتے ہیں ۱۱
 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد۔ اور ایمان دار عورتیں اور فرمانبردار مرد اور

وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

فرمانبردار عورتیں اور راست گو مرد اور راست گو عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور

وَالْحَشِيعِينَ وَالْحَشِيعَاتِ وَالْمُتَصِدِّقِينَ وَالْمُتَصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ

فکساری کرنے والے مرد اور فکساری کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار

وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ

مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد

كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرِهَتْ أَعْدَاءُ اللَّهِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ نے گناہوں کی معافی تیار کر رکھی ہے اور بڑے اجر

۱۹
 إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

بے شک آدمی بڑا ہی بھڑکیا پیدا کیا گیا۔ جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو کھبرا اٹھتا ہے اور جب

إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو بھلنے کرنے لگتا ہے مگر نمازیوں کا بد حال نہیں۔ جو اپنی نماز پڑھ

صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ بِئْسَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝

۶۱ اور ان کے مالوں میں ٹھہرا ہوا حق ہے
بِئْسَ لِلشَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
۶۲ اور وہ انسان کے دن کو سچ جانتے ہیں

بِئْسَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ إِنَّ عَذَابَ
۶۳ اور وہ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں
رَبِّهِمْ غَيْرِ مَأْمُونٍ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُهِهِمْ حَافِظُونَ ۝

۶۴ عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں
بِئْسَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

۶۵ مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال پر کراس میں ان پر ملامت نہیں ہے
بِئْسَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدْوَانُ ۝ وَالَّذِينَ

۶۶ سو جو کوئی اس کے سوا چاہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو عد سے باہر نکلنے والے ہیں۔ اور وہ جو
هُم لَا مَنِيَّتِهِمْ وَعَمْدٌ لَهُمْ مَرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ

۶۷ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہداشت رکھتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں
فَأَيْمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

۶۸ اور وہ جو اپنی نازکی حفاظت رکھتے ہیں۔

بِئْسَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ۝

۶۹ یہی لوگ باغوں میں عزت کئے جائیں گے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا

۷۰ اور خدا سے رحمن کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَبِيِّنُونَ لِرَبِّهِمْ

۷۱ باتیں کرتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں۔ اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور
سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ

۷۲ قیام رکھتے ہیں۔ اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار عذاب دوزخ کو ہم سے دور ہی رکھو
جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

۷۳ اُس کا عذاب معصیت ہے۔ بقدر ٹھہرنا ہوتا۔ اور ہمیشہ رہنا ہو تو وہ بڑی جگہ ہے
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

۷۴ اور جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ اور نہ بہت تنگی کرتے ہیں بلکہ سیانہ روی رکھتے

۶۵ جن کے خاص بندے

۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴

۱۷ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا۔ اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی

۱۸ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

بے شک نیکو کار نعمت میں ہوں گے

۱۹ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

بے شک نیکو کار نعمت میں ہوں گے۔ تمہنتوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ان کے

۲۰ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةٌ النَّعِيمِ

چہروں پر نعمت کی تازگی معلوم کرے گا۔ انہیں بہرگی ہوئی شراب پلائی جائے گی

۲۱ خِتْمُهُمْ فِيهَا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ الْمُتَنَفِّسُونَ

جس کی بہر شک ہوگی اور اس میں حرص کرنے والوں کو حرص کرنی چاہیے۔ اور

۲۲ مِرَاجِلُهُمْ فِيهَا تَسْنِيمٍ

اس میں تسنیم کی بلوئی ہوگی۔ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقربین پینیں گے

۲۳ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

تو آج مسلمان کافروں پر ہنسیں گے

۲۴ عَلَى الْأَرْبَابِ

اور تمہنتوں پر بیٹھے

۲۵ مَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ

اور تو کیا سمجھا کہ کھاٹی کیا ہے وہ ہے گردن کا پھڑا دینا۔ یا بھوک کے دن یتیم رشتہ دار یا

۲۶ ذِي مَسْغَبَةٍ

سکین خاک نشین کو کھانا کھلانا۔

۲۷ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا

اس کے علاوہ ان لوگوں میں ہوتا۔ جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت کرتے رہے

۲۸ بِالرَّحْمَةِ

اور نیز ایک دوسرے کو رحم کرنے کی ہدایت کرتے رہے۔ یہی لوگ مبارک ہوں گے۔

۲۹ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

تو جس نے دیا اور پرہیزگاری کا شیوہ اختیار کیا۔ اور اچھی بات کو سمجھا۔

۳۰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

تو ہم آسانی کی

۳۱ لِلْيُسْرَى

جگہ اس کے لئے آسان کر دیں گے۔

۱۴-۱۲ ابرار

۱۵- غلام آزاد کرنے بھوک

کو کھلانے اور خیرات

دینے والے

۱۷
۹۲ وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقِي ۝ ۱۸ ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ ۱۹ ۝ وَمَا

اور جو بڑا پزیرگار ہے وہ اس آگ سے دور رکھا جائے گا وہ ایسا ہے کہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ
لَا حُلِّ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ ۲۰ ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى
پاک ہو۔ اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ اتارنا ہو۔ اس کو صرف اپنے پروردگار
۲۰ ۲۱ ۲۲ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

عالی شان کی خوشنودی منظور ہے اور وہ ضرور راضی بھی ہوگا

۲۱ ۲۲ لِلَّذِينَ أَحْسَنَ الْحَسَنَىٰ وَزِيَادًا ۝ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا

جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور کچھ بڑھ کر بھی۔ اور ان کے چہروں پر سیاہی نہ چھائی ہوگی
ذِلَّةٌ ۝ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور نہ ذلت۔ یہی ہیں جنتی۔ جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے

۲۳ ۲۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۝ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

مسلمانو اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو

۲۵ ۲۶ أَنْ يَكْفِرَ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

پروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی

۲۷ ۲۸ الْأَنْهَارِ ۝ يَوْمَ لَا يُجْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۝ نُورُهُمْ

ہوگا جس روز اللہ تمہارے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کریگا۔ ان کے ایمان

۲۹ ۳۰ لِيَسْمَعُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيهِمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ۝ أَلَمْ نَكُنْ نَوْرًا

کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دابنے طرف چل رہی ہوگی۔ وہ یہ دعا کرتے ہوں گے کہ

۳۱ ۳۲ وَأَعْفِرْ لَنَا ۝ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اے ہمارے پروردگار ہماری روشنی کو ہمارے لئے آخیر تک قائم رکھ اور ہمارے گناہ معاف فرما بے شک تو ہر چیز

۳۳ ۳۴ فَمَا مَن تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ ۳۵ ۝ فَمَوْفَىٰ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

بن کے اعمال تول میں زیادہ وزنی بھریں گے وہ غماز خواہ پیش میں ہوگا۔

۳۶ ۳۷ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝

اے روح مطمئن تُو اپنے پروردگار کی طرف چل تو اس سے خوش وہ تجھ سے

۳۸ ۳۹ فَأَدْخِلِي فِي عِبَادِي ۝ ۴۰ ۝ وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۝

خوش۔ پھر ہمارے بندوں میں جا ل۔ اور ہماری بہشت میں جا داخل ہو

۴۱ ۴۲ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھی اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں

۱۷۔ بھلائی کرنے والے

۱۸۔ توبہ کرنے والے ممکن

۱۸۔ جن کے اعمال زیادہ

وزنی ہوں گے

۱۹۔ روح مطمئن

۲۰۔ مساکین اہل کتاب کو

اعمال کی مقدار سے زیادہ اجر

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۝ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ

سے چھپا کر اور کھلے طور پر خرچ کیا وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھانا نہیں ہے تاکہ خدا

وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ۝

انہیں اُن کے پورے اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے بیشک وہ بخشنے والا قادر دان ہے

جنت میں لذائذ روحانی

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

تو کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کے نیک عملوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی تھنڈک ان کے لئے پروڈیغیت

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ نَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أَكْثَرُهَا سَائِغٌ

پر تیز گاروں کے لئے جس باغ کا وعدہ کیا جا رہا ہے اُس کی تیشیل یہ ہے کہ اس کے تلے نہریں بہ رہی

وَوَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا

ہوں گی۔ اُس کے پھل سدا بہار اور اسی طرح اُس کی چھاؤں یہ ہے اُن لوگوں کا انجام جو پرہیز گاری کرتے رہے

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ

جس بہشت کا پینیز گاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اُس کی تیشیل یہ ہے کہ اُس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں بُو

مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرْبِ بَيْنَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ

کانام نہیں اور رود کی نہریں جس کا ذائقہ مطلق نہیں بدلا اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کو بہت خوش معلوم ہو گی اور

عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن سَيِّئِهِمْ ط

ساف شفاف شہد کی نہریں ہیں اور اُن کیلئے وہاں ہر طرح کے میوے ہونگے اور اُن کے پروردگار کی طرف سے گناہوں

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۖ وَالرَّزَقُ كَرِيمٌ ۝

ان کے پروردگار کے ہاں درجے ہیں اور گناہوں کی معافی اور رزق کریم۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَالرَّزَقُ كَرِيمٌ ۝

ان کے لئے گناہوں کی معافی ہے اور رزق کریم

وَأَعْتَدْنَا لَهُم رِزْقًا كَرِيمًا ۝

اور ہم نے (آخرت میں) اُن کے لئے رزق کریم تیار کر رکھا ہے

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝

اور ان کے لئے اجر کریم تیار کر رکھا ہے

أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَالرَّزَقُ كَرِيمٌ ۝ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے

۱۔ لذائذ جنت کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔
۲۔ لذائذ جنت جو بیان کی گئیں وہ تیشیلی ہیں

۳۔ جنتیوں کو رزق کریم

۱۱ ۳۶ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝

تو اس کو گناہوں کی معافی اور اجر کریم پر خوشخبری سنا دے

۱۱ ۵۴ فَيُضْعِفْ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

اور خدا اس کا گناہوں کو ادا کرے اور اس کو اجر کریم علاوہ بخشنے۔

۱۱ ۵۵ يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ تیسرا کون ان کے ترغیب کا دوا دیا اور دیا جائے گا۔ اور ان

کو اجر کریم ملے گا

خوشنودی خداوند تعالیٰ بڑی نعمت

۱۱ ۳۳ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ ۝ ۳ ۝ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۝

جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لئے ان کے پروردگار کے باغ بہشت ہیں ۳ ۳ ۳ اور خدا کی خوشنودی ہے

۱۱ ۵۹ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ ۝ ۳ ۝ رِضْوَانٌ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لئے باغ ہونگے ۳ ۳ ۳

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرِضْوَانٌ عَنَّهُ ۝ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔

۱۱ ۲۱ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا

ان کا پروردگار ان کو اپنی مہربانی اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کو

نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝

دائمی آسائش ملے گی۔

۱۱ ۲۶ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ۝ ۳ ۝ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ

ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے اللہ نے باغوں کا وعدہ کر لیا ہے۔ ۳ ۳ ۳ اور خدا کی

أَكْبَرُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے یہی بڑی کامیابی ہے

۱۱ ۲۹ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ۝ ۳ ۝ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ

اور پہلے جہاد میں سے جن لوگوں نے سبقت کی ۳ ۳ ۳ خدا ان سے خوش وہ خدا سے خوش

عَنْهُمْ وَرِضْوَانٌ عَنَّهُ ۝ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ۝ ۳ ۝ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

اور خدا نے ان کے لئے باغ تیار کر رکھے ہیں ۳ ۳ ۳ یہی بڑی کامیابی ہے

۱۱ ۲۷ وَفِي الْأُخْرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۝

اور آخرت میں عذاب سخت اور خدا کی فرح سے گناہوں کی مغفرت اور خوشنودی

۲۲
 اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَاَيَّدَهُمْ
 یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر خدا نے ایمان کا نقش کر دیا ہے اور اپنے فیضانِ نبوی سے ان کی
 جنتِ * * * رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللهِ اَلَا
 تائید کی سے اور وہ ان کو ایسے باغوں میں لے جا داخل کرے گا * * * خدا ان سے خوش وہ خدا سے خوش
 اِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

یہ فدائی گروہ ہے جان لو کہ فدائی گروہ ہی قتلح پائے گا۔

۲۸
 جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ * * * رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
 ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے ہاں رہنے کے باغ ہیں * * * اللہ ان سے خوش اور یہ اس سے
 عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝ خوش یہ اس کے لئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے

دیدار الہی سب سے بڑی نعمت

۲۲
 وَجُوهٌ يُّوْمِئِدِنَا ضِرَّةٌ ۝ ۲۳ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝
 اُس دن بہت لوگوں کے چہرے تروتازہ لگتی لگائے اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔
 ۲۴
 لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا اَلْحُسْنٰى وَاَزِيَادَةٌ ۝

جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے رازت میں بھی (بھلائی ہے اور کچھ اور بڑھ کر

۲۵
 لَهُمْ مَا يَشَاؤُن فِيْهَا وَاَلَدِيْنَ اَمْزِيْدًا ۝

بہشت میں ان لوگوں کو جو چاہیں گے لے گا۔ اور ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ کچھ اور ہے

۱۴۴
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا

جو لوگ ان احکام کو جو خدا نے کتاب میں نازل کئے چھپاتے اور اُس کے بدلے ٹھوڑا سا معاوضہ حاصل کرتے

۲۶
 قَلِيْلًا ۗ اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا التَّاسِرَ وَاَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ

ہیں یہ لوگ اور کچھ نہیں مگر اپنے پیٹوں میں انگارے بھرتے ہیں اور قیامت کے دن خدا ان سے بات نہیں

۲۷
 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَكْتُمُ لَهُمْ عَذَابَ الْاَلِيْمِ ۝

کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے

۲۸
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَنْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَاِيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولَٰئِكَ لَا

جو لوگ عہد خدا اور اپنی قسموں کے بدلے بے حقیقت معاوضے لے لیتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو

۲۹
 خَلَقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

آخرت میں کچھ بہرہ نہیں۔ اور قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریگا۔ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا

۱- جنتی اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔

۲- کافر سامنے نہیں آنے پائیں گے

وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اور ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے

كَلَّا إِنَّكُمْ عَنْ رَبِّكُمْ يَوْمَ تَبُورُونَ ۝

سنوہی (کافر) ہیں جو اس دن اپنے پروردگار کے سامنے نہیں آنے پائیں گے

شرفِ حضورِ می

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُسْلِقُونَ ۝

۱- جنتی پروردگار سے ملیں گے

اور جانے رہو کہ تم کو اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے

وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِمْ يُلْقَاهُ رِيبَهُمْ يَوْمَ تَنْبُؤُونَ ۝

اور اس میں تفصیلی باتوں کے کل احکام موجود ہیں اور وہ ہدایت اور رحمت ہے اور یہ کتاب اس لئے دی گئی تاکہ لوگ اپنے

يَفْصِلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يُلْقَاهُ سُرَّيْكُمْ تَوْقُونَ ۝

سارے ان لوگوں کو اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین ہو (اپنی قدرت کی) نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا حَافِئًا فَمُلقِيهِ ۝

اے آدم تو کھست کھست کر اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے پھر تو اس سے جائے گا۔

تَحِيَّتِهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا ۝

۲- جنتیوں کو پروردگار کا سلام

جس دن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کا) سلام ان کی سلامی ہوگی۔

وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّكَ رَحِيمًا ۝

اور جو طلب کریں گے وہ ان کے لئے موجود ہوگا۔ پروردگار نہرہبان کی طرف سے سلام ہوگا

وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فِئْتِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جو لوگ سپید رہیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۝

اس دن بہت چہرے تیز نازہ ہوں گے جو اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝

کتنے چہرے اس دن چمکتے ہوں گے ہشاش بشاش

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝

تو ان کے چہروں پر نعمت کی نازگی سلام کرے گا۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ تَسْعِيهَا مَرَا ضِيَةٌ ۝

اور اتنے چہرے اس روز ہشاش بشاش ہوں گے اپنی خوشی سے خوش

۳- جنتیوں کے چہرے تیز نازہ و ہشاش بشاش

جنت کے نام جو قرآن مجید میں مذکور ہیں

۲۲	وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ	۱- جنت
	اور اللہ اپنی عنایت سے بہشت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے	
۲۱	جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ لِرَحْمَنٍ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۗ	۲- جنات عدن
	ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا وعدہ غیب سے خدا نے اپنے بندوں کے ساتھ کر رکھا ہے	
۳۱	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝	۳- جنت النعیم
	جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے نعمتوں کے باغ ہیں	
۲۹	فَإِنَّ الْجَنَّةَ كَذَلِكَ هِيَ الْمَأْوَى ۝	۴- جنت الماوی
	تو اس کا ٹھکانہ بس بہشت	
۱۵	قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۗ	۵- جنت الخلد
	پوچھو آیا یہ اچھا یا ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے	
۱۶	كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝	۶- فردوس
	ان کی ضیانت کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے	
۱۴	لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ	۷- دار السلام
	ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے	
۲۵	الَّذِينَ أَحْنَأْ دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ	۸- دار المقامہ
	اس نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی اقامت گاہ میں لانا	
۲۴	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ ۗ	۹- دار الحيوان
	اور بے شک دار آخرت ہی تو اصل زندگی ہے۔ کاش لوگ اتنا جانتے	
۵۱	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝	۱۰- مقام امین
	بے شک پرہیزگاروں کی جگہ میں ہوں گے۔ بلفوں میں اور چشموں میں۔	
۵۵	فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝	۱۱- مقعد صدق
	پایہ گاہ صدق میں بادشاہ تلوار کے حضور میں	
	وَإِخْرُدْ عَوْنًا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَوَّلُ بَابٍ فِي تَفْصِيلِ
مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ

اَشَارِيه مَضَامِينِ قُرْآنِ

جلد اول

تَفْصِيلُ الْبَيَانِ
فِي
مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ

شمس العلماء مولانا سید ممتاز علی